

سیّرۃ نبوی پرمعرکتہ از آرکتاب

# زادہ زندگانی

اول : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ و شام، مادا و خصائص، اسوہ و سنت، معمولات اور اصول زندگی، مجاہدات و غزوات، معاملات اور طرز زندگی، خادموں سے برتاو، دشمنوں سے سوک، مغرب والوں سے معاشرت پر مشتمل ہے۔

دوم : یہ حصہ شامل ہے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و مجاہدات، معاملات درینی و دینیوں میں آپ کے اسوہ مبارک اور منت بیہ، نیز حالات و سوانح اور معمولات نبوی کی روشنی میں بہت بھی اہم نکات و فوادر مسائل فقیہیہ پر



علامہ حافظ ابین قیم

نفیس آکٹری - کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَلَّاْمَهُ حَافِظَ ابْنَ قَيْمٍ



سیرت النبی پر زیارت کی سب سے زیادہ مستند اور عظیم اشان کتاب

# نَارِ الْحَيَاةِ

فِي  
هَدِيِّ خَيْرِ الْعَبَادِ

## اول - دو

اول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ و شماں، عادات و خاصائیں اسوہ دست و معمولات اور اصول زندگی، مجاہدات و غزوات، معاملات اور طرز زندگی، رخادیوں سے برداشت، شمنوں سے سلوک، اگھروں سے معاشرت پر مشتمل ہے۔

دوم: یہ حضرت مشتمل ہے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و مجاہدات، معاملات دینی و دنیوی میں آپ کے اسوہ مبارک اور سنت طیبۃ، نیز حالات دسوچار اور معمولات نبویؐ کی روشنی میں بہت ہی اہم نکات د

نوادر مسائل فقہیہ پر

مُصَنَّفَهُ: عَلَامَةُ حَافظٌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ قِيمٍ

ترجمہ: رئیس احمد جعفری

نقیض اکیڈمی

# زاد المعاو

مصنفہ علامہ حافظ ابن قیم

کے بعد اول، دوم کے اردو ترجمہ کے جملہ حقوق اشاعت  
اور طباعت، تصحیح و ترتیب ذبوبیت قانونی داٹھی بحق  
چوہدری طارق اقبال گاہندری

مالک

نفیس اکیدیجی اردو بازار کراچی،

محفوظ ہیں

نام کتاب: زاد المعاو (رواں، دوم)

مصنفہ: علامہ حافظ ابن قیم

مترجم: رئیس احمد جعفری

ناشر: نفیس اکیدیجی، کراچی

طبع: ۱۹۹۰

ایڈیشن: آفسٹ

ضخامت: ۹۸ صفحات

تیلیفون: ۲۱۳۳۰۳

# آفتاب رسالت

چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری

علامہ ابن قیم کی زاد المعاو اہل علم، اہل ول اور اہل نظر اصحاب کے حلقوں میں ہمیشہ اسے محبوب اور پسندیدہ رہا ہے، یہ کتاب درحقیقت اپنے فن اور موضوع کی انسانیکلوپیڈیا ہے اور کمال یہ ہے کہ صرف ایک علامہ و حضر کے خود و فکر کا نتیجہ۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس موضوع سے متعلقہ مباحثہ پر دنیا کی کسی زبان میں اس سے زیادہ ہمدرد پہلو کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ اردو زبان کی بدقسمتی تھی کہ ایسی نادر اور جامع الفوائد کتاب سے اس کا دامن خالی تھا یہ کتاب اب پہلی مرتبہ پہلی شان دلاؤیزی کے ساتھ اردو زبان میں منفصل ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ بھر نامہ سیاہ کو اپنے عزم و ہمت پر حیرت بھی ہے اور فخر بھی کہ ہر طرح کی دشواریوں کے باوجود ہر طرح کے وسائل سے خود کے باوجود، ذاتی الجھنوں اور پرشانیوں کے باوجود اتنی طویل ضخیم اور مفصل کتاب کی بیع و اشاعت کا سروسامان میں نے ہم ہانچا لیا، یہ صرف خدا کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو جس طرح فواز سے۔

میں بازار ادب میں ایک عرصہ سے موجود ہوں، میں نے کیا چھاپا؟ ناول اور انسانی بھی، ادب اور لٹریچر بھی تاریخ اور داستان بھی، تحقیق اور تتفقید بھی، سوانح اور سفر نامے بھی۔ لیکن اپنے مطبوعات میں اس کتاب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے لئے زاد المعاو، یعنی توہشہ

آخرت ثابت ہوگی۔

اس کتاب کی طبع و اشاعت میں کئی معلوم سے بھے گورنر پر اسپ سے بلا مسئلہ مترجم کا انتخاب تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد میری نظر انتخاب مولانا سید رمیس احمد جعفری پر جا کر دک گئی۔ اور بھے مسرت ہے کہ انہوں نے میری استدعا قبول فرمائی ان کے قلم سے کئی کتابوں کے ترجیح منظر عام پر آچکے ہیں۔ سیرت امام احمد بن حنبل، آثار امام شافعی، آثار امام محمد و امام ابو يوسف سیرت امام ابن تیمیہ، سیرت امام ابو حنیفہ اور تاریخ خوارج وغیرہ۔ جعفری صاحب کے ترجمہ کا اپنا ایک خاص انداز ہے اور یہ انداز ملک کے ایک بڑے طبقہ کے دلوں کو بھاگیا ہے، ان کی عمارت رواں، سلیس اور شگفتہ ہوتی ہے وہ علمی مباحث کو آسان اور عام فہم اور دلنشیں انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ چونکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فاضل علماء سید سلیمان ندوی، شمس العلماء مولانا حفیظ اللہ عظیمی، شیخ الحدیث مولانا حیدر حسن خاں ٹونگی اور مولانا محمد شبیلی صاحب فقہیہ کے شاگرد رشید ہیں وسعت مطالعہ کا جوہراً انہوں نے خود پیدا کیا ہے اور وسعت نظر کا اساتذہ کے فیض صحت کا نتیجہ ہے اور ان دونوں چیزوں نے ان کے اندر تحقیق کا مکہ پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ دینی اسلامی اور علمی مباحث سے متعلق کتابوں کے ترجمہ میں حسب ضرورت جہاں وہ حواشی لکھتے ہیں وہ اختصار کے باوجود ایک مستقل حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں حسب ضرورت انہوں نے حواشی لکھے ہیں۔ لیکن نہایت مناسب موقع پر اور نہایت موزوں انداز میں۔

بھے امید ہے میرا پیش کیا ہوا یہ تو شہ آخرت آپ قبول کریں گے۔

# بَارِكَاهُ رسالت میں نذرِ عقیدت

چوبہری محمد اقبال سلیم گاہندری

جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفات و خصوصیات میں کیتا تھے، اسی طرح آپ کی یہ خصوصیت بھی یہ گانہ ہے کہ آپ کی فارت گرامی پر دنیا کی ہرز بان میں بالعموم، اور عربی اور دو میں بالخصوص جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، صحت و استثناء اور جامعیت کے ساتھ لکھی گئی ہیں، ان کا عشر عشیر مجی، کسی اور نبی پر کسی زبان میں نہیں کھا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک زاد المعاو، ایک طویل اور ضخیم کتاب ہے لیکن حیرت ہے کہ دوسری بہت سی طویل و ضخیم کتابیں اور دو میں ترمذ ہو چکی ہیں، مگر اب تک کسی ناشر نے اس اہم ترین کتاب کے ترمذ کی طرف توجہ مندوں نہیں کی، جو سیرۃ نبوی کے مأخذ اور مoward کا بہترین سرایہ ہے، مصنف، زاد المعاو یا قبولِ توفیق فیصل ہے، نہ اس کے نکالے ہوئے نتائج و مسائل بلا استثناء ہر فقیہی مسئلک کے مستند ہیں لیکن، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے موضوع پر یہ کتاب بلاشبہ حیرت انگیز ہے، اگر زاد المعاو نہ ہو، تو سیرۃ نبوی پر کوئی مستعد اور مکمل کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔

ایسی مایہ ناز کتاب کا چند صدیوں کے اس طویل عرصہ میں اور دو زبان میں منتقل نہ ہوناحد درجہ حیرت انگیز ہے، شاید اس میں مصلحت یہ تھی کہ یہ سعادت مجھ نامہ سیاہ کے حصہ میں آئے اور روزِ قیامت یہ تحفہ میں بارگاہ رسالت میں پیش کر سکوں۔

یہ کام سرایہ طلب بھی تھا اور غور طلب بھی، اس گرافی اور کساد بازاری کے زمانے میں تقریباً دو ہزار صفحات کی بڑے سائز پر کتاب کا چھاپنا مجھ جیسے کہ یہ شخص کے لئے آسان نہ تھا، دوسرا کام مترجم کا نتھا، سرایہ کا بندوبست ہوا تو میں نے اس طرف

ترجمہ مبذول کی، میری نگاہ انتخاب سید رمیش احمد صاحب جعفری ندوی پر جا کر اجک گئی، جعفری صاحب کی یہ خصوصیت ہے جیسا کہ معارف اعظم گڑھ نے ان کی ایک مترجمہ کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا، وہ ترجمہ کرتے وقت لکھی پر کمھی نہیں مارتے اسے قارئین کتاب کے مبلغ علم، رسائی فہم، اور ضبط و اور اک مسائل کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں میں لوگھتا ہوں ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ گویا صفت نے خود اڑ دو میں کتاب لکھی ہے، وہ اس کی روح، اس کے خیالات، اس کے انداز، اس کی روشنی کو جذب کر لیتے ہیں اپنے قلم میں، دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ یہ پڑائے زمانہ کی گروہ بہا اور گروہ نایر کتاب پیں اس ڈھنگ پر لکھی گئی ہیں جو کہ ان کے زمانہ میں رائج تھا۔ یعنی کئی کئی صفوں کا ایک ایک پیرا گراف، کئی کئی جزو کا ایک ایک باب، کئی کئی صفوں کی ایک ایک تفصیل، موجودہ زمانہ کا قاری اس طرح کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ جعفری صاحب اپنے ترجمہ میں پیرا گرافنگ کرتے ہیں، اور ابواب و فصول کو اس طرح پیش کرتے ہیں قاری بیک نظر باب کی روح کو سمجھ لے اور دیچھی لینے لگے، چنانچہ میں نے یہ کاراہم اتنے کے سپرد کیا، اور الحمد للہ کہ انھوں نے حسبِ دل خواہ اسے انجام دیا۔

اس ویسا میں کم ہیں جو پارسائی کا دعویٰ کر سکیں اور مجھ جیسا گھر گار، جب اپنے نامہ اعمال پر نظر ڈالتا ہے تو عرقِ خجالت سے آب آب ہو جاتا ہے، لیکن اپنی سعی کے ہاتھے میں بھے امید ہے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوگی، اور یہ خاطی و حاصلی رحمت و شفاعت سے نوازا جا سکے گا کہ شفیع المذنبین، رحمۃ اللعالمین اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی الطالحون فی (بُرَّے میرے لئے ہیں) فرمائے ہیں، بقول مولانا محمد

کیونکرنہ فدائیسے بھی پر ہوں جو فرمائے ا  
اچھے تو سبھی کے ہیں، بُرَّے میرے لئے ہیں

# فہرست مضمون

حصہ اول

صفوف نمبر	عنوانات	صفوف نمبر	عنوانات
۷۹	شب معلج اور شب قد کے ماہین تفاضل کا مسئلہ	۵ ۳۲	عرض ناشر نقد و نظر
۸۱	یوم جمعہ اور یوم عرفہ میں تفاضل کا سوال	۷ ۳	علامہ ابن قیم۔ اس کتاب کے مٹلف
۸۶	خدا کے نزدیک ہر طبقہ چیز پر سند پیدا اور مغلوب ہے۔	۷ ۳	کی حیات۔ گرامی کے چند بہلو
۹۱	بعثتِ رسول کی ضرورت	۷۰	علام حافظ ابن قیم۔ امام ابن تیمیہ کے
۹۲	دو شواری زادہ	۷۰	تمہید رشید کی داستان حیات
۹۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب	۷۴	زاد المعاو کا اسلوب و اندماز
۱۰۵	آنحضرت کی رضائی مأیکن	۵۰	امام ابن قیم کے طرزگارش پر ایک نظر
۱۱۹	آنحضرت کی ہجرت	۵۳	آنحضرت سخن
۱۲۷	آنحضرت کی جنگ اور آپ کا اثاثہ	۵۵	چند آیتوں کی تفسیر
۱۵۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامہ بھی خریدا	۵۸	توحید خالص بھی شرک کے
۱۵۶	سوت، اون اور کتان کا لباس	۶۳	رسول کے سوا کوئی مطابع نہیں
۱۵۹	آنحضرت کی مدد اور مکولات	۶۴	ایک آیتہ کریمہ کی تفسیر
	ازدواجی معاملات معمولات اور حیات میں	۶۸	اختیار و تخصیص شانِ ربوبیت ہے
۱۶۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محسول و راسوہ حسنہ	۷۰	امتننت مسلمہ کی فضیلت کا سبب
.	خواب اور بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ	۷۵	مکمل درست کے فضائل اور خصوصیات
۱۶۴	وسلم کی سیرت طبیبہ	۷۷	خیر ارض اور قبلہ واحد

عنوانات	عنوانات	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
سواری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ	نماز اور رکان و آداب نماز	۲۰۱	
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں	ستت اور برعت	۲۰۱	۱۶۹
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت	فجر کی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی	۲۰۳	۱۷۰
آنحضرت کے معاملات و مہولات	ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز میں حضرت	۲۰۴	۱۶۱
تنہا اور صحابہ کرام کے ساتھ چلنے کی سنت طیبہ۔	معاذ پر آپ کا عتاب	۲۰۵	۱۷۸
آپ کی نشست اور سہارا لگانے کا طریقہ	سورت معین کر کے نماز میں نہ پڑھنی چاہیے	۲۰۶	۱۷۹
قضائے حاجت کا طریقہ	پہلی رکعت دوسری رکعت سے بڑی ہوتی تھی۔	۲۰۷	۱۸۱
چند اور امور میں آپ کی سنت	مسجدے کا طریقہ اور اسلوب اور دعائیں	۲۰۸	
موچیں ترشوانے کا بیان	قیام اور سجود میں الفضیلت کا سوال۔	۲۰۸	۱۸۲
آنحضرت کا طریقہ طہارت	تشہد کے بیٹے یعنی کاشتکو، خاموشی ہنسنے اور رونے میں	۲۱۰	۱۸۶
آنحضرت کی سنت طیبہ	آپ تشهد میں کیا اور کس طرح پڑھتے؟	۲۱۱	
خطبات	نماز کی دعا اور نماز کے بعد سلام	۲۱۲	۱۸۸
آنحضرت کا انداز و اسلوب خطابت	نماز میں دعا مانگنے کے سات مقامات	۲۱۳	
الْعَبَادَةُ	نماز کی دوسری عام دعائیں	۲۱۴	۱۹۲
آنحضرت کا طریق طہارت	سلام پھیرنے کا طریقہ	۲۱۵	
آنحضرت کا طریق مسح	آنحضرت کی نماز میں دعا	۲۱۶	۱۹۷
کئی نمازوں ایک ہی وضو میں	دعا صرف اپنے بیٹے یا جماعت کیلیے؟	۲۱۷	
مسح سفر اور حضرت میں یکساں جائز ہے۔	نماز کے دوران میں دوسروں کے آلام اور	۲۱۸	۱۹۸
تیسم آپ کس طرح کرتے تھے؟	خرودت کا خیال رکھا جاسکتا ہے۔	۲۱۹	۱۹۹
وضو کی طرح تیسم سے بھی کئی نمازوں پڑھنی جاسکتی ہے۔	دعا میں قنوت	۲۲۰	۱۹۹
	آپ نے دعا میں قنوت ہمیشہ پڑھی یا کہجئی	۲۲۱	۲۰۰

عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
آپ قنوت میں کیا پڑھتے تھے ابو جعفر رازی کی روایت پر حرج	۲۲۵	ستین گھر میں پڑھنی چاہیں	۲۵۸	۲۵۷
حضرت انس کی روایت پر نقد و نظر کیا یہ قنوت صرف فجر کے ساتھ مخصوص ہے؟	۲۲۸	سورہ اخلاص کے خصائص	۲۴۷	۲۵۹
ابو جعفر اور قیس کی توثیق و تضییف	۲۲۹	سورہ گافرون کے خصائص	۲۴۰	۲۴۰
ایک ماہک مسلسل قنوت	۲۲۹	تجبد اور وتر	۲۴۰	۲۴۱
انس اور عاصم کی روایت میں موالا نہ روایات انس میں کسی طرح کا تناقض نہیں	۲۲۱	ستنت فجر کے بعد استراحت	۲۴۰	۲۴۲
حضرت حسن کی روایت	۲۳۲	کیا ستنت فجر کے بعد استراحت	۲۴۱	۲۴۳
مسجدہ سہو	۲۳۴	مستحب ہے؟	۲۲۱	۲۴۴
مسجدہ سہو کی صداقت و حکمت	۲۳۶	آن حضرت کا معمول	۲۳۲	۲۴۵
مسجدہ سہو کی پانچ صورتیں	۲۳۸	نماز تجدید اور آن حضرت کے معمولات	۲۳۳	۲۴۶
مسجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد؟ نماز میں آنکھیں بند کھنastت رسول نہیں	۲۳۹	کیا وتر کی قضا کرنی چاہیے؟	۲۳۴	۲۴۷
اذکار و اشغال	۲۴۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب	۲۳۶	۲۴۸
فراغت صلوٰۃ کے بعد آپ کے معمولات	۲۴۰	و تر اور ابتداء میں تجدید کی نماز کا ذکر	۲۳۸	۲۴۸
ستره	۲۵۰	عائشہ کی روایت کو ابن عباس کی	۲۳۹	۲۴۹
ستره کس چیز کا بنایا جاتا ہے؟	۲۵۰	روایت پر حرج -	۲۴۰	۲۵۱
سمیح غیر صریح اور صریح غیر سمیح	۲۵۰	تداریخ روایت اور حل اشکال	۲۵۰	۲۵۲
حضرت عائشہ کی روایت	۲۵۲	و تر میں قنوت پڑھنا چاہیے یا نہیں	۲۵۰	۲۵۳
اماں اب تہمیہ اس روایت کو غلط سمجھتے ہیں لہم	۲۵۵	وزر میں پڑھنے والے و عالیہ کلمات	۲۵۲	۲۵۴
نماز مغرب کے بعد کی دو کعتیں	۲۵۵	حضرت علی کی روایت و تر کے بارے میں -	۲۵۵	۲۵۷

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۹۲	نماز چاشت نہ پڑھنے کے روایہ اور روایات	۲۷۹	تلاؤت قرآن کریم
		۲۸۹	امام زہری کی روایت
۲۹۳	کیا نماز چاشت بدعت ہے؟	۲۸۰	بنگر سب سے بہتر میں تلاؤت قرآن کی شان
۲۹۴	کیا نماز چاشت مستحب ہے؟	۲۸۰	اصحاب شافعی کی روایت تلاؤت کے بارے میں۔
۲۹۵	نماز چاشت مسجد کے بجائے گھر میں پڑھنی چاہیے۔		تلاؤت جسے کان سنیں اور دل حفظ کرے۔
۲۹۶	فتح مکہ کے دن چاشت کی آنکھ کتنیں	۲۸۱	قرآن سنو تو گوشی ہوش سے
۲۹۷	عثمانؓ کے ہاں آپ نے نماز کیوں پڑھی سفر سے واپسی پر نماز چاشت	۲۸۲	نماز سواری کی حالت میں
۲۹۸	بعض صحابہؓ نماز چاشت پڑھنے تھے بعض شہریں۔	۲۸۲	نماز چاشت
		۲۸۲	آل حضرت کامل
۲۹۹	مرفوع منقطع اور مومنوں عحد شدیں	۲۸۵	فتح مکہ کے دن آپ نے چاشت پڑھی
۳۰۰	احادیث مومنوں کا ایک مجموعہ	۲۸۵	نماز چاشت میں آپ کیا پڑھتے تھے
۳۰۱	ایک راوی پر علمائے اسلام والوں کی جرح	۲۸۶	نماز چاشت کے بارے میں صحابہؓ
۳۰۱	ایک راوی کی جرح اور تعداد میں خلاف		کی شہادت۔
۳۰۲	نماز چاشت پڑھنے والے کیلئے بشارت	۲۸۸	نماز چاشت کی رکعت و فضیلت واجر
۳۰۳	مسجدہ شکر	۲۸۹	مسجد قباء میں نماز چاشت
۳۰۳	آل حضرت کی سنت طیبہ	۲۹۰	کیا آپ نماز چاشت مسلسل پڑھا کرتے تھے؟
۳۰۵	چند تاریخی اور اہم مثالیں		نماز چاشت میں جاری رکعتیں پڑھنا نیادہ سمجھیں
۳۰۷	قرآن مجید کے سجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ	۲۹۱	نماز چاشت میں تعداد رکعات کے روایات۔
۳۰۶	جمعہ اور خصائص جمعہ	۲۹۲	

عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر
جمعہ کے دن سفر	۳۰۶	جمعہ ہر قوم کا افضل دن تھا مگر اس نے بعد میں مجھ پرور دیا۔	۳۲۳
اجر فرداں کی بشارت	۳۰۷	مسلمانوں کا امتیاز خاص	۳۲۵
جمعہ کفارہ سٹیاں کا دن ہے۔	۳۰۸	سب سے افضل دن جمعہ کا ہے	۳۲۶
قبولیت دعا کی ساعت	۳۰۹	یوم المزید سے کیا مراد ہے؟	۳۲۷
جمعہ کی ساعت قبولیت	۳۱۰	اس حدیث کی سند	۳۲۹
قائم ہے یا اٹھائی گئی؟	۳۱۱	اس راوی پر حرج	۳۲۹
اقوال متعدد و مختلف	۳۱۲	حضرت جبریل ہارگاہ نبوت میں	۳۲۹
دو مقابل ترتیبیں قول	۳۱۳	قبل از حضرت مدینہ کا پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟	۳۲۲
حضرت علی کی روایت سے استدلال	۳۱۴	یوم جمعہ	۳۲۳
ساعت اجابت	۳۱۵	اور اس کی تشریف تخصیص اور تنظیم	۳۲۵
ساعت جمعہ اور لیلۃ النضر	۳۱۶	ایام عید پر جمعہ کی فضیلت	۳۲۵
راہ میں حدیث پر ترجیح	۳۱۷	فرائض اسلام میں اہم ترین فریضہ	۳۲۶
جمعہ کے چند اور خصائص	۳۱۸	وجوب غسل کا حکم	۳۲۷
جمعہ بفتہ کی میزان ہے	۳۱۹	خوشبو لگانا	۳۲۹
ساعت جمعہ سے فقہاء کا اختلاف	۳۱۹	سوال کرنا	۳۲۹
جمعہ یوم اجتماع ہے	۳۱۹	خطبہ جمعہ کے موقع پر سکوت	۳۲۹
جمعہ کے چند مندرجہ خصوصیات	۳۱۹	ابن تیمیہ کا مسئلہ	۳۲۰
وہ آثار جن سے مالک استدلال کرتے ہیں۔	۳۱۹	جمعہ کی ایک خصوصیت	۳۲۰
رباط سے کیا مراد ہے؟	۳۲۱	جمعہ عید کمر رہے	۳۲۲
جمعہ اور دیوار جلوہ الہی۔	۳۲۲	جمعہ کو اچھا بیاس پہننا چاہیے۔	۳۲۳
جمعہ کا دن برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے۔	۳۲۲		

عنوانات	عنوانات	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
جمعہ کا دن یوم شاہد ہے۔	آداب نماز عیدین	۳۲۵	۳۴۹
جمعہ کا دن یوم اجتماع ہے	تذکرہ و موعظت کا سلسلہ	۳۲۶	۳۷۰
جمعہ کا انتخاب، انتخاب حسنہ سے	خطبات کا آغاز حمد و شناور سے۔	۳۲۷	۳۶۲
جمعہ کے دن مردوں اور زندوں کی طاقتات۔	نماز کسوف	۳۲۸	۳۷۳
جمرات شب بیداری کے لیے اور جمعہ رونے کیلئے مخصوص نہ کرو اشکالات اور ان کا جواب۔	سورج گھن کے موقعہ پر آنحضرت کا اُسہہ نماز کسوف آپ نے کس طرح پڑھی۔	۳۵۱	۳۶۴
خطبات کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔	آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔	۳۵۲	۳۶۵
خطبات نبوی	کسوف و خسوف کا تعلق کسی کی زندگی و حرث سے نہیں۔	۳۵۵	۳۷۶
آنحضرت کا خطبہ اس کی نوعیت اور کیفیت۔	نماز استقامہ	۳۵۷	۳۶۷
آپ کی طرف ایک مشوب خطبہ	طلب باراں کے لیے آنحضرت کی سنت طیبۃ	۳۵۸	۳۶۸
آپ کی طرف مشوب ایک اور خطبہ خطبہ میں آپ کا معمول نماز جمعہ سے پیشتر	نبی اکرم کی دعائے استقامہ دوران سفر میں آنحضرت کے معمولات۔	۳۶۱	۳۶۹
دام شافعی اور ان کے ہم خیال کیا جمعہ ظہر کا بدل ہے۔	آنحضرت کے سفر کی نوعیت۔	۳۶۳	۳۸۲
ابن عثیر کے طرز عمل سے استدلال	بجماعت سفر نماز میں قصر کا معمول سفر کی نماز چاہ کے بجائے دو رکعت	۳۶۵	۳۸۷
نماز عیدین	نماز عید کے لیے آپ ایک راستہ فرض ہے۔	۳۶۷	۳۸۹
سے جاتے اور درسرے سے آتے تھے	حضرت عثمانؓ کی روشن اور اس کی تاویل	۳۶۸	۳۹۰

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۹۲	میت کو وفور محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے۔	۳۹۲	حضرت عائشہؓ کی روایت کی حیثیت سفر کی حالت میں سنت پڑھنے کی مزودت نہیں۔
۳۹۳	مقرض کا قرض نماز جنازہ سے پہلے	۳۹۵	سواری پر نفل پڑھنے کا حجراز دو وقت کی نمازوں ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت۔
۳۹۴	ادا ہونا چاہیے۔	۳۹۶	سفر میں تعییل کے وقت جمع بین الصالوٰتین کی اہمیت۔
۳۹۷	نماز جنازہ کا مقصد میت کے لئے دعا نماز جنازہ میں کتنی بکبیریں کہنی چاہیں؟	۳۹۸	<b>متلاوت قرآن</b>
۳۹۸	گسوہ حسنة بنی قبوں اور نجی اور پختہ کرنا نامہ دشیون کی مانعت۔	۳۹۸	سن و تر کے ساتھ یاسادگی سے؟
۳۹۹	نماز جنازہ کی بکبیریں۔	۴۰۰	موافق اور مخالف مسک
۴۰۰	طفل کی نماز جنازہ پڑھنا بھی سنت	۴۰۱	مریضوں کی عیادت
۴۰۱	نہیں ہے۔	۴۰۱	مریضوں کی عیادت میں مسلم کافر مشترک کی قید نہیں۔
۴۰۲	خود کشی کرنے والے اور خائن کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔	۴۰۲	کافر خادم کی عیادت
۴۰۳	نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ خدا کی مشایعت بھی کرتے	۴۰۳	نماز جنازہ مسجد میں پڑھنی چاہیے یا مسجد کے باہر؟
۴۰۴	غایبا فر نماز جنازہ آپ کا عام معمول نہ تھا	۴۰۴	میت کے لئے قبر کسی بنائی جائے
۴۰۵	وہ کام جو خلاف سنت ہیں	۴۰۵	میت کے لئے دعا ٹے مغفرت
۴۰۶	مقابر کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت	۴۰۶	میت کے لئے آنسو بہانا جائز ہے۔
۴۰۷	زیارت قبور کے متعلق بنیؑ کی سنت	۴۰۷	میت کی تطہیر و تجهیز
۴۰۸	طیب۔	۴۰۸	صالح راوی احمد اسادر الرجال کے نظر میں۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۵۰	خلق کے ساتھ احسان کا برداشت	۳۲۱	پساندگان سے تعزیت داخل ستت ہے۔
۲۵۱	شجاعت اور وحدت نظر قلب کے انقاض فکر کے حرکات روزہ اور اس کے برکات	۳۲۱	نماز خوف
۲۵۲	صوم رمضان کے تدریجی مرحلے رضت و عزیمت کے پہلو۔	۳۲۲	نماز خوف میں ایک رکعت بھی جائز زکوٰۃ
۲۵۳	عبد اور مسیو کا باہمی رانہ صوم وصال پر آپ کامل یکین صحابہ	۳۲۵	کس مال پر زکوٰۃ ملجب ہے۔ اوہ کس پر نہیں؟
۲۵۴	کو ممانعت۔	۳۲۸	زکوٰۃ صرف مستحق کو دینی چاہیے
۲۵۵	صوم وصال کے بارے میں تین قول	۳۲۹	کیا شہید پر زکوٰۃ واجب ہے۔
۲۵۶	روایت ملال کی تحقیق اور شاہد کی شہادت	۳۳۰	احادیث اور احکام احادیث میں اختلاف۔
۲۵۷	اگر چاند میں شک ہو جائے تو؟	۳۳۱	زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے دعا
۲۵۸	اقوال متعدد و مختلف	۳۳۲	فطرہ اور اس کی اہمیت
۲۵۹	شعبان کا آخری غلی روزہ	۳۳۳	عیدیکی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ستت ہے۔
۲۶۰	ابن عباس اور ابن عمر کے	۳۳۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
۲۶۱	خلافیات	۳۳۵	صدقة فطر مساکین کے لیے غسلی صدقات میں ستت رسول نبی کے اصول کمال و شرح صدر
۲۶۲	ایک مسلمان کی شہادت بھی کافی ہے۔	۳۳۶	کے اسباب۔
۲۶۳	افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتا چاہیئے۔	۳۳۷	
۲۶۴	سفر میں روزہ رکھنے باند رکھنے کی رخصت۔	۳۳۸	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۷۸۷	صوم وصال کی مانعت		ماہ رمضان میں جہاد و سفر
۷۸۹	ایک اعتراض اور ماس کا جواب	۷۸۱	سفر شروع کرتے ہی جاہدا و مسافر کے لیے سہولت۔
۷۹۰	گھر میں مکھانے کو نہ ہوتا تو آپ نفس روزہ رکھ لیتے۔	۷۸۲	غزوہ بدر اور فتح مکہرم رمضان میں سفر کی حد مقرر نہ کرنی چاہیے۔
۷۹۲	آپ صرف جمعہ کے روزے کو پسند نہیں کرتے تھے	۷۸۳	اجنبی کے لئے رعایت و سہولت اس حدیث کی سند پر جوڑ بھول چوک سے کھانا پینا رونے سے کو قائم رکھتا ہے۔
۷۹۳	ابن خزرم کی رائے اور اس پر تبصرہ	۷۸۴	حالت صوم میں آپ کے معولات بنی صالح علیہ وسلم کی سنت طیبہ روزوں میں۔
۷۹۶	سفر کے قبل میں سافت یا ایام کی تعداد عود الی المقصود		عاشرہ کارروزہ
۵۰۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج		صوم عاشرہ کے متعلق آپ کا فرمان
۵۰۹	عرفات کی طرف کوچ	۷۸۹	صحابہ کو عاشرہ کارروزہ رکھنے کا حکم عاشرہ کارروزہ رکھنا فرض نہیں
۵۱۰	ایک راوی حدیث پر جوڑ چند مسائل نقیبیہ کا استنباط حدیث بالا سے۔	۷۸۰	پہلے اشکال کا جواب
۵۱۱	عید اور حج اکبر کا دن	۷۸۱	دوسرے اشکال کا جواب
	دین میں غلو کرنے سے بچو۔	۷۸۲	تیسرا اشکال کا جواب
	خطبہ وداع	۷۸۳	چوتھے اشکال کا جواب
	منی میں آنحضرت کا امتدت۔	۷۸۴	عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ
۵۱۱	کو پہنام۔	۷۸۵	آنحضرت کن دونوں میں روزہ رکھتے تھے
۵۱۲	قربانی کے دن کی عظمت۔	۷۸۶	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۵۲۱	اعتكاف دل کے روگ کا تنہا اور رشافی علاج رغبت الی اللہ کا رسیلہ بغیر وذمے کے اعتکاف بے معنی ہے۔	۵۱۶	حج تمتع یا حج قران ایک اہم اخلاقی مسئلہ کی تحقیق حج تمتع یا حج افراد کے بازار سے میں علماء کا اختلاف۔
۵۲۲	حالت۔ اعتكاف کے مہولات	۵۱۸	چند تنتہجات اہمان کا جواب حج و درع
۵۲۳	حج اور عمرہ ایک بہت اہم اور تحقیقی بحث ہجرت کے بعد آپ نے کتنے عمرے کیے۔	۵۱۸	آل حضرت کا آخری حج آل حضرت سے ایک سوال اور اس کا جواب۔
۵۲۴	آنحضرت رمضان میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔	۵۲۰	اہل بیت صحابہ کرام اور کبار تابعین کا مذہب۔
۵۲۵	مکہ کے باہر آپ نے کون عمرہ نہیں کیا۔	۵۲۱	اہل ظاہر کے عذرات و اعتراضات کیان احمد شیعی منصور خ ہو جکی ہیں۔
۵۲۶	حج کے مہینہ میں عمرہ کرنا افضل ہے۔	۵۲۲	تمتع یا قرآن کا صحابہ کے ساتھ اختصار آل سائل کو ابن عمرؓ کا جواب
۵۲۷	آپ نے سال میں صرف ایک عمرہ کیا	۵۲۵	معصوم کے قول پر غیر معصوم کا قول نہیں مانا جاسکتا۔
۵۲۸	حج کس سال فرض ہوا؟	۵۲۶	احادیث فسخ کے تعارض کا مسئلہ اور روایۃ پر بحث۔
۵۲۹	حج کے لئے آنحضرت کی مدینہ سے یونگی احرام کے لئے الگ سے دور کتوں کی سند نہیں۔	۵۲۷	آپ نے طواف کس طرح کیا؟
۵۳۰	آنحضرت کا یہ حج حج قران تھا۔	۵۲۸	مقام ابراہیم پر درود
۵۳۱	حضرت علیؑ اور حضرت عثمانؓ نے میں اختلاف ہے۔	۵۲۹	طواف قدوم آپ نے سوار ہو کر کیا پیارا؟
۵۳۲		۵۳۰	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۵۶۳	مشی میں آنحضرت کا دوسرا خطیب اپنی وفات کی پیش گوئی	۵۶۴	تمسق سے مراد قرآن یعنی حج اور حجہ ملا ناہے عمران بن حصین کی روایت قارن اور متقاعد لیک ہیں۔
۵۶۴	سونہ فتح کا نزول	۵۶۵	آنحضرت کا تکمیلہ کیا حرم محل یا ہودج کا استعمال کر سکتا ہے
۵۶۵	تین قابل بحث مسائل	۵۶۶	حج سے متعلق بعض اہم فقہی مسائل تیسرا مسئلہ شب وداع کے موقع پر نبی کی نماز صحیح کی جگہ۔
۵۶۶	دوسرہ مسئلہ ملتزم میں وقوف	۵۶۷	آنحضرت کی سنت طیبہ کے استبانہ مسئلہ حرم میں حلال کا گوشہ کھا سکتا ہے۔
۵۶۷	رج وداع کے بعد نبی کا مدینہ کی طرف کوچ کیا بچہ کا حج ہو سکتا ہے؟	۵۶۸	قربانی اور متعلقہ مسائل اوٹٹ اور گائے کا مسئلہ۔
۵۶۸	جمسا کو داع کے سلسلہ میں محمد ابن حزم کی غلط فہمی۔	۵۶۹	آنحضرت نے منی میں شہر کیا۔
۵۶۹	پڑایا، حضایا اور عقیقہ	۵۷۰	قربانی کے بعد حلق
۵۷۰	سنت رسول اللہ کی روشنی میں	۵۷۱	آنحضرت کا طواف افاضہ
۵۷۱	سورہ انعام کی آیت	۵۷۲	فقہاء اور اکابر کے اقوال
۵۷۲	طلوع آفتاب اور رجی کے بعد قربانی	۵۷۳	آپ نے دن میں طواف کیا
۵۷۳	نبی بھی بھی قربانی کا نامہ نہ فرماتے	۵۷۴	تمکیل طواف کے بعد حرم پر تشریف آؤدی۔
۵۷۴	قربانی کے گوشہ کا ذخیرہ	۵۷۵	آپکی منی کی طرف تشریف آؤدی۔
۵۷۵	مسئلہ ہل سے متعلق اقوال اربعہ	۵۷۶	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن منی میں تشریف آؤدی۔
۵۷۶	نبی کی ایک سنت طیبہ	۵۷۷	رجی نماز ظہر سے پہلے یا بعد؟
۵۷۷	نبی کی سنت طیبہ، عید گاہ میں	۵۷۸	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں دعا کے وفات نفحے
	قربانی۔		۵۷۹

# فہرست مرصاد میں (حصہ دوم)

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۰۴	کیا ابو علی اسی کنیت اختیار کی جا سکتی ہے	۵۸۱	زاد المعاد حصہ دوم خصوصیات فضائل پر ایک طائفہ نظر
۶۰۶	افراد امانت سے آپ کا تناول		مسائل و مباحثت کتاب، حصہ دوم
۶۰۸	سرابا شفقت و رحمت	۵۸۳	کے مسائل و مباحثت کا اجمائی جائزہ
۶۱۰	عجز اور کسل کے مظاہر سے بچوں عجز اور کسل۔		رسم عقیقہ اور اس کی مندرجہ اور دینی حیثیت۔
۶۱۲	آپ ہر قوت ذکر میں مشغول رہتے تھے ذکر الہی کی وسعتیں	۵۹۰	موطا امام مالک کی روایت امام حسن اور امام حسین کا عقیقہ
۶۱۴	لباس پہننے وقت آنحضرت کی سُست	۵۹۲	آپ نے خود اپنی طرف پنج عقیقہ کیا حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں
۶۱۶	گھر میں داخل ہوتے وقت اور خانگی مصروفیات کے سلسلہ میں پکا عل	۵۹۳	آپ نے اذان دی۔
۶۱۸	اذکار و ضو	۵۹۵	اسماو کا اثر شخصیت پر
۶۲۱	اذکار اذان	۵۹۷	اپ تھے اپ تھے نام رکھنے کا حکم
۶۲۲	عشرہ ذی الحجه میں	۵۹۹	ابنیاء علیہم کے نام پر نام رکھو کنیت رکھنے کے آداب
۶۲۴	کثرت تکبیر و تحمید و تہليل کی تاکید		آنحضرت کی کنیت کو اختیار کرنے کے لئے
۶۲۶	روزیت ہلال کے موقع پر سنت نبوی	۶۰۱	آنحضرت کی کنیتیں
۶۲۸	قبل و بعد از طعام اذکار نبوی سے		آپ کی کنیت پر کنیت نہیں کوئی جا سکتی

عنوانات	صفیحہ نمبر	عنوانات	صفیحہ نمبر
ایک نکد انگریز مسٹر	۶۵۷	دور کعت نفل سے آغاز	۶۵۷
آل حضرتؐ کا دستور خانہ	۶۵۸	سوار ہوتے وقت کی دعا	۶۵۸
سلام کرنے اور لاذن چاہنے سے متعلق	۶۵۹	آپ رکاب میں پاؤں رکھنے وقت	۶۵۹
آپ کی سیرت طیبہ	۶۶۰	بسم اللہ رکھنے تھے۔	۶۶۰
آداب سلام	۶۶۱	غزوہ میں شرکت کے وقت کی دعا	۶۶۱
آپ کی عورتوں بپتوں اور غریبوں پر سلام	۶۶۲	عورت کو غیر محترم کے ساتھ سفر کرنے پاٹے	۶۶۲
میں پیش قدمی۔	۶۶۳	بپتوں سے آپ کا مشفقاتہ بتاؤ۔	۶۶۳
سلام میں پیش قدمی کے کرنا چاہیے	۶۶۴	اذکار نکاح	۶۶۴
جو آپ کے سامنے آتا آپ خود	۶۶۵	خطبہ حاجت۔	۶۶۵
اس کو سلام کرتے۔	۶۶۶	اپنے اہل یاماں میں خوش کن مناظر دیکھے	۶۶۶
آپ جس سے ملتے سب سے	۶۶۷	تو کہے۔	۶۶۷
پہلے سلام کرتے۔	۶۶۸	بیمار کو دیکھ کر کون سی دعا پڑھی جائے؟	۶۶۸
اہل کتاب کو سلام کرنے سے متعلق	۶۶۹	شگون، خواب، وسوس اور نشدت	۶۶۹
آپ کی سنت طیبہ۔	۶۷۰	غضب کے وقت کی دعائیں۔	۶۷۰
اجازت چاہنے میں آنحضرتؐ کے	۶۷۱	وحشتاک خواب دیکھنے کے بعد کیا	۶۷۱
سنت طیبہ۔	۶۷۲	کہنا چاہیے۔	۶۷۲
جب دریافت کیا جاتا تم کون ہو رہا	۶۷۳	وسوس میں مبتلا ہونا اور ان کا علاج	۶۷۳
خواب دیا جاتا فلاں بن فلاں۔	۶۷۴	مرغوب اور نامرغوب کام	۶۷۴
چھینکنے کے آداب	۶۷۵	اچھے کام کرنے والے کیلئے آپ کی دعائیں	۶۷۵
دواختلائی مسائل	۶۷۶	پسندیدہ چیزیں بد دعا	۶۷۶
سفر کے اذکار و آداب	۶۷۷	آنحضرتؐ کے ناپسندیدہ الفاظ	۶۷۷
سفر پر چاہتے وقت اور سفر سے واپسی کی دعا	۶۷۸	انانیت تکبر اور نجوت کی نرمت	۶۷۸

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۶۸۷	شاہ جہشہ کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ		مشترکان الفاظ
۶۸۸	عمر اور عمر رسول حضرت حمزہ کا قبل اسلام		جہاد و غزوات میں آپ کی سنت طبیۃ
۶۸۹	ابو طالب اور خدیر بیوی کا استقلال		جہاد کے اقسام و انواع مختلف و متعددہ
	طاائف کا سفر	۶۸۳	آپ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا۔
۶۹۱	طاائف سے مکہ میں آپ کی واپسی	۶۸۵	جہاد کے چار مرتب ہیں۔
۶۹۲	معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۶۸۶	شیطان سے جہاد کے دو مرتب میں
۶۹۳	صحابہ کا اختلاف رائے		کفار و منافقین کے خلاف تین مرتب ہیں
۶۹۴	خبر معراج کا کفار پر عمل		جہاد و ہجرت کے بغیر احمد ہجرت جہاد و
۶۹۵	اہل مدینہ کی آپ کی طرف رغبت اور		ایمان کے بغیر کامل نہیں ہو سکتے۔
۶۹۶	تبلیغ اسلام۔		اللہ کے نزدیک اکمل الحلقہ وہ ہے
۶۹۸	بیعت عقبہ اویٰ		جس نے جہاد کے تمام مرتب کامل کئے
۶۹۹	اسعد بن زرارة کا انتباہ		دعوت اسلام
	اہل مدینہ کے قبول اسلام پر قریش کا		کفار کی اینیارسانیاں مسلمانوں کا استقلال
۷۰۱	اضطراب۔		ہجرت کا حکم۔
۷۰۲	مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت	۶۸۲	سب سے پہلے کون اسلام لایا؟
	آل حضرت کی ہجرت۔		حضرت علی بن ابی طالب نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔
	اہل مدینہ کا جوش و خروش کے ساتھ	۶۸۳	حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ
۷۰۳	والہاہ استقبال۔		قدقرہ بن نوفل کا قبول اسلام
	مشکرین کی چال	۶۸۴	حضرت بلال کی استقامت
۷۰۵	آل حضرت کا مقصد ہجرت	۶۸۵	پہلی ہجرت جہشہ کی طرف
	حضرت علی اور کفار قریش۔	۶۸۶	جہشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کا حکم۔
۷۰۷	سراقہ بن ماک کا تعاقب۔		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۷۲۸	خیانت کسی حالت میں جائز نہیں جہاد اور اس کی فضیلت جہاد کی قسمیں جاہد کے درجات اللہ کی نعمت۔	۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱	مدینہ کے راستہ میں اپ کا ایک مجھہ آنحضرت کا حلیہ اور شامل مدینہ میں تشریف، آدمی اور استقبال مدینہ کی پہلی مسجد، سجد قبادر
۷۲۹	احکام جہاد کے تدبیحی مرحلے۔ جہاد کے بارے میں انکار جہاد فرض قرار دیا گیا۔	۷۱۲ ۷۱۳	مسجد نبوی کی تعمیر انصار اور مہاجرین کے درمیان مواہد نبی نے مدینہ کے ہبود سے معاهدہ
۷۳۰	حضرت حابر کے واقعہ کی طرف اشارہ	۷۱۴	صلح کیا۔
۷۳۵	حضرت ابو بکر کا مرتبہ بلند۔		تحویل قبلہ اور مومنین کا امتحان
۷۳۶	جہاد کرنے والے کے درجات		یہود، نصاری اور مشہدین کی
۷۳۸	مسجد ان جنگ کی ہاتھیں		قیاس آزادیاں۔
۷۳۸	اسیران جنگ۔ قدیم۔ جنگی غلام۔ جاسوسی مال غینمت۔	۷۱۵	بیت المقدس سے کعبہ کی طرف
۷۳۹	ابو بکر و عمر کی تشییعیہ ابہیم و فرج سے	۷۱۶	ایک اہم اور عظیم واقعہ
۷۴۱	ماں اور بچہ میں جہادی نہ کرنی گئے مشرکین کے غلام مسلمان علاقہ	۷۱۹	فضل قبلہ افضل امت کے لیے
۷۴۲	میں آزاد۔	۷۲۲	جہاد کی فضیلت
۷۴۳	غینمت کی زمین کے متعلق آنحضرت	۷۲۳	مجاہد کے مرتب، شہید اور غازی
۷۴۴	کی سُنّت طیبہ۔	۷۲۷	شہید کا مرتبہ درجہ اور حیثیت
۷۴۵	مکہ نزد ورشییر فتح ہونے کے چند دلائل		آنحضرت اکثر مشورہ فرمائی کرتے تھے
۷۴۶	مشرکین کے درمیان اقامات کی مانعت		دشمن کا مال بھی ناجائز طور پر نہیں کھایا جاسکتا۔
۷۴۷	اماں صلح خرچہ جمل کتاب منافقین اور کفار کی مدد جانب میں اور اس کی مدد		دشمن کی دش کا بھی حلیہ نہیں بگاڑا جاسکتا۔

صفحہ نمبر	عنوان ایات	صفحہ نمبر	عنوان ایات
۷۶۹	وادیٰ رایغ میں مقابلہ وادیٰ نخلہ میں	۷۴۶	کفار کی آمدان کا قرآن مجید سنتا، پھر انہیں والپس اپنی ہامن جگہوں میں پہنچانا
۷۷۱	ابوسفیان کی سرکردگی میں قائلہ قریش انصار کی طرف آنحضرتؐ کے نگاہِ امید۔	۷۴۸	پاس پہنچا، پس پہنچا فتنہ بنو قینقاع کی طرف سے جنگ بنو نضیر کی عہد شکنی
۷۷۲	انصار کا ایمان افزونہ اور روح پرورد جواب	۷۵۰	منافق کی کارستانیاں
۷۷۴	صنادیک کفار کی قتل گاہ کی نشان وہی	۷۵۲	بنو قیظ کے بجزناک انعام کے اسباب اسلام کا پھر ہم علیؑ کے ہاتھ میں
۷۷۵	آنحضرتؐ کا اپنے رب سے لازونیاں عباس بن عبدالمطلب کی گرفتاری	۷۵۴	غیر مسلموں سے معاهدے اور غیر مسلموں سے معاهدے اور مصالحت۔
۷۸۱	غزوہ سوقی و شمن اسلام ہبودی سروار کعب بن اشراف کا قتل۔	۷۵۷	دشمن کے قاصد خدمت نبوی میں خیبر کے یہود سے معاملہ کافروں منافقوں اور دوستوں سے آپ کا بر تاؤ۔
	غزوہ سوقی کعب بن اشرف کے واقعہ کی تفصیل۔	۷۵۹	عقد فقرہ اور حزیرہ وصول کرنے کے متعلق آپ کی سنت طیبہ۔
۷۸۳	غزوہ احمد تاریخ اسلام کی اہم ترین اور فیصلہ کرنے جنگ ابوسفیان کی اسلام و شمنی۔	۷۶۱	کفار اور منافقین کے ساتھ آپ کی سنت بعثت سے وفات تک۔
۷۸۴	مسمانوں کی صفت بندی اور جنگی تیاری۔	۷۶۹	صحابہ اور اپنی جماعت کے متعلق آپ کی سنت طیبہ۔
۷۸۷	ایک دشمن رسول کی درگت		آنحضرتؐ کے غزوات اور سریا
۷۸۸	ابوسفیان کے نعروں کا جواب	۷۶۸	بد رکا عظیم اور تاریخی معرکہ اسلام کا پہلا لٹکم

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۰۸	منافق کے قتل سے آپ کا انکار <b>غزوہ خندق</b> وشن اسلام بہودی سردار ابو الفتح کا قتل بہود اور قریش کا اتحاد اسلام کے خلاف۔	۷۹۱	یوم احمد ابتلاء اور امتحان کا دن تھا احمد کا غزوہ کئی احکام و قواعد فقیر مدد مشتعل ہے۔
۸۱۰	بنو قریظہ کی عہد شکنی۔ باب سریچہ نجید	۷۹۴	غزوہ احمد میں حکم و غایات محدودہ صحابہ میں شہادت کی تمنا اور شوق الثنا نے اپنا وعدہ پکڑ کر کھایا اسلام کے دو جان باز
۸۱۲	ایک بدترین وشن اسلام کس طرح حلقة بگوش اسلام ہوا ۹۱	۷۹۷	ضیب بن عدی اور زید بن الدشنه کا بیلہدانہ قتل۔
۸۱۵	صلح حدیبیہ ظاہر شکست کے پردے میں حقیقی فتح و عظمت کا پہلو۔ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان مسلمانوں کی طرف سے عمرے کی تیاری۔	۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲	خالد بن سفیان ہذفی کا قتل واقعہ بیرونہ قنوت نازلہ غزوہ ذات الرقاع بدنو عودہ یا بدر ثانیہ
۸۱۸	آں حضرت کا معجزہ عثمانؑ کی طرف سے آپ کی بیعت	۸۰۳	غزوہ مریمیع اور واقعہ افک حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں کی تہمت اور اس کے اثرات۔
۸۱۹	بدیل کا تاثرا شراف قریش پر عروہ کے تاثرات آنحضرتؐ اور	۸۰۴	واقعات کی ضروری تفصیل حضرت جو ریٹھیہ آپ کے عقد میں
۸۲۰	صحابہ کے بارے میں۔	۸۰۵	چرمیگوئیاں اور طرح کی باتیں
۸۲۱	سہیل بن عمر سے صلح کے شرائط	۸۰۶	منافق کو کوئی کیوں ہمیں لگانے گئے
۸۲۲	مسلمانوں پر مایوسی کی کیفیت	۸۰۷	حضرت عائشہ کے طرز عمل کی توجیہ

عنوانات	عنوانات	عنوانات	صفحہ نمبر
مظلوم مسلمانوں نے خود اپنی نجات کی صورت نکال لی۔	حضرت جعفر بن ابی طالب سے آپ کا والہانہ تعلق خاطر۔	۸۲۵	۸۲۴
مسلمان حیرت کی حالت نے معابدہ کی ایک شق مفسوخ کر دی۔	آنحضرت کو زہر دینے کی کوشش غزوہ خیبر کے سلسلہ میں احکام فتحیہ کیا اسہر حرم میں قتال کا آغاز جائز ہے پاسوگدھوں کے گوشت کا مسئلہ متعدد کعب حرام ہوا؟	۸۲۶	۸۲۷
واقعہ حدیثیہ کے سلسلہ میں فوائد فتحیہ صحیح حدیثیہ کے بعض حکمتون کا بیان فتح خیبر	۸۲۸	۸۲۹	۸۲۸
یہود کی ہبھیشہ کے لیے سرکوبی خیبر کے یہودیوں سے معابدہ شہر کا ایک اہم معکرہ	مستدر کے پار سے میں حضرت ابن عباس کا فتویٰ۔	۸۳۰	۸۳۱
حضرت علی کا اشرف مرجب اور حضرت علی کا مقابلہ یا سرا و ر حضرت زبیر کا مقابلہ شہزاد کی صفت میں ایک نو مسلم غلام ایک اور پروانہ شمعِ اسلام	مساقات اور مزاجعت کے جواز کا پہلو۔	۸۳۲	۸۳۳
ایک من چلا اعرابی	تقسیم الگ چیز ہے بیع جدا بلندی کے ساتھ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں۔	۸۳۴	۸۳۵
اہل خیبر سے معابدہ	کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔	۸۳۵	۸۳۶
خیبر کی پیداوار کی تقسیم	فتح خیبر کے سلسلہ میں اختلاف آراء	۸۳۶	۸۳۷
امام شافعی کے انکار کی اساس	وادی قری میں آپ کی تشریف آوری	۸۳۷	۸۳۸
بنیاد۔	حضرت زبیر اور حضرت علی کی بہادری	۸۳۸	۸۳۹
حضرت اسماء بنہت عجیس اور حضرت	حضرت عمر اور یہودیان خیبر و فدک	۸۳۹	۸۴۰
عمر میں سخت کلامی۔	قضا نماز موقع ملتے ہی فوڑا پڑھنی چاہیے اس واقعہ کے فقہی احکام۔	۸۴۰	۸۴۱
	مہاجرون کی بلند حوصلگی۔	۸۴۱	۸۴۲

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۷۵	عمرہ میں محصر حلال ہو سکتا ہے۔ محصر کیاں خمر (قربانی) کر سکتا ہے؟ <b>غزوہ مورثہ شہادت کا شوق فراواں۔</b>	۸۰۹	سریہ الموجہ بکر صدیق حضرت اسامہ کی اجتہادی غلطی اور آنحضرت کی اس سے بیزاری۔
۸۷۶	خدا کے ناسیت میں جان دینے والوں کی جملت اور بے خوفی۔ <b>یافعی یا مشہادت</b>	۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴	بیش بن سعد کی مہم سرایہ ابی حدر داصلی سریہ ابو قماد و معلم بن جناثہ حضرت عبداللہ بن خدا فہ سہی
۸۷۷	حضرت زید بن حارث کی شہادت حضرت جعفر بن ابی طالبؑ نظر مولیٰ امارت خالدؑ ویبکے پا تھی میں	۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷	کا سریہ۔ امیر کی اطاعت کے حدود شرائط <b> عمرہ قضا</b>
۸۷۸	عبداللہ بن رواحر کے ابیات	۸۴۸	حضرت نبیو نہ سے آپ کا نکاح
۸۷۹	<b>غزوہ ذات السلاسل</b>	۸۴۹	کیا حالت احلام میں نکاح ہو سکتا ہے؟
۸۸۰	بے نفسی اندھے لوثی گروہ عاص کا اجتہاد	۸۴۱	حضرت محمدؐ کی پنجی کی تولیت پھر گڑا تمام قریبی غزیندوں اور رشتہ داروں پر خالکو ترزیق۔
۸۸۱	سریہ خط	۸۷۲	صحابہؓ کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ۔
۸۸۲	اجتہاد حیات نبوی میں فتح مکہ، تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ	۸۷۳	ایک فقہی بحث۔
۸۸۳	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت رحمت مجھوں اور خطاؤ کاروں پر۔	۸۷۴	محصر کی قربانی
۸۸۴	ابوسفیان کا جھکا ہوا سر۔ قریش کی شرارت۔	۸۷۵	ایک اہم اور تحقیقی مسئلہ۔
۸۸۵	رسول اللہ کا پاس عہد۔	۸۷۶	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۸۹۸	آنحضرت ام ہانی کے گھر میں۔		بیٹھی نے باپ کو بستر رسول اللہ پر ہنیں پیٹھنے دیا۔
۸۹۹	وہ لوگ جنہیں اماں نہیں ملی۔		
۹۰۰	انصار مدینہ کی تشویش	۸۸۷	ابوسفیان کی اچھا پر آپ کی خاموشی
۹۰۱	قاتلانہ حملہ کی تیاریاں	۸۸۸	حضرت علی کا جواب ابوسفیان کو
۹۰۲	بت شکنی		حضرت قاطرہ کا جواب ابوسفیان کو فتح مکر کی تیاری
۹۰۳	بنو جذیبہ کی طرف خالد بن ولید کا سریعہ	۸۸۹	
۹۰۵	خالد کے فعل سے آپ کی برأت		ایک مسلمان کی مخبری مسلمانوں کے خلاف۔
	حضرت خالد اور عہد الرحمن بن عوف میں تباخ کلامی۔	۸۹۰	قول رسول پر حضرت علی کا اعتقاد
	حضرت حسان کی شرگوئی		حضرت عمر اور ابوسفیان
۹۰۶	فتح مکہ اور دوسرے غزوات سے اہم فقہی مسائل کا استنباط۔	۸۹۱	دس ہزار کا شکر رکھ کی طرف ابوسفیان کی ندامت
	اہل حرب سے عہد۔	۸۹۲	اصل واقعہ یعنی فتح مکہ کی طرف عود
۹۰۷	نقص عہد کی سزا۔		ابوسفیان اور مال کا طالب
	معاہدہ صلح و جنگ میں پوری قوم شریک ہوئی۔	۸۹۳	عباس کی سفارش آنحضرت کا ارشاد
	اہل حرب کے ساتھ مدت معاہدہ		قبول اسلام کی دعوت
	ہام کی خاموشی رضامندی نہیں	۸۹۴	شکر اسلام سے ابوسفیان
۹۰۸	کفار کے قاصد قتل نہیں کیسے جاسکتے		کی مرعوبیت۔
	محارب کفار پر اچانک حملہ جائز ہے؟	۸۹۵	اگر کوئی مقابلہ کرنے توڑ کر لڑو
	جاسوس کے قتل کا جواز	۸۹۶	قریش کے سفہائی جنگی تیاریاں
۹۰۹	عورت کی تلاشی لی جاسکتی ہے۔	۸۹۷	کلید بروار کے عیر کی طلبی۔
			خطا کار اور مجرم فاتح کے سامنے

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۹۲۲	حرم کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔		جنزیرہ درجی کے باعث کفر کا الزام گناہ نہیں۔
۹۲۵	حرم کے شکاری جانور نہ سستا چائیں		حسنات سے سٹیات مرت جاتے ہیں
۹۲۶	قصاص یادیت کا اختیار۔	۹۱۰	خوارج کی مثال معاہدین سے جنگ
۹۲۷	اذخر گھاس مستثنی ہے۔		دشمن کے مقابلہ میں شان و شوکت کاظہار۔
۹۲۸	کتابت حدیث کی اجازت۔	۹۱۱	احرام کے بغیر قتال مباح
۹۲۹	تصاویر کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے آپ نے سیاہ عمامہ بھی باندھا۔	۹۱۲	مکہ بزود قوت فتح ہوا صلح سے نہیں فتح مکہ کی شرعی اور فقہی نوعیت حیثیت۔
۹۳۰	متعر کے بارے میں فیصلہ۔	۹۱۳	ایک دوسری دلیل۔
۹۳۱	اہل کتاب کی عورتیں کب حلال ہوئیں مسلمان عورت کافر کو امان دے سکتی ہے۔	۹۱۴	مزاد عین مکہ پر خراج
۹۳۲	غزوہ حنین	۹۱۵	فتح کے دوسرے روز کے خطبہ میں علمی جواہر پاہے۔
۹۳۳	مسلمانوں کی شکست اور فتح کا لازم۔	۹۱۶	حرم میں کوئی خون مباح نہیں۔
۹۳۴	آنحضرت کی استقامت۔	۹۱۷	گری پڑی چیز بھی نہ اٹھاؤ۔
۹۳۵	دریدر بن حصہ کی جنگی ہڑاتیں۔	۹۱۸	امام مالک اور امام شافعی کے اقوال۔
۹۳۶	مرشک سے مددی جاسکتی ہے۔	۹۱۹	حرم میں پناہ لینے کا مسئلہ۔
۹۳۷	بھاگنے والوں کو رسول کا بلاوا۔	۹۲۰	حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں۔
۹۳۸	ایک دشمن رسول کی کہانی۔	۹۲۱	خود بخود درخت گرجاٹے تو ان مقام جاائز ہے۔
۹۳۹	جان کے دشمن سے آپ کا خطاب	۹۲۲	نو مسلموں کے ساتھ خاص رعایت
۹۴۰	آنحضرت کا ایک نجہزہ	۹۲۳	اور سلوک۔

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۹۵۱	متقادین غیر معین مرت کے لیے معاہدہ کر سکتے ہیں۔	۹۳۹	جماعت انصار سے رسول اللہ کا خطاب۔
۹۵۲	جنگ میں تغزیل کافر کا مال مسلمان قاتل کی ملکیت ہے۔	۹۴۰	رضاسی بہن سے آپ کا سلوک دشمن کے تمام جگہ قیدیوں کو آپ نے رہا کر دیا۔
۹۵۳	رسول اللہ کی تین حیثیتیں منصب راست رسول مفتی کی حیثیت سے۔	۹۴۱	غزوہ حنین سے متعلق سوال فقہیہ اور نکتہ ہائے حکمت
۹۵۴	رسول امام کی حیثیت سے۔	۹۴۲	ایک سوال اور اس کا جواب۔
۹۵۵	اممہ کا اختلاف فکر و نظر۔	۹۴۳	صنایات رسول کا نتیجہ، قبول اسلام مشرکین سے مدد لینے کا جواز
۹۵۶	گواہ اور بینہ کا مسئلہ	۹۴۴	مادی اسباب کا استعمال منافی توکل نہیں۔
۹۵۷	سلب کا خس نکانا ضروری نہیں۔	۹۴۵	مستعار اسلام کیتے وقت شرط ظہار فقہا کا اختلاف اور اقوال متعددہ
۹۵۸	حضرت عمر کا ذاتی جہاد واجب العلی نہیں	۹۴۶	میدان جنگ میں دشمن کی سواری زخمی کی جاسکتی ہے۔
۹۵۹	حسن شیعیت میں سے۔	۹۴۷	قتل کا ارادہ کرنے والے کو معافی۔
۹۶۰	قاتل مقتول کے تمام سلب کا مستحق ہے غزوہ طائف	۹۴۸	مجہلات نبوی اور علامات ارسالت امام کے اختیارات خاصہ۔
	اہل طائف کے لیے ہلاکت اور قبول اسلام کی درعا۔	۹۴۹	عطائے رسول کی حیثیت اور نوعیت انقال اللہ اور رسول کے لیے ہیں
	طائف کا محاصرو۔		ایک فہمی مسئلہ
	اہل طائف کی طرف سے شدید مراجحت		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	وصول صدقات کا انتظام	۹۴۱	بُونُ شفیف کا قبول اسلام
۹۷۰	۹ حجہ کے سراپیا اور بعثات		غزوہ طائف سے متعلق
۹۷۱	وقد بن تمیم اور شاہزاد رسول	۹۴۲	چند اہم تبویں اور معرکہ آر لفہی مسائل
۹۷۲	قطبہ بن عامر بن حدید کا فتح کی طرف سریہ		لڑائی میں کفار پر تھوڑہ سا ٹے جاسکتے ہیں
۹۷۳	بنو کلب کے خلاف محاکمہ بن سفیان کا سریہ	۹۴۳	مشرک کا بھاگا ہوا غلام آزاد
۹۷۴	جبشیر کی طرف علقمہ بن مخزونی کا سریہ نبی طے کے بتوں کو توڑنے کیلئے حضرت علی بن ابی طالب کی سرگردگی میں		امام حسب فرودت محاصرہ اٹھاسکتا ہے عروکے لئے جہرانہ سے احرام ہاندھا بداعمالوں کے لئے دعا ٹے خیر کی جا سکتی ہے۔
۹۷۵	ایک سریہ -	۹۴۵	مساکن مشرک اور طاغوت ڈھانیے جائیں
۹۷۶	عدی بن حاتم کی رسول اللہ سے نفرت حاتم کی لڑکی پر آپ کا رحم و کرم -	۹۴۶	قبوں کے گبند اور قبے بتکدیے میں۔
	واقعہ کعبہ بن زہیر		مزارات اور صنم کدوں کی تحریب کے
	ایک دشمن اور باغی سے رسول اللہ کا عفو و درگزدہ -		بعد ان کا مال ضبط کیا جاسکتا ہے۔
۹۷۹	دشمن کو معاف کر دینے کا وعدہ	۹۴۸	قبوں کے گبند اور قبے تو ردیئے جائیں
۹۸۰			وادی مرچ -

# نقد و نظر

یہ زاد المعاد کا پہلا حصہ ہے !

یہ کتاب اپنی معنویت، افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے واقعی زاد المعاد یعنی تو شہر آخرت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہر مسلمان کے لئے اسوہ حسنہ ہے، ولیل منزل ہے شمع راہ ہے۔ یہی راستہ ایسا ہے جس پر حل کرانسان ہدایت و سعادت فلاح و نجاح اور کامرانی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں وہ جنت کی طرف نہیں جاتے جہنم کی طرف اپنے رہرو کو لے جاتے ہیں، اقبال نے پسخ ہی تو کہا ہے۔

بِرَّ مَصْطَفَىٰ بِرِّ رَسُولِ خَوْلِشْ لَا كَمْ دِيْنْ بِهِمْ دَوْسْتْ

اگر بہ اونہ رسیدی تمام بواہبی است

اسلام کی تعلیمات صاف، اور سادہ ہیں نہ ان میں کسی طرح کی بچیگی ہے نہ اخلاق ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر شخص برست سکتا ہے ہر شخص ان پر عامل ہو سکتا ہے۔

اور اسلام کی ان تعلیمات و ہدایات کا مکمل نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ لہذا جب تک کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے نہ ہواں وقت تک نہ ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں نہ صحیح طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نَقْدًا كَانَ تَكُُفُّ فِي رَسْكُونِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةً۔

اور اس اسوہ حسنہ کے ہم اس وقت تک ریزشناں نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی

سیرت طیبہ کے تمام پہلو ہمارے سامنے نہ ہوں اور آپ کی سیرت طیبہ کے تمام پہلو اگر نظر سکتے ہیں تو احادیث میں حدیث ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ جو آپ کے قول و فعل دونوں پر حاوی ہے۔

منافقوں اور کج دماغوں کی ایک جماعت ہمیشہ سے اس کام میں مصروف رہی ہے کہ احادیث کی اہمیت، عظمت کا انکار کیا جائے، انہیں قانون کا مأخذ مانا جائے۔ ان تمام کچھ کا ویوں کا مقصد یہ ہے کہ سیرت رسول صیحع آب و بنگ کے ساتھ سامنے نہ آسکے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد منزل بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جب احادیث کی حیثیت محروم ہو گئی اور آپ کی شخصیت کا اصل معیار نظر سے اوچیل ہو گیا تو پھر من مانی کہنے اور کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں باقی رہ جاتی جس طرح چاہئے قرآن کی تفسیر کیجئے۔ جس طرح جی چاہے آپ کے اقوال و افعال کو دین کا مأخذ مانتے ہے انکار کرنے کے بعد احکام اسلامی اور تعلیمات اسلامی کو اپنے ذہن و فکر کے سانچے میں ڈھال لیجئے یہی کیفیت دیکھد کرتوا بکرنے کہا تھا۔

حکومت کی تم خیر یار و ممتاز

گکے میں جو اتریں وہ تانیں اڑاؤ

کہاں ایسی آزادیاں تھیں تیر

انا الحق کہو اور بچافی نہ پاؤ

انکار حدیث کے بعد قرآن کی تشریح و تعبیر میں پوری آزادی حاصل ہو جاتی ہے زایل د کا ڈر نہ اعتراض کا اندریشہ شاید یہی فکر و نظر کا بھر ان تھا جسے دیکھ کر اقبال کہا اٹھا تھا۔

احکام ترے حق میں ہیں مگر اپنے مفسر

تاویل سے قرآن کو بنان سکتے ہیں پازند

اور واقعی مذکورین حدیث نے نہ نئی تاویلیں کر کے قرآن کو معاذ اللہ پازند ہی بنادیا ہے۔

ان حالات میں ضرورت تھی کہ اردوخوان ناظروں کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کی جائے جس کی بنیاد و اساس حدیث پر ہو اور جو رسول اللہ کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنة

کے بیان پر مشتمل ہوتا کہ اس فتنہ کا قلع قمع ہو سکے جوانکار حدیث کی صورت میں پاکستان کے اندر روند بروز جڑ کھڑتا جا رہا ہے۔

اس مقصد کے پیش نظر علامہ ابن قیمؒ کی نزاو المعاد رتو شہزادہ آخرت، سے پڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں پوجدی صحت استناد کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کا تفصیلی، تحقیقی اور وقت نظر کے ساتھ ذکر موجود ہے۔

یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے یگانہ اور منفرد ہے اس موضوع پر اس سے اچھی اور اچھوٹی کتاب کسی زبان میں بھی نہیں مل سکتی تھی وجہ ہے کہ صدیوں سے یہ کتاب عجائی علیی اور حلقة علماء میں دائرہ سائیوجلی آرہی ہے۔

اس کتاب کے چار حصے ہیں، ان چاروں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ہر حصہ کے ساتھ اس کے مندرجات اور خصوصیات پر بھی ہر طور مقدمہ ایک مرسری نظر ڈال لی ہے۔

اس پہلے حصہ میں جو مواد مولف علام نے پیش کیا ہے وہ زیادہ تر عبادات سے متعلق ہے اور اس سلسلہ میں جو بخشیں کی ہیں، جو علمی نکتے پیدا کئے ہیں جس انداز سے اختلافی مسائل اور مباحث پر نقد و تبصرہ کیا ہے، جس طرح اسناد اور دواؤا پر جرح و تتعديل کی ہے۔ اور پھر باور سے طور پر صورت مسئلہ کو منقح کرنے کے بعد جس طرح اصل مسئلہ کا باب بباب پیش کیا ہے وہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو ایک طرف تفسیر کا عالم یگانہ ہو۔ دوسری طرف حدیث نبوی پر اس کی وسیع اور گہری نظر ہو تو پیسرا طرف فن اسماں الرجال اور جرح و تتعديل کا رہنمایا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ بہترین متكلم بھی ہو۔ علوم متعلقہ میں مہارت ہو، جملہ علوم اسلامیہ اس کی نظر میں ہوں، اصراف و نحو کی باریکیاں بھی اس کی گرفت سے باہر نہ ہوں اور بلاشبہ یہ کام ایسے ہی شخص۔ ابن قیم۔ فے کیا ہے۔

اس سے پہلے حصہ میں بعض ان آیات کی نہایت ول کش جامع و مانع اور ماقبل و ول تغیریت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتح گرامی سے تعلق رکھتی ہیں۔

پھر مکمل کے فضائل بنائے ہیں اور اس کے خواص کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی القدر اور شب معراج کے اسرار بھی بتائے ہیں۔ حج اکبر کا ذکر بھی ہے۔ بعثت رسول کی ضرورت پر

روشنی ڈالنے کے بعد آپ کا نسب تاریخی اور تنقیدی تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے ضمناً یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ذیل حضرت اسیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق پھر اس امر پر روشنی ڈالنے سے ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح ہوئی؟ والدین کے انتقال کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت آپ پر نازل ہوئی اسے پیش کیا ہے اور اس سلسلہ بعض اہم نکتے بیان کئے ہیں۔

اسامنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرح معانی ابن قیم نے کی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے یہ فصل اپنی تدریت، اہمیت اور انداز بیان کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔

دونوں ہجرتوں کا بیان بھی ہے نیز آپ کی اولاد، اعمام، عمادات اور ادائی واج کے احوال پر بھی تحقیقی نظر ڈالی ہے۔ آپ کے خدام اور کتاب (کاتب) کا تذکرہ بھی ضروری بسط و تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

آپ کے مکاتیب، فرائیں اور قاصدوں کا ذکر بھی ہے جن لوگوں کو آپ نے خدمت ادا ان سونپی اور جعلیں امارت کے منصب پر فائز کیا ان کا ذکر جیل بھی کتاب میں ضروری تفصیل کے ساتھ ہتا ہے۔ آپ کے سلاح جنگ اور اشانث پر بھی نام پر نام روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے مہوسات سواریوں اور جو کچھ سے زیب تفہماتے تھے ان کی نوعیت پر بحث کی ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کے آداب طعام کیا تھے؟ آپ نے کتنے نکاح کئے؟ اہل خانہ کے ساتھ آپ کا سلوک اور بہتراؤ کیا تھا؟ آپ کس سوتے تھے؟ کیونکہ جلاگتے تھے؟ آپ کے آداب رکوب کیا تھے؟ خرید و فروخت کا اصول اور طریقہ کیا تھا؟ روزمرہ کی زندگی کا منہاج اور سلوب کیا تھا؟ آپ چلتے کس طرح تھے؟ بیٹھتے کس طرح تھے؟ ٹیک کس طرح لگاتے تھے؟ قضاۓ حاجت کے لئے کس طرح جاتے تھے؟ آپ بات کس طرح کرتے تھے؟ سکوت کا رنگ کیا تھا؟ آپ ہنسنے کس طرح تھے اور گریہ کے وقت آپ کا کیا حال ہوتا تھا؟ آپ کا خطبہ دینے کا انداز کیا تھا؟

یہ ساری باتیں اس پہلے حصہ میں کہیں اجمال کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ لیکن پوری شان تحقیق کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد عبادات کا بیان شروع ہوتا ہے اور اس

سلسلہ میں بہت سی چیزوں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً آپ کے وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وضو کے وقت آپ کیا پڑھتے تھے۔ مسح۔ تیکم۔ انداز صلاحت۔ نیت نماز کی تفصیل بھی موجود ہے زیادہ تر آپ کن سورتوں کی اور کن موقعوں پر تلاوت کرتے تھے؟ اور اس کا مرکز کیا تھا؟ یہ تفصیل بھی اس حصہ میں آپ کو ملے گی۔ نسک و عبادت سے متعلق ضروری فقہی مسائل بھی پوری جستہ جانہ شان کے ساتھ موجود ہیں۔

خلاصہ یوم جمعہ، تلاوت قرآن کے آداب، سفر کی صورت میں رخصت اور سہولت نماز عیدین نماز کسوف۔ نماز خوف، جمیع بین الصلاتیں۔ جائز اور متعلقہ مباحثہ و مسائل نیز رفع یادوں۔ سجدہ سہو، سجدہ شکر، قنوت نوازل، زیارت قبور، تعمیر قبور، قبور انہیا نماز خوف ذکوۃ صدقہ، فطرہ، بعذہ فوائد صوم تطوع وغیرہ مسائل بھی ملتے ہیں۔

یوم عاشورا کے روزے پر جو بحث کی ہے وہ قابل درید ہے رج اول عمرہ کے سلسلہ میں نقیض مباحث موجود ہیں۔ خاص طور پر قرآن یا تائیع کے ذیل میں جو بحث کی ہے وہ بہت ہی محکمہ اور اصرار سے۔

غرض اس کے پہلے حصہ میں اتنا مواد موجود ہے کہ اگر ابن قیم نے صرف یہی پہلے حصہ لکھا ہوتا تو شمع نبوت کے پروانوں کے لئے وہ کمالت کرتا تھا! یہ حصہ بھائے خود ایک مستقل تینیں ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور جامع و مانع!

دیوبندی احمد مجید عجمی (ندوی)

ڈیگر پاک لاہور - ۸۹

# علام ابن قیم

## اس کتاب کے مؤلف کی حیات گرامی کے چند پہلو

منقول من کتاب جلاد العینین للسید نعیان الالوسی البغدادی  
 علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن بکر بن ایوب سعد زد علی، مشقی، یگانہ روزنگار  
 فقہیہ اور مسلمک حنبیلی پر عالی تھے۔ بلند پایہ مفسر قرآن تھے۔ علم خود کے امام اور فن کلام  
 کے استاد تھے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے متکلم تھے یہ ابن قیم جندیہ کے نام  
 سے مشہور ہیں۔

”الشذرات“ میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔

”علام ابن قیم کو اگر مجتبہہ کہا جائے تو درست ہو گا۔ بلکہ مجتبہہ مطلق تھے“

ابن رجب کہتے ہیں۔

ہمارے شیخ (ابن قیم) رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد شیخ تقی الدین  
 ابن تیمیہ کے وامن علم سے وابستہ ہو گئے اور ان سے تحصیل علم کرنے لگے جملہ  
 علوم دینیہ و اسلامیہ انہی سے حاصل کئے فن تفسیر میں اپنا جواب آپ تھے، اصول  
 دین کے رضاشتہ تھے۔ حدیث اور فقہ و معانی حدیث پر نہایت گہری نظر کرتے تھے  
 و فائق استنباط میں یکتا تھے فن فقہ اور اصول عربیہ میں یہ طوی رکھتے تھے۔ تصوف کے بھی  
 لذت آشنا تھے اپنے بعض عقائد کی پاداش میں سجن و زندگانی کے آلام بھی برداشت  
 کئے، بید کعبہ کے سوا (قب رسولؐ کی نیارت کے لئے بھی سفر کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔

حدود جہر عبادت گزار تھے تہجد پابندی سے پڑھتے تھے۔ نماز اتنے استغراق و انہاک سے پڑھتے تھے کہ کھوجاتے میری نظر سے کوئی ایسا شخص نہیں گزر اجوان کی طرح عبادت گزار ہو۔ قرآن حدیث اور حقائق ایمان کا علم تو گویا ان ہی کے لئے تھا۔ وہ مقصوم نہ تھے لیکن ان جیسی ہستی کوئی اور میری نظر سے نہیں گزری کئی مرتبہ امتحان واپسی کے سخت ترین مرحوموں سے گزرے مگر پیشانی پر شکن نہ کر نہ آئی۔ آخری مرتبہ اپنے شیخ، شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کے ساتھ قلعہ میں قید کئے گئے لیکن ان سے الگ رکھے گئے۔ برہائی شیخ (ابن تیمیہ) کی وفات کے بعد ہوئی۔

قید و بند کا یہ وقت ابن قیم نے قرآن کی تلاوت اور اس پر تفکر و تدریب میں بسرا کیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے خیر کثیر کے دعواندے کھو دیے۔ ان کے تصانیف علوم و معارف کا نجیبہ میں کئی مرتبہ بچ کیا، اکھ میں مقیم بھی رہے اہل کمر ان کی کثرت طواف و عبادت پر سخت حیرت کرتے تھے ایک خلق کثیر نے ان سے علم اور انتفاع حاصل کیا۔ ان کے شیخ کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔

قاضی برہان الدین زرعی فرماتے ہیں۔

اس آسمان کے نیچے کوئی بھی ان سے زیادہ وسیع العلم نہ تھا۔

ان کی تصانیف میں تہذیب سنن ابی داؤد و ایضاً مشکلات اور سفر مجرمین۔ اور مراحل اساترین اور المکمل الطیب اور زاد المسافرین اور زاد المعاو (چار جلد) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ بڑی بند پایہ کتاب ہے۔ نیزان کی کتابوں میں نقد المنقول اور کتاب اعلام المؤمنین من رب العالمین (۳ جلد) کتاب بدائع الفوائد، الصعلق المرسلہ علی الجھیل و المعطلہ، حاوی الارواح الی بلاد الافراح، نزہۃ المشاقین، کتاب الداع و الدواء کتاب مفتاح دار السعادة بھی ہیں۔ یہ کتاب بہت ضخیم ہے، نیز کتاب الطرق الحکمیہ و کتاب عدوۃ الصابرین و کتاب اغایۃ الہیفان کتاب الروح، کتاب الصراط المستقیم اور الفتح القدسی اور الخفۃ الکبیرۃ والقدرۃ وغیرہ بھی ہیں۔

ابن قیم کی وفات ۱۲ ارجب ۱۵۷۴ھ میں ہوئی۔ باب صیر کے مقبرے میں دفن کئے گئے  
کئی جگہوں پر ان کی نماز ہنزاہ پڑھی گئی۔

موت سے پہلے خواب میں اپنے استاد تقی الدین کو دیکھا اور ان سے ان کے  
درجہ کا حال پوچھا۔ انہوں نے بعض اکابر سے بھی اسے بلند بتایا۔ پھر کھاتم بہت جلد اتم سے  
آملو گے۔

---

# علامہ حافظ ابن قیم

## امام ابن تیمیہ کے لمبیزِ شید کی داستان حیات

یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم امام ابن تیمیہ کے تمام شاگردوں کا ذکر کریں۔ لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ ہم امام ابن قیم کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ امام صاحب کے بعد وہی ان کے جانشین اور ترکیہ علم کے وارث ہوئے، تحریر و تالیف کے لحاظ سے بھی اور مجادله و مناظرہ کے اعتبار سے بھی وہ ۴۹ تھا میں پیدا ہوئے اور اسکے بعد میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ اپنے استاذ ابن تیمیہ سے عمر میں تین سال تھوڑے تھے۔ ان تیمیہ ان کے لئے بہمنہ اہل والد مشق کے تھے۔ اپنے استاذ ابن تیمیہ کی طرف ابن یم بیانیہ طریقہ پیدا ہوئے جو علم و فضل کا مرکز تھا۔ ان کے والد المدرستہ الجوزیہ کے قیم (دریروں ہم) تھے۔ اسی مناسبت سے ان کا نام ابن قیم الجوزیہ پڑ گیا، جو بعد میں صرف ابن قیم رہ گیا۔ اپنے استاذ کی طرح ان کی نشوونما بھی خوبی ماحول میں ہوئی۔

ابن قیم صحیح معنی میں علم ابن تیمیہ کے حامل تھے، اپنے استاذ کے علم کو بڑھانے پھیلانے اور اس کی توسعی و اشاعت میں انہوں نے غیر معمولی حصہ لیا۔ اسی کی طرف انہوں نے دعوت دی۔ اسی کی جانب سے دفاع کیا اور اسی کی تائید کے لئے تحقیق و تفسیح کی پوری کوشش کی۔ جس چیز کی نشر و دعوت پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ کی وہ فقہ ابن تیمیہ تھی۔ مسلمہ طلاق پر انہوں نے ابن تیمیہ کے انکار و آراء کی خوب خوب پشت پناہی کی ہے اور ان کے فتاویٰ اور اصول بڑی عرق رینہ سے جمع کئے ہیں۔ ابن قیم

نے اپنی درکتابوں - اعلام الموقعین " اور " زاد المعاد " وغیرہ میں فقر ابن تیمیہ کا تمکہ زد خیز کثرت کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ لیکن استاذ سے اس شیفتگی اور عقیدت کے باوجود حریت فکر و رائے سے بھی بہرہ درپیں۔ انہیں متعدد علوم میں دستگاہ کامل حاصل تھی۔ ان کے دوست اور رفیق درس حافظ ابن کثیر (صاحب البدایہ والہایہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں ابن قیم نے حدیث کی بحث کی اور زندگی کا بڑا حصہ علمی مشغله میں بس کیا۔ انہیں متعدد علوم میں کمال حاصل تھا۔ خاص طور پر علم تفسیر اور حدیث وغیرہ میں غیر معمونی دستگاہ کے حامل تھے یہ

ابن تیمیہ کے حلقة درس میں امام ابن تیمیہ مصر سے واپس آئے تو ابن قیم ان کے حلقة درس میں شریک ہونے لگے۔ اس سے پہلے تک ان میں پختگی نہیں آئی تھی۔ لیکن اب انہوں نے امام صاحب کا دامن پکڑا، ان سے فقہ حاصل کی، ان کا منہاج اختیار کیا اور انہی کے ہو رہے، ابن کثیر کہتے ہیں۔

"الٹھجہ میں جب شیخ تھی الدین مصر سے واپس آئے تو ابن قیم ان سے وابستہ ہو گئے اور ان کی وفات تک انہی کے دامن سے وابستہ رہے، علمی ذوق اور شغل تو پہلے سے رکھتے تھے۔ اب امام ابن تیمیہ سے علم بے نہایت حاصل کر لیا۔ دن رات طلب علم کی دھن تھی لہذا متعدد علوم و فنون میں یگانہ روزگاریں گئے۔ ساتھ ہی کثرتِ عبادت اور ابہال کی صفت سے بھی متصف تھے یہ

خصال گوناگوں اب قیم گوناگوں خصال کے حال تھے، نرم مزاج، قوی الحلق، اپنے استاذ سے انہوں نے علم اخلاق اور ایمان کی دولت حاصل کی۔ لیکن مزاج کی تیزی نہیں۔ ابن کثیر اپنے اس رفیق درس اور دوست کے بارے میں کہتے ہیں۔

"ابن قیم بڑی خوبیوں کے آدمی تھے۔ محبت سب سے بحد کسی سے بھی نہیں، نہ کسی کے درپے آزار ہوئے، نہ کسی کی عیوب چینی

کی، نہ کسی پر شک میں اکثر ان کے ساتھ رہا ہوں، وہ بھی سبھت محبت کا برداشت کرتے تھے، بھی نہیں معلوم کہ ہمارے زمانہ میں کوئی شخص ان سے زیادہ عبادت گزار رہا ہو، ان کی نماز بڑی طویل ہوتی تھی، اور سجود بھی خاص سے لمبے ہوتے تھے، بہت سے دوست اور سائنسی اس پر بھی کبھی انہیں ملامت بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے کوئی جواب دریافت اس معمول کو ترک کیا۔ حمد للہ تعالیٰ

### تصوف سے مناسبت

ابن قیم کو تصوف میں بھی بڑا ادک تھا، چنانچہ اس موضوع پر انہوں نے ایک یگانہ اور نادر روزگار کتاب لکھی ہے، جس کا نام مدارج السالکین الی منازل ایاک فعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس کتاب میں علم حقیقت اور علم شریعت کے اسرار و حکم بیان کئے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، جس میں فکر حکیم، خلقِ قویم اور تدین و مسلک سلف کا صحیح فلسفہ سب پکھر موجود ہے۔ ابن قیم نے بہت بڑا علمی ذخیرہ چھوڑا ہے۔ جو ایک طرف تو استاذ (ابن تیمیہ) کے علم کا خلاصہ ہے، دوسری طرف استاذ کی تحقیقات کے نتائج و ثمرات اور تنویات و توجیمات ہیں۔ ابن قیم نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

اعلام الموقعين، الواہل الصیب فی المکمل الطیب، مدارج السالکین، زاد المعاد، انعامۃ اللہیفان، حاوی الارواح، بدائع الفوائد، مفتاح واراسعاد، الطرق الحکیم، عدة الصابرین الداء والدواء (الجواب)، الکافی اجتماع الجیوش الاسلامیة، الصراط المستقیم، الفتح القدسی۔ التحفۃ الملکیۃ، زاد المسافرین۔

### سلف کا نور اور سالکین کی حکمت

حافظ ابن قیمؒ کی تحریر میں اپنے شیخ ابن تیمیہؓ کی اکثر تصانیف کی طرح جدید طرز کی نہیں تھیں۔ بلکہ ان میں نرم خوبی اور سکون خاطر کی جھلک موجود ہے۔ اگرچہ فکر کی گہرا ای، استدلال کی قوت اور جوش بیان پورے طور پر نمایاں ہے، نیز ابن قیمؒ کی تصانیف، حسن ترتیب، خوبی بتویب، نظم افکار اور روانی عبارت کی آئینہ دار ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا

وہ دل جبھی کے عالم میں لکھا، اس امر کی واضح تر مثال میں ان کی تین کتابوں کو عیش کیا جاسکتا ہے، یعنی مدارج السالکین، عدۃ الصابرین اور رضاخ دار المسعدۃ ان کتابوں میں فلسفہ کی گہرائی بھی ہے اور جمال فتنی بھی۔

حقیقت یہ ہے کہ ابن قیم کی تصانیف میں سلف کافور احمد سابقین کی حکمت موجود ہے۔ صحابہ و تابعین کے اقوال سے اشتہزاد وہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن اپنے استاذ سے کم۔ اگرچہ یہ سارا نیقین استاذ ہی کے چشمہ صافی کا ہے۔

---

# زاد المعاو کا اسلوب انداز

## امام ابن قیم کے طرزِ نگارش پر ایک نظر

زاد المعاو ایک طویل و ضخیم کتاب ہے اسے اگر آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ گرامی آپ کے اسوہ حسنہ اور اعمال شب و روز کی انسائیکلو پیڈیا قرار دیا جائے تو فرمایا مبالغہ نہ ہو گا۔ سرفود کائنات کی زقائق و گفتار، اسیرت و صورت، خصائص و شماں اعواد، اخلاق، اوصاف اور صفات سے متعلق کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ضبط تحریر میں نہ آگئی ہو، اس پر نقد و جرح نہ کی گئی ہو، اسے جانچا اور پرکھا نہ گیا ہو، اس کے روایہ و اسناد پر تحقیقی نظر نہ ڈالی گئی ہو، اس کے معہوم و معنی پر سبیر حاصل بحث نہ کی گئی ہو ظاہر ہے جو کتاب اس اہتمام سے لکھی جائے گی وہ مختصر نہیں ہو سکتی، اسے طویل اور ضخیم ہونا ہی چاہیئے۔ اور اتنی طویل و ضخیم کتاب میں سہو فکر و نظر بھی بالکل طبعی اور قدروتی ہے لیکن من حیث المجموع یہ کتاب یکتا اور بے پہنا ہے۔ اس پایہ کی کتاب عربی زبان میں نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ بعد میں اور شاید آئندہ بھی نہیں لکھی جاسکے گی۔

علام ابن قیم نے یہ کتاب درحقیقت ان لوگوں کے لئے لکھی ہے جو سیرت رسالت مائب کا تحقیقی اور تاریخی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں قرآن کی تفسیر بھی ہے اور حدیث کی تشریح بھی۔ راویانِ حدیث پر جرح بھی ہے اور فقر کے مسائل بھی۔ غزواتِ نبوی میں کی تاریخ بھی ہے اور کمی و مددی زندگی کی مستند تفصیل بھی۔ خصائص اور بھی بہت سے متعلق اور غیر متعلق مباحثت آگئے ہیں۔

علامہ ابن قیم، امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ انہیں اپنے استاذ پر فرض ہے، نازبے وہ استاذ کی ہربات کی تائید کرتے ہیں، بعض مختلف فیہ مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد کہیں کہیں ایسا بھی کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول یا مسلک بیان کر دیا ہے اور اسے حرف آخر اور قولِ فیصل قرار دے کر گفتگو ختم کر دی ہے، استاذ کی ذات گرامی سے سعادت مند شاگرد کا یہ والہانہ ربط و تعلق بڑی دلچسپ اور سبق آموز چیز ہے۔ لیکن تحقیقی نقطہ نظر سے یہ بات فرائحتی بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ کا مسلک، متعدد مسائل میں جہوڑ علامہ وائیس اسلام سے مختلف ہے، ایسے موقع پر ابن قیم نے استاذ کا ساتھ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اپنے اور اپنے استاذ کے مطابق فکر کے اسہاب و محركات اور بواحدہ مدلل کو بھی ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے تو صورتِ مسئلہ اور زیادہ واضح اور منقح ہو جاتی۔

علامہ ابن قیم کا طرزِ تحریر اور اسلوب نگارش، سادہ، عام فہم اور دلکش ہے، لیکن جہاں کہیں صرف اور نحوی بجھیں کرتے ہیں، یا معانی و بیان کے حقیق اور بلیغ ہو گیا ہے، جس کا ایک عام ادبی کے لئے سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن ایسے موقع زیادہ نہیں ہیں یا اگر ہیں تو زیادہ طویل نہیں ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں علامہ ابن قیم کی شخصیت یعنی الاجرین ہے۔ وہ علوم عقلی و نفلی میں یکسان کمال رکھتے ہیں اور اپنے مدعا کو بغیر کسی جھگک کے پورے زور شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور کوئی شبہ نہیں ان کے دلائل میں زور بھی ہے۔ فذن بھی اور قوت بھی۔ لیکن اپنے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے والوں کے لئے وہ سخت اور درشت الفاظ بھیستے استعمال کر جاتے ہیں، گویہ چیز اس زمانہ میں جو امام قیم کا عہد تھا عام تھی۔ اور بحث و مناظرہ میں مختار بھی یقین ایک دوسرے کے فکر و نظر کے ساتھ مصالحت برتنے کے قابل نہ تھے اس لئے یہ چیز حیرت انگیز تو نہیں لیکن اُن قیم کی علمی، تحقیقی اور دینی عظمت کی سطح سے مسطح نہیں ہے۔

امام ابن تیمیہ کی طرح علامہ ابن قیم کا اصول، مسلک، عقیدہ اور ایمان بھی وہی تھا۔ جس کی ترجیحی اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے۔

بہ مصطفیٰ پر ساں خویش را کہ دیں ہمہ اوت  
اگر بہادر سیدی تمام بولی اسٹ

وہ کڑھائی سنت ہیں، بعد عت کے سخت خلاف، جو چیز سنت رسولؐ کے مطابق نظر آئی ہے اسے دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں جو چیز سنت رسولؐ کے خلاف نظر آتی ہے اسے زیغ و بن سے اکھاڑ ڈالنے میں اپنا سامان زد اور بھروسی قوت و قوانانی صرف کر دیتے ہیں اور اس سلسلہ عین نکسی کے ساتھ رعایت کرتے ہیں، نہ مصالحت، نہ رواداری، چنانچہ دوسرا سے اگر فقرہ جوان کے مسلک سے اتفاق نہیں رکھتے جب ان کا مسلک ذمہ بحث آتا ہے تو ملا مہماں قیم ان کے خلاف بے در مرک وہ تمام باتیں کہہ دیتے ہیں جوان کی نوک قلم پر آجائیں۔

ایک چیز جو خاص طور پر اس کتاب کے مطالعہ سے نظر کے سامنے آتی ہے یہ ہے کہ علامہ ابن قیم کا دل حبُّ رسولؐ کے نشر سے سرشار تھا، لیکن ان کا حبُّ رسولؐ حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی صورت اور کسی حیثیت میں بھی حُبُّ رسولؐ کو جذبہ توجیہ سے منحصام نہیں ہوتے دیتے۔ ان کی توجیہ اتنی سخت ہے کہ اپنے اس پسند کے کھالفوں نے اس چیز کی آڑ کے کرانہ نہیں اور ان کے استاذ والا شان امام ابن تیمیہؓ کو ہدف مطاعن اور پروفیشن بنا لئے ہیں کوئی وقیفہ نہیں اٹھا رکھا۔ انہیں طرح کی تکلیفیں اور اذنیں دی گئیں، ان پر نادا جب اور ناروا پاپندیاں عائد کی گئیں، انہیں نظر بند کیا گیا، جلا و طعنی کے مصائب پر داشت کرنے پڑے، سجن و زندگی عنتوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، معموقتوں لیکن ان کے سزم و استقامت میں فرق نہیں آیا اس لئے نہیں آیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اور کہ رہے تھے۔ وہ ان کے اعتقاد بازم کا نتیجہ تھا اور عقیدہ کی تحریکوںی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں سسکتی۔

اگر امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم مفاسد پسند ہوتے، اصولی اور نبیادی معاملات میں مدعاہست کی کار فرمائی گوارا کر سکتے، عقیدے کو مصالح اور حالات

پر قرآن کر سکتے تو یقیناً نہیں دنیا میں اس سے کہیں زیادہ وقار، درد بہار اور شکوه و جلال حاصل ہوتا جو ان کے معاصرین کرام کو حاصل تھا، لیکن انہوں نے یہ راہ نہیں اختیار کی وہ راستہ اختیار کیا، جو روح فرسا ذیتوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر چلتے سے جان، جان آفرین کو سونپ دی مگر اس سے روگردان ہونا گوارا نہ کیا۔

کوئی مشہد نہیں بعض اجل علماء امام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کی انتہا پسندی کے شاکرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس انتہا پسندی کے باعث ان کی زبان اور قلم سے ایسی باتیں نکل گئیں جنہیں زیادہ سے زیادہ فراخی حوصلہ کے باوجود سہو فکر و نظر قرار دیئے بغیر عجارت نہیں اور کوئی شبہ نہیں اس قول میں وذن بھی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں صداقت بھی ہے۔ لیکن با ایں ہمدرد اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور میرا خیال ہے ان کا بدترین مخالف بھی اس کے انکار کی جرأت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے انکار و خیالات اور عقائد کی بنیاد جس چیز پر مستوفی کی تھی وہ تھا حبّ رسولؐ کا جذبہ، اگر یہ جذبہ کا فرمानہ ہوتا تو وہ اتنی عظیم اور ناقابل فرموش قربانیاں نہیں دے سکتے تھے جو انہوں نے دیں۔

قرآن کی تفسیریں یا حدیث کی مژرح میں یا اجنبادی سائل میں، رسولؐ کے سوا کسی کا قول بھی قول آخر نہیں ہو سکتا۔ اس پر بحث و گفتگو اور نقد و جرح کی پوری گناہش ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہؓ ابن قیم اور اس مکتب نکر کے دوسرے اکابر کے انکار و آراء شرح و تفسیر اور مجتہدات کا جہاں تک تعلق ہے انہیں بھی بہر صورت اور بہر نوع حروف آخر نہیں قرار دیا جاسکتا ان میں بحث و گفتگو اور نقد و جرح کی گناہش ہے اور ان حضرات کے زمانہ سے اب تک یہ سلسہ جاری بھی ہے اور جب تک تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا جاری رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیئے کہ جہاں کہیں بھی یہ حضرات جمہور کی دُلگھ سے ہٹے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ نا انصافی کی ہے، نہ اپنے مخالفوں اور حرلفیوں کے ساتھ نہ اپنے معتقدین کے ساتھ، نہ اپنے قارئین کے ساتھ، انہوں نے بلاشبہ بڑے ذور شور سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے اور اس کو مردج اور اولیٰ قرار دیا ہے۔ لیکن دوسروں کے فکار و خیالات، دلائل اور معتقدات، اسلوب فکر اور منہاج نظر کو بھی پیش کرنے میں نہ

صرف بخل سے کام نہیں لیا ہے بلکہ نا انصافی بھی نہیں کی ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والا گو ان حضرات کے علم مطالعہ، گھرائی تکمیر اور وسعت معلومات کا قائل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے سامنے دوسرانقطہ منظر بھی پوری وضاحت کے ساتھ آ جاتا ہے اور اس روشنی میں وہ خود بھی اپنی بصیرت اور فہم کے مطابق ایک رائے قائم کر سکتا ہے اور یہ قطعاً ضروری نہیں کہ وہ رائے وہی ہو جسے من صح اور قرار دیا گیا ہے۔ یہ چیز عام مناظراتہ انداز سے بالکل ہٹی ہوئی ہے مناظر کا مقصد ایک اور صرف ایک ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو حرفیت کو زک دی جائے، اسے شکست سے آشنا کیا جائے، اس کے دلائل کو بودا ثابت کیا جائے، اس کے اولہ اور افکار و خیالات کو مزعومات محسن ثابت کرنے میں ایک چھپی کا زور صرف کر دیا جائے۔ لیکن ایک حق پسند، ایک طالب حق یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا۔ اس میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنی کہے اور دسرے کی سنت، خلوص صداقت اور دیانت فکر کو صرف اپنی متاع نہ قرار دے، دوسروں کو بھی اس کا مستحق سمجھے دوسروں کو بھی یہ حق دے کہ وہ آزادی کے ساتھ سوچیں، غور کریں، مطالعہ کریں، دلائل کا موازنہ کریں اور اس کے بعد ایک رائے قائم کریں اور وہ رائے صرف تقلید جامد پڑھنی نہ ہو، بلکہ آزادی فکر و نظر پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو۔

علمی اور دینی مسائل میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ صورت مسئلہ پرے طور پر منقح کر دی جائے، دلائل میں کسی طرح کا جھوول نہ ہو، ہر نقطہ نظر کی وضاحت کر دی جائے، اسناد، روایات اور وفاۃ کے بارے میں پوری تحقیق اور تفتیش کی جائے اور کسی کے ساتھ نہ رعایت کی جائے نہ کسی کو ہدف انتقام بنایا جائے۔ وہاں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ اپنے مفہوم اور مقصد کو ایسی عبارت، ایسے الفاظ اور ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ عام فہم ہو، اس کے سمجھنے اور تھہجھنے میں کسی طرح کی دشواری نہ پیش آئے اور بلاشبہ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے اس بات کا پورا پورا الحاظ رکھا ہے (سید) رُبیں احمد جعفری (ندوی)

نذر المعاو  
فی  
هدی خیر العباد

# آغازِ سخن

میرے موئی اس بندہ ناچیز کی مشکل آسان کر دے! اے خدا شے کریم اس بندہ مجبور کی اعانت کر اوڑھا سے سیدنا محمد الائین صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرماء! اس ب ستائش الشد کے لئے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انجام خیران کے لئے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور ہلاکت ان کے لئے ہے جو ظالم ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں (توہی) الگوں اور پچھلوں کا معبود ہے، زمینوں اور آسانوں کو تھاے ہوئے ہے۔ نعم جزا کا مالک ہے کہ اس کی اطاعت کے بغیر نہ کوئی کامرانی ہے نہ کامگاری، اس کے جلال کے سامنے حاجزی بغير عزت نہیں۔ اور اس کی احتیاج رحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس کے نور (ہدایت) کے بغیر کہیں نہ یابی نہیں۔ زندگی اس کی رضا میں ہے اور رحمت اس کے قرب میں ہے تلب کی صلاح و نلاح صرف اس کا ہو ہے میں ہے اور اس کی صحبت کا تقاضا ہے کہ جب اس کی اطاعت کے تو شکر گزار ہے اور اگر غلطی کر بیٹھے تو تورہ واستغفار کرے۔

اور جب اُسے بلا یا جائے تو (فردّاً) جواب دے اور جب نیک عمل کرے تو ثواب کی امید رکھے۔ اور سب تعریفیں اُس باری تعالیٰ کے لئے ہیں کہ حمام موجودات و مخلوقات جس کے پروردگار ہونے کی شاہر ہے اور تمام مصنوعات نے اس کی الہیت کے سامنے تسلیخ کر دیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بس وہی ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی منتیں کیسی چیز تا آفرین اور اس کی نشانیاں کیسی تحریخ نہیں اس سے عجیب عجیب منتعیں اور چیز انجینر چیزیں پیدا فرمائیں ہم اس کی مخلوقات کے شمار اور اس کی رضا کے مطابق اس کے عرش اور اس کے کلمات کی روشنائی کی حد تک اس کی حمد و شناکر تے ہیں اس کیتا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح اس کی ربویت میں کوئی اس کا وزیر نہیں اسی طرح الہیت

میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی اس کا شبیہہ نہیں وہ سب، ہی سے بڑا ہے۔ وہ حمد کشیر کا سزاوار ہے اور صحیح و شام اللہ تعالیٰ ہی کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے اور وہ ذات پاک ہے کہ آسمان اور اس کے ستارے، زمین اور اس کے سائین سمندر اور اس کی بھلیاں غرض ستارے ہوں یا پہاڑ درخت ہوں یا چوپانے۔ سنگرینے ہوں یا ریت کے فتنے بلکہ ہر طب دیا بس اور ہر زندہ و مردہ اس کی پاکیزگی میں طب انسان ہے۔ یہ ہفت آسمان، یہ زمین اور زمین و آسمان کی مخلوقات۔ غرض ہر ایک کی زبان پر من اسی کی حمد و تسبیح ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں، جو اس کی شناو صفت میں سرگرم نہ ہو گو تو مہارے کان ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ معلم ہے بخششے والا ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اس ذات یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی اکاں کلمہ ہے جس کے باعث زمین و آسمان قائم ہیں اور ایسی حقیقت کاظہ ہو رہے جو تمام مخلوقات کا سبب وجود ہے۔ اسی کوئے کر اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہم السلام میتوث ہوئے اور صاحائف آسمان نازل ہوئے اور مژاشع مرتب ہوئے اور اسی کے رد و قبول کے لئے میزان نصب کی گئی اور صحیفے لکھے گئے اور جنت و دنخ کا بازار لگا اور اسی رد و قبول کے باعث لوگ مسلمان اور کافر اصلح اور بد کار دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بس یہی نشاء خلق و امر اور ثواب و عقاب ہے۔ یہی وہ حق ہے جس کی خاطر مخلوقات پیدا کی گئی اور اس کے اقرار اور اس کے ادائے حقوق ہی پر سوال و حساب ہو گا۔ اور اسی بنیاد پر قبلہ قائم کیا گیا اور اسی پر ملت کی اساس ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی سر پاندی کے لئے جہاد کی تکواریں میان سے باہر نکلیں۔ یہ جمیع عباد پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہی کلمہ اسلام اور منقاد وار اسلام ہے اور اسی کے ہارے میں گلوں اور کچپلوں سے پرسش ہو گی۔

اور بندہ دوسراں کا جواب جب تک نہ دے لے اس وقت تک اس کے پاؤں زمین سے خبیث نہ کر سکیں گے۔

۱۔ ایک سوال یہ کہ تم کے پوچھتے تھے؟  
۲۔ دوسرے سوال یہ کہ انبیاء کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا؟

م۔ پہلے سوال کا جواب ہے۔ لَوْاْلَهِ لَاَلَّا اللَّهُ  
ف اور دوسرے کا جواب معرفت، اقرار، انتیاد اور طاعت کے ساتھ یہ ہے کہ  
 بلاشبہ ﷺ کے رسول ہیں۔

یعنی بلاشبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ خدا کے بندے ہیں، رسول ہیں، امین و حجی الہی ہیں۔  
اس کی علوفی میں سب سے بہترین اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہیں۔ وہ دین قویم اور راہ  
مستقیم کے ساتھ معمور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت اللعالمین اور امام المتلقین اور  
 تمام علوفات کے سامنے ایک محنت بنا کر بھیجا اور انہیاً علیہم السلام کے انقطاع کے بعد  
 وہ معمور ہوئے۔ آپ نے پائیدار راہ کی ہدایت فرمائی اور طریقہ ہائے زندگی کی وضاحت  
 فرمائی۔ اللہ نے بندوں پہاں کی اطاعت، مدد، احرام اور انفت لازم فرمادی۔ اور ان کے  
 اداء حقوق کی تلقین فرمائی اور عبّت کے لئے کمی راستوں کا آڑ بنادیا، ان میں سے کوئی  
 راستہ بھی نہیں کھل سکتا جب تک وہ آپ کا راستہ نہ ہو، خدا نے آپ کا شرح صدقہ فرمایا  
 اور آپ کے ذکر کو سر بلندی عطا فرمائی، آپ کا بوجھ بہلکا کرو دیا اور جس نے آپ کی مخالفت  
 کی اس پر ذات اور رسولی مسلط کر دی۔

مسند میں حضرت ابو منیب جوشی، عبداللہ بن عمر فی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں  
 کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مجھے قیامت کے قریب تکوار دے کر معمور کیا گیا۔ تاکہ صرف خدا گئے یکتا کی عبادت  
 کی جائے، جس کا کوئی شریک نہیں اور میرا رزق میرے نیزے کے سایہ میں لکھ دیا۔ اور  
 جس نے میری مخالفت کی اس پر ذات اور رسولی مسلط کر دی گئی اور جو جس قوم سے  
 مشابہت رکھے گا وہ اسی کا ایک فرد سمجھا جائے گا۔

# چند آیتوں کی تفسیر

پس جب کہ رسولؐؑ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لئے مقدر ہو جکی تو اب عزت اور سر بلندی و در قوت صرف آپؐ کے اطاعت گزاروں اور فرمابنداروں کے لئے ہی ہے ।

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُو وَلَا إِنْتَمْ إِلَّا عَلُونَ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ یعنی نہ سُست ہو اور تنغم زدہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، بشرطیکہ تم ایمان رکھتے ہو۔

اور (دوسری جگہ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَلَّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یعنی عزت اللہ اس کے رسول اور صرف مسلمان کے لیے ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى الْسَّلَامِ وَإِنْتُمْ إِلَّا عَلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ یعنی سُست نہ ہو اور اسلام کی طرف دعوت دیتے رہو، اور تم ہی سر بلند رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

پھر ارشاد فرمایا، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حُسْبَنَكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشریف اور تیری پیروی کرنے والے مسلمانوں کے لئے کافی ہے۔ صرف اللہ آپؐ کی مد کے لئے کافی ہے اور آپؐ کے متبوعین کے لئے بھی کافی ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔

یہاں دو مقدرات ہیں۔ ایک واو (جو حروف عطف ہے) تو اب مَنْ کو معطوف اور لَقَ کو معطوف علیہ کہا جائے گا۔ (یاد رکھئے کہ (علماء نجوم) کے ہاں یہ بھی اختار ہے کہ حرفِ جار

دوبارہ لائے بغیر ضمیر مجرور پر عطف کو جائز سمجھا جائے اور (عربی زبان میں) اس کے شواہد بکثرت ملتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ واکو بمعنى مَنْ لِيَا جَاءَ اور منصوب حالت پر صحیح ہوتے اسی کا عطف حَسْبُ پر کردیا جائے کیونکہ حسبک کے معنی (کافیلک) (تیری مدد کو کافی ہے) ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی نیری (مدد) کو کافی ہے اور جو تیرے فرمانبردار ہیں۔ ان کے لئے بھی وہی کافی ہے۔

جیسا کہ عرب کہتے ہیں حسبک و شرید ادرہ یعنی تیرے اور زید کے لئے ایک درہ کافی ہے ॥ جیسا کہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے ۷۸

اذا اَنْتَ الْهَيْجَاءُ وَإِنْشَقَّتِ الْعَصَا

حَسْبُكَ وَالضَّعَاكَ سَيِفٌ مَهْنَدٌ

یعنی جب میلان کا رزار گرم ہوا اور لاٹھی ٹوٹ جائے تو تیرے اور ضحاک کے لئے ہندی تلوار کافی ہے۔

اور یہ آخری تقدیر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔

یہاں پر ایک تیسرا تقدیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ مَنْ کر مبتداً مرفوع مان لیا جائے اور اس کا عطف اللہ پر کیا جائے تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ تیرا اللہ اور تیرے مائنسے والے (صحابہؓ) تیری (نصرت) کے لئے کافی ہیں۔

اگرچہ بعض لوگوں نے ایک آخری یعنی چوتھا مطلب بھی لیا ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے آیت کا مطلب اس طرح لینا بالکل ہی نامتناسب ہے، کیونکہ کافی واقعی ہونا تو اللہ جل شانہ، ہی کی صفت خاص ہے جیسے اس پر توکل کرنا، اس سے ڈرنا، اس کی عبادت کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِنْ تَرِيدُ وَإِنْ يَخْدُ عَوْلَكَ فَإِنْ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَتَيْدُكَ  
بِنَصْرِكَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۔

یعنی اگر وہ چاہیں کرتے تجھے دنگا دیں تو تجھے کافی ہے اللہ۔ وہی ہے جس نے تیری اور

مسلمانوں کی اپنی نصرت سے تائید کی۔ تو یہاں پر حسب فَأَيَّتَنَّ (تائید) میں اختیار بتا دیا اور کافی (حسب) کو اپنی صفت خاص کی حیثیت میں ذکر فرمایا اور اپنی مدد کے وعدے یعنی تائید کو اپنی اور بندوں کی صفت عامہ فرمایا (نیز) اللہ تعالیٰ نے اپنے متوكل اور موحد بندوں کے تعریف فرمائی گر انہوں (بندوں) نے اللہ واحد کو ہی کافی سمجھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہو گوں کا تذکرہ کرتے ہوئے) فرمایا۔

**"إِذْنَنِ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ أَنْ قَدْ جَمَعْتُكُمْ فَأَخْشُوهُمْ  
فَزَادَهُمْ رَيْمَانًا وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ وَنَعْمَلُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ"**

یعنی جن سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے مقابلے کے لئے سروسامان جمع کیا ہے سوان سے فرگئے۔ پھر ان کا ارمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ کیا خوب کا رسانہ ہے۔

**تو حجید خالص بغیر شرک کے** انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جب انہوں نے اس طرح اقرار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف اسی (توکل علی اللہ) کی وجہ سے فرمائی ہے تو حجید خدا کے ہاں تو حجید اس قدر اہم ہے تو پھر وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں نکر کہہ سکتا تھا کہ اللہ اور تیرے پیرو کار تیری (مدد) کے لئے کافی ہیں۔ حالانکہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمادیروں میں صحابہ کلزم نے کافی ہونے کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کیا تسلیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کو اس صفت میں شریک سمجھا تو یہی کہ ہو سکتا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کافی (مدودگار) ہونے کی حیثیت اختیار کر کے خود ہی اللہ تعالیٰ کے شریک بن بیٹھتے۔ یہ تو بالکل ہی انہوںی اور قطعاً غلط تربات ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

**وَلَوْ أَنْهَرْ سَرْضَوْ إِمَامَةَ تَاهِمَةَ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسِبْنَا اللَّهَ سَيِّدُنَا اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ أَنَّا إِلَى اللَّهِ مُغْبُونَ**

”یعنی اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جائیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے

او رکھیں۔ اللہ کافی ہے ہم کو۔ عنقریب المذاہبین اپنے فضل سے مے گا اور اس کا رسول بھی۔ یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔“  
ذراغور تو کیجئے کہ عطا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرار دیا۔ جیسا کہ درود  
جگہ فرمایا:

وَمَا أَتَاكُمْ مِّنْ سُولٍ فَخَذُوهُ

”یعنی جو تمہیں رسول دے اُسے لے لو۔“ اور حَسْبُ (کافی ہونا) اپنے لئے ہی مخصوص  
رکھا اور یوں نہیں فرمایا: حسِبنا اللہ ورسولہ  
یعنی ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔  
بلکہ کافی ہونا اپنا ہی حق جتا یا، جیسے کہ مذکورہ آیت میں ہے۔  
إِنَّمَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مِنْ إِيمَانٍ

”و یعنی یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔“

اور یہاں پر ساتھ ہی یہ نہیں فرمایا کہ ”اور اس کے رسول کی طرف بھی“ بلکہ رغبت کو محض  
اپنی ذات کے لیے مختص فرمادیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصِبْ وَإِلَيْيِ سَبِّكْ فَأَسْرِ غَبَّ

”و یعنی پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف دل گا۔“

تو رغبت، توکل، اثابت اور حَسْبُ (کافی ہونا) صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔  
بالکل اسی طرح جیسے کہ عبادت، تقویٰ اور سجدہ محض اللہ تعالیٰ کو رو ہے اور نذر و حلف بھی  
اللہ جل شانہ، کے لئے مخصوص ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔  
إِنَّمَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مِنْ إِيمَانٍ

الْيَسِ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدِكَ.

”و یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں؟“

حَسْبُ بھی کافی ہونا ہی ہوتا ہے تو جب اللہ نے آگاہ فرمایا کہ دیکھو وہ (اللہ) تنہا ہی  
اپنے بندوں کی (مد وہ کے لئے کافی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کافی ہونے کے لئے  
حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کے متبوعین کو بھی شرک کرنے لے۔ اس لغو تاویل کو غلط ثابت کرنے

کے لئے ہمارے پاس استنے دلائل ہیں جن کی تفصیل غیر ضروری ہے اس جگہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہدایت اصلت نفس اور کامرانی عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی طرف سے عزت، کفایت اور مدحی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماداری ہی کے ذریعہ مل سکتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کے سعادت آپ کی اطاعت میں اور دونوں جہاں کی شقاوت آپ کی نافرمانی میں رکھ دی۔ اسی لئے آپ کے ماننے والوں کے لئے دنیا و آخرت میں ہدایت، امن، کامرانی، عزت، کنایت، مدد، کار سازی، تائید اور آسودگی زندگی کی ضمانت ہے اور آپ کے عالیین کے لئے دنیا و آخرت میں ذلت، رسوائی، گمراہی، شقاوت اور بدختی اُلیٰ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمادیا۔

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، بچوں، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محظوظ نہ رکھے۔  
اور اللہ نے بھی قسم کھا کر فرمادیا۔

”جو اُمی اختلافات و تنازعات کی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بھے وہ مومن نہیں ہمارا کے فیصلہ پر تلبی رضامندی بھی ضروری ہے۔ جیسا بھی وہ فیصلہ فرمادیں ہیماں تک کہ ان کے فیصلہ کے خلاف اقل میں فرما سی بھی تنگی تک محسوس نہ ہو بلکہ دل و جان سے تسیلم کر لے اور ان کی قیادت کو کلیتہ مان لے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔  
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ قَرْلًا مُؤْمِنَةً ۝ ۲۴۳۝ فضی اللہ و رسولہ امر ان یکون  
لهمَّا الخیرَ ۝۔

(یعنی اور کسی مومن مرد، کسی مومن عورت کو حق نہیں کہ جس وقت اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو انہیں کوئی اختیار باقی رہا ہو)

یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے ”اختیار“ بھی سلب کر دیا۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہنچنے کے بعد ایک مومن (تسلیم کے سوا) قطعاً کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ بلکہ جب آپ نے حکم صادر فرمادیا تو سمجھئے کہ اب یہ حکم ایک امر لازم ہے!

**رسول کے سوا کوئی مطابع نہیں** | البیتہ آپ کے علاوہ دوسروں کے اقوال میں اختیار ضرور حاصل ہوگا۔ کیونکہ ان کا معاملہ غیر واضح ہے جیسے آپ کے علاوہ قرآن و حدیث جانتے والے کے اہل علم و سنت! پس ان شرائط کے ماتحت غیر رسول کی اطاعت واجب نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ یعنی آپ کے سوا کسی کا اتباع "واجب" نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی نے غیر رسول کا قول تحرک کر دیا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھنٹا رنگ بھا جائے گا۔

ویسے بھی یہ بات قابل غور ہے کہ تمام لوگوں پر غیر رسول کی اطاعت کس طرح لازم اور اس کی عالافت حرام قرار دی جاسکتی ہے؟ ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پڑھنے جانے کے بعد ہر دوسرے قول کو مسترد کر دے، کیونکہ آپ کے حکم کے بعد کسی کا حکم قابل قبول نہیں۔ نہ آپ کے قول کے بعد کوئی قول قابل تسلیم ہے، نہ آپ کے مسلک کے علاوہ کوئی مسلک لائق اختیار ہے۔

غیر رسول کا اتباع اُسی وقت لازم ہوتا ہے جب وہ ایسی بات کا حکم دے جس کا رسول نے حکم دیا ہو۔ اور جس سے رسول نے منع کیا ہوا اس سے روکے، اس طرح اس کے حیثیت محسن ایک مبلغ اور خبر رسان کی ہوگی قطعاً اُسے کوئی نیادی یا اساسی حیثیت حاصل نہ ہوگی لیکن جس نے اپنی سمجھو اور تاویلات سے اصول وضع کئے اور اساسی قواعد مرتب کئے تو اُن پر ان کا اتباع کرنا اور اس کے قول کو قولِ فیصل قرار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ارشادات کے مطابق اور ہم آہنگ نہ ہو، جسے لے کر آپ سبوث ہوئے تھے۔ ایسے اقوال و احکام وحی و تعلیماتِ الہی سے متوافق ہونے کی سورت ہی میں قبول کرے جا سکتے ہیں، ورنہ تاہم ان کا رد و اطراح لازم آئے گا اور انہیں کسی صورت میں بھی مورد قبول نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ہر دو صورتوں میں سے کوئی صورت بھی واضح نہ ہو، تو پھر توقف سے کام لینا پڑے گا۔ اور قولِ حسن یہی ہے کہ اس قول موقوف کے مطابق فتویٰ دینا اور دینا دونوں جائز ہیں۔

**ایک آئیہ کرمیہ کی تفسیر** | علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا تنہا خالق اور مختار کل ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے۔

وسیک میخلق مایشاد و یختاہ۔

”یعنی اور تیرارب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے“

اس جگہ متكلمین کا بیان کردہ ارادہ و اختیار مراد نہیں کہ وہ فاعل مختار ہے“ اور اشد اگرچہ (فاعل مختار) ہے۔ میکن یہاں اختیار سے ایسا مطلب مراد نہیں کہ یہ اختیار تو اندر تعالیٰ کے اس فرمان ”یخلق مایشاد“ میں داخل ہے کیونکہ وہ اختیار ہی سے تو پیدا فرماتا ہے اور اس کے فرمان ”مایشاد“ میں مستور ہے، کیونکہ مشیدت ہی تو اختیار ہے۔

حقیقتاً یہاں اختیار سے مراد اجتہاد و اصطفاً یعنی چن لینا اور پسند کر لینا، یعنی اختیار بعد خلق ہے اور اختیار عام سے مراد اختیار قبل الخلق ہے۔ پس اس امر کے پیش نظر یہ صفت عام ہے اور وہ خاص اور جو صورت متاخر ہے وہ علوق میں اختیار سے متعلق ہے اور جو بہلی صورت ہے اس سے مراد خلق کرنے کے لیے پیدا کرنے کا اختیار ہے اور ہر دو اقوال میں سیمین ترقول، قول تبارک تعالیٰ ”یختاہ“ پر وقف تام ہے۔

اور یہ ارشاد کہ:

ما شان لہم الْخَيْرَة۔

”یعنی انہیں کوئی اختیار نہیں“

یہ نفی ہے کہ دراصل اس اختیار کی نفی مخلوق کے لئے ہے۔ کیونکہ اختیار صرف خدا شے کیتا صفت ہے پس جس طرح وہ خالق ہونے کی حیثیت میں منفرد ہے اسی طرح مختار (اختیار کرنے والا) ہونے کی حیثیت میں منفرد اور کیتا ہے۔ لہذا کسی کی مجال نہیں کہ ”خلق“ کر سکے یا ”اختیار“ کر سکے۔ خلق اور اختیار تو تمام تر خدا کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے موقع اختیار کو بہت آپنی طرح جانتا ہے اور اپنے محل رضا سے آشنا ہے۔ اور مختار ہونے کے لئے جن صفات کی ضرورت ہے وہ اُسے اور دوسروں کو مشترک طور پر حاصل نہیں ہیں ان میں کوئی بھی کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں۔

اور وہ لوگ جنہیں تحقیق سے کوئی مس نہیں اس آیتہ کریمہ کی اس طرح شرح کرتے ہیں کہ ما شان لہم الْخَيْرَة میں ”ما“ موصول ہے اور یہ (جملہ) مفعول ہے اور سہ الفاظ ”یختاہ“ تو اس

سے مراو یہ ہے، ”وہ لوگ جنہیں اختیار حاصل ہے وہی اختیار کا حق استعمال کرتے ہیں“  
یہ بات متعدد وجہ سے باطل ہے۔

بنجدا ان کے ایک یہ کہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں مردی مخدوف سمجھا جائے نیز اسی طرح جب  
ہم مخفی اور موصولة حرفاں سے مجرور بنایا جائے تب ہی مجرور مخدوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ  
نے فرمایا:-

یا حَلَّ مِتَانًا كُلُونَ مَتَهَ وَ يَشْرِبُ مَمَاتَشَرِبُونَ۔

”یعنی وہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پتیا ہے جو تم پتیے ہو  
اور ایسی ہی دیگر امثال۔

اور شجوی طور پر بھی یہ کہنا غلط ہے۔ ”جَاءَكُنْدِيَ الْذِي مَرْسَأْتَ بِهِ وَ أَيْتَ الَّذِي  
كَعْبَتْ وَغَيْرَهُ وَمِنْهُ اگر یہ مطلب لیا جبی جائے تو الخیرۃ کو منصوب مانتا پڑے گا اور  
صلہ کافل ایسی ضمیر سے متصف ہو گا۔ جو موصول کی طرف راجح رہی ہے قواب گویا کہ کلام یوں  
ہوا۔ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لِهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ۔ یعنی اور وہ ان کو اختیار کرتا ہے کہ جنہیں اختیار حاصل  
یعنی جو عین اختیار تھا وہ انہیں کو حاصل تھا اور یہ قرأت تو کسی سے بھی مذکور نہیں علاوہ ازیسے  
اس مطلب کو اگر مانتا جائے تو کہی مزید اشکالات بھی لاحق ہو جاتے ہیں۔

ایک تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق ان کے مفوضہ اختیارات اور ارادوں کے  
جبکہ حکایت کرتا ہے اور اس صفت اختیار میں اپنی، نفرادیت بیان فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ  
تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَقَالَوَالوَالِهِ نَزَلَ هُنَّ الْقُرْآنُ عَلَى سِرِّ جَلَّ مَنِ الْقَرِيبَتِينَ عَظِيمٌ أَهْمَّ يَقُسُونَ  
سَرِحَةٌ سَرِبَكُ نَحْنُ قَسْمًا يَبْيَنُهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَسَرِحَةٌ بَعْضُهُمْ  
فَوْقَ بَعْضِ درجاتٍ لَيَتَعَذَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخْرِيَا وَسَرِحَةٌ سَرِبَكُ خَيْرٌ  
مَا يَجْمِعُونَ۔

یعنی اور انہوں نے کہا کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی اور  
آدمی پر کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنے والے ہیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی میں

ان کی معاش تقسیم کر رکھی ہے اور بعض کو بعض پر فویت دی ہے درجہوں کے اعتبار سے۔ تاکہ بعض بعض سے کام لے۔ اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ مجعع کرتے ہیں؟

تو گویا اللہ سبحانہ نے ان کی اختیاری حیثیت کا انکار فرمایا۔ اور واضح کر دیا کہ یہ صفت انہیں حاصل نہیں بلکہ یہ صفت تو اس کی ہے جس نے ان کی معاش یعنی رزق اور سفر تقسیم کر رکھی ہے اور اسی طرح وہی فلات پاک ہے جس لے قابل انتخاب افراد اور مناسب وغیر مناسب لوگوں سے آگاہی رکھتے ہوئے اہل ثروت لوگوں پر اپنا فضل تقسیم کر رکھا ہے اور وہی ہے جس نے کچھ لوگوں پر دوسروں کے مرتب بلند کر دیے ہیں اور انہیں ان کی معاش اور درجاتِ فضل کرم باٹ رکھے ہیں تو گویا تقسیم کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اسی طرح یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خالق اور عتار ہونے میں اپنی انفردیت واضح کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہی موقوع انتخاب کی صحیح آگاہی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس نے کفار کی آمد اور ان کے اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

قالوا مَنْ نُؤْمِنُ حَتَّىٰ نَتُّقَيِّ مِثْلًا وَقَيْ رَسُولُ اللَّهِ ، اللَّهُ أَعْلَمُ حِكْمَةً  
 يجعل سوالاتہ۔

یعنی ”انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے کہ بتک کرہیں بھی اس کی مثل نہ دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں (نازل فرمائے گا) اور صرف خدا ہی انتخاب عزت، اور رسالت و نبوت سے متصف ہو سکنے کی اہل فات کو جانتا ہے ذکر دوسرے لوگ!

ایک تشریح یوں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مشرکین کے اختیار و اقتراح سے پیدا ہونے والے شرک سے پاک بتایا۔ اس لئے یوں فرمایا،

مَا كَانَ لِهِ الْخِيرَةٌ۔

یعنی ”انہیں کوئی اختیار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ تو مشرک کرتے ہیں۔ ان کے شرک کا مقتضاء یہ نہ تھا کہ غیر اللہ کو خالق ثابت کیا جائے تا انکہ اللہ تعالیٰ نے اس

و جہر سے) اپنی پاکیزگی بیان فرمائی۔ پس غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک نہایت ہی لطیف نکتہ ہے ایک (تفسیر) یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ حج کی آیت میں بیان کردہ ایک مثال کے مشابہ ہے کہ فرمایا۔

أَنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ جَتَمِعُوا إِلَيْهِ وَافٌ  
يَسْتَلِيهُمْ هُمُ الْبَاعِثُ شُيُّلًا لَا يُسْتَنْقَدُ وَلَا مُنْكَهُ۔ ضغف الطالب والمطلوب ما  
قد رُوِيَ اللَّهُ حَقُّ قَدْرِ سَبَقَ، أَنَّ اللَّهَ لِقَوْمٍ عَذَّبَ.

یعنی ”بے شک وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے مساواتوہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک بھی بھی اور اگرچہ اس کے لئے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر بھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے والپس نہیں لے سکتے۔ مانگنے والا اور جس سے مانگا گیا دونوں کمزور ہیں۔ انہوں نے نہیں مدد کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے قدر کرنے کا، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے“ پھر فرمایا کہ:-

إِنَّ اللَّهَ يُصْطَفِي مِنَ الْمُلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ سَيِّعُ بِصَدِيقٍ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ تَرْجِعُ الْأَمْوَالَ.

یعنی ”اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور انسانوں سے رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ سُفْنَة والاد بیکھنے والا ہے، جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچے ہے جانتا ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف پڑھنے والے ہیں“ ایسی ایک مثال سورۃ قصص میں بھی ملتی ہے:-

وَرَبِّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنْ صَدُّ وَرُهُمُ وَمَا يَعْلَمُونَ -

یعنی ”اور تیرارب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں“ نیز ایک مثال سورۃ النعام میں ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حِيثُ يَجْعَلُ مِرْسَالَهُ

یعنی ”اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں نازل فرمائے“

تو ان تمام مقامات میں حق تعالیٰ نے صراحت سے فرمادیا کہ اسے جائے انتخاب کی تخصیص کا علم بھی ہے اور سبب تخصیص کا علم بھی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ فلاں فرد و سرے سے زیادہ مزدود ہے اور کسیوں مزدوں ہے؟ تو ان ذکورہ آیات پر جب آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہاں بھی مطلب واضح طور پر نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد ذکر فرمائی ہے۔

وَيُوْمَ يَنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَتْ لِلْمُرْسَلِينَ فَعَمِّيلَتْ عَلَيْهِمْ حَمْرًا لَا نَبَأْتُهُمْ مَنْ  
نَهَرَ لَا يَنْتَسِبُ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا مَنَ تَأَبَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَصَمَ الْمُكْوَنُونَ مِنْ  
الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

یعنی، ”اور حبیں دن وہ ان کو آواز دے گا۔ پس کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ پس ان پر خبیث کردی جائیں گی اس دن پر خبریں۔ پس وہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ پس جس نے توبہ کی اور ایمان لیا اور اچھے کام کئے تو یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہو گا۔ اور تیر رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے پس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تھا ان سب کو پیدا کیا تھا ان میں سے جو محظا کا یعنی جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کئے اُسے خدا نے چن لیا۔ اس طرح وہ (نیک افراد) اس کے بنڈوں میں سے منتخب اور اس کی علقوں میں سے چنیدہ تھے اور یہ اختیار (انتخاب) اللہ تعالیٰ کی سے حکمت اور علم کی دلیل ہے اور یہ (انتخاب) اسی کا ہے جو اس کا اہل ہو۔ نہ کہ ان مشرکین کا انتخاب اور اختیار۔ پس اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس سے بلند ہے، کہ جس کو یہ شریک تھا ہر تھے ہیں۔  
(سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون)

اختیار و تخصیص شان ربویت ہے | جب آپ صفتِ خالقیت پر غور کریں گے  
ہے خدا سے یہ گوئی ربویت وحدائیت، کمال حکمت، علم اور قدرت کاملہ پر، اور بلاشبہ وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معین و نہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ اپنی قوتِ خلق سے پیدا فرماتا ہے۔ اپنے اختیار سے انتخاب کرتا ہے اور اپنی قوت تدبیر سے چارہ سانی

کرتا ہے۔ پس اس اختیار و تدبیر، اور تخصیص کا اثر اس سارے عالم میں اس کی ربو بیت کے عظیم ترین آیات اور مکہ شواہد و حدایت اور صفات کمال اور صدق رسول میں مشہور اور نمایاں ہے، اس کی جلوہ گردی ہر جگہ دیکھی جاسکتی ہے۔

اب ہم تصور ہی سی وضاحت بھی اپنے مطلب اور مدعا کی کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت اس امر پر وال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کئے اور سب سے اوپرے (آسمان) کا انتخاب فرمایا تو اُسے اپنے مقرب ملائکہ عظام کا مستقر قرار دیا اور اسے اپنی کرسی اور عرش کا تقرب عطا فرمایا۔

اور اپنی پسند کے مطابق مخلوق کو وہاں بسایا تو اس (آسمان) کو دوسرا سے تمام آسمانوں پر ایک خاص شرف اور فضیلت حاصل ہے اور یہ نہ ہو تو بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کی مزیت و فضیلت تو حاصل ہی ہے، باوجود یہ کہ اس کا مادہ وہی ہے جو دوسرے آسمانوں کا ہے۔ لیکن اس (آسمان) کا شرف و تخصیص حق شانہ کی کمال حکمت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ بلاشبہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) انتخاب فرماتا ہے۔

اور اسی طرح جنت فردوس کو باقی تمام جنتوں پر فو قیت اور تخصیص عطا کی۔ اور (جنت الفردوس) کی چھت اپنے فرش سے بنائی۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ سجانہ، و تعالیٰ نے اس جنت میں اپنے دستِ مبارک سے (باغات) لگائے اور اپنی مخلوق میں سے چیدہ چیدہ لوگوں کو منتخب فرمایا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خاص ملائکہ جبرايل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کو باقی فرشتوں میں سے منتخب فرمایا، (یہاں تک) کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے۔

اللهم رب جبريل و ميكائيل و اسرافيل فاطر السموات والارض سالم  
الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني  
لما اختلف فيه من الحق ما ذكرت انت تهدى من تشاء الى صراط مستقيم

یعنی ”اے اللہ، اے رب جبرائیل، میرکائیل اور اسرافیل علیہم السلام زملیوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کے عالم توہی اپنے بندوں کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ ان کے اختلاف میں جو حق ہے اس کی مجھے اپنے افون سے ہدایت فرمائے گا۔“ اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

تو اُنحضرت نے ان تینوں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے قرب خصوصی انتخاب کے باعث ذکر کیا۔ آسمانوں پر اولاد بھی بہت سے فرشتے ہیں۔ لیکن ان تینوں کے سوا اور کسی کا نام نہیں لیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام صاحبِ وحی ہیں کہ جس سے قلوب و ارواح کی زندگی قائم ہے اور میرکائیل علیہ السلام اس قطر کے نگران ہیں کہ جس میں زمین، جاندار اور نباتات نہ پاتے اور زندہ رہتے ہیں اور اسرافیل جس کے پھر و سورہ پھونکنا ہے کہ جب وہ سورہ پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اور مرد سے قبروں سے نکل آئیں گے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام کو منتخب فرمایا، جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور پھر رسولوں کو چنان اور اختیار کیا کہ ان کی تعداد امام احمد اور ابن حبان نے اپنی کتاب میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے تین سو تیرہ بیان کی ہے:

ادران (انبیاء اور رسول) میں سے پانچ کو منتخب فرمایا، جن کا تذکرہ سورۃ الحزاب اور سورۃ الحجیل آتا ہے۔

وَإِذَا حَذَّ نَامِ الْتَّبِيَّنِ مِيثَاقَهُ وَمِنْكَ وَمِنْ فُوحٍ وَابْرَاهِيمَ وَمُوسَى  
وَعِيسَى بْنَ صَرِيحٍ۔

یعنی اور جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا اور تجوہ سے بھی اور فوح و ابراهیم و موسیٰ و علیسیٰ بن صریح (علیہم السلام) سے بھی۔

اور اسی طرح حق تعالیٰ نے فرمایا۔

شَرَعْ لَكُمْ مِنَ الدَّيْنِ مَا وُصِّلَ إِلَيْهِ نُوحًا وَاللَّذِي ۚ وَحِينَا أَلِيكُوهُ مَا  
وَصَلَّيْنَا بِهِ ۖ ابْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ ۖ أَقِيمُوا الَّذِينَ وَلَا تَفْرَّقُوا فِيهِـ

یعنی، مشرع کیا دین کو جس کی نوح کو وصیت کی اور جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس کی وصیت کی ہمنے ابوالاہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف کر دین قائم رکھیں اور اس میں متفرقی نہ ہوں۔

پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو افراد ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنایا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے اولاد اسما علی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان میں بنی خضریہ کے قبیلہ بنی کنافہ کو چتا، پھر کنافہ سے قریش اور قریش سے بنو ہاشم کو اور آخر بنو ہاشم میں سے سارے انسانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور اس طرح تمام جہانوں میں سے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتخاب کیا اور ان میں سابقوں الاقلوں یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو پھر اہل بدرا اور بیعت رضوان والوں کا انتخاب کیا اور ان کے لئے سب سے مکمل دین اور سب سے اعلیٰ شریعت اور سب سے پاکیزہ، طیب اور نقیص اخلاق کا انتخاب فرمایا اور آپ کے لئے تمام امتوں سے ہترامت کا انتخاب کیا۔ جیسے کہ مسنداً امام احمد وغیرہ میں ہے کہ بہترین حکیم بن معاویہ بن جندہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ستر امتوں کے برابر ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر اور اعلیٰ ہو۔ علی بن مدینہ اور امام احمد نے فرمایا کہ بہترین حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں یہ صحیح ہے اور انتخاب خداوندی کا اثر ان کے اعمال و اخلاق، توجیہ (حثیٰ کر)، ان کے مقامات جنت میں بھی ملتا ہے۔ کیونکہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں ایک بلند و بالا مقام پر فائز ہیں۔

اور ترمذی شریف میں بریدہ بن حصیب اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کی ایک سو بیس جماعتیں ہوں گی، ان میں سے انشی امتت محمدی کی اور چالیس دوسری تمام امتوں کی ہوں گی۔ امام ترمذیؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے ابوسعید خدیجیؓ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بعثۃ النار کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ:-

جس ذات بے ہمتا کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اس کی قسم میں چاہتا ہوں کہ تم جنت

کا حصہ اسی بن جاؤ اور مزید کچھ نہ فرمایا۔

اس قول نبوی سے مراد یا تو یہ ہے کہ یہ زیادہ صحیح بات ہے اور یا یہ مطلب ہو گا کہ اخیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو تھی کہ ان کی امت اہل جنت کا حصہ بن جائے، **اللہ لا إلہ إلّا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سو میں صفویں میں سے انشی صفویں آپ کی امت کی ہوں گی۔ پس اب دونوں روایات میں کسی طرح کا تناقض باقی نہ رہا۔**

**امت مسلمہ کی فضیلت کا سبب اور اس امت کی فضیلت و انتخاب کا سبب یہ ہے کہ اسے وہ علم اور حلم عطا کیا گیا جو دوسری امتوں کو نہیں ملا اور مسند بلا راوی گیر کتب حدیث میں ابوالدرداء اور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عیینی بن مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تیرے بعد ایک امت پیدا کروں گا کہ اگر اس امت کے لوگوں کو دل پسند چیز ملے گی تو مدد و شکر کروں گے اور اگر تکلیف نہ پہنچی، تو ایسے صبر و تحمل سے کام لیں گے کہ کوئی حلم اور علم نہیں پھر عیینی علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا کوئی حلم اور علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے علم اور حلم کا حصہ عطا کروں گا!**

# مکرم کے فضائل و خصوصیات

اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے اماکن اور بلاد کا انتخاب ہوا۔ خدا نے بندرگ و برتر نے مکرم کو سب سے اچھا اور برتر شہر قرار دیا کیونکہ یہی وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے منتخب فرمایا۔ اور اپنے بندوں کے لئے مناسک (حج) ادا کرنے کا مرکز قرار دیا اور دودو نزدیک علاقوں اور دشوار گزار خطوں سے یہاں آنا ہر بندہ مومن پر لازم فرمادیا، سواب و خشوی و خضوع اور انکسار کے ساتھ یوں حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے سر نگئے ہوتے ہیں، وہ اہل دنیا کے لباس فاخرہ سے محروم ہو کر آتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو "حرم" قرار دیا جائے امن بنایا، نہ یہاں خون رینی کی اجازت ہے اور نہ درخت کاٹا جاسکتا ہے اور نہ شکار کیا جاسکتا ہے، نہ یہاں کے سبزہ و گیاہ کو چھیڑا اور لکھڑا جا سکتا ہے اور نہ یہاں کی گردی پڑی اشیاء کی تمدیک ہو سکتی ہے۔ یہاں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کریں، جو لغزشیں، خطائیں اور فردوگ رکاوٹیں ہو چکی ہیں ان کی تلافی کریں۔ جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا جو اس گھر میں حاضر ہوا اور نہ فساد میں بستا ہوا، نہ فسق سے آلو دہ ہوا، تو اس کی مثال (معصومیت میں) اس بچہ کے مانند ہے جسے اس کی ماں نے ابھی بھی جنا ہوا، اور خدا نے بندرگ و برتر کی رحمت و شفقت کا یہ عالم ہے کہ وہ خود اس گھر کی زیارت کرنے والے کے لئے جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں چنانچہ سنن میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حج اور عمرہ کے فرائض ادا کرو

کیونکہ یہ دو لوگ افلام اور گناہوں کو اس طرح زائل کرتے ہیں کہ جیسے جھٹی نو ہے پرمیل کاٹ ویتی ہے۔ چنانچہ حج مبرور کا اجر جنت سے کم نہیں۔ صحابی (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمرہ اپنے پہلے عمرہ تک کی مدت دکے گھا ہوں) کا لفڑا ہے اور حج مبرور (مقبول) کی جزا صرف جنت ہے یہ ۲۷

پس اگر بلد ایں خدا نے بندگ و برتر کے نزدیک خیر بلا دنہ ہوتا اور تمام شہروں سے زیادہ کرم نہ ہوتا تو خدا اُس کی واڈیوں کو اپنے بندوں کے لئے جائے عبادت (محج) قرار نہ دیتا کہ جس کی طرف جانا بندوں کے لئے فرض متوکدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اُسی حرمت، اشرف اور احترام کے باعث ہے۔

خدا نے قرآن کریم میں دو جگہ اس (شہر) کی قسم کھاتی ہے، جیسا کہ فرمایا:-

وهي الميلادمين -

اور اس بلدا میں کی قسم۔

اور فرمایا، لا، اقسام می‌بیند اُبیک دی یعنی قسم ہے اس شہر کی۔

اوہ کرہ ارض پر اس جگہ کے سوا کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جس کی طرف بشرط استطاعت سفر کرنا اور جس گھر کا طواف کرنا فرض ہو۔ اور زمین پر مجرماً شود اور دکن یمانی کے سوا کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جسے چونتا یا مس کرنا جائز ہو۔ اور جس (کے لس یا چھمنے) سے گناہ دھلتے ہوں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مسجد حرام میں ایک دفعہ نماز پڑھنا ثواب میں (باقي عالم مساجد) میں ایک لاکھ مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ نسائی اور مندرجہ میں صحیح کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد (نبوی) میں ایک بار نماز پڑھ لینا، سوا مسجد حرام کے، تمام مساجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں پڑھی ہوئی ایک نماز میری اس مسجد (نبوی) سے سو گنا (اجر) والی ہے۔ اس حدیث کو ابن جان نے بھی روایت کیا ہے۔

اور یہ تو ایک واضح امر ہے کہ مسجد حرام کا خطہ کرہ ارض پر علی الاطلاق سب سے زیادہ محترم ہے۔ اسی لئے اس طرف شدِ حال (عزم سفر) فرش ہے اور بابتی کی طرف ستحے

واجب اور مسندر (امام احمد) ترمذی اورنسانی میں حضرت عبد اللہ بن عدی بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ وہ کہ کے قریب مقام جزو درہ میں تشریف فرماتھے اور فرمائے تھے کہ :

”اے نکتہ خدا کی قسم تو اللہ کی سرزین پر خیر ارض ہے اور اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ مقام ہے، اگرچہ یہاں سے نکلنے پر بیور نہ کردی گیا ہوتا تو میں ہرگز یہاں سے قدم باہر نہ نکالتا۔“ اس روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

خیر ارض اور قبلہ واحد [نکتہ مکروہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے تمام اہل زمین کا قبلہ قرار دیا۔ سطح ارض پر اس کے سوا کوئی قبلہ نہیں۔ نیز اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سارے گرد ارض پر یہ ایک ایسا قطعہ ارض ہے جس کی طرف قضاۓ حاجت کے وقت پہنچ کرنا یا منہ کرنا حرام ہے۔ اور اس مسئلہ میں صحیح توبہ مسلم کی طرف قضاۓ حاجت کے ہے خواہ وہ میدان ہو یا بیابان۔ اس کی تائید میں اس سے زیادہ دلائل میرے پاس ہیں، جن کا کسی دوسرے موقع پر میں نے ذکر کیا ہے اور ان دلائل کی مقاومت میں کوئی دوسری بات نہیں کہی جاسکتی، نہ میدان اور بیابان کی مقدار کی تعیین کے سلسلے میں کوئی اختلاف و تباہ ہے، لیکن دونوں نقطہ ہائے نظر کی تائید یا مخالفت میں بحث کرنے کا پر موقع نہیں۔

اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسجد حرام خدا کی اس سرزین پر بہلی مسجد ہے جیسا کہ صحیحین (بخاری مسلم) میں حضرت ابوذر حنفی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بہلی مسجد کے متعلق دریافت کیا جو کہہ ارض پر تعمیر کی گئی۔ اپنے جواب دیا کہ وہ ”مسجد حرام ہے۔“ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ ارشاد ہوا، ”وہ مسجد اقصیٰ ہے۔“ میں نے عرض کیا ”دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟“ فرمایا ”پا سیس سال“ بھن لوگ صحیح طور پر اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے وہ اشکال میں بتلا ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے کہ وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام تھے۔ جنہوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی اور ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار برس کی مدت حاصل ہے۔ لیکن تاہل کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ

معترض کا اعتراض نافہی پر مبنی ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف مسجدِ قصیٰ کی مرمت کرائی تھی تعمیر نہیں کی تھی ورنہ مسجدِ قصیٰ کی تعمیر درحقیقت پہلے پہل حضرت یعقوب بن اسحاق علیہما السلام کے ہاتھوں انجام پائی تھی اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بناء کعبہ ڈالنے کے بعد کا ہے اور یہ مدت چالیس سال کی ہے۔

اول مکہ مکرہ کی افضلیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے "أَمُّ الْقُرْآن" یعنی بستیوں کی ماں فرمایا۔ تو گویا باقی دوسرے تمام شہر اس کے تابع اور فروع ہوئے اور تمام بستیوں کی اصل مکہ مکرہ قرار پایا۔ پس لازم آیا کہ دوسری تمام بستیوں میں کوئی بھی اس کے شرف و احترام میں اس کی عدیل و تمثیل نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ أَمُّ الْقُرْآن (یعنی قرآن کی ماں) ہے۔ لہذا تمام صحف سماوی میں اس کے مساوی اور کوئی سورۃ نہ ہوئی۔

اول مکہ مکرہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس شہر میں ان لوگوں کے سوا جو ہاں کے مستقل باشندے ہیں، دوسرے لوگوں کو حرام باندھے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور یہ وہ مخصوص ہے کہ اس میں کوئی شہر اس کا ہم پایہ اور ہم مرتبہ نہیں اور یہ مسئلہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے لوگوں کو بتایا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع اور وایت ہے۔ جسے جو جست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کہ مکہ مکرہ میں کوئی بھی، عام اس سے کروہاں کا باشندہ ہو یا نہ ہو، بغیر حرام باندھے داخل نہیں ہو سکتا۔ ابو احمد بن عدیؓ نے اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں حاج بن ابرطۃ اور بعض دوسرے راوی ایسے ہیں جو ضعیف راویوں سے بھی روایت کر دیتے ہیں اور فقاہ کے اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں۔

ایک قول کی رو سے نفی ثابت ہے، دوسرے کے لحاظ سے اثبات ہوتا ہے اور تیسرا کے پیش نظر ان لوگوں کے مابین فرق کیا جائے گا، جو مواقیت (حدّ حرام) کے اندر داخل ہوں یا بھی حد میقات سے باہر ہوں۔ جو لوگ ابھی باہر ہیں وہ حرام کے بغیر میقات سے نہیں گزر سکتے اور جو داخل میقات ہیں ان کے بارے میں وہی حکم ہو گا۔ جو اہل مکہ کے بارے میں ہے یعنی دونوں مساوی الحیثیت ہیں۔ یہ آخری قول امام ابو حینیف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے

اور پہلے دونوں اقوال امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے ہیں۔

اور مکہ مکرہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں پر صرف ارادہ معصیت پر بھی خدا کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ اگرچہ عملی طور پر اس معصیت کا مداوا نہ ہوا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ الْخَادِ بِظَلْمٍ فَذَاقَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ

”یعنی اور جو شخص اس میں ظلم والخاد کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے المذاک عذاب پہنچائیں گے پس مقام خود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بار (والخاد) سے ارادہ معصیت کو قابلٰ عتاب قرار دیا۔ کیونکہ جب یعنی طور پر قصد فعل ہو تو اس دلت بکذار میں نے یہ ارادہ کیا، نہیں کہا کرتے بلکہ اس وقت ہمت بکذار میں نے اس کام کا عزم کر دیا کہا کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ معصیت پر وعید کی، کہ جو بہاں ظلم کرنے (حد سے تجوز کرنے) کا ارادہ کمرے گا اسے بھی حق بجانہ تعالیٰ کی طرف سے الہ الگیز سزا ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کتر میں مقادر پر سیاست کیفیت کے اعتبار سے نہ کہ کیتی کے استبار سے مرضاعف ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ براہی کا بدله براہی ہے اور اگر براہی بڑی ہوگی تو اس کی مزاجی اسی تناسب سے ہوگی اور اگر براہی گم ہوگی تو اس کے بعد میں جو سزا ملے گی وہ بھی ولیسی ہوگی۔ پس اللہ کے حرم اور اللہ کے شہر اور فرش الہی پر جو براہی کی جائے گی۔ وہ ان تمام براہیوں سے بڑی متصور ہوگی جس کا ارتکاب کرہ ارض کے کسی اور گوشہ میں کیا گیا ہو اور اس کی مثال یوں ہے کہ جس خطأ اور معصیت کا ارتکاب بادشاہ کے محل میں کی جائے وہ اس خطأ اور معصیت سے زیادہ سنگین متصور ہوتی ہے، جو محل شاہی سے دوسرے دراز کسی مقام پر کی گئی ہو۔ بہرحال تضییف سیاست کے بارے میں یہ نزاع ہے، اصل حقیقت کا علم صرف خدا ہی کو ہے کہ وہی پوشیدہ باتوں کو جانشے والا ہے۔

اور مکہ کی اس افضلیت اور خصوصیت کا لازم بات سے بھی آشکارا ہو جاتا ہے کہ دل خود بخود اس کی طرف کھنپتے ہیں، طبیعت بے ساختہ اس جانب راغب ہوتی ہے۔ یہ انجذاب، یہ کشش، یہ انعطاف، یہ رگاؤ، یہ محبت جو اس بلدمیں کے لئے پیدا ہوتی ہے جو مقناطیس کے آہن میں ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے:-

یعنی اس شہر کے حاصل ہر خوبی و رحمانی کا پیکر ہیں اور بلاشبہ یہ دشہر دلوں کے لئے مقناطیسی کشش رکھتا ہے۔

اوہ ہی وجہ ہے کہ حق شانہ نے اس شہر کے متعلق فرمایا ہے  
اُنکے مشابہہ لستاں۔

یعنی بے شک وہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے۔ یعنی، لوگ ہرگز وہ اور جپہ سے مسلسل اس کی زیارت کے لئے آیا کریں گے۔ اور سیرہ ہوں گے بلکہ جتنی مرتبہ زیارت کریں گے۔ اتنا ہی اشتیاق میں اضافہ ہو گا۔

لَا يَرْجِعُ الظَّرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْتَظِرُهَا  
حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَيْهَا الظَّرْفُ عَشْتَاتَا

یعنی آنکھ اسے دیکھ کر ابھی پلتی بھی نہیں کہ پھر شوق (زیارت) سے اسی طرف لوٹ آتی ہے۔ پس نہ جانے کتنے اللہ تعالیٰ کی خاطراس کے لئے شہید ہو گئے، کتنوں کی کھال کچھی اور کتنے گھائل ہوئے اور کتنوں نے اس کی محبت میں اپنی جان و مال قربان کر دیا اور کتنوں نے اپنے اہل و عیال، وطن اور جگہ گوشوں کی مغارقات رضاۓ محیوب کی خاطر ہی حالانکہ ان کے سامنے گوناگوں خوف، لایخ، تکالیف اور مصائب حاصل تھے، میکن زائر حرم ان اذیتوں میں لذت اور ان تکلیفوں میں راحت محسوس کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دل میں بھڑکنے والا جذبہ شوق ہر طرح کی بہتر سے نعمتوں، آسانشوں اور لذتوں سے برداشت کر رہے ہے۔

وَلَيْسَ مَحِبًا مَنْ يَعْدُ شَقَاعَةً

عَذَّابًا ذَاهِيًّا كَانَ يَرْضِي حَبِيبَه

یعنی اسے دعوائے محبت کب رہتا ہے، جو رضی (مصائب) کے مقابلہ میں دکھلوصیت خیال کرے۔

اور یہ سب درحقیقت سراہی ہے جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے، و طہر ربیقی۔ یعنی: اور میرے گھر کو صاف ستحا کر دو۔ تو گویا اس خاص اضافت کا سبب اس گھر کا اجلال و اکرام ہے اور وہ بھی محبت کا تقاضا ہی تو ہے کہ خدا نے بزرگ و برتر نے اپنے بندے اور رسول

کی اضافت، اپنی جانب فرمائی، اور اسی طرح صاحب ایمان بندوں کی طرف اضافت جتنا کر انہیں بھی وقار، محبت اور عزت سے نوازا اور جب کبھی خدا نے برتر کسی کی نسبت اپنے جانب کرے گا۔ تو یہ مزیدت اور اختصاص جو اسے حاصل ہو گا، یہ غیر اللہ کا اختصاص ہو گا کر اجتناب و اصطافا یعنی انتخاب و اختیار صرف اسی کو ہے، اور پھر اس اضافت سے اللہ تعالیٰ کی مردی سے تفصیل و تخصیص اور جہالت مزید حاصل ہو گی، جو اضافت و نسبت سے قبل کی تفصیل و تخصیص اور جہالت سے بالا ہو گی، اور یہ نکتہ اس کوتاه بیل کی فہم ماؤ رہے جو اعیان و افعال اور اذمان و امکن کو یکساں سمجھتا ہوا اور گمان کرتا ہو کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت و مزیدت حاصل نہیں اور یہ جو کچھ ہے ترجیح بلا منزع ہے، لیکن اس گمان فاسد کے خلاف چالیس سے زیادہ دلائل میرے پاس موجود ہیں جنہیں میں نے دوسری جگہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس جگہ اس فاسد نظریے کے ابطال کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اسے مان لیا جائے تو انہیاں علیہم السلام اور اعداء انہیاں (کفار و مشرکین) کی حیثیت ایک ہو جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہئی ہے کہ تفصیل صرف صفات و مزا یا کے باعث ہی اختصاص ذوات کی طرف راجح نہیں ہو جاتی جو دوسروں کو حاصل نہ ہوں۔ اور اسی طرح ایک خطہ ارض مغض بالذات دوسرے خطے پر فوقیت و مزیدت نہیں رکھتا بلکہ یہ فوقیت و مزیدت جو حاصل ہوتی ہے یہ مبنی ہوتی ہے ان اعمال صالحہ پر جو وہاں واقع ہوتے ہیں۔ پس اسی طرح کعبہ مکہ مہر، مسجد حرام، منی میدان عرفات اور مشاعر کو زمین کے دوسرے خطلوں پر بالذات فضیلت و مزیدت نہیں حاصل ہے۔ بلکہ ان کی افضیلیت کچھ خارجی اوصاف کے باعث ہے۔

اور اللہ سمجھا، و تعالیٰ نے اس قول کو آیت میں فرمایا ہے ۔ فا اذ اجا تھر کی آیت کے بعد:

لَنْ تُؤْمِنَ حَتّىٰ يُوقَنَ مِثْلَ مَا وُقِنَ سَرْسَلَ اللَّهِ  
يُنَبِّئُهُمْ هُرَبُّوْرِيَّا نَلَأِيْنَ گَے۔ جب تک کہ ہمیں اس کی مثل نہ دیا جائے  
جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ : اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ  
یعنی : اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں نازل فرمائے  
یعنی ہر فرد تحمل رسالت کی اہمیت و صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ اس اہمیت و صلاحیت  
کے لئے کچھ خصوصیتیں درکار ہیں کہ ان کے بغیر یہ بات سچ نہیں سکتی اور ان خصوصیتوں کا علم  
خدا کے سوا کسی کو نہیں ، وہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون ان خصوصیات کا جامع ہے ورنہ  
بہ نظر ظاہر سب آدمی براہمی ہیں ۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس خیال کا رد نہ فرماتا ۔  
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ :

وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا إِهْرَاءُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ هُنْ مُنْهَمُونَ  
پہیتنا! ایسے اللہ ہا عملہ پا! الشاکرین۔

یعنی: اور ایسے ہی ہم نے بعضوں کو بعضوں سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا بھی ہیں کہ جن پر  
اللہ نے احسان لیا ہے ہم میں سے کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا۔

یعنی اللہ سبحانہ اور تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کی نعمتوں پر شکر گزناہ  
ہوتے ہیں اور انہی پر اپنا فضل خاص کرتا ہے، وہ احسان ناشکروں پر نہیں (بلکہ) شکر گزناہوں  
پر کرتا ہے۔

اشخاص واماکن کی ایک دوسرے پر فضیلت احسانات اور شرف کا اہل نہیں ہوتا۔ پس ذوات کو از قبیل اعیان واماکن و اشخاص اللہ نے مختار اور منتخب فرمایا۔ وہ ایسے صفات اور امور سے متصف ہیں جو ان کے عہد میں کسی اور میں نہیں پائے جاتے چنانچہ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں انتخاب فرمایا۔

اور حق بمحاذہ نے ان کو اپنے اختیار (انتخاب) سے افضلیت و خصوصیت عطا فرمائی پس میرے اس کا خلق اور میرے اس کا اختیار۔

وسیلے میں خلق مایشاء و عینتاء

یعنی: اور تیراپر درگار جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور انتخاب فرماتا ہے۔

اور اس سے بڑھ کر ہل اور باطل بات کیا ہو سکتی ہے کہ مکان بیت الحرام تمام دیگر خطوں کے مشابہ ہے اور جو رسود کا لکھا کرہ ارضی کے دوسرے پھروں کی طرح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای مساوی ہے دوسرے انسانوں کے درحقیقت تفصیل کا معاملہ ان امور سے متعلق ہے جو خارج از ذات اور وابستہ صفات مخصوصہ ہیں۔ اور یہ افادیل و امثال متکلمین کی ان یا وہ گویوں میں سے ہیں جو انہوں نے شریعت پر روا رکھی ہیں اور اس کی جانب مسوب کر دی ہیں، حالانکہ وہ قطعاً ان ہفوتوں و ہمہلات سے بری ہے۔ اور ان (متکلمین) کے پاس بعض عام امور میں مساوات کے سوا کوئی دلیل نہیں اور (اس عمومی مساوات) سے حقیقی مساوات بہر حال حاصل نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ مختلفات کا اشتراک امور عام میں، اختلاف صفات کے باوجود نہ مستبعد ہے نہ ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مشک اور پیشاب میں مساوات نہیں قائم کی۔ اسی طرح نہ پانی اور آگ میں برابری رکھی۔ پس مقامات مقدسہ اور عام مقامات، بزرگ ہستیاں اور عام لوگ، یکسان اور مساوی نہیں، ان کے مابین تو مشک اور بول، آگ اور پانی سے بھی کہیں زیادہ واضح اور نمایاں فرق مرتب موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے کی شخصیتوں میں بھی اسی طرح کا فرق موجود ہے، یوں ہی کعبہ کا جو احترام ہے، وہ محل سلطنتی کے احترام و اجلال سے قطعاً جدا اور متفاوت ہے، پس دو ایسے خطے کس طرح شرف نفل میں یکسان ہو سکتے ہیں جب کہ ایک خطہ کی تفصیل ذکر و عبادت اور دعا کے لئے مخصوص ہونے کے باعث ہے۔ اور دوسرے کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ اس مردو دو مرذوں مشک کو زیادہ تفصیل سے روکرنے کا ہمارا ارادہ نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انصاف دوست، دانا، اور صیغ قوت فیصلہ رکھنے والے اصحاب کے سامنے معاملے کی اصل تصویر پیش کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد سے اس کے سوا کسی کی پروا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کسی کو تخصیص اور شرف عطا کرتا ہے تو اس کے

تخصص اور شرف کا کچھ اقتضا ہوتا ہے۔ بلاشبہ ترجیح و تفضیل کا عطا کرنے والا خدا ہی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، پھر اختیار کرتا ہے۔  
وَرَبُّكَ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ  
یعنی: ”اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار کر لیتا ہے۔

ایام و شہود کی ایک دوسرے پر فضیلت | اور ہمیں سے بعض دنوں اور ہمینوں ثابت ہو جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر دن یوم النحر (قربانی کا دن) ہے۔ یعنی حج اکبر کا دن احادیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ”یوم النحر“ ہے۔ پھر یوم النفر، ایک قول ہے۔ کہ عرفات کا دن اس سے افضل ہے اور اصحاب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ ان کا قول ہے کہ حج اکبر کا دن اور اس دن کا روزہ دو سال (کے گناہوں) کا کفارہ ہوتا ہے لیکن یوم عرفہ سے زیادہ خدا کسی دن صحیح گناہ گاروں کو بند جنم سے آزاد نہیں فرتاتا، یہی دن ہے جب حق سجحانہ، و تعالیٰ بندوں سے قریب آ جاتا ہے۔ پھر وقوف کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ کیونکہ حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے اور اس کی مقاومت کو ہی پیڑنہیں کر سکتی۔

اور صحیح یہ ہے کہ حج اکبر کا دن یوم النحر (قربانی کا دن) ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔  
وَإِذَا نَفَرَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا يَنْهَا

اوصح حیain (بخاری و مسلم) میں حضرت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ انہیں یوم النحر کو اذن ملائے کہ یوم عرفات کو اور سنن ابو داؤد میں بالکل صحیح استاد سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم حج اکبر ہی یوم النحر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ یوم عرفہ یوم النحر (قربانی) سے مقدم ہے۔ کیونکہ یہ دن (یوم عرفات) وقوف، عاجزی، توہہ اور گیرہ وزاری کا ہے۔ پھر یوم النحر کا دن ہے جو قربانی اور زیارت کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طواف کو طوائف زیارت (کعبہ) کہا جاتا ہے۔

کیونکہ لوگ یوم عرفات کو جب گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یوں یوم النحر کو انہیں بیت اللہ میں حاضر ہونے اور زیارت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لئے اس دن قربانی کرنا، سکرانڈر و انا اور رجح کے اعمال کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ لیکن یوم عرفات کے اعمال جیسے ”طہارت اور غسل“ یہ اس سے قبل ہوتے ہیں۔

اور ذی الحجر کے دس دن دوسرے آیام سے افضل ہیں۔ کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام دنوں سے زیادہ محترم ہیں اور صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں کے اندر کئے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی تمام دنوں میں کئے گئے تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔

صحابہؓ نے عرض کیا ”اور جہاد فی سبیل اللہ محبی نہیں یہ“

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جہاد بھی ان سے زیادہ (محبوب) نہیں، ہاں! اگر کوئی انسان اپنی جان و مال لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے علیہ اور یہ دس دن ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قسم کھائی ہے۔  
وَالْفَجْرُ وَلِيَالِ عِشْرَ

یعنی اُسی قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی؛ اور اسی لئے ان میں تکبیر و تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ)

اور حمد کی کثرت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ ان راتوں میں کثرت سے تکبیر و تہلیل اور حمد اہلی کیا کرو۔

اور باقی آیام کے ساتھ ان آیام کی نسبت ایسے ہی ہے کہ جیسے مقاماتِ حج کی نسبت خطر ہائے ارض سے ہے۔

اور اسی طرح ماہ رمضان کی افضیلت تمام دوسرے ہیںوں پر ہے اور آخری عشرہ کی افضیلت باقی راتوں پر اور لیلة القدر کی ایک ہزار ماہ پر ہے۔ قواب اگر یہ خیال ہو کہ کونسی دس راتیں زیادہ افضل ہیں۔ ذی الحج کی دس راتیں یا رمضان کی دس راتیں اور دو راتوں یعنی لیلة القدر اور علیج

کی رات میں سے کوئی افضل ہے۔ تو میں کہوں گا کہ پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو اس باب میں زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ رمضان کی آخری دس راتیں ذی الحجہ کی دس راتوں سے افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دس دن رمضان کے دس دنوں سے افضل ہیں اور اس قفضل سے تمام اشکال وضع ہو جاتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کی دس راتیں اس لئے افضل ہیں کہ لیلۃ القدر انہی میں ہوتی ہے۔ اور ذی الحجہ کے دس دن اس لئے افضل کیونکہ انہی ایام میں یہ رات (قریبی کا دن) یوم عرفات اور یوم ترویہ آتا ہے۔

### **شبِ معراج اور شبِ قدر کے مقابلن تفاضل کا مسئلہ**

علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ معراج کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے تو دونوں میں سے کوئی راستی پر ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جواب دیا، جو یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، لہذا لیلۃ القدر کی نسبت افضل ہے کہ اس رات کو (ہر سال)، قیام کرنا اور دعائیں لیلۃ القدر سے زیادہ ثواب ہے تو یہ بات غلط ہے۔ کسی مسلمان نے ایسا فتویٰ نہیں دیا اور یہ واضح طور پر فاسد خیال ہے، اس کی اسلام میں کوئی کنجائش نہیں اور یہ عبادت و دعا اس وقت ہو سکتی ہے جیکہ وہ میلين طور پر معلوم بھی ہو لیکن شبِ معراج کے بارے میں اس کے مہینے عشر اور میلن پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ اقوال مختلف میں اس کے علاوہ شرعی طور پر شبِ معراج کی عبادت مسلمانوں کے لئے خاص نہیں کی گئی ہے، اس کے عکس لیلۃ القدر کا معاملہ دعا ملے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت میں برگرم رہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے اور صحیلین میں ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رات ایک ہزار ماہ سے افضل ہے، کیونکہ اسی میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ اور اگر اس کی مراد اس مخصوص رات سے ہو کہ جس رات آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

معراج ہوئی اور وہ (علوم و خزانے) حاصل ہوئے جو اور راتوں میں نہ لے۔ بغیر اس بات کے کراس رات کو قیام لا عبادت کے لئے مخصوص کیا جائے تو اس رات کی بزرگی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔

اور یہ بات صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مخصوص جگہ یا کسی مخصوص وقت میں کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس جگہ یا وقت کو جمیع امکانے یا ازمنہ سے زیادہ احترام حاصل ہوگیا، یہ بات تو اس وقت صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے۔ جب یہ ثابت کرو دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات کو جو انعام ہوا وہ بیلتہ القدر کی تباہ کو قرآن پاک کے نازل فرمائے کے انعام سے اور ان دوسری نعمتوں سے جو آپ کو عطا فرمائی گئیں زیادہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان معاملات پر اس وقت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جب نعمتوں کی مقدار (کا یقینی) اور اشیاء کی احتمالیتوں کا صحیح علم ہو۔ اور یہ علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور علم کے بغیر ان مباحثت میں حصہ لینا کسی کے لئے صحیح روانہ نہیں۔

متقدمین میں سے کسی کے متعلق منقول نہیں کہ اس نے معراج کی رات کو باقی راتوں خصوصاً بیلتہ القدر پر افضل قرار دیا ہو اور نہ صحابہ کرام اور تابعین عظام معراج کی رات کسی افراد عبادت (وغیرہ) کے ساتھ ساتھ مخصوص کرتے تھے۔ بلکہ وہ تو (اس انداز سے) اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بات صحیح معلوم نہیں کہ وہ رات (متین طور پر) کونسی تھی؟ اگرچہ معراج کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مہار کر کے میں ایک عظیم اشان حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شرعاً اس رات یا اس جگہ (جہاں سے معراج ہوئی تھی) کوئی عبادت ضروری قرار نہیں دی گئی، بلکہ غار حراء جس میں ابتداء وحی نازل ہوئی اور بعثت سے پہلے جہاں آپ تشریف دے جایا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد مکہ میں رہتے ہوئے صحیح آپ نے یا کسی صحابی نے اس (غار) میں عبادت مخصوصہ کا قصد نہیں کیا اور نہ نزول وحی کے دن نزول وحی کے باعث آپ نے یا صحابہ کرام نے کسی عبادت کی تخصیص کی اور نہ جس جگہ اور جس وقت وحی کی ابتداء ہوئی، کوئی عبادت مخصوص کی گئی۔

اور جن لوگوں نے مقامات اور اوقات مخصوصہ کو ایسے واقعات کی بناء پر عبادات کئے

خصوص کیا ہے وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے حالات (پڑھ) کر مواسم عباداً مقرر کرتے۔ جیسے یوم میلاد اور یوم تعمید وغیرہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک خخصوص جگہ جا کر (تیر کا) نماز پڑھتے ہیں انہوں نے معلوم کیا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے فرمایا،

کیا تم چاہتے ہو کہ اب نیا علیهم السلام کے آثار کو عبادت گاہیں بنالو؟ تم سے پہلے کے لوگ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اگر تم یہاں ہو اور نماز کا وقت آجاتا ہے تو بے شک نماز پڑھ لو ورنہ اپنی راہ پلتے رہو۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے اور لیلۃ القدر امت کے حق میں معراج کی رات سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا امت کے حق میں ہونے کے سبب اس کے لئے بہتر ہے۔ اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہونے کے باعث ان کے لئے زیادہ افضل ہے۔

**یوم جمعہ اور یوم عرفہ میں تفاضل کا سوال** [دن افضل ہے؟] تو ابن حبان نے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جمعہ کے دن سے زیادہ افضل دن پر طلوع نہیں ہوا اور ایسی ہی تسمیم بن اوس کے روایت بھی ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ بعض علمائے کرام اس حدیث کی دلیل سے جمعہ کے دن کو عرفہ کے دن پر افضلیت دیتے ہیں اور قاضی ابو علی نے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کی رات قدر کی رات سے افضل ہے اور صحیح یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں سے افضل ہے اور عرفہ و نحر (قریبی) کا دن تمام سال کے دنوں سے افضل ہے اور اسی طرح قدر کی رات اند جمعہ کی رات کا حکم ہے اور اسی وجہ سے یوم جمعہ کو عرفات میں وقوف کرنا تمام دنوں سے کئی طرح افضل ہے ایک تو یہ کہ دو ایسے دن جو تمام ایام میں افضل ہیں۔ جمع ہو گئے، دوسرے یہ وہ دن ہے کہ اس دن

تبولیتِ دعا کی ایک خاص یقینی گھڑی ہے اور اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد کی ہے اور وقوف کرنے والے جب وہاں دعا اور عاجزی کرتے ہوئے گھڑے ہوں تو وہ ساعت بھی مسجاب ہے۔ نیز یہ کہ اسی دن آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تو اس سے بھی موافقت ہو گئی۔ علاوہ ازیں اسی دن اطراطِ ارضی سے مخلوقات خطبہ اور جمع کے لئے جمع ہوتی ہے اور یوم عرفہ کو اہل عرفات کا یہ اجتماع عرفہ کے مطابق ہوتا ہے تو مساجد میں مسلمانوں کے اجتماع اور عاجزی میں توقف سے وہ مقام حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مواقع پر حاصل نہیں ہوتے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اہل عرفہ کو یوم جمعہ کی عید اور عرفہ کی عید بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے عرفات والوں کو روزہ رکھنا مکروہ ہے اور نسائی بیوی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرفات کو روزہ سے منع فرمایا۔ اس کی سند میں شبہ ہے، کیونکہ مہدی بن حرب جزوی غیر معروف ہے اور اس روایت کا مداراس پر ہے۔ لیکن ام فضل کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے یوم عرفات کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک کیا بعض نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے۔ پھر ایک دو دھکا پیالہ پیش کیا گیا۔ آں حضرت میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر تشریف فرماتھے تو آپ نے نوش فرمایا۔

اور میدان عرفات میں یوم عرفہ کو افطار کے استھاب کی حکمت میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ ”تاکہ دمایں (بدنی) قوت حاصل ہو سکے“ یہ حریق و غیرہ کا قول ہے۔ ان کے علاوہ اور حضرات سے بھی منقول ہے۔ جن میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ عرفہ کا دن اہل عرفہ کے لیے عید ہے۔ اس لئے انہیں روزہ رکھنا مناسب نہیں اور فرمایا اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو سنن میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا۔

اے اہل اسلام یوم عرفات یوم قربانی اور دیام منی ہمارے لئے عید ہیں۔

ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) کا قول ہے کہ یوم عرفات اہل عرفات کے حق میں ان کے اجتماع

کے باعث عید ہے۔ بخلاف باقی لوگوں کے کروہ یوم الخرکو جمع ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی وہی عید ہوتی ہے اور مقصود یہ ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعر کے دن ہو تو دو عیدوں کا تھی ہو گئیں۔ نیز یہ کہ اس دن کا تواافق اس دن سے ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لئے دین حق کمل کیا اور نعمت کی تکمیل فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری میں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔

”اے امیر المؤمنین آپ اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اگر بخاری قوم یہود پر یہ آیت اترنی اور میں اس میں اس دن کو جانتا بھی ہوتا جس دن نازل ہوئی تھی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے“

آپ نے پوچھا ”کونسی آیت؟“

اس نے عرض کیا کہ یہ آیت جس میں فرمایا : الیوم امکت نکم دینکم و اتممت عذیکم نعمتی و رضیت نکم لا و سلام دینا۔

یعنی، آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لئے اسلام کے دین پر ہمی راضی ہووا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس دن کو جانتا ہوں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور جس جگہ یہ نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی اور ہم عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔

علاوہ بہت یہ کہ یہ دن قیامت کے دن کے جم غفیر اور اجتماع عظیم سے مطابقت رکھتا ہے کیونکہ قیامت جمعر کے دن قائم ہوگی، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

سب سے بہتر دن کہ جس پر سورج طلوع ہوا جمعر کا دن ہے، اسی دن آدمؑ کو پیدا کیا گیا اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت آئے گی اور اسی دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت کوئی بندہ اگر کوئی چیز مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہی چیز عطا فرماتا ہے۔

اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے ایک یوم اجتماع قرار دیا کہ جس میں ہاکٹھے

ہوتے ہیں۔ اور اس دن آغاز و انعام جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنم کا دن اسی امت کے لئے یوم اجتماع قرار دیا۔ کیونکہ یہ دن مبداء اور معاد کا دن ہے اور اسی وجہ سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کی غازی میں ”سورہ سجدۃ“ اور ”ہصل اتی علی الانسان“ پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ دونوں سورتیں اس دن کے جب ادم علیہ السلام پیدا کئے گئے تھے تمام کان و ما یکون پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں مبداء و معاد، و خول جنت و نار کا ذکر ہے تو گویا اس دن امت مسلمہ اس کان و ما یکون کا ذکر کرتی ہے۔ تو اس طرح انسان دنیا کے سب سے بڑے موقوف اور دنیا کے سب سے بڑے موقف کی یاد تازہ کرتا ہے اور یہ عرفہ کا دن ہے کہ ایک عظیم اجتماع پروردگار کریم کے سامنے اس دن اس طرح کھڑا ہو گا جب تک کہ اہل جنت پہنچ منازل میں نہ چھپ جائیں اور اہل جہنم اپنے منازل میں!

ایک بات تو یہ ہے کہ جمعر کے دن اور جمعہ کی رات کو مسلمان باقی ایام کی نسبت کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اکثر فاسق لوگ بھی جمعر کے دن اور جمعرات کا احترام کرتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عقوبات کا جلدی سزاوار ہو جاتا ہے، اُسے مہلت بھی نہیں ملتی اور یہ عقیدہ ان کے ہاتھ رائج ہے اور جبریات سے انہوں نے سمجھا ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ (یہ دن) اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا عظمت اور محترم ہے۔ اور اللہ نے باقی ایام میں سے اسے اختیار فرمایا ہے۔ یقیناً اس کا تطابق بغیر جمعہ پر باعثت شرف ہے۔

ایک سبب یہ بھی ہے کہ جمعر کا دن جنت کے یوم زیارت سے مشابہت رکھتا ہے اور یہ وہ دن ہے کہ اہل جنت ایک واوی و سیع میں اکٹھے ہوں گے اور ہوتیوں، سونے، نوادر جدید یا قوت اور مشک کے میلوں پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور وہ ان کو اپنی تمیلی سے نوازدے گا۔ یہ لوگ اس دن خدا کو آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اعمال حسنہ کا اجر فوراً پالیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی طرف جانے میں سب سے زیادہ تیز رو ہوں گے اور جو امام کے زیادہ قریب ہو گا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو گا۔ اس لئے اہل جنت یوم زیارت کے مشتاق ہوں گے اور وہ یہی دن ہو گا جب وہ کرامت و بنزگی حاصل کریں گے اور یہ جمعر

کا دن ہو گا اور اگر اس دن (جمعر) کا توا فت یوم عرفہ سے ہو جائے تو پھر اسے جو فضل امنیت اور اختصاص حاصل ہو گا وہ سب سے بالا ہو گا۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رات کو وقوف کرنے والوں کے قریب ہو جاتا ہے پھر اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے،  
”میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا“  
اور اللہ تعالیٰ کے قریب کے باعث اٹھیں وہ ساعت بھی نصیب ہو جاتی ہے  
کہ جس میں سائل کا کوئی معقول سوال رد نہیں ہوتا۔ پس وہ دعا کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ کا قرب  
حاصل کرتے ہیں اور اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا قرب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو قبولت و حاکا قرب اور دوسرا اہلی  
عرفات اور ملاکم کے سامنے خدا کے اٹھار فخر کا قرب۔ پس اہل ایمان ان امور سعادت  
کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے رب کے لفضل و کرم سے ان کی قوت ایمان میں اضافہ ہوتی ہے  
اور وہ از حد فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں اور امید و ارجمند ہو کر خوشی مناتے ہیں۔  
ان اسباب کے باعث جمعہ کا وقوف (عرفات) باقی ایام پر فضیلت رکھتا ہے۔

لیکن یہ جوز بان زرع عوام ہے کہ یہ (جمعہ کا وقوف عرفات) بہتر جوں کے بلا برہے  
با کل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے کسی  
سے بھی ثابت نہیں۔ واللہ اعلم۔

# خدا کے نزدیک

## ہر طبیب چیز پسندیدہ اور مرغوب ہے

مقصد گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلوق کی ہر بخش میں سب سے پاکیزو جیز کا انتخاب فرمایا ہے اور اپنے لئے اُسے مخصوص فرمایا اور اختیار کر لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہذا پاکیزو جیز ہی کو پسند فرمائے گے اس طرح پاکیزو قسم کا قول و فعل اور صدقہ قبول کرتا ہے تو یوں سمجھتے کہ "ہر طبیب"، اللہ تعالیٰ ہی کا انتخاب کر دے ہے۔ باقی رہا پسند افراضا، تو یہ صفت دلوں کے لئے عام ہے۔ اور یہیں سے بندے کی سعادت اور شفا و کافری معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ طبیب کی مناسبت طبیب ہی سے ہو سکتی ہے۔ پس طبیب، طبیب کے سوا کسی اور چیز کو پسند نہیں کر سکتا، نہ اُس کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ گوارہ کر سکتا ہے نہ اُس کی ہر ماںی ہو سکتا ہے، نہ کسی اور چیز سے اُسے سکون مل سکتا ہے، نہ اُس کا میلان قلب کسی اور طرف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتا ہے اس کا بھی طبیب اور پاکیزو ہونا ضروری ہے وہ فخش مقابل اور نقش سان، نیز بھوٹ، غیبیت، بچل خودی، بہتان طرازی، خلط گونی بنکہ ہر بے ہو وہ کلام سے سخت متنفس ہوتا ہے۔ اور یہی حال اعمال کا ہے۔ وہ اچھے اعمال سے مانوس ہوتا ہے اور یہ اعمال صالحة صرف وہ ہیں کہ جس پر منتشر ح اور سلیم طباع مطمئن ہیں اور جن کے تقدس کی رگوائی، صحیح اذہان نے دی ہے۔ تو اس طرح ان اعمال کے درست ہونے پر شریعت عقل اور فطرت سب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ مثلاً ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے ہر اس کا شریک کسی کو نہ مانا جائے۔ لپنی خواہشات کو اسی کے تابع کرایا جائے اور پوری جدوجہد کے ساتھ اس کی محبت حاصل کی جائے اس کی مخلوقات سے بقدر استطاعت احسان کیا جائے اور دوسروں سے وہی سلوک کرے، جس سلوک کا اپنے لئے ان سے متوقع ہو، ان سے وہی معاملت روا کئے جوان سے اپنے

لئے چاہتا ہو۔ دعوت بھی اس انداز سے دے اور تبلیغ بھی ایسے ہی اسلوب سے کرے جو پسند لئے محبوب رکھتا ہو۔ دوسروں کے ہارے میں بھی ایسا ہی فیصلہ کرے، جیسا اپنے یہے چاہتا ہو۔ دوسروں کی بہنچائی ہوئی اذیتیں گوارا کرے، لیکن خود کسی کو اپنامانہ بہنچائے، ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور ان سے بدل لینے کی تحریر کرے، اگر ان کی نیکی معلوم ہو تو تحسین کرے، لیکن براہی پر پردہ ڈالے اور ان کی معدودتیں نبیول کرے جب تک کہ شرعاً ہیئت اور اللہ تعالیٰ کے امر و نہیٰ کی مخالفت نہ ہوئی ہو۔

اسی طرح اخلاق بھی انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ ہونا چاہیئے۔ مثلاً بہرہ باری، وقار، سکون، خاطر، جذبہ، رحمت، صبر، فاشماری، اعتدال، نرم مزاجی، صداقت، فراغ دلی، تیز بغض و حسد، غریب و دروغ سے اجتناب، نیڑا نکساراً میں ایمان کے ساتھ تو واضح، ان کی عزت (کا جنسہ) اللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں سخت غیر اللہ کے سامنے عجز و فرتوں کے ظہار سے احتراز، پاکدا منع، شجاعت، سخاوت، مروت، اور شرعیت و فطرت اور عقل سے بیوری پوری ہم آہنگی۔

اسی طرح پاکیزہ، خور دلوں کا اہتمام و انصلام جو حلال اور خوش گوار ہوا وہ جسم و روح کا ہتھ تغذیہ کرے (اور حس سے)، جذبہ بہمگی بھی سلامت رہے۔

اسی طرح نکاح میں بھی پاکیزگی محفوظ رہے، ما جمل بھی بہتر اور طیب ہو بیار ہے۔ احباب اور ہمتشہنوں کا انتخاب اسی اصول پر ہو۔

اسی طرح، جسم، اخلاق و مل اور بات چیزیں لباس اور خور دلوں کا گھر بار، اٹھنا یا بیٹھنا، سب طیب اور پاکیزہ ہونا چاہیئے، ایسے ہی لوگوں کی مشاہیتی ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موت کے وقت ملائکہ آتے ہیں تو کہتے ہیں۔

سَلَّةٌ عَلَيْكُمْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

یعنی، تم پر سلامتی ہو، جو اعمال صالحہم کرتے رہے ان کی برکت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور (قیامت کے دن)، جنت کے فرشتے کہیں گے،

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَيِّبُ تُورٌ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

یعنی، تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، اس اب تم جنت میں آیتیں گی کی زندگی بسر کرو۔

آیت مذکورہ کی فاء (فاء خلوہا) سبب کا صنی رکھنی ہے۔ یعنی تم پاکیزہ خاطر ہونے کی وجہ سے داخل ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

الْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْشُونَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالْطَّيْبَاتُ لِلْطَّيْبِيْنَ وَالْطَّيْشُونَ لِلْطَّيْبَاتِ  
یعنی: خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے پلید مرد پلید عورتوں کے لئے اور پاک  
مردوں کے لئے پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا ہے، خبیثوں کی باتیں بھی خبیث اور پاکیزہ لوگوں  
کی باتیں بھی پاک ہوتی ہیں اور یہ بھی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ پاک بیباں پاک مردوں  
کی خاطر اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے ہوتی ہیں۔ اس آیت کا مطلب عمومی  
چیختیست رکھتا ہے، یعنی پاکیزہ لوگوں کا کلام اور اعمال اور بیباں سب پاکیزہ اور خبیث  
لوگوں کا کلام اعمال اور عورتیں سب خبیث ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تما پاک  
سمیرت لوگوں کو جنت میں جمع فرمادیا اور تمام بد کردار لوگوں کو دوزخ میں اکٹھا کر دیا۔  
تو اللہ تعالیٰ نے تین "دار" قرار دیے۔ پاک لوگوں کی خاطر علیحدہ کہ جو ناپاک لوگوں  
پر حرام ہے اور اس میں ہر طیب چیز فراہم کر دی اس کا نام جنت ہے۔ اور خبیث  
لوگوں کے لیے علیحدہ گھر بنایا۔ اس میں صرف ناپاک لوگ اسی داخل ہوں گے اور یہ  
دوزخ ہے۔ تیسرا گھر دنیا ہے جس میں پاک و ناپاک مخلوط ہے۔ اسی امتحان و اختلاط  
کے باعث یہاں مصالح و آلام آتے ہیں اور یہ سب حکمت نہاد فردی کا نتیجہ ہے تو  
جب قیامت ہے پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا جتنا نجہ  
پاک لوگوں اور ان کے اہل و عیال کو علیحدہ گھر عطا ہو گا۔ جہاں دوسرا نہیں جائے گا اور  
ناپاک لوگوں کو علیحدہ ہمگہ ملے گی جہاں ان کے سوا دوسرا نہ ہو گا اب اس وقت دو ہی  
گھر باقی رہ جائیں گے ایک جنت جو پاک لوگوں کے رہنے کی بھگ اور دوسرے دوزخ  
جو خبیث لوگوں کے رہنے کی بھگ ہے اور اللہ دونوں جماعتوں سے اعمال کے مقابلے  
ثواب و عقاب کا معاملہ کرے گا ان کے پاس ہی افعال و اقوال اور اخلاق کو انعامات و  
لذات میں پدل دے گا اور فرحت و سرور کے محل اسیاں مرحمت کرے گا۔ زین

ناپاک لوگوں کے لپٹے افعال و اقوال اور اخلاق، اکلام و مصائب میں بدل دیں گے۔ اس طرح حق تعالیٰ ان کی سزا و عناب کے کامل اسباب پیدا کر دے گا (اس کی) حکمت عظیم ہے اور اس کی عظمت بلند و بالا ہے، تاکہ اس کے بندے اس کی کمال رحمت و حکمت اور کمال علم و عدل و رحمت کا نظارہ کر سکیں اور حق تعالیٰ شانہ کے شمن کو بھی یقین جو جائے کرو و خود ہی بہتان طراز اور جھوٹے تھے، نہ کہ انہیاً سے صادقین علیہم السلام اللہ تعالیٰ گویا  
وَا قَسْمُوا بِأَنَّهُ جَهَنَّمُ أَيْمَانُهُمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمْوَتْ بِلِلَّهِ عَنْ أَعْلَمِهِ حَقًا  
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَيَبْيَثُنَّ لِهِمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمُ الَّذِينَ  
كُفَّارٌ لَا تَهْرُكُ كَافِرُوْنَ أَكَادِيَّوْنَ۔

یعنی؛ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ سخت قسم کھافی کر لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مر جاتے ہیں بھر سے نہیں اسٹھائے گا۔ یوں انہوں نے اپنے آپ پر وعید کی ہے ملکیں اکثر لوگ نہیں ہماستے کہ وہ چیز بیان کرے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور جان لے کر جو لوگ کافر ہوئے وہ بے شک جھوٹے نہیں۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سعادت و شقاوت کو نشان فرق قرار دیا، لہذا پاک طینت اور سعید روح پاکیزگی، ہی کے مناسب ہے اور پاکیزہ ہی اعمال کرنی ہے لہذا ان کے اقوال و افعال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ناپاک طینت اور شقی روح میں خباشت ہی کا ارتکاب کرتی ہیں، انہیں خباشت ہی سے انس ہوتا ہے اور ان سے جبیٹ قسم کے اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اس طرح ناپاک خصلت کی زبان و حوارج منبع حسنات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایک انسان میں دونوں قسم کی عاذیں ہوتی ہیں۔ پھر جب اور جس کا غلبہ ہو تو اُسی قبیل سے ہن گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھلانی کا ارادہ کرے تو سوت سے پہلے ہی اُسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن اُسے پاک ہی اٹھاتا ہے اور اُسے پاک کرنے کی خاطر دوزخ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی (دنیا میں کبھی تو صحیح توبہ اور نیکیوں کی توفیق دے کر بندے کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے اور کبھی مصائب میں بنتلا کر کے اس کی دب

امانیوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح پیش ہونا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے تطہیر مذکورہ (کی توفیق) روک لی جاتی ہے۔ پس وہ قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کو لئے ہوتے ہیں اس طرح پیش ہونے ہیں اور پھر نکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ کوئی آدمی اُس کے جواب (رحمت) میں رکنا ہوں گی) نہاست لے کر نہ آئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ اس بھروسے آدمی کو دوزخ میں ڈالتا ہے تاکہ اسے طہارت، صفائی اور تنزیر حاصل ہو جائے اور جب اس کا زیمان کھوٹ سے صاف ہو جائے گا تو پھر بے شک اُس کے جواب رحمت اور اس کے بندوں کے مقام طیبہ میں ملکہ نے کے قابل ہو جائے گا۔

اور اس قسم کے لوگوں کا دقوفِ جہنم ان کی نافرمانیوں کی کثرت و قلت پر مخصوص ہو گا۔ اس طرح کہ جس کے گناہ جلدی دصل جائیں گے وہ جلدی دوزخ سے نکل آئے گا اور دیر سے پاک ہونے والا دیر سے نکل سکے گا بے شک انہیں پوری جزا ملے گی اور تیراپروردگار اپنے بندوں پر فلمنہیں کرتا رجیز اور فاقات اور بیکاف بظاہر للعبید، اور جب حالت یہ ہو کہ مشرک جیسے بحس میں کوہاں پاک نہ کر سکی بلکہ اس کو نکال رکر دیکھا گیا تو ناپاک کا ناپاک رہا۔ جیسے ایک کہتا ہے کہ اگرچہ وہ سمندر میں بھی نہما کر باہر آئے (تو بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے) پس ہبھی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے اور سے پاکیزہ صفتِ مومن نجاستوں سے مزدہ ہو گا تو اگ اُس پر حرام ہو گی، کیونکہ اس میں کوئی خرافی نہیں کر جسے ذات کرنے کے لئے اگ کی ضرورت ہو۔ پس اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس کی حکمتیں عقل و دانش سے بالاتر ہیں۔ بندوں کی نظر سیمہ اور عقل نے بھی گواہی دے دی کہ وہ ہی الحکم الحاکم ہے، سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی مجبور نہیں۔

# بُشْرَتِ رَلِ کی ضرورت

اس بحث سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان پر نازل شدہ وحی کی تصدیق کا کس قدر محتاج ہے اور آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات اور اطاعت کا ضروری طور پر کس درجہ پر ہے، کیونکہ دنیا و آخرت میں سعادت و کامرانی صرف انہیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دستِ حق پرست میں ہے ہمارا ہے اور اُن کے بغیر ہاک و ناپاک کی مفصل معلومات محال ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحماء بھائی ہمیں حضرات کے مبارک ہاتھوں سے ملتی ہے۔

اس طرح اعمال صالحہ اقوال حسنہ اور اخلاق عالیہ اہمیں کا تحفہ باسعادت اور وحی ہے۔ ان کی حیثیت ایک کسوٹی گی ہے کہ ان کے اقوال و افعال اور افعال پر تمام اقوال و افعال اور اخلاق پر کھے جاتے ہیں اور ان ہی کے اتباع سے ہدایت یافتہ اور گراہ لوگوں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ تو ان حضرات کی احتیاج حقیقت میں جسم کے لئے روح آنکھ کے لئے نور اور روح کے لئے جان سے بھی شدید تر ہے۔ احتیاج چہا ہے کتنی لازمی بلکہ فرض بھی ہو یکن تمام انسانوں کو انہیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی احتیاج و ضرورت سب سے زیادہ ہے ذرا انہا زہ تو کرو کہ اگر تمہیں شریعت اور وحی کا پیغام صرف ایک لمحہ بھر کے لئے نہ ہے مجھے تو تمہارا قلب (روح دینی) فوراً بگڑ جائے گا اور تم ایسے ہو گے جیسے مجھی کو پانی سے مکال کر گرم تو ہے پر ڈال دیا جائے تو ایک مومن بندے کی حالت دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے نقطاء پر ایسی بلکہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بن جاتی ہے اور صرف قلب بیدله

کو، ہی اس کا احساس ہوتا ہے اور مردہ دل کے لئے تو اساس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب دونوں جہاں کے اندر بندے کی سعادت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہی سے وابستہ ہے تو ہر وہ اکمی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور سعادت و سعادت کا ملتمنی ہو۔ اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کے تحفہ مبارکہ (و مج) سیرت اور پیشان رسالت کا گھرا مطالعہ کر کے یہی چیز اُسے جہالت سے نکال کر آپ کے اتباع، شیعہ اور جماعت میں داخل کر دے گی۔

اوہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی محروم ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو مسٹری پر اکتفا کر رہے ہیں اور بعض خوب خوب سعادت سے بھرہ در ہیں۔ اور فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے جسے بھاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صاحبِ فضل عظیم ہے۔

**ڈشواری راہ** | یہاہتا ہوا اس کے لئے تو یہ مباحثہ بہت کم ہیں۔ علمی کم مائیگی اور پیشان حالی کے باوجود چند الفاظ لکھے ہیں، جن سے نہ تو ابواب علم کھل سکتے ہیں اور نہ طالبان (علم و فن) کا اس طرف میلان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ (یہ سب کام) حضرت کی بجائے سفر میں کرنا پڑتا ہے، تکلب سبوگوار حلالات پر پیشان، علمی مواد اور کتابیں مفقود۔ غرض کوئی ایسا معقول دریغہ نہیں جس سے معلومات میں اضافہ ہو سکتا۔ اس طرح وہ علم جو مفید اور سعادت مندی کی صفائحہ بھی ہوں، ملت اور ناسید ہو سکے ہیں۔ اہل (علم) پر وحشت چھاہکی ہے اور جہلام کے خلیل کے باعث علماء کی زبانیں گنگ ہو جکی ہیں۔ بد دیانت اور بد عقیقی عناصر کی کثرت کے باعث علم کا شیرازہ در حرم بر صم ہو چکا ہے۔ اس لئے صبر کے سوا کوئی پھارہ کا نہیں اور بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں۔

# آل حضرت ﷺ کا نسب

## خاندان ، والدین اور دیگر مباحث

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کردار میں بھروسے سے بہتر خاندان تھا۔ ان کے خاندانی شرف کی گواہی دشمن تک دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ ابوسفیان نے شاپر قوم کے دربار میں اس حقیقت کی گواہی دی کہ ان کی قوم تمام اقوام سے محترم، ان کے قبیلہ تمام قبائل سے زیادہ ہا وقار اور ان کے آباء اجداء تمام لوگوں سے زیادہ رتی شرف ہیں۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب (اس طرح چلتا ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن اشہر بن عبد المناف، بن قصی بن كلاب بن مرتضیٰ بن نزار بن معد، بن عدنان اور یہ حضرت اسما علیل الذیح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ صحابہ کرام، تابعین اور مہموم علمائے کلام کی یہی محققیق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ غلط ہے اور اس کے میں سے زیادہ دلائل بھی نہیں۔ اور میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنار فرمایا کرتے تھے یہ قول ثانی، اہل کتاب ہی کی اسماعیلیات کا ایک حصہ ہے۔ جوان کی کتاب کے ہی خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ باوجود نہ پیدا ہونے کے لپٹنے بیٹے کو اور ایک روایت کے مطابق لیٹے الکوتے بیٹے کو ذبح کریں۔ اب اہل کتاب اور مسلمان دو توں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی

نرینہ اولاد میں سے تھے۔ جن لوگوں نے قول ثانی کی تائید کی ہے۔ انہیں تواریخ کے اس عبارت سے مخالف ہوا کہ "اے اسلتی اپنے بیٹے کو ذبح کر کے حالانکہ تواریخ کی یہ تحدید یہودیوں کی تحریف کا نتیجہ ہے اور یہ تواریخ کی دوسری آیت کے خلاف بھی ہے۔

"کہ اپنے نرینہ اور الکوتے بیٹے کو ذبح کر"

یہودی بنی اسماعیل سے ان کے خاندانی شرف کی بنای پر حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ شرف (نبوت) عربوں کی بیجلی میں اپنی طرف سے جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دنالله نے یہ شرف صرف اہل ہبی کو عطا فرمانا چاہا ہے دوسرے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسحق علیہ السلام ذبح ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ اسحق علیہ السلام کی والدہ کو یعقوب بیٹے کی خوشخبری دے سہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دیتے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے اور خدا نے قدوس کا فرمان سنایا،

لَا تخفِّ اثْمَارُ سَلَنَا إِلَى أَقْوَافِ لَوْطٍ وَأَمْرَاتٍ قَائِمَةٌ فَفَحَكَتْ فِي شَرِّ نَاهَا يَا سَعْيَ وَمَنْ قَرَأَهُ أَسْمَعَ يَعْقُوبَ -

یعنی: ذر و نہیں، ہم قومِ لوط کی طرف بیچھے گئے ہیں اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں تو وہ ہنس دیں، سو ہم نے انہیں اسحق کی خوشخبری دی اور اسحق کے بعد یعقوب کی۔

پس یہ ناممکن ہے کہ پہلے بیٹے کی خوشخبری دے اور پھر ذبح کر دیتے کا حکم دے دے اور اس میں تو کوئی ہلک ہی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ضرور دی گئی اور یہ خوشخبری اسحاق علیہ السلام پر صادق آتی ہے یہ تو الفاظ کا غالباً ہری مطلب تھا اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر بات اسی طرح ہوتی جیسا تم نے کہا ہے تو یعقوب کو اسحق پر معذوب سمجھ کر محروم ہونا یا چاہئے تھا اور پھر عبارت یوں ہوتی "وَمَنْ قَرَأَهُ أَسْمَعَ يَعْقُوبَ" یعنی یعقوب اسحاق کے بعد ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالتِ رحمی یعقوب کو بشارت بننے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ بشارت ایک کلام خاص ہے اور وہ نبیر متقدم کے طور پر مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام "وَمَنْ قَرَأَهُ أَسْمَعَ يَعْقُوبَ" جملہ صحیحی قواعد کے مطابق ہے۔ تو یہ شہزادت بلکہ جملہ صحیح ہونے کی وجہ سے ایک حقیقی بشارت کا درجہ

رکھتی ہے اور اگر یہ مذکورہ کلام طریقہ ادائیگی کے مطابق منصوب ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ وقلنا الہ ما من قراء علی یعقوب یعنی ہم نے اس عورت کو اسحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی اور جب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ -  
بشرت فلانا بقدر و مآخیہ و شتمہ فی اشراف۔

یعنی میں نے فلاں کو اس کے سماں اور ساتھ ہی اس کا سامان کرنے کی خوشخبری دی۔  
تو دونوں باتوں کی بشارت پائی جاتی ہے اور ذی شعور آدمی کے لئے ریہ قاعدہ سمجھ رکھنا  
مخفی نہیں۔ اور حالتی جو میں ایک اور بھی ستم ہے۔ جیسے تم کہو، مرمت بزمین و من  
بعد کا عمر یعنی میں پہلے زید کے پاس سے اور پھر میر کے پاس سے گزرا۔ اس میں عاطف  
خود حرف جو کاظم مقام ہے تو اس کے اور مجرور کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ چاروں  
 مجرور ہر ٹوکرہ تباہ ہے۔ سورہ الصافات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ذیعیج میٹے کے واقعہ  
میں اللہ تعالیٰ کا فیان بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَمَلَّةً لِلْمُجْبِينَ وَنَادَيْنَاهُنَّ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَنَّقْتَ الرُّوْبَ يَا إِنَّا  
كَذَّا لَكَ نَجِيزَ الْمُحْسِنِينَ اتَّهْذِنَ الْمَهْوُ الْبَادِرُ الْمُبَيِّنُ وَفَدِيْنَا لَا بَدِيجَ عَظِيمٌ  
وَقَرَكَنَاعِلِيَّهُ فِي الْأَدْخَرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَّا لَكَ نَجِيزَ الْمُحْسِنِينَ اتَّا مَنْ عَبَادَنَا الْمُؤْمِنُونَ  
یعنی و رپھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اسے ماتھے کے مل اور ہم نے اس کو پکارا  
لیوں کہ اسے ابراہیم! تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلاں یکی کرنے والوں  
کو بیشک (یہی ہے) بلا بیسین، اور اس کے بدے ہم نے ایک بڑا بارور ذبح کر دیا،  
اور باقی کھا ہم نے اسے بعد کی مخلوقی میں سلام ہو ابراہیم پڑھ ہم یوں دیتے ہیں بدله  
بیکی کرنے والوں کو۔ وہ ہمارے ایماندار بندروں میں سے ہے۔

پھر فرمایا، وَيَشْرُنَاكَ بِالْحَقِّ تَبَيَّنَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔

یعنی، اور ہم نے اس کو اسحق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہوں گے۔  
تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوصیہ صبر کرنے کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اسے خوشخبری  
دنی اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ جس۔

بیتیز کی خوشخبری دی جائے وہ پہلے موجود نہیں ہوا کرتی بلکہ بعد میں ہوا کرتی بلکہ بعد میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا اور اگر یہ احتراض کیا جائے کہ بشارتِ ثانیہ سے مراد نبوت ہے۔ یعنی والد نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کا مظاہرہ کیا اور بیٹے نے بھی حکم خداوندی کے سامنے سرسیلیم ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت پر انعام نبوت عطا فرمایا: تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ بشارت کا اطلاق مجموع ذاتِ نبی وجود نبی اور نبوت پر ہے اور اسی وجہ سے لفظِ تپیگ منصوب ہے، یعنی نبی بھی ہو گا۔ اس طرح بشارت کا اطلاق ذاتِ نبوت سے جو اصل ہے۔ علیحدہ کر کے صفتِ نبوت پر نہیں ہو سکتے، بلکہ نبیاً مَن الصالِحُينَ کا حصہ جملے کا دایر حصہ ہے اور بشارت کا اطلاق صرف اتنے ہے۔ حصہ پر کرنا قواعدِ خودی کے اعتبار سے یکسر غلط ہے۔ جب اطلاق بشارت نبوت پر ہو گا۔ توذاتِ نبوت پر بدرجہ اوی ہو گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ فرزیح علیہ السلام مکہ میں تھے۔ اسی واسطے یوم الخر کو قربانیل بھی وہیں کی جاتی ہیں جیسا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی اور رمی جمار وغیرہ تاکہ اسماعیل اور ام اسماعیل کی شان کا مظاہرہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم پلندہ ہو۔

**ذبح حضرت اسماعیلؑ تھے نہ کہ حضرت اسحاقؑ** اور یہ بھی سب کو معلوم ام اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل اور ام اسماعیل رہتی تھیں۔ اس لیے ذبح کی بلکہ اور اوقات بھی بیت اللہ شریف کے قرب و حوار میں تھے کہ جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے مل کر تعمیر فرمائے تھے اور مکہ میں ذبح کرنا تکمیلِ حجج کے لیے شرط ہے جیسا کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ میں رواج تھا اور اگر یہ شام میں رہتے ہوئے اور یہ ولقہ ذبح وہیں پیش آتا، جیسے کہ اہل کتاب کا خیال ہے تو قربانیاں وغیرہ مکہ کی بجائے شام میں ہو اکرتیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت ذبح علیہ السلام کو صابر بتایا ہے اور فی الواقع ان سے زیادہ کوئی بھی صابر نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی خاطر اپنے آپ کو ذبح سک کے لئے پیش کر دیا۔ حالانکہ جب اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا تو انہیں ہمانے والا بتایا

جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

صل اتاك خذ یث ضیف ابراہیم لکرمین ادخلوا علیہ فقلوا سلاما  
قال سلام تقو منکرون اور انہ فرایا کہ قاتلوں لا تخفف و بشر و بغلاء علیہ  
یعنی کہا تمہیں ابراہیم کے معزز ہمہان کی بات پہنچی جب وہ اس کے ہاس آئے تو انہوں  
نے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا (اور) کہا یہ اجنہبی قوم ہے۔  
اس کے بعد اللہ تعالیٰ واقعہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اے۔

لا تخفف و بشر و بغلاء علیہ۔

یعنی انہوں نے کہا ذر و نہیں اور اس کو ایک علیم (باخبر) کے خوشخبری دو۔  
اور یہ خوش خبری اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ہے، کیونکہ یہ صاحبزادے ان کی بیوی کے  
بلن سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تولد ہوئے۔  
اور دوسرے ان دونوں (ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی جو اُتم اسماعیل ہیں) بڑھاپے اور  
عالیٰ یاس میں بشارت دی گئی تھی۔ بخلاف اسماعیل علیہ السلام کے کہ ان کا تولد اس سے قبل ہو  
بچکا تھا۔ نیز حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ اولاد نرینہ کی محبت عطا فرمائی  
ہے اور ابراہیم نے جب اپنے پروردگار سے بیٹھے کا سوال کیا اور اللہ جل شانہ نے وہاکو  
شرف قبولیت سخشا اور بیٹھا عطا فریما تو ان کے قلب میں انتہائی شدت سے اللہ تعالیٰ  
کے ساتھ ایک مخصوص تعلق پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل ہی بنالیا۔ اور مقام  
خلیل یہ ہے کہ قلب میں محبوب کے متعلق ایک ایسی منفرد محبت پیدا ہو جائے کہ جس  
کے بعد (حباب قلبی) میں کسی دوسرے کا خیال (شک) نہ رہے، تو جب بچے کی  
خلیل علیہ السلام کے قلب میں آنے لگی تو غیرتِ خلقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے خلیل سے  
علیہ السلام کو بیٹھا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ اس اقدام پر بھی آنادہ ہو گئے کیونکہ اللہ  
تعالیٰ کی محبت بیٹھے سے کہیں زیادہ تھی تو خلیل علیہ السلام کی خلقت رمحبت (خداؤندگی)  
شک کے تمام شائیوں سے بھی نکھر کر سامنے آگئی۔ تو اس ذبح کی بھی ضرورت نہ  
تھی بلکہ (یہ مقصد) تو فقط اس اور آنادگی سے ہی حاصل ہو گیا۔ اس لیے جسم خدا دمیت

بھی مسونخ ہو گیا اور فریض علیہ السلام کافد یہ (جنت کا ایک عینہ ٹھہا) نے دیا گیا۔ خلیل علیہ السلام نے بھی اطاعت کر دکھائی۔ اور پروردگار کا مقصود (امتحان) بھی پندرہ ہو گیا۔

اوسریہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ امتحان و ابتلاء تو پہلے بچے پر، ہی تھا اور پہلے کی وجہ اس شدت کا ابتلاء) دوسرا سب بچے پر ناممکن تھا، بلکہ جو تقاضے ذبح یعنی خلوصِ حملتِ خدا و نہ قدوس تھی وہ دوسرا ہے پھر کے ذریعہ ہرگز اصولاً نہیں ہو سکتی تھی نیز حضرت ابراهیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو حضرت پاجرہ اور ان کے بیٹے کے متغلق ایک طبعی سی غیرت تھی کیونکہ یہ باندھی تھیں۔ توجہ ان کے ہاں لڑکا تولد ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی قرطی محبت دیکھی تو حضرت سارہ کو سخت طیش آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اس سے دوسرے بھاؤ اور مکہ کی زمین میں بساو۔ تاکہ حضرت سارہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و نظر التقات کی ایک قسم تھی تواب خود ہی غور کیجئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر (حضرت سارہ) کے بیٹے (اسحاق) کو ذبح کرنے اور ہاجرہ (ایک باندھی) کے بیٹے کو چھوڑ دینے کا حکم دے بلکہ اس کی حکمت دیکھیے کہ اس باندھی کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تواب حضرت سارہ کا دل بھی رحضرت اسماعیل، کی حالت پر ترپ اٹھا اور ان کا خفہ بھی رحمت میں بدلتا گیا۔ آخر ان کے سامنے بھی اس بچے اور اس کی ماں کی برکات کھل کر رکھنیں۔ اور دکھایا کہ اللہ اس بھی مان اور حیلہ بچے کو صائم نہیں کرتا اور اپنے بندوں پر آشکارا کر دیا کہ وہ کس کے بعد سکھ اور یا اس کے بعد کامرانی آیا کرتی ہے۔

وہنا بچہ اس بچے اور اس کی ماں حضرت پاجرہ رضی اللہ عنہما نے تنہائی مسافرت اور... غرب الدیوار ہونے کے باوجود، جس صبر و سکون کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح کے لئے پیش کر دیا راس عدیم النظر قربانی پر، ان کے قدموں پر علامت کو بھی بعد میں آنے والوں کے لئے نشان پدایت اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک ان کے نشان پا کو جلے عہادت اور مناسک رجح مقرر کر دیا۔ فروتنی، انکساری اور ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس پر احسان کرنا چاہتا ہے وہاں اپنی اس سفت مجیدیہ کو تمازہ کر دیتا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:- وَنَرِيدُ أَنْ تُمْكِنَ عَلٰى الْأَذْنِينِ إِسْتِضْعْفُوا فِي الْأَرْضِ وَ  
نَجْعَلَنَّهُمُ الْمُمْتَهَنَّةَ وَنَجْعَلَنَّهُمْ أَنوارَ ثَلَاثَةِ وَذَلِكَ فَضْلٌ مِّنَ رَّبِّنَا  
ذُو الْفَضْلَيْمِ الْعَظِيْمِ۔

یعنی؛ اور ہم پاہتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کرسیں جو زمین میں کمزور ہیں اور ان کے امام  
بنادیں۔ اور ان کو وارث بنا دیں اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے  
اور اللہ پاک بہت بڑے فضل والا ہے۔

**سیرت و اخلاق اور روحی** | اب ہم پھر اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں اور آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق اور روحی (تحفہ مبارکہ)  
بیان کرتے ہیں۔ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں  
ہوئی اور ان کا نشانہ پیدائش عالم الفیل ہے اور یہ فاقعہ راصحاب فیل کا، بہت ادائیگی  
یہ اہل کتاب عیسائی تھے اور ان کا دین اہل مکہ سے بہتر بھی تھا کیونکہ اس زمانے میں اہل مکہ  
بتوں کی پوچھا کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ نے انہیں اہل کتاب پر فوقيت عطا فرمائی اس میں کسی شر  
کا کوئی دخل نہیں بلکہ یہ قوبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک پیش تھیا اور محجزہ تھا۔

**والدین کا انتقال اور واقعات ما بعد** | آپ کے والد ماجد کی نارتھ وفات میں احتشام  
علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی اور بعض آپ کے تولد مسعود کے بعد  
بنتا تھے ہیں لیکن پہلا قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سے قول کے مطابق آپ کے  
والد ماجد آپ کی پیدائش کے سات ماہ بعد فوت ہو گئے اور آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق اتفاق  
ہے کہ وہ مدینہ سے واپسی پر مقام ابواء میں فوت ہوئیں۔ اُس وقت آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم کی عمر ابھی سات برس کی نہ تھی پھر آپ کے دادا عبد الملک نے اہنی مگر ان میں  
لے لیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اُس وقت آپ کی عمر بیصون روایتوں کے مطابق اٹھ برس  
بعض کے مطابق پچھریا دس برس تک بتائی گئی۔ آپ اپنے مجاہد طالب کی کفالت میں چھٹے  
صحیحے اور اس پیچھا نے عرصہ بھک آپ کی خدمت کی۔ جب آپ کی عمر پارہ سال کی ہوئی  
تو آپ ہجھا کے ہمراہ شام کی طرف تشریف یافتے گے۔ بعض روایتوں میں فو برس کی عمر

میں سفر پڑا گیا ہے اس سفر میں آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک یہ ساتھی  
راہب بحیرا سے ہوئی اس نے آپ کے چچا کو مشورہ دیا کہ آپ انہیں شام نہ رے جائیں  
کیونکہ ہرود سے ذلتیل کا خطرہ تھا۔ تو آپ کے چچا نے اپنے غلام کے ساتھ آس حضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینہ بیسج دیا۔ ترمذی میں روایت آتی ہے کہ آس حضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم کے ساتھ بلاں ٹکو بیسجا گیا، لیکن یہ روایت بالکل غلط ہے کیونکہ بلاں ٹکو اس وقت  
وہاں تھے ہی نہیں یا اگر تھے بھی تو پھر حال نہ تو آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس  
تھے نہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس براز نے بھی اس حضرت کا اپنی مدد میں ذکر کیا ہے لیکن یہ  
نہیں لکھا کہ آپ کے ساتھ ابو طالب نے بلاں کو بیسجا بلکہ ایک آدمی "لکھا" ہے۔

### سفر شام اور خدیجہ بنت خوبیل سے شادی اور سلسلہ وحی

صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھیس برس کی ہوئی تو آپ تجارت کی غرض سے شام تشریف رہتے گئے۔ بصرہ تک آپ  
نے سفر فرمایا، پھر والہیں ہوئے اور وادی مسی کے بعد خدیجہ بنت خوبیل سے نکاح فرمایا۔ بعض  
روایتوں میں آپ کی اس وقت کی عمر تیس برس اور بعض میں اکیس برس بیان کی گئی ہے۔  
ام المؤمنین کی پہلی برس کی تھی اور آپ کی پہلی ہبھی تھیں، جن سے نکاح فرمایا۔ اور ان کے  
وفات تک آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا اور جب میں علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ  
ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پروردگار کی طرف سے سلام کوئی۔ پھر اللہ  
تعالیٰ نے آپ کے قلب میں تہائی اور اپنی عبادت کا جذبہ القاء فرمایا، پھر وہ خارجہ میں  
مسلسل راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ آپ کے دل میں اپنی قوم کے دین اور بندوں نے نظر  
پہنچا ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کو ان (قیمع افعال) سے ربعشت سے قبل ہی اس حدت تغیر و تجدیبا  
تھا۔ تو جب آپ کی عمر مبارک پہلی برس کی ہو گئی تو آپ پرانا نہیں تھے صوفشاں ہوئے  
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا اور مخلوق کی طرف مبعوث کیا اور اُنہے  
فضیل و کرم سے نوازا۔ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان امین وحی قرار دیا۔

آپ کی بحشت بالاتفاق دو شنبیہ کو ہوئی، لیکن مہینے میں اختلاف ہے۔ جمیروں کا قول ہے

یہ ہے کہ آٹھ دریعہ الاقل کی تاریخ صحی اورہ عام الغیل کے آکتا بیسوں سال آپ کو مبعوث فرمایا گی۔ بعض حضرات نے رمضان شریعت کا ہمینہ تعالیٰ ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کے الفاظ میں یہ ہے ۔۔۔

**شہرِ رمضان النَّذَى أُنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔**

یعنی ۔۔۔ رمضان کا ہمینہ کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔

اور ان حضرات کا دھوکی ہے کہ یہی ہمینہ تھا کہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی اور قرآن مجید نازل کیا گیا۔ علمائے کرام کی ایک جماعت کا ہمیں سلک ہے جن میں تحریک الصریحی بھی ہیں جو اپنے تعمیرہ نوینہ میں فلوٹے ہیں ۔۔۔

**وَاقْتَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ**

**شَمْسُ النَّبِيُّوَةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ**

یعنی اور جب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بحالیں برس کی ہوئی تو آپ کو رمضان کے ہمینہ میں نور نبوت سے سرفراز کیا گیا ۔۔۔

اوہ وہیے قول کے مانتے والے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تو رمضان شریعت میں قدر کی رات کو ہیست العزة (پہلے آسمان) پر ایک ہی دفعہ سدا نازل فرمادیا گیا۔ پھر تینیس رسولوں میں سب واقعات نازل ہوتا رہا۔ اور ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کو رمضان شریعت کی عظمت و شوکت جتنا فکر کے لیے اس ماہ میں نازل کیا گیا۔ پہنچا نچہ اس ماہ کے سند سے فرم ہوئے۔ بعض صبغہ وحی کی ابتداء و جب کے ہمینہ میں بھی روایت کی ہے۔

**نَيْرَقْ تَعَالَى شَاهِرَ فِي أَنْ حَفَظَتْ صَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوْدَحِي كَمْ درجات وحی** | مکمل درجات عطا فرمائے۔ ایک طریقہ وحی روایتے صادقہ تھے

یہ طریقہ زیادہ تر آغاز میں تھا۔ آپ جو بھی خواب دریختے وہ صحی صادق کی طرح بالکل سما لکھتا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ اچپ کے دل میں القاء کر دیتا۔ اور فرشتہ وحی آپ کو نظر نہ اکھاتا۔ جیسا کہ روایت میں لکھا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبل ائمہ علیہ السلام نے مجھ سے دل میں القاء کیا کہ کوئی جاندار تک قطعانہ مرے گا۔ جب

تک اُس کا رزق مکمل نہیں ہو جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے اندازے طلب رزق کرو۔ اور رزق پہنچنے میں دید ہو جانے پر اللہ کی نافرمانی کر کے اُسے تلاش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو صفت ہے وہ صرف اس کی اطاعت پر ہی عطا ہوتی ہے تیسرا یہ طریقہ تھا کہ فرشتہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی صورت میں حاضر ہوتا اور آپ سے مخاطب ہوتا۔ انکہ آپ وحی کو یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی صحابہ کرام بھی اس فرشتے کی زیارت کر لیتے۔ جو تمی صورت یہ تھی کہ وہ گفتگی کی آواز کے صورت میں ماضر ہوتا۔ وحی کا یہ طریقہ آپ پر بہت سخت ہوتا اور فرشتہ بھی خلط ملط ہو جاتا۔ حتیٰ کہ آپ کی جیلیں مبارک سخت سردی کے دن بھی پسینہ سے ترستہ ہو جاتی۔ اور اگر آپ سواری پر ہوتے تو سواری بوجھ کے باعث زین کے ساتھ گا جاتی۔ اور ایک مرتبہ وحی آئی اور آپ کی ران مبارک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی تو انہیں اس قدر بوجھ عسوں ہوا کہ جیسے ان کی ران ٹوٹنے لگی ہے۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ آپ فرشتے کو احسی صورت میں دریختے کہ جس میں اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ اس طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا وحی کی جاتی۔ اور یہ طریقہ دو مرتبہ پیش آیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ذکر فرمایا۔

چھٹی صورت وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود وحی فرمائی، جبکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معلج کی رات کو اسماں پر تشریف لے گئے۔ جب نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ ساتویں صورت یہ تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتے کے واسطے سلام فرمایا۔ ایسے آپ سے بھی بلا واسطہ کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق توفیق قرآن سے اس تسم کا کلام ثابت ہے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث الاسراء (مراجع کی رات) سے ثابت ہے۔ بعضوں نے آٹھویں صورتِ وحی بھی بیان کی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی جواب کے (دیکھ کر) کلام فرمانا، اور یہ ان حضرات کا سلک ہے کہ جن کے خیال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اور یہ مسئلہ سلف اور مختلف ہر جگہ مختلف فیہ ہے۔ اگرچہ مہور صحابہ کرام میں حضرت مائشہ رضی اللہ عنہا اس کے قائل ہیں۔ جیسا کہ عثمان بن سعید الدارمی نے صحابہ کرام کا

اس مسئلہ میں اجماع بتایا ہے۔

**آئی حضرت کا مختون ہونا:** اس مسئلہ میں تین مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ آئی حضرت مختون تو لد ہوئے تھے، لیکن اس باب میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ صحیح نہیں۔ ابو الفرج جو مذکور نے اسے موصوعات میں شمار کیا ہے۔ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اور یہ بات آپ کے خواص میں سے بھی نہیں بھی جا سکتی۔ کیوں کہ کبھی انسان ماد مسئلہ مختون ہوتے ہیں۔

مسموی کا قول ہے:-

”میں نے ابو عبد اللہؑ سے کہا کہ ایک مسئلہ بتائیے، ایک ختنہ کرنے والا نے ختنہ کیا۔ لیکن کاملاً نہیں تو اب؟“

انہوں نے کہا کہ اس نے نصف حشفہ تک رکارڈ لیا ہے۔ پھر تو دوبارہ ختنہ نہ کر کے کیونکہ اب حشفہ موٹا ہو جائے گا اور جب یہ مطلب حاصل ہو جائے تو دوبارہ ختنہ کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر نصف حشفہ سے کم رہا تو پھر امام وہ ختنہ ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ اعادہ کرنے سے سخت تکلیف ہو گی تو وہ کہنے لگے، میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں۔

پھر میں نے کہا، یہاں ایک آدمی ہے۔ اُس کے ہاں مختون لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس سے بات پر وہ بے حد مول ہوا، تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف سے بچایا تو کس بات کا غم کرتا ہے؟

اور مجھے ابو عبد اللہؑ، محمد بن عثمان خلیلی یہت المقدس کے محدث نے واقعہ بتایا کہ ان کے ہاں بھی ایسا ہی ایک مختون لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس کے گھروں نے ختنہ نہیں کیا۔ اور لوگوں میں مشہور ہے کہ جو اس طرح ختنہ شدہ پیدا ہوا ہو، اُسے چاند ختنہ کہیتا ہے لیکن یہ سب خرافات ہے۔

دوسرा قول یہ ہے کہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جیغمہ رضی اللہ عنہا کے

بگریاں پڑاتے ہوئے جب فرشتے نے شق صدر کیا تو اُس وقت ختنہ کیا تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کو آپ کے دادا عبد للطہی نے ساتویں روز ختنہ کے لیے بھایا اور ایک دعوت مام کی۔ شیخ آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ روایت المؤمن عبد البر کی ہے۔ مسندر کی یہ روایت غریب ہے۔

ہمیں روایت پہنچی، احمد بن محمد بن احمد سے انہیں محمد بن علیسی سے انہیں عیین بن الحوب علاف سے انہیں محمد بن ابی السری حلقانی سے انہیں ولید بن مسلم سے انہیں شعیب چھر عطا خراسانی پھر عکرمه سے انہیں ابن عباس سے کہ عبد اللطہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتویں روز ختنہ کیا اور ایک دعوت کی اور محمد نام رکھا۔

میکھی بن الحوب کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو تلاش کیا لیکن کسی محدث کے پاس نہیں ملی صرف ابن ابی سری کے ہاں سے یہ روایت ملی۔ اور یہ مسئلہ علمائے خاص کے درمیان باعث اختلاف ہے۔ ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اور لکھا ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے روایات بھی تحریر کی ہیں۔ لیکن ان کا کوئی ثبوت قطعاً نہیں۔ یہ صاحب کمال الدین بن طلحہ ہیں۔ چنانچہ کمال الدین بن علیم نے ان پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے۔ ————— کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عربوں کے مسحول کے مطابق ختنہ کیا گیا اور عربوں کے ہاں ختنہ کرنا ایک سمح و رواج کے علاوہ نشانِ شرف بھی سمجھا جاتا تھا۔

## آنحضرت ﷺ کی رضائی مائیں

ان میں سے ایک ابوہبیب کی باندی ثوبیہ تھیں، جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ لایا۔ حضرت ثوبیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رضاخت میں ابوسلمہ عبداللہ بن عبد الاشہد مخزومی کو بھی اپنے بیٹے سروج کے علاوہ دودھ لایا۔ اور ان کے علاوہ اس نے آپ کے پچھا حمزہ بن عبدالمطلب کو بھی دودھ پلایا اور محدثین اس نے ثوبیہ کے اسلام لانے میں اختلاف کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت علیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ساتھ آپ کو دودھ پلایا۔ ان کی اولاد میں انیسہ اور جذامہ جو شیوا کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ دو بیکے اور بھی ہیں۔ حضرت علیہ رضی اللہ عنہا حارث بن عبد العزیز بن فاعۃ سعدی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والدین کے اسلام میں عمار کلام کا اختلاف ہے۔ آنحضرت کے علاوہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پچھازاد بھائی ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھنا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے اور دل و جان سے اسلام کو قبول کر لیا۔

نیز حضرت حمزہ بنی سعد بن بکر کے ہاں شیر خوار مہمان نمہ تو ان کی ماں نے آپ کو بھی دودھ لایا۔ اور حضرت حمزہ اُس وقت علیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ لہذا حمزہ آپ کے دو طرح سے رضاہی بھائی بھی ہوتے، ایک ثوبیہ اور دوسرے حضرت علیہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے۔

**کس کس کی آنحضرت میں آپ رہے ہے۔** پہلے آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت کی گود میں پروردش پاتے رہے۔ نیز حضرت ثوبانؓ اور حمیۃؓ اور ان کی بیٹی شیخا جو آس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں اور یہی وہ خاتون ہیں جو بھی ہوازن کے وفد میں تشریف لائی تھیں تو آپ نے ان کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر بٹھایا تھا۔

ان کے علاوہ حضرت ام ایمن کے گود میں بھی آپ محلتے رہے اور یہ آنحضرتؐ کو والدین کی طرف سے ملی تھیں۔ یہ باندھی تھیں۔ ان کے خاوند زید بن حارثہ تھے اور اسامہ بن زید نبی اللہ کے لڑکے تھے اور یہی وہ خاتون ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر و عمر نبی اللہ عنہما ان کے پاس تشریف لائے، تو یہ روسری تھیں، انھوں نے فرمایا،  
کہ اے ام ایمن کیوں رو قی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رسولؐ کے لئے یہاں سے کہیں بہتر نہیں ہیں۔

فرمانے لگیں میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رسولؐ کے لئے یہاں کی نسبت بہت عمدہ انعامات ہیں لیکن میں تو اس وجہ سے رو قی ہوں کہ آسمان سے جو خبر آیا کہ قی تھی وہ اب منقطع ہو چکی ہے۔

اس پر ان دونوں حضرات کا بھی جی مجرایا اور یہ بھی رو نے لگے۔

**بعشت اور ابتدائے وحی** | اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس برس کی عمر میں مبعوث فرمایا اور یہ کمال عقل کا وقت ہوتا ہے۔

روایت ہے کہ انبیاء علیہم اسی عمر میں مبعوث ہوا کرتے ہیں اور وہ جو متین علیہ الرَّحْمَن  
کے متعلق روایت ہے کہ جب انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر تینیں<sup>۳</sup> برس کی تھی، تو اس کے متعلق کوئی متصطل سند کی حدیث نہیں ملتی کہ جس پر اعتماد کیا جاسکے۔

وحی کی ابتدار دیا گئے صادقہ سے ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو صبح صادق کی طرح سپاہانکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ حالت پچھ ماہ تک رہی اور نبوت کی گئے

مدت تسلیم ہے برس تھی اور رویا میں صادقہ بھی نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے شرف سے مشرف فرمایا۔ آپ غار حراء میں تشریف رکھتے تھے کہ فرشتہ حاضر خدمت ہوا۔ اس زمانہ میں آپ یہاں خلوت گزیں رہنے لگے تھے سب سے پہلی آیت جو آپ پر نازل ہوئی وہ یہ تھی:

اقرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور مہاجر علمائے کرام سے ہی مسلمانوں ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے یا ایتھا المدثر نازل ہوئی لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول کمی لحاظ سے زیادہ درست ہے۔ من جملہ ان وجہوں کے۔

ایک تویر کہ آیت ما نابقاری صراحتاً بتا رہی ہے کہ آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل بالکل اتمی تھے۔ دوسرے ترتیب بھی اس بات کی متفاضی ہے کہ پہلے پڑھنے اور بعد میں انذار (ڈرانے) کا فریضہ دا کیا جائے، کیونکہ جب آپ نے دل میں یوں پڑھا:

إذْنَرِ صَاقِرَةً -

یعنی جو پڑھا ہے وہ لوگوں کو بتا کر ڈرانے یعنی۔

تو ظاہر بات ہے کہ پڑھنا پہلے اور ڈرانا بعد میں ہو سکتا ہے۔

تیسرا اس آیت کے متعلق حضرت جابر کا جو قول ہے وہ ان کا ذائقی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے براہ راست آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

چوتھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہاں آیتہ کا المکث تر کے نزول سے قبل بھی فرشتہ حاضر ہوا تھا کیونکہ حضرت جابر کی روایت کے لفاظ اس طرح مرقوم ہیں۔

”پس میں نے سر اٹھایا تو وہی فرشتہ جو غار حراء میں آیا تھا موجود دیکھا۔ آخر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور میں نے کہا کہ مجھ پر کمبل ڈال دو، مجھے چادر اٹھوادو۔“

تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مُدَّثِر نازل فرمائی اور یہ رولیات تو واضح ہی ہے کہ جو فرشتہ حرام میں حاضر ہوا۔ اس کے ذریعہ اُثر اب اسرائیل اُذنی خلق ہی نازل کی گئی تو حضرت جابرؓ کی روایت سے بھی یاً آئیہاً الْمُدَّثِر کا نزول بعد میں بھی ثابت ہوتا ہے۔ جنت اور دلیل روایت ہو گی نہ کہ کسی کی ذاتی رائے۔

**مراتب دعوت اور اس کا طبقہ کار** | پہلی حیثیت: نبوت -  
دوسری حیثیت: اپنے اقربار کو تبلیغ -

تیسرا حیثیت: اپنی قوم کو دعوت۔

چوتھی حیثیت اُس قوم کو دعوت کہ جس کے پاس پہلے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور یہ لوگ اکثر عرب ہی تھے۔

پانچویں حیثیت قیامت تک تمام جن و انس کے لئے اس دعوت کا توسع، جس جس تک یہ دعوت پہنچ سکے۔ اس کے بعد آپؐ تین برس پوشیدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ پھر آپؐ کو علانية تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔

فاصلہ بھا تو مرد و اسرار ضعن المشرکین۔

یعنی: جس کا حکم دیا گیا اُسے علانیہ بیان کرو اور مشرکوں سے اعتراض کرو۔ پس الحضرتؐ نے علانیہ تبلیغ شروع کر دی، لیکن آپؐ کی قوم نے معاندانہ روایہ اختیار کر لیا۔ آپؐ پر اور مسلمانوں پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ آخر کار دو مرتبہ، بھرت کی بھی اجازت دی گئی۔

**آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ** | آپ کے اسمائے مبارکہ بعض ستائش بیان کرنے کے لئے صفائی "اعلام"

نہیں بلکہ اسمائے مشتقہ ہیں جو کمل طور پر صفاتِ مدح و کمال کے ترجیان ہیں۔

ان میں سے ایک اسم مخدوٰ ہے، اور یہ اسم مبارک زیادہ مشہور ہے اور قورات میں صراحت کے ساتھ یہ نام مذکور ہے۔ ہم نے جلاد الافہم میں حیر البشیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کرتے ہوئے مفصل یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس مضمون سے متعلق یہ ایک منفرد کتاب ہے

کہ جس میں اس سلسلے سے متعلق کثیر معلومات دیے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے متعلق احادیث بھی بیان کی ہیں۔ نیزان کے حسن صحبت، اور عمل سے بحث کی ہے۔ مزید برآں معمول روایات کی علیل پر خوب تبصرہ کیا ہے۔ چھرو دو داسرا و فضائل اور فوائد و حکم بیان کئے ہیں۔ چھراس کے موقع اور محل نیز و جووب کی مقدار، علمائے کلام کے اختلافات پہلوؤں، علیل ترجیح، تحریف، تحریف، اور طریقہ ہائے تبلیغ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ الحاصل اہل کتاب کے علماء کا بھی یہی نظر یہ ہے کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمدؐ ہی مذکور ہے۔

آپ کا ایک نام احمدؐ ہے۔ یہ وہ نام مبارک ہے جو سیع علیہ السلام نے بتایا تھا اور اس (نام) میں ایک لازم ہے جسے ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔ نیز آپ کے اسمائے مبارک متوفی باحی، حاضر، عاقب، مقنی، بنی التوبہ، بنی الرحمۃ بنی الملجمۃ، فاجح اور ایمن بھی مذکور ہیں۔

ان اسمائے کے علاوہ شاہد، مبشر، بشیر، نذیر، قاسم، ضحک، قتال، عبد اللہ، سراج المیز، سید ولد ادم۔ صاحبِ لوازِ الحمد، صاحبِ مقامِ الحمود وغیرہ بھی تحریک ہیں۔

اس کے علاوہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اسمائے حسنہ ہیں۔ اور جب بھی کسی مخصوص تصریحی کلمہ سے آپ کو یاد کیا جائے گا۔ وہ دراصل آپ کا اسم مبارک، ہی تو ہو گا۔ لیکن آپ کے مخصوص اور مشترک صفاتی ناموں میں امتیاز قائم رکھنا نیز مشتق اور اغلب صفات کے ترجمان ناموں میں فرق ضروری ہے اور حضرت جیبریل مطعم رضی اللہ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسمائے مبارکہ کا خود تذکرہ کیا اور فرمایا۔

”میں محمد ہوں۔ احمد ہوں، ما جی (مٹا نے والا) ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ کفر مٹا دے گا۔ اور میں حاضر (جمع کرنے والا) ہوں کہ میرے قدموں میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا عاقب (آخری) ہوں کہ جس کے بعد کوئی اور بنی نہ ہو گا۔“

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ دو قسم کے ہیں۔ بعض صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان میں کوئی دوسرا پیغمبر شریک نہیں ہے۔ جیسے محمد، احمد، عاقب، حاضر،

متفقی، نبی الملحمہ اور بعض ایسے اسمائے مبارکہ ہیں کہ جن میں دوسرا سے انبیاء علیہم السلام بھی مشریک ہیں، لیکن آپ کا ان اسمائے مبارکہ سے کامل اور خاص قسم کا تعلق ہے، جیسے رسول اللہ نبی اللہ، عبد اللہ، شاہد، ببشر، نذیر، نبی الرحمۃ، نبی التوبہ اور اگر نجیع اوصافِ حمیدہ کو اسماء قرار دیا جائے تو آپ کے اسمائے مبارکہ دوسرے سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً صادق، مصدق و موقوف، رحیم، وغیرہ ہم۔

اور اسی سلسلہ میں کسی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں۔ یہ قول ابو خطاب بن وحیر کا ہے۔ اس کا مطلب بھی من اوصاف کے ہے۔

### آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کی تشریح

چونکہ آپ ان گنت خصائصِ حمیدہ سے متصف تھے۔ اس لئے آپ کا نام محمد ابہت تعریف کیا گیا رکھا گیا۔ اسی لئے یہ نام محمود سے زیادہ بلیغ ہے۔ کیونکہ محمود شلاقی مجرد کا صیغہ ہے اور محمد مضاعنف کا صیغہ ہے۔ جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی تعریف تمام انسانوں سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے تورات میں آپ کا یہی اہم مبارک ذکر کیا گیا اور آپ کی امتت اور شریعت کی اس قدر تعریف کی گئی کہ مولیٰ علیہ السلام نے آپ کے اُتھی ہونے کی خواہش ظاہر کی اور اس مطلب کے متعلق ہم نے وہیں دلائل دیے ہیں اور ابوالقاسم سیل جس نے اس بحث کو از حد خلط ملط کر دیا ہے۔ ہم نے بڑا ہیں سے اُسے غلط ثابت کیا ہے۔

اور امر واقعہ یہ ہے کہ تورات میں آپ کا نام احمد مرقوم ہے جو لفظِ محمد سے مشتق ہے اور افضل التفضیل کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی (وزن) میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت فاعل کا معنی لیتی ہے یعنی آپ نے خدا کی دوسروں سے زیادہ محمد کی۔ اس طرف اس کا مطلب ہو گا۔ اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ انہوں نے اسی مسئلہ کو ترجیح دی ہے کیونکہ افضل التفضیل کا صیغہ معمول پر واقع فعل سے نہیں بلکہ فاعل

کے فاعل سے مشتق ہوتا ہے۔ مزید دلیل دیتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ مفعول پر فعل واقع ہونے کے اعتبار سے یہ جملہ نہیں بولا جاتا۔

مااضرب ضمیرین اُ زین اضرب من عمر و اور نہ یہ کلام منقول ہے ما اشریف  
للماء ما احکله للخبر وغيره۔ کیونکہ فعل التفضیل اور فعل تعجب دونوں صیغے فعل لازم  
سے بنتے ہیں۔ اس لئے فعل لازم کا عین کلمہ مفتوح مکسور اور مضموم ہر طرح سے آتا ہے۔  
اور یہ جو فعل پر ہزارہ کا اضافہ کرتے ہیں تو اس لئے تاکہ ہزارہ کا اضافہ کس کے اُسے مفعول  
کی طرف فعل متعدد بنایا جائے۔ اب ہزارہ تعداد کا شمار ہو گا جیسے ما اظرف ضمیداً ما اکرم  
عمراً ان دونوں کا اصل طرف اور کرم ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا  
ہے کہ اصل میں متعجب تو فاعل ہے۔ تو اب امر لازم ہی ہے کہ فعل بھی متعدد نہ ہو، باقی  
رہی یہ مثال ما اضرب ضمیداً العمر و ان کا عین کلمہ مفتوح اور مضموم ہی مذکور ہے انہیں  
(بعد میں) فعل متعدد بنایا گیا اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ عمر سے قبل لام کا اضافہ کر کے مذکورہ  
فعل کو متعدد بنایا گیا۔ اس کی مثال جیسے کہ ما اضرب ضمیداً العمر و اس جملہ میں عمر سے  
قبل لام تعداد کے لئے ذکر کیا گیا، اور اگر یہ صیغہ ویسے ہی متعدد ہوتا تو لام ذکر کئے بغیر،  
یوں جملہ ہوتا ما اضرب ضمیداً عمر اُ کیونکہ یہ فعل ایک اسم کی طرف تو ویسے ہے اور  
دوسرے کی طرف ہزارہ کے اضافہ سے فعل متعدد بن جاتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک اسم کی  
طرف تو ہزارہ سے اور دوسرے اسم کی طرف لام کے اضافہ سے فعل کو متعدد بنانا پڑتا۔ اسی  
وجہ سے انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ دونوں (افعل التفضیل اور فعل تعجب) مفعول پر واقع فعل  
سے نہیں بلکہ فاعل کے فعل سے مشتق ہیں۔

دوسرے حضرات نے اس بحث میں ان سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ وظائف  
صیغہ مفعول پر واقع اور فاعل کے ہر دو فعل سے مشتق ہو سکتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے،  
ما اولعہ بکن۔

یعنی وہ اس بات کا کتنا حریص ہے؟

اب یہ مفعول پر واقع فعل سے مشتق فعل متعدد ہے۔ اسی طرح ما انجیہہ بکذا اما اعہ

اُنچیسے جملوں میں تعبیر اور محبت جیسا فعل متعدد مفعول پر واقع ہو رہا ہے۔ اس کی مزید مثالیں ما، بغضنه، ای وغیرہ ہیں اور امام سیوطیہ بر حمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک علمی نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب تم ما بغضنه لہ کہتے ہو تو اگر اس وقت تم خود ہی (فاعل) اینی بغض رکھنے والے، محبت کرنے والے، عداوت رکھنے والے ہو تو پھر گویا تم فاعل کے فعل پر تمجہب کر رہے ہو اور جب تم ما، بغضنه الیہ۔ ما امقتني المیادہ ما احبنی الیہ کہتے ہو اور تمہارے ساتھ بغض، عداوت یا محبت کی جا رہی ہو تو گویا کہ تم مفعول پر واقع فعل پر تعبیر کر رہے ہو تو جو فعل لام سے متعدد ہو گا وہ فاعل کے فعل سے اور جو اسی سے متعدد ہو گا وہ مفعول پر واقع فعل سے (اشتق)، ہو گا۔

دوسرے نحوی حضرات نے یہ علت بیان نہیں کی۔ حقیقتاً تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی جو علّت بتائی جاتی ہے وہ ہے کہ لام معنوی طور پر فاعل (کی تملیک بنانے) کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے سوال ہو میں ہذا (پر کس کا ہے؟) تو جواب ہو گا۔ نزیہ (زید کا ہے) تو زید اور من سے قبل لام کا اختلاف کر دیا گیا اور یا ای کا ذکر ہو گا۔ جیسے کہ ای من يصل ہذا الكتاب؟ (پر کتاب کس کو ملے گی؟) تو یہ مفعول (کی طرف اشارہ) کے لئے استعمال کیا گیا۔ تو اس کا جواب ای سعید اللہ ہو گا۔ (عبد اللہ کو ملے گی) اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ لام ملک، اختصاص اور استحقاق کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ملک وحق بننے والے فاعل کے لئے ذکر کیا جاتا ہے اور ای انتہائے مقصود ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور انتہائے مقصود تقاضائے فعل پر منحصر ہے۔ اس لئے ای مفعول کے لیے زیادہ مندرجہ ہے لیکن وہی تقاضائے فعل کی انتہا ہوتی ہے اور آنحضرت کے متعلق کلب بن نزیہ کا یہ شعر:

فَلَهُوا خوف عَنْدِي أَذْأَخْلَمُهُ

وَقَيلَ أَنْتَ مَحْبُوسٌ وَمَقْتُولٌ

یعنی "جب میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں تو وہ سب سے زیادہ پر رعب لظر آتے ہیں اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم یا تو قید ہو جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے"

تو یہاں اخوف خیف سے مشق ہے جس کے منی پر رعب ہیں۔ اس کا سلسلہ خود ڈرنا نہیں۔ ایسے ہی ما جن شریداً من جت۔  
یعنی جن زید کو کتنا ڈرانے والا ہے؟

یہاں بھی مذکورہ ترکیب ہی ہے اور یہ کو فر والوں کا مذهب ہے۔ البتہ بصرہ والے کہا کرتے ہیں کہ یہ مندرجہ بالا امثلہ شاذ اقوال ہیں۔ اس لئے قواعد پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ایسی امثلہ کے متعلق قواعد کی بجائے سماں پر اکتفاء کرنا مناسب ہے لیکن کوئی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ مذکورہ قسم کی مثالیں چونکہ عربی زبان میں بکثرت مستعمل ہیں اس لئے انہیں شاذ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ شاذ کلام تو عام زبان کے خلاف اور بہت کم مستعمل ہوتی ہے اور یہ کلام قواعد کے مخالف نہیں۔ اور کوئی حضرات مزید کہتے ہیں کہ فعل کو لازم فرض کر کے فعل کی طرف نسب کرنا بعض زیادتی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔

باقی رہا وہ جو فعل پر ہمزہ بڑھا کر اسے متعدد کرنا پڑتا ہے۔ تو امر واقع اس طرح نہیں جیسا کہ آپ نے (غلط) تحقیق کی ہے۔ نیز ہمزہ تعداد یہ کی علامت بھی نہیں بلکہ وہ تصرف تجھب اور افعال التفضیل کے معنی دے رہا ہے جیسے کہ فاعل میں الف مفعول میں اور واد افتعال وغیرہ میں تا مخصوص علامات ہیں۔ ثلاثی مجرد کے افعال پر یہ اضافات، علامات مخصوص ہیں۔ اسی طرح ہمزہ کا اضافہ بھی علامت تعداد ہے نہیں بلکہ اضافہ مذکورہ بالا ہے۔

باقی جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو فعل ہمزہ لگانے سے متعدد ہو سکتا ہے وہ صرف جر لگانے یا مفاعف بنانے سے بھی متعدد ہو سکتا ہے مثلاً جلسہ بیم۔ اجلسٹہ قسمت بہ ۲۰۔ قسمتہ وغیرہ (میں اس کے پاس بیٹھا میں نے اسے بیٹھایا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے کھڑا کیا) چونکہ ان امثلہ میں کوئی دوسری حرف ہمزہ کے قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے واضح ہے کہ یہاں ہمزہ بعض علامت تعداد یہ نہیں۔ دوسرے یہاں تعداد کی اصل علامت "ب" بھی مذکور ہے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ ایک فعل میں تعداد کی دو علامات جمع نہیں ہو سکتیں۔

یہ مقولہ مشہور ہے۔ ما اُعطاؤ لدّ راهم۔ ما اکساؤ للشیاب یہ دونوں جملے

اعطیٰ اور اکس امتدادی افعال سے ہیں تو اس اعطیٰ کو عطا و قرار دے کر اس پر ہمزة تعددی کا اضافہ کرنا قطعاً درست نہیں، بلکہ ان کا ہمزة تو علامتِ تعجب و تفضیل ہے۔ جب اس کا ہمزة حذف کر دیا گیا تو اب یہ کہنا غلط ہے کہ وہ تعددی کا ہمزة تھا۔ رہی یہ مثال مَا اخْرِيَة لزِيْنِ۔ یہاں زید سے قبل کalam فعل لازم کے باعث اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے غیر منصرف ہونے کے صرف کو دو رکنے کے لئے "لَام" کا اضافہ کیا گیا۔

اب ہم پھر اپنے مطلب یعنی اصل موضوع کی طرف عود کرتے ہیں۔

دونوں اقوال میں سے جو بھی مراد لیا جائے اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا یاد و سر اقول کر سب لوگوں سے زیادہ تعریف کا مستحق ہے صورت گویا معنوی طور پر بھی آپ کا نام محمدؐ ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ محمدؐ کا لفظ محمدؐ کے کثیر خصائص کی حامل، مستی پر یو لا جائے گا اور احمد کا مطلب دوسروں سے زیادہ حمد کا مزاوار ہوتا ہے۔ پس محمدؐ کثرت و کمیت (حمد) اور احمد صفت و کیفیت (حمد) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے زیادہ حمد کے مزاوار اور دوسروں سے زیادہ افضلیت کے حامل ہیں۔ آج تک معاشرہ انسان نے آنحضرتؐ سے زیادہ کسی کی حمد نہیں کی۔ یہ دونوں آپؐ کے نام ہیں۔ مرح اور معنی کے لحاظ سے یہ دونوں نام سب سے زیادہ بلیغ اور کامل ہیں اور اگر اس کا مفہوم "فاعل" کا لیا جائے تو پھر آپؐ کا نام حماد ہو گا۔ کیونکہ آپؐ نے تمام مخلوق سے زیادہ اپنے پروردگار کی حمد فرمائی۔ اس لئے کثرت حمد باری تعالیٰ کی وجہ سے آپؐ کو احمد کہا جائے تو آپؐ کا نام حماد زیادہ موزوں ہے جس طرح آپؐ کی امت کا بھی یہی نام مذکور ہے۔

دوسرے یہ دونوں نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصافِ حمیدہ کے ظہر ہیں اس وجہ سے آپؐ محمدؐ اور احمدؐ دونوں اسمائے مبارک کے مستحق ہیں۔ زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کی تمام مخلوق آپؐ کے خصائص حمیدہ کے باعث آپؐ کی تعریف میں رظرالبلسان ہے۔ یہ اوصاف و خصائص اتنے ہیں کہ ان کی تعداد حساب و شمار سے باہر ہے کتاب القلوة والسلام میں ہم نے اس بحث پر مکمل طور پر بحث کی ہے اور اس جگہ پر رشانی خاطر اور

سفر کے باعث ہم نے تخت طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔

**المتوکل** : آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام متوكل بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول مذکور ہے۔ انہوں نے فرمایا۔

میں نے تورات میں آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا کہ،  
”محمد اللہ کا رسول میرا بندہ“، میرا پیا میر ہے۔ میں اس کا نام متوكل رکھا۔ زادہ بد اخلاق ہے، زادہ درشت مزاج، زادہ کوچپر و بازار میں شور کرنے والا ہے اور زندہ براٹی کا بد لہ براٹی سے دے گا۔ بلکہ عضو اور درگزر سے کام لے گا اور میں اسے ہرگز محنت سے بہم آغوش نہ کروں گا۔ جب تک اس کے ذریعہ ایک ملت بیضا نہ پیدا کر دوں۔ جو یہ کہے لے ۴۱۷  
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے سب لوگوں سے زیادہ اہل ہیں کیونکہ آپ نے اقامتِ دین کی خاطر اللہ تعالیٰ پر اس شدت سے اعتماد کیا کہ اس اعتماد میں قطعاً شرک نہیں کیا۔

رہا ماحی، حاضر، مقفلی اور ماقب توان اسلام کے مبارکہ کی جبیر بن مطعم کی روایت میں وفاہت کی گئی ہے۔

ماجی سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کفر مٹایا۔ اور تمام مخلوق سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کفر و عصیان کو نابود کیا۔ کیونکہ جب آپ کو معمورت فرمایا تو اس وقت ساری زمین پر چند اہل کتاب کے سوا سب کافر آباد تھے۔ مثلائب پرست منضوب یہودی، گمراہ نصرانی، دہریے جو نہ پروردگار اور نہ معاد کے قابل ہیں۔ ستارہ پرست آگ کے پیماری، فلسفی جو نہ ابیان کے دین کو سمجھتے ہیں اور نہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کفار کو مٹایا۔ حتیٰ کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آگیا اور اسلام کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہونی شروع ہو گئی اور آپ کی دعوت چار دنگ ب عالم میں پھیل گئی۔

حاضر، حشر کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے۔ گویا آپ حشر کے قریب ہی معمورت ہوئے

عاقب، جو تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے۔ چنانچہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، کیونکہ عاقب آخر ہی میں ہوتا ہے جس طرح (شمنوں یا خط) کے آخر میں خاتم دہر، لگائی جاتی ہے۔ اس لئے آپ کو مطلقاً عاقب الانبیاء قرار دیا گیا۔

متفقی بھی اسی طرح ہے جو اپنے بزرگان سلف کے نقش قدم پر چلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ (دنیا والوں کو) انبیاء و سابقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشتا ہے۔ اور آپ ہی ان میں سے آخری اور خاتم النبیین ہیں۔

رہائی التربہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر توبہ کا دروازہ کھولا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس طرح (رحمت سے) توبہ قبول فرمائی گرہ آپ سے قبل کسی کو اس قدر شرف حاصل نہ ہوا تھا اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں سے زیادہ توبہ واستغفار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک ہی مجلس میں سو سو بار۔

**سرت اغفرلی و توب علی ۱۱۳ ۱۱۴ التواب الغفور۔**

یعنی: میرے پروردگار مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرمابے شک توبہ کو  
قبول کرنے والا بخشنے والا ہے۔

اور فرمایا کرتے تھے اے لوگو! اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو۔ کیونکہ میں بھی دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں۔ پس آپ کی امت کی توبہ تمام سابق امم سے زیادہ کامل، زیادہ سہل اور بس رعت مقبول ہے۔ حالانکہ ہمیں امتوں کی قبولیت توبہ سب سے مشکل امر تھا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو اس پاداش میں کروہ گئوں سالہ پرستی کرتے تھے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا پڑا۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی نمائت کو بھی توبہ قرار دے دیا۔

**نبی الملجمۃ:** اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لئے معموٹ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت نے پچھلی تمام امتوں سے بڑھ جڑھ کر جہاد کیا ہے۔ چنانچہ اس امت اور کفار کے درمیان جس قدر عظیم معرکے ہوئے اس سے قبل کسی امت کو ایسے ہونا کہ حالات سے دوچار نہیں ہونا پڑا کیونکہ یہی ایک ایسی امت ہے، جس نے ہزار نام میں دُنیا کے چھپر چھپر پر دینِ خدا کے دشمنوں

سے جہاد اور مقابلہ کیا اور نہ ماضی کی کسی قوم کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی۔

**بنی المرحمۃ** : آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اس لیے آپ نے تمام اہل دنیا پر عام اس سے کہ وہ مسلم ہوں کافر سب پر رحم فرمایا، اہل اسلام آپ کی رحمت سے خوب خوب بہرو د ہوئے۔ لیکن کفار اور ان میں سے اہل کتاب خاص طور پر بحیثہ تک بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ جود و سخا میں اطمینان سے زندگی گزارتے ہے۔ ہاں جنہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ شروع کر دی۔ انہوں نے خود ہی جہنم کو خوش آمدید کہا اور انہیں زندگی سے باختہ وصو نے پڑے جو دراصل ان کو شدید تر عذاب کی طرف لے جا رہی تھی۔

**فاتح** : کھونے والا، اللہ تعالیٰ نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے تو بارہ ہفت کا دروازہ کھول دیا۔ اندھوں کو بصارت، بہروں کو شعوانی معمطاً فرمائی اور زنگ آؤ دے سبق کر دیے کفار کے علاقے فتح ہوئے، جنت کے دروازے کھلے، نئے نئے علوم اور اعمالِ حسنہ کی بنیاد رکھی گئی۔ غرضِ دل و دماغ۔ بصارت و شعوانی بلکہ دنیا و آخرت تک فتح ہو گئی۔

امین (امانت دار) حقیقتاً عالمِ زنگ و بیوں صرف بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس نام کے اہل ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی وجی اور شریعت کے امین ہیں۔ نہ میخلوں اور آسمانوں کی ہر ہر مخلوق کے امین ہیں۔ بلکہ نبوت سے قبل بھی آپ امین کے مبارک نام سے مشہور تھے ضحاک۔ قتال۔ یہ دونوں نام آپس میں اس قدر مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ذکر نہیں کئے جاتے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے (ضحاک)، رہنس کھی میں۔ فقرت، احتارت، اغصہ اور بد مزاجی کا نام تک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وشمنوں کے لئے قتال (قتل کرنے والے) کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور (ظالموں کو مزاہیہ میں) کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہیں کرتے۔

**پشمیر** (خوشخبری دینے والا) یعنی جو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گاؤں سے آپ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔

ہذیر : (ڈرانے والا) جو آپ کی نافرمانی کرے گاؤں سے عذاب خداستے ڈرانے والے ہیں۔  
 نیز قرآن پاک میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اللہ سے  
 سمجھی خطاب فرمایا ہے جیسے :  
 لقا فادر عبد اللہ پید عورا -

### اسی طرح

تبارک الٰذی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ  
 یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے (عبداللہ) اللہ کے بندے سے پر قرآن نازل کیا۔  
 فارجی الٰی عبیدہ ما وحی  
 وَإِن كَنْتُمْ فِي سَرِيبِ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا  
 حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولادِ آدم کا میردار ہوں  
 مگر فخر نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام سراج المنیر (روشن چراغ) رکھا اور سورج کو سراج و صاحب  
 (جلانے والا چراغ) قرار دیا۔ منیر جلاستے بغیر روشنی دیتا ہے اور دہاج کی روشنی میں حصارت اور  
 جلانا سمجھی شامل ہوتا ہے۔

# آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت

## ولاد، ازواج اور خاندان کا بیان

پہلی اور دوسری ہجرت کا بیان | جب مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی اور کفار کو ان سے خطرہ لاحق ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین مصائب اور اذیتوں کا سامنا کرتا پڑا۔ ناچار آپ نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کے اجازت دے دی۔ فرمایا کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو اپنی رعایا پر غلام نہیں کرتا۔ پس بارہ مردوں اور چار غورتوں نے ہجرت کی۔ جن میں حضرت عثمان بن عفانؓ بھی تھے اور یہ صحابہ پہلے مہاجر تھے۔ جنہوں نے ہجرت کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیمہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ یہ حضرت حبشہ میں پڑے سکون سے زندگی گزارتے رہے پھر میں اطلاع ملی کہ قریش مسلمان ہو چکے ہیں، گویہ خبر غلط تھی مگر یقین کر کے کہہ واپس آگئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ قریش تو مسلمانوں کے پہلے سے زیادہ دشمن ہیں اس لئے کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ مکہ، ہی میں ٹھہر گئے۔ اب یہ حضرات پہلے سے بھی زیادہ قریش کے نشانہ ستم بنے۔ ان میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو بارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اسی تراجمی مددوں اور اخراج اور توں نے ہجرت کی، ان میں عمار بھی تھے (لیکن راوی کوشک ہے) یہ حضرت شاہ نجاشی کے پاس پڑے الہیان سے ٹھہرے۔ جب قریش کو اطلاع ملی تو انہوں نے عمر بن عاص اور عبد اللہ بن زبیر مخدومی کے ساتھ جماعت حبشہ بھیجی تاکہ

نجاشی کو ور غلا سکیں۔ لیکن ان کی ساری چالاکی کام نہ آئی۔

اس کے بعد قریش کی ایذار سانیاں بڑھ گئیں، جس کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو شعب ایں طالب میں تین برس اور ایک قول کے مطابق دو برس تک کے لئے محصور رہنا پڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ کی عمر ۴۷ تائیں تھیں اور ایک روایت کے مطابق انچاں برس کی تھی۔ اس واقعہ کے چند رہا۔ بعد آپ کے چچا ابو طالب ستائی برس کی عمر تین فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسی نظر پندی کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو کفار سے زیادہ ایذا میں پہنچیں۔ اس کے فوراً ہی بعد حضرت عبد الجبار بنی اللہ عنہما انتقال فرمائیں۔ دان کی وفات کے بعد کفار کی ایذاء ہی میں اور اضافہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرات تبلیغ دن کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ آپ چند دن وہاں تشریف فمار ہے۔ لیکن وہاں کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ کو ایذا میں دینے پڑا تھا۔ شہر سے نکال دیا۔ آپ پر پل پڑے اور اس قدر پھر بر سارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ہو ہیاں ہو گئے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے۔ راستے میں ایک عیسائی حافظ خدمت ہو کر مشرف بر اسلام ہوا۔ اور آپ کی تصدیق کی نیز واپسی پر جب آپ وادیِ نخلہ میں پہنچے تو جنات کی ایک جماعت آپ کو ساتھ لے گئی اور آپ سے قرآن مجید سن کر اسلام لے آئی۔ نیز پہاڑوں پر متعین فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ اہل طائف پر ڈال کر انہیں کچل دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”وَمُهْبِطٌ“!

”مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے صلب سے اپسے لوگ مژور پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ قطعاً کسی کو مشریک نہ کریں گے۔“ راستے میں ہی آپ نے وہ مشہور دعا کی جو حدیث میں مذکور ہے۔

**الْمُهْبَرُ الْيَتَّ** اشکو ضعفت قوق و قلتة حيلتي۔

یعنی اسے میرے اللہ میں اپنی توانائی کی قلت اور اسباب کی کمی کے باعثے

میں تجوہ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے گھر کے قریب سے مکہ میں داخل ہوتے۔ اس کے بعد ہی آپ کو جسم و روح کے ساتھ مسجد القصی تک سیر کر لئی گئی۔ پھر آپ ایسے ہی جسم و روح کے ساتھ ہی آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ کے دربارِ اعلیٰ میں حاضر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور نمازیں فرض کی گئیں۔

### معراج اور اس کی نوعیت و کیفیت

بعض کا خیال ہے کہ حالتِ خواب میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ یوں کہنا چاہئے کہ آپ کو معراج کر لئی گئی، لیکن بیداری اور حالتِ خواب کے تعین میں خاموش رہنا چاہیے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بیت المقدس تک بیداری میں اور آسمانوں پر حالتِ خواب میں تشریف لے گئے۔

بعض حضرات دوبارہ معراج کے ناکل میں ایک بار بیداری اور ایک بار حالتِ خواب میں ایک قول تین بار کا بھی ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معراج بعثت کے بعد ہوئی۔ رہی وہ بات جو شریک کی روایت میں مذکور ہے کہ معراج وحی سے قبل ہوئی، یہ غلط ہے اور یہاں کے ضعف حافظہ کا نتیجہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وحی سے قبل حالتِ خواب میں اور وحی کے بعد حالتِ بیداری میں معراج ہوئی، بعض کا خیال ہے یہاں ”وحی“ مقید ہے مطلق نہیں کہ جو بعثت کی ابتدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معراج کی حقیقت بتانے سے قبل اچانکہ واقعہ پیش آیا۔ واللہ عالم۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپک مدت تک مکہ میں مقیم رہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ہر میلے اور تہوار میں تشریف لے جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے کہ جو بھی تبلیغ دین میں مدد و سعی کے گا۔ اس کے لئے پروردگار کے ہاتھ جنت کی بشارت ہے۔ لیکن کسی قبلہ نے دعوت پر کان نہ وصراء دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ شرف انصار (مدینہ) کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو

سر بلندی و عزت بخششے، اپنا وعدہ پورا کرنے، اپنے نبی کی مدح کرنے، اپنا کلمہ بلند کرنے اور احادیث سے استقامت لینے کا ارادہ فرمایا تو انصار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا، کیونکہ یہ شرف انہی کے لئے مقدر ہو چکا تھا۔ چنانچہ چھر اور ایک روایت کے مطابق آمُدَّ آدمی صحیح کے موسم میں یہ مقام عقبہ حلق کے الامسے سے پیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔

ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اور وہاں سے جب مدینہ آئے تو اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی آواز پھر اس طرح پھیلی کر انصار کا کوئی گھر ایسا نہ تھا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ حمیل نہ ہو رہا ہو! مدینہ میں پہلی مسجد جہاں قرآن مجید کی علایہ تلاوت کی گئی، مسجد بنی زريق تھی۔ اس کے بعد اگلے سال مدینہ سے بارہ آدمی حاضر خدمت ہوئے، جن میں سے پانچ وہ تھے جو اس سے قبل بھی حاضری سے مشرف ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے مقام عقبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور مدینہ والپس ہوئے۔ اس سے اگلے سال مدینہ سے تمہر مرد اور دو عورتیں حاضر ہوئیں اور یہ آخری جماعت تھی جو مدینہ سے حاضر خدمت ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی، جس بات سے آپ منع فرمائیں گے وہ اپنی عورتوں، اولاد اور اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔

**ہجرت کی اجازت** | آخر آپ اور آپ کے صحابہؓ بھی ہجرت فرمائکر ان کے ہاتھ نقیبوں یعنی (مبلغوں) کا انتخاب فرمایا اور صاحبہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرجحت فرمائی۔ چنانچہ ایک جماعت خفیہ طور پر روانہ ہوئی۔ بعض کے نزدیک ابو سلمہ بن عبد اللہ شد غزوی اور بعض کے خیال میں مصعب بن عییر سب سے پہلے اس سفر پڑھنکے اور مدینہ میں انصار کے ہاں اقامت پذیر ہوئے۔

انصار نے ان کی خوب خدمت تواضع کی اور مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ اور آپ ربع الاقل اور ایک روایت کے مطابق صفر کے ہبینہ میں منگل کے دن مکہ سے روانہ ہوئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً کم تر ۴۵ سال تھی اور آپ کے ہمراہ ابو بکر صدیق اور ان کے غلام عامر بن فہیر تھے۔ عبداللہ بن اریقط لیثی راہنمائی کر رہے تھے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں تشریف لے گئے اور تمیں دن وہیں قیام فرمایا۔ پھر ساحل کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے آپ ربع الاقل کی ہار صوریں رات کو منگل کے دن مدینہ پہنچے۔

مسجد قبائی تعمیر بعض نے لکھا ہے کہ آپ مدینہ سے ہاہر وادی قباء میں بنی عمرو بن عوف روایت سعد بن خثیثہ کی بھی ملتی ہے۔ انحضرت ان کے ہاں چودہ دن مٹھرے رہے اور مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ پھر آپ جمعہ کی صبح کو یہاں سے چلے۔ بنی سالم کے علاقہ میں نماز جمعہ کا وقت ہوا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سو کے قریب آدمی تھے۔ یہ سب جمع ہو گئے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ ناقہ پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ لوگ ناقہ کی ہمارا پکڑتے اور درخواست کرتے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف رکھیں۔ لیکن بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ ماسورِ اللہ ہے (بنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود ہی جہاں اللہ کو منظو ہو گا بیٹھ جائے گی) چنانچہ اونٹھی اس جگہ بیٹھ گئی۔ جہاں آج کل مسجد نبوی ہے اور یہ زمین بنی بخار کے دولڑکوں سہل اور سہیل کی علکیت تھی۔

آپ یہاں ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف فرماء ہوئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مل کر اس خالی زمین پر کچی انیطیوں اور کھجور کے تنوں سے مسجد تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے مسجد کے ساتھ ہی اپنی ازدواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے لیے جھرے تعمیر کئے۔ سب سے پہلا امام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جھرہ تھا۔ پھر سات ماہ بعد حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ کے مکان سے منتقل ہو گئے۔ جب ان صحابہ کو، جو جب شہ میں مقیم تھے۔ آپ کی ہجرت مدینہ جنری تو ان میں سے تینتیس ۳۳ آدمی والہیں

آگئے، جن میں سے سات راستہ میں مکہ کے کفار نے گرفتار کر لیے اور باقی بخیریت مدینہ منورہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو گئے اس کے بعد باقی صحابہ فتح خیبر کے سال شہید کو کشتی کے ذریعہ واپس ہوئے۔

**آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مسعود** اسب سے پہلا بچہ القاسم تھا، اسی نام پر آپ نے اپنی کنیت "اب القاسم" رکھی۔ لیکن بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی اتنی عمر ہوئی کہ انہوں نے سواری بھی فرمائی اور سفر بھی کیا۔

قاسم کے بعد زین الدین پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت زینب کی عمر قاسم سے زیادہ تھی۔

بعد ازاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن پیدا ہوئیں۔ ان کی عمر میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت رقیہ باقی عینوں سے بڑی تھیں اور ام کلثوم چھوٹی تھیں۔ پھر حضرت عبد اللہ پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے کہ ان کی ولادت بعثت سے بعد یا قبل ہوئی؟ صیحہ یہ ہے کہ ان کی ولادت بعثت کے بعد ہوئی۔ ان کے لقب میں بھی اختلاف ہے، آیا طیب اور طاہر و نون لقب ان ہی کے ہیں؟ مختار روایت کے مطابق یہ دونوں القاب حضرت عبد اللہ علیہ السلام ہی کے ہیں، واللہ عالم۔

یہ تمام اولاد المنومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی۔ دوسری ازواج مطہرات سے اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں شہزادہ ابراءیم پیدا ہوئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو راقم نے ولادت کی خوشخبری پہنچائی یہ سن کر آپ نے انہیں ایک غلام عنایت فرمایا۔ لیکن ابھی ان کا دودھ نہیں چھٹا تھا کہ وفات پاگئے آیا آپ ان کے چناناہ میں شریک ہوئے یا نہیں؟ اس باب میں دو قول مروی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ کی تمام اولاد آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی۔ انتہی حضرت فاطمہ نے آپ کی وفات کے چھر ماہ بعد حلست فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر واستقلال پر انہیں

تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی، انہیں خواتین عالم کا سرتاج بنانے کے لئے دنیوں جاتے عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی تمام اولاد میں زیادہ افضل ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام جہانوں کی خواتین سے افضل ہیں۔ بعض ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو افضل سمجھتے ہیں، بعض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی افضیلت کے قائل ہیں۔ اور بعضے کا خیال یہ ہے کہ اس معاملہ میں سکوت بہتر ہے۔

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ رشتہ دار** [نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاماں (چچاؤں)] میں ایک اسد اللہ، اسد رسول اللہ

سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہیں۔ نیز حضرت عباسؓ، علاوه ازیں ابوطالب جن کا اصل نام عبد المناف تھا اور ابو ہب، جس کا نام عبد العزیز تھا اور زیر اور عبد الکعبیہ اور مقوم اور ضرار اور قشم اور مغیرہ، جس کا لقب محل تھا اور عیداق، جس کا اصل نام مصعب اور ایک قول کے مطابق نوبل ہے۔ بعض نے نوبل کے ساتھ "العوام" کا اضافہ کیا ہے۔

ان میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما اسلام سے مشرف ہوئے آپ کی پھیلیوں میں ایک صفیہ والدہ حضرت زیر بن عوام تھیں۔ نیز عائشہ، ببرة، اردوی، ایمہ، ام حکیم بھی تھیں۔ ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اسلام لا ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت اردوی کے اسلام میں اختلاف ہے۔ بعض حضرت نے حضرت اردوی کے قبول اسلام کو صحیح مانا ہے۔

حارث آپ کے بڑے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے چھا تھے۔ اور پھر ان کی اولاد کرہ ارٹی پر پھیل گئی۔ چنانچہ خلیفہ مامون الرشید کے زمانہ میں ان کی مردم شماری ہوئی تو ان کی تعداد چھ لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اسی طرح ابوطالب حارث، ابو ہب سب کی اولاد میں کافی اضافہ ہوا۔ بعض روایتوں میں حارث اور مقوم ایک آدمی کے دونام ہیں۔ بعض لوگوں نے عیداق اور محل کو ایک ہی انسان قرار دیا ہے۔

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات** | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں جن سے بنت سے قبل ہی آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ بنت خوبید قرشیہ اسدیہ برس تھی۔ ان کی وفات تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی کے بطن سے ہوئی۔ آپ کی یہی وہ اہلیہ تھیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مصائب برداشت کئے، تبلیغ کے سلسلہ میں تعاون کیا اور کسی قسم کی جانی و مالی قربانی سے دریغہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سلام بھیجا۔ اور یہ اعزاز ہے جو خدیجہ رضی کے سوا کسی کو بارگار الہی سے عطا نہیں ہوا۔ ہجرت سے نہیں بلکہ ان کی وفات ہو گئی۔

حضرت سودہ ! پھر آپ نے کچھ عرصہ کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ سے نکاح کیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرم دی تھی حضرت عائشہ، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عبد اللہ حضرت عائشہ بنت ابوکمر صدیق رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں۔ اور انہیں کے متلق عرش سے اللہ تعالیٰ نے برائت کی آیات نازل فرمائیں۔ اور نکاح سے قبل ہی رشیم کے ایک مکملے سے پران کی تصویر نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ شوال میں جب ان سے نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر چھ برس کی تھی۔ ہجرت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر نو برس کی تھی۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا اند ان کے علاوہ کسی کے بستر پر وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان ہی سے محبت رکھتے تھے۔ آسمان سے ان کے برائت نازل ہوئی۔ جس نے ان پر تہمت لگائی اور سب کے نزدیک بالاتفاق کافر ہے

علہ اس طرح کی ایک روایت حضرت عائشہ کے بالے میں بھی ہے۔ (رُسیں احمد حنفی)

۲۳۳ حضرت عائشہ کی عمر نکاح و رخصتی کے بالے میں موڑ خیں کا اختلاف ہے (رُسیں احمد حنفی)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام ازدواج مطہرات میں سب سے زیادہ عالم اور فقیرہ بلکہ امتن سلمہ کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ ماهر فقة (مسائل دینی) اور عالم تھیں۔ چنانچہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی طرف (حل مشکلات کے لئے) رجوع کیا کرتے اور مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ دیر کے لئے مقاطعہ بھی کیا تھا، لیکن یہ روایت یا یہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ حضرت حفصہؓ پھر اپنے خصوصی بنت عمر بن خطاب سے نکاح کیا۔ ابو داؤد میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دی، لیکن پھر رجوع فرمایا۔

حضرت زینب بنت خزیمہؓ ان کے بعد بنت ایک خاتون حضرت زینب بنت خزیمہؓ بن حارث قصیر سے نکاح فرمایا۔ آپ کے ہاں منتقل ہونے کے دو ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی۔

حضرت ام سلمہؓ پھر اپنے ام سلمہ بنت ابی امیر قرشیہ سے نکاح کیا۔ ابی امیر کا اصل نام حذیفہ بن مغیرہ تھا۔ حضرت ام سلمہ نے سب سے آخر میں وفات پائی۔ بعض کاغیاں ہے کہ حضرت صفیہ کی وفات سب سے آخر میں ہوئی۔ ان کے دلی نکاح میں اختلاف ہے طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کے ولی نکاح سلمۃ بن ابی سلمہ تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمۃ بن ابی سلمہ کے نکاح میں ولی بن کران کا امامہ بنت حمزہ سے نکاح کیا۔ تو فرمایا: "اے سلمۃ یہ اس بات کا بدله ہو گیا۔" آپ نے یہ اس لئے فرمایا تھا کہ یہونکہ ام المؤمنین حضرت ام سلمۃ کے نکاح میں ان کے سب گھروں میں سے صرف سلمۃ بن ابی سلمۃ ہی ولی نکاح ہوئے تھے۔ طبقات ابن سعد نے حضرت سلمۃ کے تذکرہ میں یہ واقعات ذکر کئے ہیں۔ واقدی نے ام سلمۃ کا بھی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ مجع بن یعقوب سعادہ انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمۃ سے منگنی کی پھران سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کا لڑکا عمر بن ابی سلمہ بہت چھوٹا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سند میں لکھا ہے کہ ہمیں عفان سے انہیں حاد بن ابی سلمۃ سے

د ہاتی حاشیہ) مکہ مصیح ہمیں کیونکہ تہمت لگانے والوں میں سے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت بھی تھے جن پر حد تذف بھی جامدی ہوئی مگر انہیں کوئی کافر نہیں مانتا (ریسیں احمد جفری)

انہیں ثابت سے روایت پہنچی اور انہوں نے فرمایا کہ جب انہوں نے ابو سلمہ کی عدت پوری کرنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ اتم سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اور عرض کیا کہ میں ایک پریشان حال اور مصیبت زدہ حالت ہوں اور میرا کوئی ولی موجود نہیں، ایزیہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عمر سے کہا کہ امتحن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھ تو اس نے آپ کا نکاح پڑھا۔ لیکن یہ روایت محل نظر ہے کیونکہ ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں عمر بن ابی سلمہ کی عمر نو برس تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے سچھہ شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور اس وقت ان کی عمر تین برس کی تھی۔ اور اتنی چھوٹی عمر کا بچہ ولی نکاح نہیں ہوا کرتا۔ ابن سعد اور دوسرے مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ روایت سنائی گئی تو فرمائے گئے کہ کون کہتا ہے کہ وہ (عمر بن ابی سلمہ) اُس وقت چھوٹے تھے؟ ابو الفرج بن جوزی نے اس مسلمہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاید امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول عمر بن ابی سلمہ کی اصل عمر معلوم ہو جانے سے قبل کا ہے۔ ابن سعد وغیرہ مورخین کی ایک جماعت نے بھی ان کی عمر ذکر کی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی نکاح عمر بن خطاب تھے۔ باقی رہی یہ بات کہ روایت میں ام سلمہ کے قُمْ یا اُمَّهَر (امہوائے عمر) کے الفاظ مذکور میں تو معلوم ہونا چاہیئے کہ عمر بن ابی سلمہ کے نسب میں لفظ "کعب" مشترک آجائے سے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کیونکہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد الغفرنی، بن رباح بن عبد اللہ بن قرظ، بن رواج بن عدی بن کعب اور ام سلمہ بنت ابی امیہ بن معیرہ بنت عبد اللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرۃ بن کعب دونوں روایتوں میں سلمہ نسب کعب پر ختم ہوتا ہے، تو جب ام سلمہ نے کہا قُمْ یا اُمَّهَر (اسے عمر اُمہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھاو) تو اس روایت کو دیکھ کر بعض محدثین کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے عمر کو بن ابی سلمہ سمجھ لیا۔ اور اس معنوی اشتباہ کی بنا پر محدثین نے اس طرح ذکر کر دیا "تو ام سلمہ نے اپنے بیٹے سے کہا"۔ حالانکہ اس فرضہ کی ادائیگی ان کی صفر سخی کے باعث محال تھی۔ اسی طرح یہ بھی فقہار کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف اس قول کو نسب کر دیا کہ ”اے لڑکے اُنھوں اور اپنی والدہ کا نکاح پڑھا۔“ ابو فرج بن جوزی نے کہا ہے کہ حدیث میں ہم نے یہ روایت کہیں نہیں پڑھی اور فرمایا کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ازدواج فرمایا ہوا گا۔ ورنہ اس وقت تو عمر بن ابی سلمتہ کی عمر صرف تین سال تھی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ میں نکاح کیا اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت عمر بن ابی سلمہ کی عمر نو سال تھی۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی نکاح کے بھی محتاج نہ تھے۔ ابن حثیل نے بتایا ہے کہ امام احمدؓ کے غاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ولی کی شرط نہ تھی اور یہ خصوصیاتِ نبویہ میں سے ہے۔

**زینب بنت جوش** | پھر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اسد بن خزیمہ کے

ایک عورت زینب بنت جوش سے نکاح فرمایا یہ آپ کی وجہی ایمیر کی لڑکی تھیں اور انہیں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔

فَلَمَّا قضَى زَيْدٌ مَتَهَا وَطَرَأَ عَزَّزٌ وَجَتَاهَا۔

یعنی، جب زید کی اس سے مطلب برآری ہو گئی تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب بنت امہات المؤمنین کے سامنے فخر یہ فرمایا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھروں نے کیا لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فرمایا۔ اور یہ ان کا خصوصی شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ای ان کا ولی نکاح تھا، جس نے رفتاد فلک پر سے ان کا نکاح کر دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ کے عہد خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی وفات ہوئی پہلے ان کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو مبتلى بنا لیا تھا۔ جب انہوں نے ملاقی دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح آپؓ سے فرمادیا۔ تاکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے مبتلى کی بیوی سے نکاح کر سکنے کی سہولت ہو جائے۔

حضرت جویر بنت حارثہ۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویر بنت

حارث بن ابی حنڑا مصطلقیہ سے بھی نکاح فرمایا۔ یہ بنی مصطلق کے قیدیوں میں آئی تھیں اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتابت کی رقم ادا کرنے کے لئے مددگاری درخواست کرنے حاضر ہوئی تھیں۔ آپ نے ان کی کتابت کی رقم ادا کر کے انہیں آزاد کرایا۔ اور جمالہ عقد میں لے لیا۔

حضرت ام حمیہؓ پھر آپ نے ام حمیہ سے نکاح کیا جن کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان صخر بن حرب قرشیہ اموریہ ہے۔ ایک روایت میں ان کا نام ہند بھی مذکور ہے بھرت کے دوران میں جب یہ جب شریہ میں تھیں تب ان کا نکاح آپ سے ہوا تھا۔ شاہ نجاشی نے چار سو دینار ان کا حق مہر خود ادا کیا تھا۔ وہاں سے مدینہ اٹیں یہ اپنے بھائی معاویہ کے عہد حکومت میں فوت ہو گئیں۔ اہل سیرا اور مورخین کے نزدیک یہ روایت متواتر و مشہور ہے ان کے خیال میں ان کے نکاح کی بھی صورت ہے، جس طرح حضرت خدیجہؓ کی کے میں حضرت حفصہؓ کی مدینہ میں اور حضرت صفیہؓ کی خبر کے بعد تھی۔ درہی حضرت عکرہؓ کی روایت کہ ابوسفیانؓ نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ میں آپ سے تین باتوں کی درخواست کرتا ہوں، جو آپ نے قبول فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ”میرے پاس عرب کی سب سے حسین عورت ام حمیہ ہے میں آپ سے اس کا نکاح کر دیتا ہوں“ یہ روایت قطعاً غلط ہے۔ ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے اور ابن جونی کہتے ہیں کہ یقیناً یقیناً اس روایت میں بعض راویوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور عکرہؓ بنت حمار متهم بالکذب ہے۔ کیونکہ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ام حمیہؓ عبداللہ بن جحش کی زوجیت میں تھیں۔ ان سے اولاد بھی ہوئی اور انہیں کے ہمراہ جب شریہ کی طرف بھرت کی یکین بعد میں ان کا خاؤند عیسائی ہو گیا۔ اور حضرت ام حمیہؓ اسلام پر قائم رہیں۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعہ ان کے لئے پیغام نکاح بھیجا، تو اس نے ان کا نکاح کر دیا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں چار سو دینار رقم مہر دی۔ یہ واقعہ شمعہ کا ہے ایک مرتبہ ابوسفیانؓ ان کے ہاں آئے، تو ام المؤمنین حضرت ام حمیہؓ نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پیٹ دیا۔ تاکہ اس پر ابوسفیانؓ نہ بیٹھ سکیں اور اس میں کوئی اختلاف

نہیں کہ ابوسفیانؓ اور معاویہؓؒ کو فتح مکہ کے موقع پر ساتھ ساتھ اسلام لائے۔ نیز روایت کے لفاظ یہ بھی ہیں کہ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں کفار سے جنگ کروں جس طرح کہ پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں ؟ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ! اور یہ یقین نہیں کہ آپؐ نے ابوسفیانؓؒ کو ضروری حکم دیا تھا، اس روایت پر کافی جرج بھی کی گئی ہے۔ اور اسناد میں بھی اختلاف ہے۔ نیز بعض سے منقول ہے: ”جمع روایت یہ ہے کہ آپؐ نے ان سے فتح مکہ کے بعد نکاح کیا یا، لیکن مغض موڑیں کے کہنے پر یہ روایت غلط قرار نہیں دی جاسکتی۔ اور جو فتن تاریخ سے پھر بھی واقعیت رکھتا ہو وہ بحث تا ہے کہ (تفقید) کا یہ انداز قطعاً غلط ہے۔ ایک جماعت اس خیال کی ہے کہ ابوسفیانؓؒ نے آپؐ سے دوبارہ نکاح کی درخواست کی تھی۔ تاکہ اسے قلمی فرحت حاصل ہو۔ کیونکہ آپؐ نے اس سے اجازت لئے بغیر نکاح کیا تھا۔ لیکن یہ روایت بھی لغو ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کا غلط گمان نہیں کیا جاسکتا اور ابوسفیانؓؒ جیسے عقل مند سے بھی یہ حرکت بعید از قیاس ہے۔ امام بیہقیؓ اور امام منذر ریشیؓ نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابوسفیانؓؒ نے مدینہ کے اس سفر میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہو، جب کہ اسے ام جبیرؓؒ کے شوہر کی جیش میں وفات کی اخلاق علی ہو۔ توجہ محدثین کو ”قتل کفار اور اپنے بیٹے کو کاتب و حج بنانے“ کی روایت میں تو انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ دونوں درخواستیں فتح مکہ کے بعد کی گئیں۔ اس لئے راوی نے تینوں باتوں کو ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا۔ اس روایت میں اس قدر شدید اشکالات ہیں کہ جو خارج از بحث ہیں۔ محدثین کے ایک گروہ نے اس حدیث کی ایک اور طریقہ سے بھی وضاحت کی ہے کہ اس سے مرد یہ ہے کہ (ابوسفیانؓؒ نے درخواست کی) میں اس سے قبل اگرچہ ام جبیرؓؒ سے آپؐ کے نکاح پر راضی نہ تھا، لیکن اب راضی ہوں۔ بلکہ درخواست کرتا ہوتا کہ ان سے نکاح فرماں اس قسم کی وضاحت کتابوں اور اوراق تاریخ میں نہیں ملتی اور اکابر سے مردی ہے اس قسم کی روایات کو درخواستنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ سینوں کے خزینے نہیں بلکہ غلط مرویات ہیں۔

ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ جب ابوسفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ابلاز میں افواہ سنی کر آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے تو مدینہ حاضر ہوا اور یہ سمجھتے ہوئے درخواست کی کر آپ نے باقیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی طلاق دے دی۔ حالانکہ یہ بھی مذکورہ روایت کی طرح غلط ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ حدیث تو تصحیک ہے لیکن کسی راوی سے ام جبیہ کے نام لینے میں التباس ہو گیا ہے بلکہ ابوسفیان نے ان کی بہن رملۃ سے نکاح کی درخواست کی اور یہ تو کسی سے بھی تخفی نہیں کرو وہ انہوں کو بہ یک وقت زوجیت میں رکھنا حرام ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کی بیٹی کی نظروں سے اوچھل ہو۔ حالانکہ وہ ابوسفیان سے بھی زیادہ عالم تھیں اور یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کیا آپ میری بہن اور ابوسفیان کی بیٹی کو چاہتے ہیں؟ اور آپ نے جواب دیا، تمہاری ملاد کیا ہے؟ تو عرض کیا، کیا آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم بھی چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں آپ سے علیحدہ تھیں ہونا چاہتی۔ البته میں چاہتی ہوں کہ اس نیکی میں میری ہمشیرہ بھی شرک ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں۔“

اصل واقعہ یہ تھا اور یہی ابوسفیان کی درخواست ہو سکتی تھی، مگر راوی نے غلط فہمی سے ام جبیہ کا نام روایت کر دیا۔ ایک روایت میں ان کی کنیت بھی ام جبیہ آتی ہے۔ اگر یہ الفاظ حدیث میں نہ بھی ہوں تو بھی یہ جواب زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔

نیز ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیانؓ کی ہر درخواست قبول کی۔“ یہ مذکورہ الفاظ بھی راوی سے اُسے سہواً روایت ہوتے۔ کیونکہ آپ نے بعض درخواستیں ہی قبول فرمائیں راوی کے یہ الفاظ کہ آپ نے اُسے جو ماٹگا دیا۔“ ان کا یہ مطلب ہے کہ جو مناسب تھا ویا یا راوی نے معاطیب کے ذہن کے مطابق ہی بات کہہ دی کہ جو درخواست تھی قبول فرمائی۔  
اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔

حضرت صفیہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برادران موسیٰ اولاد ہارون بن علیان اور نبی نصیر (یہودا کے سردار) بن رخطب کی لڑکی حضرت صفیہؓ صنی اللہ عنہا سے نکاح کیا یہ

خاتون (الزدہ قومیت) نبی کی بیٹی تھیں اور نبی، ہی کی زوجہ بنتیں۔ اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ حسین تھیں، یہ باندی بنا لی گئیں آپ نے انہیں آزاد کرایا۔ اور یہ عتق (رقم آزادی) ہے نہ قرار پائی۔

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل امت کے لئے سنت قرار دیا گیا کہ ایک آدمی اپنی بونڈی کو آزاد کرے۔ اور بعد میں نکاح کرنا پاہے تو آزاد کرنے (عتق) ہی کو مہر سمجھے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے گر میں نے اپنی بونڈی کو آزاد کیا اور اس کا عتق ہی مہر قرار دیا۔ یا یوں کہے کہ "میں نے اپنی بونڈی کے عتق کو مہر نکاح سمجھا۔" تو عتق اور نکاح دونوں درست ہو گئے اور اب یہ بونڈی تجدید نکاح اور ولی کے بغیر ہی اس کی زوجہ بن جائے گی۔ اکثر محدثین کا یہی مسلک ہے، لیکن بعض علمائے کرام کہتے ہیں کہ یہ طریقہ (نکاح) آپ، ہی کے ساتھ مختص تھا۔ اور یہ آپ کے خصوصیات میں سے ہے جو امت کے لئے نہیں۔ تینوں اگر کا یہی مسلک ہے، لیکن پہلا قول زیادہ درست ہے کیونکہ مسلمہ کی اصل نوعیت عدم اختصاص کی ہے۔ جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دہ ام المؤمنین سے نکاح کا حکم دیا، تو فرمایا،

خالصہ لکھ من دون المؤمنین

یعنی "صرف تمہارے لئے دوسرے مسلمانوں کے لئے نہیں"

اور یہ نہیں فرمایا کہ عتق (آزاد کرنے) کی وجہ سے! اور نہ آپ نے اس میں امت کے سہولت کا ذکر فرمایا، بلکہ امت کی سہولت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے مبنی کی مطلقاً زوجہ سے نکاح کی اجازت دی تاکہ امت پر اپنے مبنی کی ملکوحت سے نکاح کی اسافی ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ نے کوئی نکاح کیا تو اس میں امت کو بھی سہولت ہوئی۔ ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم نفس قطعی سے آپ کے تخصیص کردے تو پھر اس کی مجموعت ختم ہو جائے گی۔ اس کی مزید تفصیلات اس کو جب ت قرار دینا اور اس سے قیاساً سماں کا انساط کسی دوسرے مقام پر واضح کیے جائیں گے

حضرت میمونہؓ آپ نے میمونہ بنت حارث ہلادا سے نکاح کیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں۔ سب سے آخر میں آپ نے مکہ میں عمرہ ادا کرنے اور احرام آثار دینے کے بعد ان سے نکاح کیا۔ ابن عباس کا ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے احرام اتنا نے سے قبل ہی نکاح کیا، لیکن یہ قول (اگر صحیح ہے) تو راویؓ کی فرمی ہوئی ہے کہ یونہ ابو رافعؓ جو اس نکاح کا اصل سبب تھے۔ وہ اس واقعہ سے زیادہ آگاہ ہیں اور ان کا قول یہ ہے کہ آپ نے احرام اتنا نے کے بعد نکاح کیا اور حضرت ابو رافعؓ نے فرمایا کہ میں ان دونوں میں پیغام رسائی تھا۔ نیز حضرت ابن عباسؓ کی عمر اس وقت صرف دس سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی اور وہ موقع پر موجود بھی نہ تھے بلکہ غیر حاضر تھے۔ اور ابو رافعؓ پابن تھے اور انہی کے ہاتھوں یہ کام مکمل ہوا۔ اور وہ دوسروں کی نسبت اس واقعہ سے زیادہ ہاخت بر تھے اور یہ تو اظہر من الشس ہے کہ حضرت ابو رافعؓ کے قول ہی کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

حضرت میمونہؓ نے حضرت معاویہؓ کے عہدِ حکومت میں وفات پائی اور مقامِ سرف میں دفن ہوئیں۔

حضرت ریحانہؓ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ریحانہؓ بنت زید نظر یہ بھی از واج مطہرات میں سے تھیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مخراذکر قرطی خاتون تھیں جو بنی قریظہ کے فیصلہ کے دن گرفتار ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورؓ میں اُمیں۔ آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ لیکن پھر ایک طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد رجوع فرمایا۔ محمد بن کا ایک گروہ ان کو آپؓ کی باندی بتاتا ہے کہ یہ حضورؓ کی آزاد اور مو طوہ تھیں ॥ چنانچہ اس وجہ سے ان کو از واج مطہرات سے نہیں بلکہ حاریہ سمجھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

یہ وہ خواتین ہیں، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ لیکن پھر ایسی خواتین بھی کتب میں مذکور ہیں کہ جن کو آپؓ نے پیغام نکاح بھیجا یا انہوں نے خود کو زوجیت کے لئے پیش کیا۔ لیکن آپؓ نے انکا فرمادیا اور نکاح نہ ہو سکا۔ ان کی تعداد چار یا پانچ ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد تیس ہے۔ لیکن اہل سیرہ صفات کی تحقیق کے مطابق یہ مخراذکر روایت غلط ہے۔

نیز یہ قول بھی مشہور ہے کہ آپ نے جو نبیہ کو پیغام نکاح دیا۔ اس کے باہم آپ تشریف گئے اور پیغام دیا، لیکن اس نے معدودت چاہی۔ آپ نے معدودت قبول فرمائی۔ اسی طرح کلبیہ اور اُس عورت کا واقعہ ہے کہ جس کے جسم پر آپ نے سفیدی دیکھی۔ نیز جس نے اپنے آپ کو زوجیت کے لئے خود پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ قرآن کی چند سورتیں سکھانے کے مہر پر نکاح کر دیا۔ یہ واقعات ہیں۔ باقی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی نوازد واج مطہرات زندہ تھیں، جن میں سے آٹھ کی باری بھی مقرر تھی اور ان کے نام حسب ذیل ہیں:-

حضرت عائشہؓ، حضرت حفظہؓ، حضرت زینبؓ بنت جوش، حضرت ام سلمةؓ، حضرت صفیہؓ، حضرت ام جعیہؓ، حضرت میمونہؓ، حضرت سودۃؓ، حضرت جو مریدہؓ ۶۲ شہر بر عہد یزید حضرت سلمةؓ نے وفات پائی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریہ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار جاریہ تھیں۔

حضرت ماریمؓ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔

حضرت ریحانہؓ، حضرت جمیلہؓ، یہ بھی جاریہ تھیں جو گرفتار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی تھیں۔

ایک اور جاریہ ان کے علاوہ حضرت زینب بنت جوش تے بھی ایک نوٹی سے پیشی خدمت کی تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان میں سے ایک حضرت زید بن حارث بن خلائل تھے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک حضرت زید بن حارث بن خلائل تھے۔ ان کو آپ نے آزاد کرایا اور امام ایمینؓ سے نکاح بھی کر دیا، جن سے حضرت اسامة بن زید پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت اسلام، ابو رافعؓ ثوبان، ابو کعبہ سلیم، بن نقران جس

کا نام صالح ہے۔ رباح نبی، یسار نبی جو جنگ حنفیہ میں قتل ہوئے مدعی، کرکرہ نبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخت سفر کے محافظ تھے۔ اور غزوہ خیبر میں انہوں نے آپ کے ناقہ کی ہمار ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ بخاریؓ کی روایت کے مطابق نبی ایسا غلام جس نے ایک غزوہ کے موقع پر چادر چپائی تھی۔ جب یہ تعالیٰ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر اس پر آگ بن کر جعل رہی ہے، لیکن محظا میں روایت ہے کہ جس نے چادر چپائی تھی۔ اس کا نام مدعی ہے، اور یہ دونوں غزوہ خیبر میں مارے گئے تھے۔

ان کے علاوہ آپ کے غلام انجشہ، حاوی۔

سفیہہ بن فروخؓ، جس کا اصل نام مہران ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیہہ طہان کا خطاب دے رکھا تھا۔ کیونکہ یہ آپ کا سامان سفر اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ”تو جہاز ہے“ ابوجاثمؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن دوسرے حضرات کا قول ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے انہیں آزاد کیا تھا۔

ان کے علاوہ انیسہ جن کی کنیت ابو مشروح تھی۔

فلح، عبیدۃ، طہان اور ایک روایت میں ان کا نام کینان بھی آتا ہے۔ نیز ذکوان،  
مہران اور مروان بھی آپ کے غلام تھے۔

بعض اقوال میں طہان کے نام سے متعلق اختلاف بھی آتا ہے ان کے علاوہ جنیث،  
سندر، فضالہ بھینی، مابو خڑی، واقد، ابو واقد، قسام، ابو عسیب اور ابو موسیہ بھیر بھی آپ کے غلام تھے اور باندیلوں میں سے سلمی، ام رافع، میمونہ بنت سعد، خضیرہ، رضوی، ریشخہ ام ضمیر، میمونہ بنت ابو عسیب، اماریہ اور بیجانہ کا تذکرہ ملتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام [ان میں]۔

آنحضرت انس بن مالک تھے، جن کے سپرد آپ کے عام اصول تھے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ جن کے پاس آپ کی نعلیین بارک اور مسوک راتی تھی۔ عقبہ بن عامر جہنمی جو سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر کی گلام تھا رہتے۔ اور اسلم بن شریک جو آپ کے رفیق سفر رہتے تھے۔

حضرت بلالؓ بن رباع مودن تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سعدؓ دو نوں پہلے حضرت ابو بکر کے غلام تھے۔ علاوہ اذیں حضرت ابوذر غفاریؓ، امین بن عبید اور ان کی والدہ حضرت ام امینؓ جو آپ کی باندی تھیں۔ یہ سب آپ کے خدام میں شامل تھے۔

حضرت امینؓ بن عبید اور ان کی والدہ ام امین کے ذمہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجوہ وظہارت کی خدمت تھی۔

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان و حجی** [ان کے نام حسب فرمیل ہیں؛  
ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، زیرؓ، عامر بن فہرؓ۔]

عمرو بن العاصؓ۔ ابی بن کعبؓ، عبد اللہ بن ارقم، ثابتؓ بن قیس بن شناس بن خنفلةؓ بن ریبع اسدی۔ مثیرؓ بن شعبہ، عبد اللہ بن رواحد، خالد بن ولید، خالد بن سعید، بن العاص۔ روایت ہے کہ آپ کے پہلے کاتب معاویہؓ بن ابوسفیان اور زریلؓ بن ثابت تھے۔ اور کثر مہی و نوں حضرات اس فریضہ کو سرانجام دینے کے لئے مخصوص تھے۔

**آن حضرت کے مکاتیب و خطوط** [ایک مکتوب صدقات کے متعلق تھا۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا اور حضرت ابو بکرؓ ہی نے حضرت انسؓ بن مالک کے لئے لکھا۔ جب انہیں بھرمن بھیجا گیا تھا۔ اس مکتوب پر مجہود مسلمانوں کا حمل بھی ہے۔]

ایک مکتوب آنحضرت نے اہل بیت کو ارسال فرمایا۔ یہ مکتوب ہے کہ جس کے متعلق ابو بکر بن عمرو بن حزم نے اپنے والد سے اور انہوں نے دوسرے روایت کی ہے اور اسے امام حاکمؓ نے اپنی صحیح مسند میں اور امام نسائی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے، ابو داؤد وغیرہ نے مرسل روایت ذکر کی ہے یہ ایک طویل مکتوب ہے جس میں فقر کے مختلف مسائل، بکفہ ذہیت اور احکام سے متعلق مذکور تھے۔ نیز کمار، طلاق، عنت، ایک پارچہ میں احکام نماز اور سے

لپیٹنا اور مس قرآن پاک وغیرہ تفصیل سے ذکر فرمائے تھے۔  
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوب  
حجرہ فرمایا اسی سے بعد کے فتحاء نے دیات کی مقداریں تعین کی ہیں۔  
نیز آپ نے نبی زہیر کی جانب ایک مکتوب بھیجا۔  
اس کے علاوہ ایک مکتوب حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس تھا، جس میں زکوٰۃ وغیرہ کے  
مسئل درج تھے۔

سلامن و ملوک کی طرف آپ کے نامے | جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ  
سے فارغ ہو کر واپس مدینہ تشریف  
لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان کے ہاں اپنے نامہ برداشت  
فرمائے۔ اس طرح آپ نے شاہِ روم کو ایک مکتوب ارسال فرمایا، آپ سے عرض کیا گیا کہ  
جب تک خلٰ پر مہر نہ ہوا س وقت تک یہ لوگ خطوط نہیں پڑھا کرتے تو آپ نے ایک  
سوئے کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر تین سطریں کندہ کروائیں۔ محمد ایک سطر، رسول ایک سطر  
اور اللہ ایک سطر تھی۔ مکتوبات کے آخر میں یہی مہر لگایا کرتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہِ روم کو ایک ہی دن چھاؤ میوں کو نامہ بھیجا۔  
سب سے پہلے عمر بن امیہ ضمیری کو شاہِ نجاشی کی طرف روانہ کیا۔ ان کا اصل نام صحبۃ  
بن ابھر مذکور ہے۔ عربی زبان میں صحبۃ کے معنی "عطیہ" ہوتے ہیں۔

شاہِ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب تشریف کی خوب تکریم کی، اسلام قبول  
کیا اور کلمہ حق کی شہادت دی اور وہ (شاہِ نجاشی) انجلیں کا سب سے زیادہ عالم تھا۔ جس دن  
شاہِ نجاشی قوت ہوا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی  
محمدین کی ایک جماعت نے جن میں واقدی بھی شامل ہیں ملہی روایت کی ہے۔

لیکن واقعات اس طرح نہ تھے، کیونکہ شاہِ نجاشی، جس کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ  
پڑھی تھی، یہ وہ نہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب رسال فرمایا تھا۔ مکتوب الیہ تو وصال  
دوسراتھا، جس کے اسلام کا کچھ علم نہیں۔ یہ دراصل پہلا شاہِ نجاشی تھا۔ جو حالت اسلام

میں فوت ہوا۔

مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فے کسری، قیصر اور نجاشی کو خطوط لکھے اور یہ وہ نجاشی نہ تھا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فے جنازہ پڑھا۔ ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ جس نجاشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فے نامہ مبارک ارسال فرمایا تھا اس کے نام پر خط لے کر عمرو بن امیہ تعمیری گئے تھے۔ یہ نجاشی مسلمان نہیں ہوا۔ پہلا قول ابن سعد وغیرہ کا ہے اور دوسرا قول ابن حزم کا ہے۔

نیز آپؐ نے وحیہ بن خلیفہ کلمی کو قیصر شاہ روم کی طرف بھیجا۔ اس کا اصل نام ہرقل تھا اس نے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ لیکن پھر اس کا ارادہ فتح ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق اسلام قبول بھی کیا لیکن یہ قول غلط ہے۔ ابو حاتم اور ابن حبان نے حضرت انسؓ بن مالک سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا۔

”جو ہمارا یہ مکتوب قیصر کو پہنچا دے وہ جنت کا سزاوار ہو گا“

ایک آدمی نے عرض کیا ”خواہ و د اسلام، قبول نہ بھی کرے؟“

آپؐ نے فرمایا ”ہاں، اگر وہ قبول نہ بھی کرے؟“

وہ قیصر سے ملا، جب وہ بیت المقدس جا رہا تھا اس نے مکتوب فرش پر مچینیک دیا اور ایک طرف مچپ گیا۔ قیصر نے آواز دی کہ ”جو پر خط لایا ہے اسے امان ہے۔“ اس آدمی نے کہا ”میں لایا ہوں۔“ قیصر نے کہا کہ جب میں واپس آؤں تو ملنا۔ چنانچہ قیصر کی واپسی پر آپؐ کا نامہ برائے ملا۔ قیصر نے محل کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ آخر دروازے بند کرنے لئے گئے۔ پھر ایک منادی سے کہا کہ آواز دے دو کہ قیصر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا اور عیسائیت پھوٹ دی۔ اس آواز کے بعد اس کی مسليخ فوج دوبار میں گھس آئی، تو قیصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ بر سے کہا۔

”تم دیکھ پکے ہو کہ مجھے اپنی حکومت مچھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔“

پھر اس نے منادی سے کہا کہ اعلان کر دو کہ قیصر تم لوگوں کے دین پر راضی ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں اسلام لے آیا، اور آپؐ کی خدمت میں ویناروں کی

تسلیل مسیحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے دشمن نے محبوث کیا، وہ مسلمان نہیں، بلکہ عیسائی ہے اور دنیاروں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کے علاوہ عبد اللہ بن حداقة سہی کو کسری کی طرف بھیجا۔ اس کا نام پرویز بن ہمز بن نوشیروان تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ باکپ چاک کر دالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔

”اے اللہ! اس کے ملک کو تکڑے تکڑے کر دے؟“

پھر اللہ فے اس کے ملک اور اس کی قوم کو پارہ پارہ کر دیا۔

آپ نے حافظ بن ابی بلقہ کو موقوتش کی طرف روانہ فرمایا۔ اس کا نامہ جرجیہ بن میہنا شاہ اسکندر یہ تھا۔ یہ قبطیوں کا سردار تھا۔ اس نے جواب دیا۔ ”بہت خوب، اور اب وقت آپنچا ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لونڈی ماری یہ اور اس کی دو ہنزوں سیرین اور قیسری کو بھیجا۔ آپ نے سیرین حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمادی۔

نیزاں نے ایک اور لونڈی، ایک ہزار مشقال سونا، بسیں قبطی جوڑے، ایک سفید نچپڑو دلن کے نام سے مشہور ہے۔ ایک سفید گدھا جیسے عغیر کیا جاتا تھا۔ ایک خصی غلام جس کا نام ما بور تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ غلام ماریہ کے چھاپ کا رڑا کا تھا۔ ایک گھوڑا جو لڑاکے نام سے مشہور تھا۔ ایک شیدشہ کا پالرہ اور شہید یہ چیزیں خدمتِ اقدس میں روانہ کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدا کیا ”اس بدجنت نے اپنی حکومت پر بخل کیا۔ حالانکہ اس کی سلطنتِ دنیا، کوہقا نہیں ہے۔ نیز شجاع بن وہب اسدی کو بغاوے کے حکمران حارث بن ابی شرف نسٹانی کی جانب روانہ فرمایا۔

امتنق واقدی نے فرمایا کہ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ جبلہ بن ابہم کی طرف بھیجا۔ ایک روایت کے مطابق دلوں کی طرف اور ایک روایت کے مطابق اسے وحیہن خلیفہ کے ساتھ ہرقل کی طرف بھیجا۔

آپ نے سلیط بن عمرو کو ہوذہ بن علی حنفی کی طرف ایماصر میں بھیجا اس نے نامہ برکی خوب

تکھیریم کی -

ایک قول کے مطابق آپ نے ہوڑہ اور شامہ بن آٹاں خفی کی طرف نامہ برسیجا ہوڑہ نے تو اسلام قبول نہیں کیا البتہ ثماہدہ اسلام لے آیا۔

غرض یہ چھ حکمران تھے۔ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں نامے لکھے۔ اور شہر ذی قعدہ کے ہمینہ میں عموں بن عاص کو شاہ عمان کے دونوں رکنوں جیسا رفعہ عبد اللہ کے پاس بھیجا گیا۔ یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ آپ کی رسالت کی تصدیق کی اور عموں بن عاص وہیں صدقہ کی رقم جمع کرنے ملھر گئے۔ یہ صحابی وہیں تھے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی۔

نیز آپ نے جہرانہ سے والپسی سے قبل ہی علاء بن حضرت کو منذر بن ساوی عبدی شاہ بحرین کے پاس بھیجا۔

ایک روایت کے مطابق فتح مکہ سے قبل ہی خط لکھا۔ پھر یہ مسلمان ہو گیا۔ اور تصدیق کئے۔

آپ نے مہاجر بن ابی امیہ مخزوں کوین میں حرثت، ابن عبد کلال جیروی کی طرف بھیجا۔ اس نے جواب دیا میں غور کروں گا۔

نیز غزوہ تیوک سے والپسی پر ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو بھی میں کی طرف بھیجا۔ ایک روایت کے مطابق شاہر میں ان حضرات کو اسلام کی تبلیغ کے لئے بھیجا تو وہاں کے اکثر لوگ بے لڑے بھرپڑے مسلمان ہو گئے۔

اس کے بعد علی بن ابی طالب کو وہاں بھیجا اور کتم میں ججۃ الوداع کے موقع پر ملاقات فرمائے۔

ان کے علاوہ آپ نے جریر بن عبد اللہ بجلی کو ذی کلاع جیروی اور ذی عمر کی طرف روانہ فرمایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جریر ابھی وہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔

آپ نے عمر بن امیہ کو سیدکہ کذاب کے پاس ایک خط دے کر روانہ فرمایا۔ نیز

سائب بن عوام برادر نبی کے ہاتھ بھی اسے خط بھیجا۔ لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ حزوہ بن عمرو جدائی کے پاس بھی اسلام کے لئے دعوت نامہ بھیجا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی طرف دعوت نامہ نہیں بھیجا۔ فروہ معان میں قیصر کی طرف سے گورنر تھا ہبہ مسلمان ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کا عرض نہ ارسال کیا اور مسعود بن سعد کے ہاتھ ایک سفید خپڑ کا ہدیہ پیش کیا، جو فضلہ کے نام سے مشہور ہے۔ نیز ایک "ضرب" نام کا گھوڑا اور ایک گدھ اجس کا نام یغفور تھا پیش خدمت کیا۔ محمد بن کے ایک گرد کی یہی حقیق ہے۔ عفیر اور یغفور دنوں کا ایک ہی مطلب ہے صرف فرق اتنا ہے کہ عفیر یغفور کی تصرفی ہے، مزید برآں کچھ پارچہ جماعت۔ ایک سہری کڑھی ہوئی قبا بھی ارسال خدمت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایا قبول فرمائے اور حضرت مسعود بن سعد کو بارہ اوقیاہ محنت فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ نے عیاش بن ابی ربیعہ حمزہ وی کو ایک نامہ دے کر قبیلہ حمیر کے سرداران حارث، اسرار و حمزہ بن عبد کلال کی طرف ارسال فرمایا۔

**آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن** [آنحضرت کے چار مؤذن تھے۔ دو مدینہ منورہ میں ایک بلاں بن رباح، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب سے پہلے اذان دی۔ دوسرے تابعیاً صحابی حضرت عمرو بن ام مکنون قرشی عامری تھے تیسرے مسجد قباء میں حضرت سعد قرط جو حضرت عمر بن یا مسر کے غلام تھے۔ چوتھے مکہ میں ابو مخدوش مؤذن مقرر تھے، جن کا اصل نام اوس بن مغیرہ بھی تھا۔ ابو مخدوش اذان میں رجعت فرمایا کرتے اور اقامت کو دو دو بار کہتے۔ اور حضرت بلاں اذان میں رجعت نہ فرمایا کہتے اور اقامت کے الفاظ ایک ایک بار پڑھا کرتے۔ چنانچہ اہل مکہ اور امام شافعیؒ نے ابو مخدوش کی اذان اور حضرت بلاںؓ کی اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو حنیفہ اہل عراق نے حضرت بلاںؓ کی اذان اور ابو مخدوش کی اقامت اختیار کر لی۔ امام احمد و دیگر اہل ظاہر محمد بن شیخ و اہل مدینہ نے حضرت بلاںؓ کی اذان و اقامت دنوں اختیار کر لیں۔ اور امام مالکؓ نے دو مقامات پر اعادہ بکیر کی اور الفاظ اقامت کو دو دبار پڑھنے کی مخالفت کی۔ وہ ان کی تکرار نہیں کرتے۔

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حکام** [ایک باذان بن ساسان تھے جو ہرام کے لڑکے

تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری کی موت کے بعد ان کو تمام اہل بین کا حاکم مقرر فرمایا۔ یہ میں کے پہلے حاکم تھے۔ جو عہد اسلام میں متعین کئے گئے اور شاہان عجم میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ باذان کی وفات کے بعد آپ نے ان کے لڑکے شہر بن باذان کو ضم کا حاکم مقرر فرمایا۔ شہر بن باذان کو بعد میں قتل کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سعید بن العاص کو صنعاۃ بھیجا اور مہاجر بن ابی اسیہ مخزومی کو کندہ اور صوف کا حاکم بناؤیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور کوئی تیسی فوج روانہ نہ ہوئی۔

بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتد قبائل کے خلاف فوج روانہ فرمائی تھی زیاد بن اسیہ انصاری کو حضرت موت کا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو زبید، عدن، نزع اور سام کا حضرت معاف بن جبل کو جنڈ کا، حضرت ابو سفیانؓ کو بخزان کا۔ نیزان کے بیٹے یزید کو سیما کا حاکم مقرر کر دیا۔ علاوہ اُنہیں عتاب بن اسید کو سکھ کا اور موسیٰ مج میں امور اہل اسلام کا ناظم مقرر فرمایا۔ نیز حضرت علیؓ بن اہل طالب کو میں میں خمس اکٹھا کرنے نے پر مأمور کیا اور عہد قضایہ متعین کر دیا۔ حضرت عمر بن العاص کو عمان اور اس کے گرد و نواح کا حاکم مقرر کیا، صدقات وصول کرنے کے لئے صاحبہ کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا۔ کیونکہ ہر قبیلہ اور خاندان ہی میں سے آدمی مقرر کیا جاسکتا تھا۔ جوان سے صدقات کی رقم وصول اور تجمع کر سکے۔ اسی باعث صدقات جمع کرنے کے لئے کثیر تعداد میں لوگ رکھے گئے۔ حضرت ابو بکرؓ کو شہر حمیں مج کی اقامات پر مأمور فرمایا۔ پھر بعد میں حضرت علیؓ کو روانہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو سورہ براءۃ پڑھ کر سنا میں (احکام مج بتائیں)، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی آیات حضرت ابو بکرؓ کی مدینہ کی غیر حاضری میں نازل ہوئی تھیں۔ دوسری سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل عرب اہل خانہ کے سوا اغیار کی بات پر مکمل اعتماد نہ کرتے تھے۔ چنانچہ علیؓ کو بھیجا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو حضرت ابو بکرؓ کا معاون اور مساعد بنائ کر روانہ فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا۔ کشمیر ہو یا مأمور تو حضرت علیؓ نے جواب دیا کہ میں مأمور ہوں اور اپنی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کو معزول کر کے حضرت علیؓ کو امیر بناؤ یا گیا۔ یہ محض اس فرقہ کی بہتان تراشی اور اختراض ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ ذی الحج یا ذی القعده کے ہمینہ میں پیش ہایا۔

دونوں اقوال میں اختلاف بعض نسیان کے سبب سے ہوا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ صاحبہ غزوہ پدر میں مقام عریش پر جب نبی صلی اللہ علیہ تے آنام فرمایا تو سعد بن معاذ آپ کے پھر خار مقرر ہوئے۔

غزوہ احمد میں محمد بن سلمہ آپ کے نگران تھے۔

غزوہ خندق میں حضرت زبیر بن عوام کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ نیز حضرت عباد بن بشر بھی آپ کے حارس تھے۔

ان کے علاوہ کئی دوسرے صحابہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ بنے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكُم مِّنَ النَّاسِ۔

یعنی ”اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا“

آپ نے لوگوں کو یہ حکم سنایا اور عام پھرہ جو کی ہنا دیا۔

بعض صحابہؓ کی دوسری ذمہ واریاں اسی حضرات کے اسائے گرامی جو مجرموں اور شنگوں کو سزاۓ قصاص دیتے تھے یہ ہیں۔

علیؓ بن طالب، زبیر بن عوام، مقداد بن عمرو، محمد بن سلمہ، عاصم بن ثابت، ابن ابی فلح، خاکش بن سفیان کلابی، حضرت قیمؓ بن سعد عبادۃ انصاری بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں شامل تھے۔ یوم حدیبیہ کے موقع پر عثیرہ بن شعبہ آپ کے پیش پشت تجوہ کے کھڑے تھے آپ کے ذاتی امور کے منظم میقیبؓ کے پاس مہر ہوتی تھی مسوک اور نعلین مبارک حضرت ابن مسعودؓ کے پاس رہتی تھیں۔ نیز ربانی اسود آپ کی بونڈی انیسہ، انس بن مالک اور حضرت ابو موسیؓ اشعری کے ذمہ بھی پھر انتظامات تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر حضرت کعبہؓ بن مالک، عبد اللہ بن رواجہ اور حضرت حسانؓ بن ثابت اخنحضرت کے

شعراء تھے، جو اسلام کی طرف سے دفاع کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت اور کعبہ بن مالک کفار کے مقابلہ میں بہت سخت تھے۔ انہیں کفر و شرک پر عارد لاتے تھے۔ آپ کے خلیب ثابت بن قفیس بن شہاس تھے۔

**حالت سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی خواں** [ان حضرات کے نام یہ ہیں۔ عبد اللہ بن رواخر، آنحضرت، عاصم بن اکویع ان

کے چھا سلمتہ بن اکویع۔]

صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت خوش آواز حدی خواں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راس کی خوش آواز پر فرمایا:-  
اسے آنحضرت فدا آہستہ، آگینے نہ توڑ دینا!  
یعنی، کمزود عورتوں کا خیال رکھو!

**آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، وفواد اور سرایا** [آپ کے تمام غزوات، وفواد اور فوجی ہجات،

ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اقامت پذیر ہونے کے بعد صرف دس سال کی مدت میں ہی ہوئیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تعداد ستائیں ہے۔ پچھلی اور انتیہ میں کے روایات بھی ملتی ہیں۔ اس سے کم و بیش تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔

نحو غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بن قرۃۃ غزوہ بنو مطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے غزوہ بنی نضیر، غزوہ نعابر اور خیبر کے قریب، وادی قری کے جہاد میں شرکت فرمائی۔ رہے آپ کے وفواد اور چھوٹے چھوٹے جملے تو وہ سالہ کے قریب ہیں۔ لیکن بڑے بڑے غزوات سات ہی ہوئے غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک اور فتح مکہ انہیں غزوات کے متعلق آیا تے قرآن مجید نازل ہوئیں۔

سورہ انفال کی آیات، غزوہ پدر کے متعلق، سورہ آل عمران کی آخری آیات غزوہ احد کے متعلق نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَإِذَا غَزَّ وَتَمَنَّ مِنْ أَهْلَكَ تَبَوَّئَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْمُقَاتَلَةِ ۚ

اور غزوہ خندق و بنو قریظہ اور خیبر کے متعلق سورہ احزاب کی ابتدائی آیات نازل فرانی گئیں۔ نیز سورہ حشر میں غزوہ بنی نضیر کے متعلق فرمایا گیا۔ صلح حدیثیہ اور فتح خیبر کے متعلق سورہ فتح میں آیات اُتریں اور ان آیات میں فتح امکر، کی خوشخبری دی گئی۔ اور سورہ نصر میں تو مرتبتاً فتح کا ذکر فرمادیا۔ نیز غزوہ احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں ملاجکہ نے بھی جنگ میں مشکلت کی۔ غزوہ خندق میں فرشتوں کا نزول ہوا، جنہیں دیکھ کر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور بری طرح شکست کا کر بھاگے اور اس غزوہ میں کافروں کے منہ پر فرشتوں نے پتھر مارے۔ اس حرب ذیل ہو کر انہیں بھاگنا پڑا۔

غزوہ بدر اور حنین میں بڑی شاندار فتح حاصل ہوئی۔ غزوہ طائف میں آپ نے منہجیق بھی استعمال کیا۔ غزوہ احزاب میں حضرت سلامان فارسی کے مشورہ پر خندق کھوکر دفاع فرمایا۔ آپ کے سلاح جنگ اور سامان اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو تکواریں تھیں ایک کا نام ما ثور تھا، جو آپ کو والدین کی طرف سے دراثت آٹھی تھی۔ دوسرا عصب تیری ذوالقدر اور دفا کو مسح اور ق کو منصوب پڑھا جائے گا) جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے اور کسی وقت بھی اگر نہ کرتے تھے۔ اس تکوار کا دستہ اور دیگر تمام نوازیات چاندی کے تھے۔

ان کے علاوہ آپ کے پاس قلعی، بتار، حنف، دسوب، نجذم، قضیب نام کی تکواریں بھی تھیں۔ موخر الذکر کی نعل سیف چاندی کی تھی۔ ان کے علاوہ اس کا حلقة بھی چاندی کا تھا۔ ذوالقدر اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں ملی جسے آپ نے رویا میں ملاختہ فرمایا تھا جس دون آپ کمکر میں داخل ہوئے تو آپ کی اس تکوار پر نظری اور طلاقی کام تھا۔

# آنحضرتؐ کے سکاچ جنگ اور آپؐ کا اثاثہ

## ذات نبویؐ کے املاک کی ضروری تفصیلات

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سات زرد ہیں تھیں۔

ایک ذات الفضول جسے آپؐ نے ابو شنم ہبودی کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے صارع جو سے کر رہا تھا۔ یہ قرض ایک سال کے لیے لیا گیا تھا اور یہ زردہ لوہے کی تھی۔ اس کے علاوہ ذات الوشاح، ذات الاحواشی، سعدیہ، فضہ، بتراء و خرقان نام کی زردہ سے بھی تھی۔

بیزار آپؐ کے پاس چھ کانیں تھیں، جن کے نام زورا در و حاد صفا، بیضا، کثوم تھے۔ موخر الذکر غزوہ احمد بہر، ٹوٹ گئی۔ چنانچہ قتاڈہ بن نعاف اور شدادؓ کو مرمت ہوئی۔ آپؐ کے پاس بیتروں کی ایک تیسمی تھی جس کا نام کافور تھا۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہمیانی تھی اور اس پر تین حلقات سونے کے اور چاندی کے تار کے تھے۔ اس کے ارڈگر دبھی چاندی جڑی ہوئی تھی۔ یہ بعض حضرات کی تحقیق ہے، لمیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہیں کوئی ایسی روایت نہیں پہنچی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمیں ہمیانی یا ندھی ہو۔

بیزار آپؐ کے پاس زوق نام کی ایک ڈھال تھی اور فتنق ڈھال بھی تھی۔ ایک ڈھال آپؐ کی خدمت میں بطور ہزیر کے پیش کی گئی، اس پر تصویر تھی۔ آپؐ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ تصویر مشادی۔

آپ کے پاس پانچ نیزے تھے۔ ایک کا نام مشوی اور دوسرے کا نام منتظر تھا۔ نیز آپ کے پاس ایک حریر تھا جس کا نام نبھا تھا۔ ایک اور بہت بڑا بیضاء نام کا حریر بھی تھا۔ ایک چھوٹا سا مکاری شکل کا تھا۔ جسے غمہ کہا جاتا تھا اور عین کے موقع پر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے کرائے چلتے تھے اور نماز میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا اور نماز کے لئے اُسے سترہ داؤ رہنا یا جاتا تھا۔ گاہے گاہے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اُسے کہ باہر تشریف کے چایا کرتے۔

آپ کے پاس ایک خود نارلو ہے کی گوپی جسے موشح کہتے تھے۔ اس پر تابنا لگا ہوا تھا۔ ایک اور سجونغ بازو وال مسیو نام کا خود بھی تھا۔

آپ کے تین جیسے جہنیں آپ جہاد کے موقع پر زیبِ تن فرمایا کرتے۔ ان میں سے ایک نیز ریشم کا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عروث بن زبیر کے پاس ایک ریشمی جبکہ تھا جس کے اندر نیز ریشم لگا ہوا تھا اور وہ اسے جہاد میں پہننا کرتے۔ امام احمدؓ کے نزدیک اتنے روایتوں کی بنا پر جہاد میں ریشم پہننا جائز ہے۔

آپ کے پاس عقاب نام کا ایک سیاہ پرڈم تھا۔ سنن ابو داؤد میں ایک صحابیؓ سے مروی ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ جنم دیکھا، جسکلے نیک زرد تھا ویسے اکثر اوقات جنہوں نے کاڑگ سیاہ ہوتا۔

نیز آپ کے پاس کن نام کا ایک خیمہ تھا۔

اور ایک گزیا اس سے قدرے طویل ایک عصا تھا، اُسے کے کر آپ چلتے تھے اور اس کے سہارے سواری پر بیٹھتے تھے اور اُسے اپنے اوٹ پر لٹکا دیا کرتے۔

آپ کے پاس عرجون نام کا ایک مخفرہ (تکبیر نکلنے کے لئے ڈنڈا سا) نیز ایک مشوقة نام کا عصا بھی تھا۔ اور یہی وہ عصا ہے جو خلفائے راشدین کے پاس رہا۔

آپ کے پاس ایک پیالہ تھا، جس کا نام ریان تھا۔ اس کا نام مخدیا بھی مذکور ہے۔ ایک اور پیالہ تھا جس کے ساتھ سونتے کی نر نیز ریشمی ہوئی تھی۔ نیز ایک شیشے کا پیالہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی پدار پانی کے نیچے رات کو پیشاب کرنے کے لیے ایک

لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا۔

آپ کے پاس صادر نام کا ایک مشینکنہ تھا۔ آپ کے پاس ایک پتھر کا برتن تھے جس سخا کر جس سے آپ وضو فرماتے، نیز ایک پتھر کا دھونے کا برتن تھے آپ کے پاس سقد نام کا ایک بڑا پیالہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونے کا ایک برتن تیل کی شیشی ایک تھیلہ سا جس میں آئینہ اور کنگھی پڑی رہتی رہتے ہیں کہ آپ کی کنگھی سا گوان کی بنی ہوئی تھی۔ ایک سرمدہ دانی تھی کہ جب آپ رات کو سوتے تو ہر آنکھ میں انہم کی تین سلائیاں ڈالتے راٹھم سرمدہ کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔

نیز آپ کے تھیلے میں دو تیچیاں اور مساوک رہتی۔ علاوہ انہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا، جس کے چار گنڈے تھے اور چار ادمی اُسے اٹھاتے تھے۔ ایک صاحب ایک مددیہ پیمائش کے پیہانتے ہیں، اور ایک چادر بھی تھی۔ آپ کے چار پانی کے پائیے سا گوان کی لکڑی کے بینے، ہوتے تھے۔ اور سعد بن زراہ نے ہر یہ کے طور پر پیش کیے تھے۔ ان کے علاوہ آپ کا بیتر چھڑے کا تھا جس میں کھود کے چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ کل سامان رسالت تھا جو مختلف احادیث میں مردی ہے۔ امام طبرانی نے اپنی مجمع طبرانی میں آپ کے بر تنیوں کے متعلق مجمع میں ایک جامع حدیث تقلیل کی ہے۔ حضرت ابن جبار سے روایت ہے کہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تکوار تھی جس کا دستہ نقیر تھا اور اس کے ارد گرد چاندی مٹھی ہوئی تھی یہ ذوالفقار کے نام سے مشہور تھی۔

آپ کے پاس سداد نام کی ایک کمان بھی تھی۔ آپ کے پاس ایک ترکش تھا جسے مجھ کہا جاتا تھا اور آپ کے پاس ایک زرہ تھی، جس پر تابنے کے نقش و نکار بننے ہوئے تھے۔ اُسے ذات الفصول کہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس بیعاد نام کا ایک حربہ، دفن نام کی ایک لاٹھی موجز کی ایک سفید ڈھال، سکب نام کا مٹیاں رکھوڑا، داج ناہ کی ایک لاٹھی، دلدل نام کا ایک سفید فخر، قصہ نام کی ایک اوٹنٹی، یعقوب نام کا ایک حمار، کرو نام کی ایک چیلائی، قمر نام کی ایک بھری صادر نام کا ایک پیالہ اور جامع نام کی ایک تیچی تھی۔

علاوه ازیں آپ کے پاس ایک آئینہ اور ایک ٹوڑا تھا جس کا نام موت تھا۔

### بُنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور

کے پاس یہ گھوڑا تھا اس سے آپ نے دس او قبیلہ بیس اس سے خریدا تھا۔ یہ گھوڑا سفید پیشانی کھلتے ہوئے بدن کا سیاہ آنکھیں، اس کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ دوسرے تھر ز نام کا گھوڑا تھا، جو سفید تھا، جس کے پارے بیس فرزیکہ بن ثابت نے گواہی دی تھی۔

ان کے علاوہ لحیف، لزاں، طرب۔ سمجھا اور ورد نام کے گھوڑے بھی تھے، ان کے تعداد سات تھی، جس پر سب راویوں کا اتفاق ہے اور امام ابو عیینہ اللہ محمد بن اسحاق بن جماحتہ، شافعی المسک نے ان کے نام ایک ہی شعر میں جمع کر دیے ہیں ۔

لحیف سکب لحیف سمجھہ طرب

لزاں مر تھرزوں دلہا اسراں

یہ ان کے صاحبزادے امام غزالہ بن عبید العزیز ابو عمر نے مجھے بتایا ۔

ایک روایت کے مطابق آپ کے پاس ان کے علاوہ پندرہ گھوڑے تھے بلکن اس روایت میں اختلاف ہے۔ ان حضرت مکی کامٹی کے اطراف کجور کی چھال سے بھرے تھے۔ نیز آپ کا ایک خچر دلہل تھا۔ شاہ مقصودی نے اسے پد نیتہ پیش کیا تھا۔ ایک اور فرض نام کا خچر ہے فروہہ جذامی نے پیش خدمت کیا تھا، نیز ایک اور سفید خچر ہے حاکم الہ نے بھیجا تھا اور ایک دوستہ الجندل کے حاکم کی جانب سے پد نیتہ بھیجا گیا تھا۔

ایک قول کے مطابق شاہ نجاشی نے بھی ایک خچر اسالی خدمت کیا تھا، جس نے آپ سواری فرماتے۔ ان کے علاوہ ایک عفیز نام کا سفید حمار تھا۔ جسے قبلی حمران مقصود نے بھیجا تھا۔ ایک حمار فروہہ جذامی نے بھی بھیجا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس بیس ایکس حمار پیش کیا اور آپ نے سواری فرمائی، آپ کے پاس ایک بہت حمرہ اونٹ تھا جس کا نام قصوسی تھا۔ کہنے والیں کہ اسی پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ نیز عضباً، حید عاء نام کے اونٹ بھی

تھے۔ ان کے کام ہناک تو درست تھے اور کوئی عجیب نہ تھا، لیکن بہریوں ہی اس نام سے مشہور تھے۔ ایک قول کے مطابق اس کا کام کٹا ہوا تھا، اس پر اُسے عضیاء کہتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ جد عاد اور عضیاء دو مختلف وجود یا ایک ہی کے دو نام ہیں۔ عضیاء اتنی تیز رفتار تھی کہ کسی اونٹنی کو اگے نہیں بڑھنے دیتی تھی۔ ایک بار ایک عربی آپ تو اس کی اونٹنی مقابلہ میں آگے تکل گئی۔ مسلمانوں کو اس بات سے سخت رنج پہنچا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرَّحْمَةُ تَعَالَى کا قانون یہ ہے کہ دنیا کی ہر فانی چیز اس وقت بینک و بینا سے نہیں اکھتی جب تک مائل بر زوال نہ ہو۔

عزوہ بدروہ میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غیرت میں سے ابو جہل کا اونٹ ملا۔ اس کی ناک میں چاندی کی لگام تھی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حد بیسہ کے موقع پر پیش کیا گیا۔ تاکہ مشرکین اسے دیکھو دیکھ کر جلیں۔ آپ کے پاس پہنچتا ہیں جوان اونٹنیاں تھیں۔ آپ کے پاس ایک اور اونٹنی تھی، جسے سعد بن عبادۃ نے بنی عقیل کے قبلہ والوں سے لے کر اسال خدست کیا تھا۔ آپ کے پاس ایک سو بکری ذبک فرمائیتے۔ نیز آپ کے پاس سات رپاڑی قسم کی بیکریاں تھیں، جنہیں حضرت امام ایکن چڑایا کرتی تھیں۔ آپ کے پاس ایک عمامہ تھا، جس کا نام صحاب تھا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہس حضرت علیؓ نے بھی اُسے باہدھا۔ آپ عمامہ کے نیچے ٹوپی بھی رکھا کرتے۔ نیز آپ کی عادت مبارک عمامہ کے بغیر حرق ٹوپی پہنچنکی بھی تھی۔ نیز حرب آپ عمامہ باندھتے تو اس کے پلو دنوں کا نہ صھوں پر دوال دیتے جیسا کہ سمجھ سلم میں حضرت عمر بن حربیث سے روایت ہے۔

فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرمادیکھا۔ آپ کے سرو سیاہ عمامہ تھا اور اس کے دونوں سرے دونوں کا نہ صھوں پر لٹکا دیتے تھے۔ نیز مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے۔ کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سیاہ عمامہ نہ بیب سر تھا۔ لیکن اس روایت میں پلو کو دلکشانے کا ذکر نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پلو کو سمجھنے نہیں لٹکایا کرتے تھے۔

ایک بہر وايت بھی ہے کہ پھر کوئی سمجھنے نہیں لٹکایا کرتے تو آپ کے جسم مبارک

پر جنگ کا لباس تھا اور آپ کے سر پر خود رکو ہے کی ٹوپی) تھا، گویا آپ نے ہر موقع پر حسب موقع لباس زیب و تن فرمایا۔

اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ راللہ تعالیٰ آپ کو مزید روحانی تقدیس عطا فرمائے، پلوٹکا کے متعلق ایک بحیثیت کہتے بیان فرمایا کرتے تھے۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ آپ نے رب العزت کی نیارت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! ملاما علیٰ کے فرشتے کس بات کے متعلق جھگڑا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے علم نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دنوں کا ذھون کے درمیان رکھا تو جو کچھ زیبن و اسماں کے درمیان تھا سب کا علم مجھے حاصل ہو گیا؟

یہ روایت ترمذی بیس بھی ہے۔ امام بخاری سے صدیافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا، یہ روایت صحیح ہے۔ پوچھا گیا کہ بہ الفاظ کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ذھون پلوٹکا لیتھتے رکبا یہ بھی درست ہے) انہوں نے فرمایا: حرف جاہل لوگوں کی زبانیں اور دیں اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اور بیس نواپ کے سوا اور کسی کے متعلق پلوٹکانے کی بات ثابت کرنا بھی فضول بحثتا ہوں۔

نیزاپ نے تمیص بھی پہنچی، تمیص آپ کو سنبھالتے ہی پسند تھی اور اس کی استینیں ہو چکیں۔ نیزاپ نے جبہ اور فوج جو کہ قباد کی طرح ہوتا ہے، زیب تن فرمایا۔ آپ نے قباد بھی پہنچا، حالت سفر بیس آپ کا جبہ تنگ استین کا تھا۔ آپ نے تربند اور چادر بھی استعمال فرمائی واقعی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی چادر کا طول پچھڑ رائے اور عرض یعنی ذرا سع اور ایک بالشت تھا۔ آپ کا نام بند مانی سوت کا تھا۔ جس کا طول چار ذرا سع ایک بالشت اور عرض دو ذرا سع ایک بالشت تھا آپ نے سُرخ (حلہ) لباس بھی زیب و تن فرمایا۔

حلہ (لباس) دو کپڑوں مشتمل ہوتا ہے، جو یہ بحثتا ہے کہ حلہ بالکل ہی سُرخ تھا اسے عذر فہمی ہوئی بلکہ سُرخ جوڑے سے مراد دلمبی چادریں تھیں، جن پر عام بھنی چادروں کی طرح سُرخ اور سیاہ لکیزیں تھیں۔ چونکہ ان بیس سُرخ لکیزیں ہوتی ہیں اس لیے وہ سُرخ چادروں کے نام سے موسوم کی جاتی ہیں، کیونکہ بالکل سُرخ لباس تو اسلام بیس بڑی شدت سے منور ہے، جیسا کہ

صحیح مخاری میں روایت آتی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کی سرخ کامیبوں سے منع فرمایا۔ سفن ابی داؤد میں حضرت عبد اللہ بن مکو سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن پر ز عفرانی رنگ سے رنگی ہوئی ایک چادر دیکھی اپنے فرمایا کہ یہ کیسی چادر ہے، جو تم نے اور مذکور رکھی ہے؟ میں نے اپنے کی ناراضی محسوس کر لی میں والپس گھر آیا، تو تنور گرم ہو رہا تھا میں نے چادر تنور میں ڈال دی۔ پھر دوسرے دن حافظہ خدمت ہوا۔ اپنے دریافت فرمایا، عبد اللہ تم نے اُس چادر کا کیا کیا؟ میں نے تمام واقعہ مرضا کر دیا۔ اپنے فرمایا تم نے اُسے گھر میں کسی عودت کو کیوں نہ پہننا دیا؟ کیونکہ سور توں کے لیے اس زنگ کے استعمال میں کوئی مفتان لقہ نہیں۔

صحیح مسلم میں انہی صحابی شہزادروایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم و معصفر کشم میں رنگی ہوئی، چادریں دیکھیں تو اپنے فرمایا، کہ انہیں مت پہننو یہ کفار کا بآس ہے اور صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت علیؓ سے ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بآس کو کشم کا زنگ دینے سے منع فرمایا اور بہ سب کو معلوم ہے کہ کشم کے زنگ سے کپڑا سرخ زنگ کا ہو جاتا ہے اور حدیث کی ایک کتاب میں ایک دافقہ لکھا ہے کہ صحابہؓ کسی سفر میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو اپنے اُن کے سامان میں چادریں دیکھیں، جن پر سرخ دھاریاں تھیں۔ اپنے فرمایا کہ ہماری سو اربیوں پر بہ سرفی نہ دیکھوں! چنان پھر، ہم فوراً بیزی سے اُنھیں منتظر کر ہمارے بعض اونٹ بدک گئے اور ہم فرمائیں کہ اُن زنگ کے بآس کا پہننا بحث طلب نے روایت کیا ہے۔ سرخ بآس اور سیاہ مرغ اونٹ زنگ کے بآس کا پہننا اپنے فرمائیں کہ اپنے گھر امور میں اس کی کراہت تو بہت بھی شدید ہے اس لیے ہو سکتا ہے۔ کہ اپنے سرخ بآس پہننا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً اس سے محفوظ رکھا۔ البتہ سرخ جوڑے کے نقطہ پر شبہ ہو سکتا ہے۔

نیز اپنے لشان زدہ سیاہ کپڑا بھی پہننا اور سادہ کپڑا بھی زدہ ترن فرمایا۔ سیاہ بآس اور سبز ریشم کی آستینوں والا بڑا باداہ بھی پہننا۔ امام احمد اور ابو داؤد اپنی اسناد سے حضرت انس بن مالکؓ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ شادہ روم نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں سندس کا ایک قبیلی جبید بھیجا، آپ نے پہننا۔ گویا مجھے اب بھی آپ کے دلوں  
ما تھوڑا ہر نکلے نظر آ رہے ہیں۔ اصمی فرماتے ہیں کہ وہ جبیہ بڑا سال باوہ تھا، جس کی آستینیں  
لبی تھیں۔ خطابی فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے اس جبیہ پر کچوری شم (سندس) لگا ہو۔ ورنہ  
عام طور پر جبیہ ریشم کا ہمیں بنائیں۔

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاچاہمہ بھی خریدا** پہنچے ہی کے لیے خریدا ہو گا

ایک روایت میں آپ کا پاچاہمہ پہننا بھی مذکور ہے اور صحابہؓ تو آپ کی احتیاجت سے پاچاہمہ  
پہننا ہی کرتے تھے۔ نیز آپ نے موڑے پہنچے۔ پاپوش مبارک جو آپ پہنچتے تھے اس کا نام ”ناسوہ“  
تھا۔ آپ نے انگشتی بھی پہنچی، لیکن اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آپ نے  
واہیں ما تھوڑی میں پہنچی یا باہیں ما تھوڑی میں۔ یہ تمام روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں۔  
نیز آپ نے خود پہننا جس کا نام ”خروہ“ تھا اور آپ نے زردیہ نام کی زرد بھی زیب  
تن فرمائی، اور غزوہ احمد میں تو معلوم ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزدہ میں پہنچیں۔  
صحیح مسلم میں حضرت اسماۃ بتت ابی یکر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر نبی صلی  
اللہ علیہ وسلم کا جبید مبارک ہے احمد آپ نے ایک خسروانی بہترین جبیہ لکھا کر دکھایا، جس پر  
ریشم کا کام تھا اور اس کے کناروں پر بھی ریشم لگا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا یہ جبیہ حضرت  
عائشہؓ کے پاس تھا، جب وہ انتقال فراگئیں تو میں نے اسے اپنی حفاظت میں لے  
لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہننا کرتے تھے۔ ہم اسے دھوکر اس کا پانی مریضوں کو  
دیا کرتے تو انہیں صحت ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سیر چادریں ہیں۔ ایک  
سیاہ کمبل، ایک سُرخ سلاہوا کمبل اور ایک بالوں کا کمبل تھا۔ آپ کی قمیص سوتیے  
تھی، اس کی لمباٹی بھی کم تھی۔ اور اس کی آستینیں بھی چھوٹی تھیں۔ البتہ لمبی اور چوڑی ہے  
آستینیوں والی قمیص نہ آپ نے اور نہ صحابہؓ نے کیجیے پہنچیں۔ یہ سفت کے خلاف ہیں  
ادران کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ بہ متکبرین کا بیاس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص  
اور جرہہ رچادر کو بہت پسند فرماتے۔ جرہہ چادر کی ایک قسم ہے۔ جس میں سُرخ دھاریاں

بہوت ہیں۔ آپ کو سفید رنگ سب سے زیادہ پسند تھا اور آپ نے فرمایا:

یہ سب سے بہتر کر طرا ہے، یہی پہننا کرو اور اسی سے مردوں کو کفن دیا کرو۔

حضرت عائشہ منہہ سے ایک صحیح روایت مروی ہے کہ انہوں نے ایک پرانا کمبل اور موٹے سو فی کی ایک چادر لکھا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کپڑوں میں فوت ہوتے۔ آپ نے سوتے کی انگوٹھی بہرنی۔ پھر اسے چینیک دیا اور سوتے کی انگوٹھی بہرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس سے منع نہیں کیا۔ رہی ابو داؤد کی روایت کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں سے منع فرمایا تو اس میں بہر بھی ہے کہ آپ نے حاکم وقت کے سوا باقی سب لوگوں کو انگوٹھی بہرنے سے منع فرمایا۔ میں اس روایت کی صحیت و عدم صحیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

نیز آپ کی انگوٹھی کا بگینہ اندر کی طرف رہتا تھا۔ امام ترمذی حدیث نقش کرتے ہیں کہ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحلاع تشریف نے جاتے تو انگوٹھی تار دیتے ماہ ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا اور ابو داؤد نے اسے منکر قرار دیا۔ باقی طیلسان (رسنر چادر جو جمیوں کا لباس ہے) کے متعلق کچھ منقول نہیں کہ آپ نے پہنایا ہے نہیں اور نہ صحابہؓ سے متعلق کچھ منقول ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حضرت نواسؓ بن سمعان کی روایت سے ثابت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ اصفہان کے ستر ہزار ہمودیوں کے ساتھ خروج کرے گا جو بہر سنبر چادریں پہنے ہوں گے۔ حضرت انسؓ نے ایک جماعت دیکھی جن کے مدن پر سنبر چادریں (طیلسان) تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہ لوگ یہ ہمودیوں سے کس قدر مشابہ ہیں۔ چنانچہ سلف کی ایک جماعت ان کا استعمال مکروہ سمجھتی تھی۔ کیونکہ ابو داؤد اور حاکمؓ نے مستدرک میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جس نے جس قوم کا چلن اختیار کیا وہ اسی میں شامل ہو گا۔

اور ترمذی میں روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو، ہمارے سوا کسی دوسری قوم کا چلن اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

باقی حدیث، بحیرت میں جو یہ ذکر ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی کے پاس سراور منہڈ حاپنے ہوئے تشریف لائے تو یہ کام آپ نے حالات و مصالح کے ماتحت کیا تاکہ کفار کی نظر سے پوشیدہ رہ سکیں۔ یہ عادت نہ سختی بلکہ ایک وقتی ضرورت کی بناء پر کیا گیا۔ نیز حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ اکثر سر اور منہڈ حانپ یا گرتنے تو اس کے متعلق اصل بات کا تو اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ گرمی یا کسی دوسری ضرورت کے باعث ابسا کر لیتے ہوں، لیکن یہ اقدام تضیح یعنی تطليس (عادت اُسراور منہڈ حانپ کے ماتحت نہ تھا) کے

باختہ۔

سو اونٹ اور گنان کا بیاس اکثر اوقات بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تو سے بھی پہن لیتے۔

شیخ ابوالسحاق الصفہانی صحیح سنہ سے حضرت جابر بن ایوب سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت صلت بن راشد حضرت محمد بن سیرون کے پاس تشریف لے گئے، ان کے بدن پر صوف (سیاہ) کا جبڑہ، صوف کا تہ بند اور صوف کا عمامہ تھا۔ امام محمد بن سیرون نے کو سخت کوفت حسوس ہوئی۔ فرمایا: میر خیال یہ ہے کہ بعض لوگ اون پہننے ہیں اور کہتے ہیں کہ علیسی بن مرتضی علیہ السلام نے بھی تو بہر بیاس پہننا تھا، حالانکہ مجھ سے اسے شخص نے روایت کی، چھے ہیں کذب سے متہم ہیں کہ آپ نے گنان، صوف اور کپاس ہر طرح کا بیاس پہننا اور ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ قابل اطاعت ہے۔ امام ابن سیرونؓ کی مراد یہ سختی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاہ بیاس مستقل طور پر استعمال کرنا دوسرے ملبوسات سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہی بیاس پہننے ہیں اور دوسرے بیاسوں سے پر بیز کرتے ہیں۔ اس طرح وہ صرف ایک ہی بیاس اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے ایسے رسومات اور مخصوص وضع قطع اختراع کر لیتے ہیں، جس کا ذرک کرنا موجب معصیت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک ہی بیاس کو لازم کر دینا اور اسی کو درست سمجھنا یہ ہے گناہ اور سب سے بہتر طریقہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم

کا ہے، جو سنون ہے، جس کا آپ نے حکم فرمایا، تر غیب وی اور خود اس پر سلسل گامزدھ رہے۔ آپ کا ملیقہ (رسنّت)، لباس یہ ہے کہ کپاس کا ہوتا صوف یا کتان کا ہوتا کوئی سا اور جو بھی لباس میسر آئے ہیں لیا جائے، آپ نے یعنی پہاریں، سینڑا، قباد، قمیص، پاجامے، تہ بند، چادر اسادہ (موزہ)، جوتا ہر چیز استعمال فرمائی۔ نیز آپ نے کبھی عمامہ کا پتو پھیپھی کی طرف لٹکا دیا اور کبھی نہیں لٹکایا اور گردن کے نیچے تک عمامہ کے بل پہنچ لیا کرتے اور جب نیا کپڑا پہنچتے تو پہلے اس کا نام لیتے اور پھر دعا پڑھا کرتے۔

اللهو ان کسوتنی هذ (القمیص او السردار او العمامة) مدالک خیر کا و خیر ما صنع له و اعوذ بالله من شرِّه و شر ما صنع له۔

یعنی: اے اللہ تو نے مجھے یہ (قمیص، چادر، عمامہ) پہنا یا، میں تجھ سے اس کے بھلانی اور جس کے یہے بھی ہے اس کی بھلانی چاہتا ہوں اور اس کے شر سے اور جس کے یہے بھی ہے اس کے شر سے تیری پناہ پاہتا ہوں۔

اور جب آپ قمیص پہنچتے تو دا بیس طرف سے شروع فرماتے۔ اس طرح آپ نے سیاہ بالوں کا کمبل بھی اور حا۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر تشریف لے گئے اور آپ کے بدن پر سیاہ بالوں کا کمبل تھا۔ اور صحیحین (مسلم و بخاری) میں حضرت قنادؓ سے روایت ہے کہ، ہم نے حضرت انسؓ سے عرض کیا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کونسا لباس زیادہ پسند تھا۔ انہوں نے فرمایا، میرہ اور جو یعنی پہاروں میں سے ایک قسم کی چادر ہے کیونکہ اس چادر کا زیادہ ترسوت میں کا ہوتا تھا۔ اور یہ علاقہ قریب بھی تھا، بعض دفعہ شام اور صفر کا بنا ہوا لباس بھی یہیں لیتے، جیسے قبائلی چادر جو کتان سے بنائی جاتی تھی اور قبطی لوگ اس کا سوت کاتتے تھے۔ سفن نماں میں حضرت عائشہؓ صدیقہؓ سے مردی ہے کہ انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ کے یہے صوف کی چادر بنائی تو آپ نے اور حرمی۔ جب آپ کو پیشہ آیا تو آپ نے صوف کی بو حصوس فرمائی۔

چنانچہ آپ نے اُسے تار دیا، کیونکہ آپ خوشبو کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ سونتھے

ابوداؤد میں حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بنجے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہتر بڑھنے لباس بھی دیکھے ہیں۔ سنن نسائی میں سے حضرت ابو مرثیہؓ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خجلہ رشاد فرماتے دیکھا۔ تو آپ پر دو سہر چادر میں تھیں۔ سہر چادر میں سُرخ جوڑے کی طرح سبز و صاریباً تھیں جو شخص حلة الحرام سے مراد گہرا سُرخ جوڑا کھتنا ہے، اُسے چاہیے کہ وہ یہاں بھی گہرا سبز رنگ کہے۔ حالانکہ محمد ثین میں سے کوئی بھی اس کا قابل نہیں۔

آپ کا تکمیلہ پکڑنے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس طرح پکھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کر دیا ہے اُسے حرام کرتے اور اُسی کے استعمال سے مروکتے کو زہر، پر نیز گماری اور نقوی کی ضمانت فرار دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ حرف اچھے اچھے بساوں اور ہترین کھانوں ہی میں منہک ہیں اور موٹا پکڑا اور گھٹیا کہنا، تکبر اور رعنوت کے بدلت استعمال نہیں کرتے۔ بہر دوفوں گردہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کی عادت تھی کہ وہ ہتر بڑھنے لباس و طعام یا بالکل ہی گھٹیا زندگی اختیار کر کے کسی طور پر بھی متعدد صورت میں شہرت حاصل نہ کرنا چاہتے تھے اور سنن میں حضرت ابن عمرؓ سے مرفوٰ مأموری ہے کہ جس نے شہرت کی خاطر لباس پہننا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنانا گا۔ پھر دوزخ میں اسی کے شعلوں میں جنے گا کیونکہ اس نے تکبر اور غزوہ کیا۔ لہذا اللہ اے اُسے ذلیل کیا، جیسے اس شخص کو نزاردے گا جو ازدراہ غزوہ و تکبر۔ تہ بند پا پکڑنے کو لہکتا ہوا چلتا ہے۔ وہ زمین میں دھنادیا جائے گا، قیامت تک دھنسا ہی رہے گا اور میمین میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تکبر سے ازار گھیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر نہیں ڈالے گا۔ نیز سنن میں ان ہی سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیان (تکبر سے کپڑا لمبا کرنا یا لٹکانا) تہ بند، قبیض اور پکڑدی سبب میں ہوتا ہے، جس نے بھی ان میں سے کسی کو تکبر کی وجہ سے گھیٹا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی

نہ کھائے گا۔ اور سنن میں حضرت ابن عمرؓ سے وہی مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تر بند کے متعلق فرمایا وہی قمیض کے متعلق بھی فرمایا، اسی طرح معمولی بیاس کسی وقت قابلِ مذمت اور کسی وقت قابلِ تحریف ہوتا ہے۔ اگر شہرت کے لئے ہو تو قابلِ مذمت۔ لیکن عاجزی اور سکانت مقصود ہو تو قابلِ تحریف جیسے کہ دبکاوے اور تکبر کے لئے بڑھیا بیاس نہ سوم ہے۔ لیکن اگر اس سے اللہ کی تحمت کا انہصار مقصود ہو تو قابلِ ستائش ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برادر بھی تکبر ہو گا، وہ جنت میں نہ جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے دانے برادر بھی ایمان ہو گا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ ایک صحابہؓ نے سرفض کیا رسول اللہؐ میں چاہتا ہوں کہ میرے پڑے اپھے ہوں اور میر جو تما اپھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں! اللہ تعالیٰ اجیل ہے اور جہاں کو وہی پسند فرماتا ہے۔ تکبر سے مراد حق سے سرکشی اور لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے۔

**آن حضرت کی غذا اور ماکولات** بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے میں بھی ایک مستقل سنت

ہے۔ موجود در ذکر نے اور جو چیز موجود نہ ہو تو اس کا انکلف ذکر نے، جو حلال اور پاک کھانا میسر آئے سے کھائیتے۔ اب اگر غریب نفس بخواج ہو تو حلال ہوتے ہوئے بھی اُسے چھوڑ دیتے۔ اپنے کچھی کھانے میں عیب نہیں نکلا۔ جو چاٹو کھالیا ورنہ چھوڑ دیا جس طرح بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدت نہ ہونے کی وجہ سے گوہ نہ کھائی۔ لیکن امرت پر حرام نہیں فرمائی، بلکہ اپنے کے دستر خوان پر گوہ کھائی گئی اور اپ دیکھتے رہے۔ اپنے حلولی اور شہید تناول فرمایا۔ یہ دونوں چیزوں اپ کو پسند نہیں۔ نیز اپنے اوٹوں، بھیڑوں، سرخاب جنگلی گدھی، اور خرگوش کا گوشت تناول فرمایا۔ نیز سمندری جانور کا گوشت (چھلی) کھایا۔ اس کے علاوہ اپنے بکری کا گوشت بھی استعمال فرمایا، اور ترا اور خشک کھجور بھی تناول فرمائی۔ خالص دودھ، پانی بلا دودھ، ستو، اور شہید کو پانی میں ملاکر بھی نوش فرمایا، کھجور کا میٹھا پانی بھی پیا، نیز اپنے خرزہ بھی کھایا۔ جو دودھ اور آٹے سے بنتا ہے۔ تر کھجور کے ساتھ لگدھی کھائی، نیز پنیر کھایا، روٹی کے ساتھ خشک کھجور کھائی۔ سرکر کے ساتھ بھی روٹی کھائی، شرب ڈھنی

کھلایا جو روئی کو گوشت میں بچکو دینے سے نہیں ہے اس سے بھی روٹی کھائی اپالا چرپی کو کہتے ہیں، مخفی ہوئی کچھی اور گوشت کے بلکہ دس بھی کھائے۔ پکا ہوا کد و تو آپ کو بہت ہی جبوہ تھا۔ شرید گھی میں ملاکر پنیر و روٹی رہتوں اور ترک گھور کے ساتھ خذلوزہ اور غشک بکھر مکھن کے ساتھ بھی تناول فرمائی۔

آپ خوشبو کا ہدیہ رونہ فرماتے اور نہ اس نئے مجبور کرتے۔ بلکہ آپ کی عادت مبارک یقینی کہ جو یقین آیا کھایا۔ اگر کھانے کو نہ ملتا تو سب کرتے، یہاں تک کہ آپ بھروس کی شدت کے باعث پیٹ پر پتھر باندھے۔ قبین قبین ماہ گزر جاتے اور آپ کے گھر میں رکھانا پکانے کے لیے ہمچنان جلتی بس فر میں اکثر اوقات آپ زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرماتے اور ہبھی آپ کا دستر خوان ہوتا۔ آپ قبین انگلیوں سے کھاتے اور فارغ ہونے کے بعد انہیں صاف کر لیتے۔ یہ کھانا کھانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ متکبر اور حمی ایک انگلی سے کھاتا ہے اور حریص اور لاپھی اور منہ پر بخوبی انگلیوں سے کھاتا ہے۔ اور سبقیل سے منہ نہیں لفڑہ دھکیلتا ہے۔

آپ سہارا لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ آپ قبین طرح سے نکبہ رکھاتے۔ کبھی ایک لف سہارا لگا کر میٹھتے، کبھی پیٹھی مار کر اور کبھی ایک ہاتھ سے سہارا لگاتے اور دوسرا سے کھاتے۔ آپ کھانے کی اندہار میں اللہ پر میٹھتے اور آخر میں محمد کرتے۔ یعنی آخر بیس آپ یہ دعا پڑھتے، الحمد لله حسن اکثیر اطیباً مبارگاً فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ کبھی آپ یوں حمد فرماتے:-

الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدنا واعلمتنا واسقانا  
وكل يلامد حسن ابلونا الحمد لله الذي اطعم من الطعام وستقي من الشر  
وكسى من العرى وهدى من الضلالة وبصر من المعى وفضل على كثير من  
خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين.

یعنی: سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو کھلانا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا ہم پر اُس نے احسان کیا کہ ہمیں پدا بیت دی جیسیں کھلایا اور ہمیں پلا بیا اور اچھی آزمائش ہیں، ہی ڈالا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے جیسیں پلا بیا اور کھلایا۔ ترجمہ

ڈھانکتے کو بس دیا اور مگر ابھی میں پدا پت دی۔ دیدہ کو رکوب صارت دی اور اپنی کثیر خلق

پر شرف عطا فرمایا۔ سب تعریفیں اللہ کی میں، جو نام جہانوں کا پروردگار ہے۔

اور کبھی کبھی یوں پڑھا کرتے ہیں: الحمد لله الذی اطعمر و سقی و مسو عنہ یعنی سب

تعریفیں اللہ کے یہے ہیں کہ اس نے کھلایا اور ہلکایا اور اسے خالق کر دیا۔

اور جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنی انگلیاں صاف کر لیتے۔ آپ کے ہاتھ مال نہ

تھے کہ جن سے ہاتھ پونچے جائیں۔ اور نریوں ماد مبارک سخنی کہ جب بھی کھانا کھائیں تو ضرور ہی

ہاشم و حمویں، اکثر اوقات بیٹھ کر پہنچے یا کھڑے ہو کر پہنچے، یا زبردست ایک مرتبہ کھڑے ہو کر

نوش فرمایا، لیکن جبکہ حی کے باعث اور اس واقعہ کے سیاق و سبق سے ظاہر ہے کہ آپ مزم

کے چشم پر تشریف لائے گوں ہانپل رہے تھے۔ آپ نے ڈول لیا اور کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اس

سلسلہ میں صحیح صورت مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پہنچانا جائز ہے۔ اس موقع پر آپ جبکہ

کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس بحث سے تمام احادیث میں مطابقت ہو جاتی ہے۔

اور آپ جب کچھ پہنچتے تو پہنچے دایں طرف سے شروع فرماتے۔ خواہ دایں طرف کوئی

بڑگ ہی کیوں نہ کھڑا ہوتا۔

# ازدواجی معاملہ اور معمولاً احیات

## میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور اسوہ حسنہ

حضرت انسؓ سے حدیث صحیح مردی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزوں پسند ہیں، ایک حودت اور دوسرا خوشبوہ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور جن راویوں نے تین چیزوں پسند ہیں“ کی روایت کی ہے۔ انہیں غلط فہمی ہوئی۔ جبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہیں فرمائیں، کیونکہ نماز کی طرف اگر تیسری کی نسبت کی جائے تو یہ تو دنیا کی چیزوں میں ہے۔ عورتیں اور خوشبوہ آپ کو محبوب تھیں۔ آپ ایک ہی راست میں تمام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ آپ میں میں مردوں کے برابر قوت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے

ہذا آپ کو عورت اس لیے محبوب تھی کہ اس وقت انسانیت، معاشرے اور قوم کا مظہر ترین طبقہ تھی تھا۔ چنانچہ اسلام دنیا میں پہلا نہ ہے، ہے جس نے حقوق میں اور فرائض میں، تعزیر اور عقوبات میں اور اجر و جوت میں، ترقہ اور دراثت میں، حریت عقد و نکاح میں، حریت طلاق میں، حریت فکر و رائے میں، حریت انتخاب میں، مردوں زن کے حقوق کے درمیان کوئی تفریق روانہ نہیں رکھا، عورت کی مستقل حیثیت تسلیم کی اور اسے مستقل حقوق دیے۔ (ڈیس احمد جعفری)

مگر اس طرح کی روایتیں قطعاً ناقابل اعتقاد ہیں، یہ واعظوں کی اختراعات ہیں۔ اب تیم بہترین حدیث ہونے کے باوجود اس جگہ ایک نکتہ جو اصول حدیث کا ایک بڑا ہم نکتہ ہے فرماؤش کر گئے، یعنی کسی (بلی) حاشیہ پر

میں جتنا پھر آپ کے لئے مباح کیا تھا، امت کے لئے نہیں کیا تھا۔ آپ ازواج مطہرات کے حقوق میں پوری مساوات اور عدل محفوظ رکھتے، کسی طرح کا فرق نہ کرتے، وہی محبت سو آپ فرمایا کرتے یا اللہ جس کا مجھے اختیار ہے اس کی تقسیم تو میں نے مساوی طور پر کر دی لیکن جو بات میرے بس میں نہیں اس پر مجھے ملامت نہ کہیو۔ غیر اختیاری ہیز" محبت اور مباشرت تھی ملے اور ان امور میں مساوات لازمی بھی نہیں۔ کیونکہ یہ اختیاری چیزیں نہیں۔

کیا آپ پر مساوات برداشت اجب تھا یا آپ کے اوقات بغیر کسی تقسیم کے تھے؟ اس میں فقہاً مختلف الراسے ہیں۔ اس امت میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا باشادی کرو۔ کیونکہ اس امت کی زیادہ تعداد عورتوں پر مشتمل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی لیکن پھر جو ع فرمایا۔ ایک ماہ تک ازواج مطہرات سے ایلا بھی کیا۔ لیکن آپ نے ظہار بھی نہیں کیا اور جس نے آپ کے ظہار کا ذکر کیا اس نے بالکل ہی غلط کیا۔ یہاں (ظہار بتانے والے) کی غلطی کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

(باقی حاشیہ) حدیث کی صحت کے لئے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ وہ صحاح ستر میں اُٹی ہے، یا اس کے راوی غیر بروج، عدول اور ثقہ ہیں، یا سند میں کسی طرح کا اختلال نہیں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ "درایت" کے معیار پر بھی پحمدی اترتی ہو۔ جس نبی کا کردار یہ ہو کہ ۲۵ سال کی عمر میں ہم سال کی خاتون سے شادی کرے، جس کی ایک کے طام ازدواج بیوہ یا مطلقہ ہوں۔ جس نے فزو فاقر کی زندگی بسر کی ہو اور ازدواج مطہرات سے کہہ دیا ہو کہ اگر اس طرح مل سکتی ہو تو ہو، وہ نہ پوری عزت کے ساتھ حق ہو سے کر میں رخصت کر دیتا ہوں، جو رات میں اتنی مبتدا کرتا ہو کہ پائے مبارک پر درم آ جانا پھر اور لوگ جب یہ کہیں کر آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے جیکہ آپ مخصوص ہیں اور وہ حباب دیتے کہ "کیا میں خدا کا شکر گزار بننہ نہ بنوں؟" اس کے بارے میں اس طرح کی عقین قطعاً ناقابل قبول ہیں اس لئے کر دیتے انہیں تسلیم نہیں کریں۔ (رئیس احمد عسکری)

ملے آپ کو حضرت عائشہؓ سے زیادہ محبت تھی اور بلاشبہ محبت اختیاری چیزیں نہیں، لیکن اس میں بھی ایک اہم نظر ہے۔ اللہ نے آپ کے دل میں حضرت عائشہؓ کی محبت اس لئے زیادہ پیدا کی کر آپ کا یہ اسوہ بھی تعدد ازدواج پر عمل کرنے والے لوگوں کے سامنے آجائے گو ایک بیوی سے انتہائی محبت ہونے لاقیراً لگے صدقہ ہے)

خود آپ کو اس سے برسی قرار دیا۔ آپ کے ازدواجی تعلقات حسن معاشرت اور اخلاقی کاملی نہون تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی لئے کیوں کو حضرت عائشہؓ کے پاس کھینچنے کے لئے بلا یا کرتے تھے اور جائز احمد میں آپ بھی ان کے ساتھ شرک ہو جاتے۔ اور جب عائشہؓ پانی پہنیں تو ان کے ہاتھ سے پایا ہے کروائیں لب مبارک لگایتے، جہاں سے انہوں نے پیا ہوتا وہ جب وہ ہڈی پر سے گوشٹ کھاتیں تو آپ وہ ہڈی جس پر گوشٹ ہوتا ہے کروائیں منہ لگایتے، جہاں سے حضرت عائشہؓ نے کھایا ہوتا اور آپ ان کے زانوں سے ملیک بھی لگایتے اور اسی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام سے ہتوں گرا آپ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ بحالت ضوم تقبیل کرتے۔ یہ سب آپ کا اپنے ازواج مطہرات سے حسن اخلاق اور رطف و کرم کا نتیجہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کھیل بھی لیتے انہیں جبشی لئے کوں کا کھیل بھی دکھادیتے جب وہ سجد میں کھیل رہے ہوتے، ام المؤمنین آپ کے کندھوں کی اورٹ سے یہ تندریکھتیں۔ دو مرتبہ آپ ان سے دوڑ میں اگے بڑھ گئے۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے باہر تشریف لائے۔

جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعداالتے، جس کے نام کا قرعہ نکل آتا وہی ساتھ جاتیں پھر کسی کے لئے کوئی اعذر نہ رہ جاتا جمہور کا یہی سلک ہے۔ آپ فرمایا کہ تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ نے تمام ازواج مطہرات کی موجودگی میں بھی کسی ایک کی طرف (ازراه اتنا)

(یقینہ حاشیہ) کے باوجود دوسری بیویوں کے حقوق میں کس طرح کامل مساوات قائم رکھی جا سکتی ہے ورنہ گلہبؑ کو حضرت عائشہؓ سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو اسٹ ایک بہت بڑے اسوہ سے فرموم رہ جاتی (رُمیں احمد جعفری)  
عَلَّهُ يَرْسَنْفَتُ كِيْ أَبْكَيْ هَيْ هَيْ إِنْ حَدِيْثَ هَيْ هَيْ، نَذَارَةً (رُمیں احمد جعفری)

عَلَّهُ يَرْفَقَهُ كِيْ اصْطَلَاحَ هَيْ هَيْ، بِسْ كَامْلَابَ يَرْبَيْ هَيْ هَيْ كِيْ كِيْ دَنْوَنَ كِيْ لَيْ بَيْوَيِ سَعِيدَ كِيْ كِيْ بَيْاَيِ  
لیکن طلاق نہ دی جائے۔ (رُمیں احمد جعفری)

ہاتھ بڑھا دیا۔ جب آپ نماز عصر پڑھ لیتے تو تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ ان کے حالات معلوم کرتے۔ جب رات ہوتی تو وہاں تشریف لے آتے جہاں باری ہوتی اور شب وہیں بسر کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ باری کی اتنی پابندی فرماتے کہ کبھی ہم میں سے کسی کوئی پر تنقیح نہ دیتے۔ اور ایسا شاذ و نادر ہوتا کہ آپ سب ازواج مطہرات کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، آپ ہر ایک کے پاس بیٹھتے اور آخر کار جس کی باری ہوتی اس کے ہاں تشریف لے جاتے اور رات گزارتے۔ فو ازواج مطہرات میں سے آٹھ کی باری مقرر تھی۔

صحیح مسلم میں حضرت عطاءؓ کا قول منقول ہے کہ جن کی باری نہ تھی ان کا نام صفیہؓ بنت ہبی ہے۔ حالانکہ یہ حضرت عطاءؓ کی خلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ بلکہ یہ صاحبہ حضرت سودہؓ میں۔ حضرت سودہؓ نے سہولت سن کے سبب رضا کارانہ اپنی باری حضرت عائشہؓ کو بخش دی تھی چنانچہ آپ حضرت عائشہؓ کے پاس ان کے اور حضرت سودہؓ کے حصہ کے دودو دن گزارتے۔ ایک اور روایت بھی ہے اور اصل واقعہ کا علم خدا ہی کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہؓ سے کہی بات پر ناراضی ہو گئے۔

حضرت صفیہؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض سے راضی کر لو تو اپنی باری تمہیں بخش دوں گی۔ انہوں نے کہا اچھی بات، چنانچہ حضرت صفیہؓ کے بارے کے دن حضرت عائشہؓ آپ کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہؓ تم کیسے آنکھیں ہو اپ جاؤ، یہ تو صفیہؓ کی باری ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور سالم واقعہ عرض کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہؓ سے خوش ہو گئے۔ اس وقت سے انہوں نے اپنی

عملہ آپ کے ان الفاظ سے انداز ہوتا کہ ناٹھکی کی حالت میں بھی آپ ازواج کے مابین عدل کا کس درجہر خیال رکھتے تھے؟ اور اس حالت میں بھی حضرت عائشہؓ کو ان کا دن دینے پر رتنا مند نہ ہو گئے۔  
(دُسُسِ احمد جعفری)

باری انہیں بخش رکھی تھی۔ یہ باری مخصوص تھی یعنی اگر تقسیم اس طرح نہ کی جائے تو پھر باری سات ازدواج ہی پرشمار کی جاسکتی ہے۔ حالانکہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، بلکہ باری آنحضرت یوں کی مقرر تھی۔

اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آجائے، جس کی دوسرے زیادہ بیویاں ہوں اور ایک بیوی اپنی باری دوسرے کو بخش دے تو کیا یہ جائز ہے؟ کہ خاوند اس بیوی کے پاس شب موہو ہوا اور اصلیہ دو نوں گزار سکے؟ اگرچہ شروع میں ان دونوں کی رائیں مسلسل نہ آرہی ہوں، یا وہ اُسی رات اس کے پاس رہے جس میں بخشش کرنے والی کے پاس رہا کرتا تھا؟

امام احمد اور دوسرے حضرت کے اس باب میں منتفع قول ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری اور پہلے ہر حصہ میں ازدواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ اُپ کبھی غسل فرمائے سوتے اور کبھی دشوار کے سو جاتے۔ ابو اسحاق سبیعی نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدر قریبؓ سے روایت کیا ہے کہ اُپ بعض اوقات پانی کو مچھوئے بغیر ہی سو جاتے۔ انہر حدیث کے نزدیک یہ ملاط راویت ہے اور انہم نے تہذیب سنن ابو داؤد میں اس روایت پر کافی تبصرہ کیا ہے، اور اس کے اشکالات اور علل کو واضح کر دیا ہے۔ نیز اُپ ایک ہی غسل سے ازدواج مطہرات سے قربت فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھی اُنگ اُنگ غسل بھی فرمایا۔

اور جب اُپ سفر میں ہوتے تو واپسی پر رات کو گھر تشریف نہ لاتے بلکہ اس سے منع فراہتے تھے۔

**خوابُ اور بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبۃ** کبھی اُپ بستر مدد ہوتے بلکہ زین پر بھی سو جاتے، کبھی چار ہاتھی پر اور کبھی سیاہ کبل پر آرام فرماتے۔ عباد بن تمیم فرماتے

میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چلت لیئے ویکھا کہ آپ نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا اور آپ کا بستر چڑھے کا تھا، جس میں محصور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے پاس ایک بالوں کا مکبل تھا جسے دہرا کر کے بچھاد دیا جاتا۔ ایک دفعہ چار تسلیں کس کے بچھاد دیا گیا تو آپ نے روک دیا تھا۔ الغرض آپ بستر پر بھی سوئے اور حاف بھی اور چھا اور اپنی ازدواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سے عائشہؓ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جب میں

اس کے بستر پر آئے ہوں۔

آپ کا تکمیلہ چڑھے کا تھا جس میں محصور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور جب آپ سونے کے لئے بستر پر تشریف لے جاتے تو پڑھتے۔ باسم اللہ رب الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اے اللہ تیرے ہی نام پر میں جیتا اور مرتا ہوں ॥ نیز آپ دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے ان میں قتل ہو اللہ احمد، قتل اعوذ برب الفلق اور قتل اعوذ برب النّاس پڑھ کر چونکہ مارتے، پھر آپ انہیں اپنے جسم مبارک پر جہاں تک نکن ہوتا پھیر لیتے۔ آپ سر چھڑا وہ سامنے کے حصہ سے ابتداء فرماتے۔ آپ یہ عمل تین مرتبہ کرتے۔ آپ دامیں پہلو پر سوتے دایاں ہاتھ دامیں رغسار کے نیچے رکھتے، پھر دعا فرماتے۔

اللّٰهُمَّ قنِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ۖ

یعنی؛ اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچالے جس دن اپنے بندوں کو انجام دے گا جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے؛ الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و كفانا و افأكمل من لاحق في الله ولا مسوبي (سلم) یعنی "سب تعریضیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے انہیں کھلا دیا، انہیں پلا دیا ہمارے لئے کافی ہوا، انہیں پناہ دی۔ کیونکہ کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں کفایت کرنے والا کوئی نہیں اور نہ پناہ دینے والا ہے ॥"

نیز لکھا ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اللہ رب السموات والارض رب العرش العظيم، فالق الحب والشوي منزل التوراة والهنجيل والقرآن اعوذ بالله من شر حل ذي شرانت آخرتنا بناصيحته انت الاولى فليس قبلك شئي وانت الا وخر فليس بعدك شئي وانت الظاهر فليس فوقك شئي وانت الباطن فليس

دونلک شیئی اقض عنی الہین واغنی من الفقر۔

یعنی ”اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے رب، اور عرش عظیم کے پروردگار  
والے اور گھشی کو چھاڑنے والے توراة، انجیل اور قرآن نازل کرتے والے میں ہر  
ثرواتی چیز سے مشر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ توہی اسے قابو میں رکھنے والا ہے  
توہی اول ہے تجھ سے پہلے کھو رہا تھا توہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں اور توہی  
ظاہر ہے۔ تیرے اور پر کچھ نہیں توہی باطن ہے، تیرے ما درا کچھ نہیں۔ میرا قرض  
او افرما دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے؟“

اور رات کو جب کسی وقت آنکھ کھلتی تو یہ دعا پڑھتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبَّحَنْكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُ لِمَاذَا نَبَيَّ وَلَا سَأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ إِذْنِي  
عَلَيْكَ وَلَا تُنْزِغْ قَلْبِي بَعْدَ اذْهَنْ يَتَنَزَّلِي وَهَبْ مِنْ لِذَنْكَ رَحْمَةً أَنْتَ أَنْتَ الْوَهَابُ۔

یعنی ”اے اللہ (تیرے سوا کوئی) معبود نہیں تو پاک ہے۔ اے اللہ، میں اپنے  
گناہوں کی تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سواں ہوں۔ اے اللہ  
میرا علم زیادہ کر دے اور ہدایت کے بعد میرے دل کو کھوٹا نہ کر دینا، مجھے اپنی  
رحمت سے نوازہ بے شک توہی بخشنے والا ہے؟“

اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا نَا بَعْدَ هَا مَا ماتَنَا وَاللَّهُ النَّشَوْرُ۔

یعنی، سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اللہ  
اسی کے پاس (دوبارہ) میں ہو کر حاضر ہونا ہے؟“

پھر آپ مسوک فرماتے اور بسا اوقات سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات ان فی خلق  
السموات والارض اخے سے شروع کر کے تلاوت فرماتے اور یہ دعا پڑھتے:

الْمَهْرَلَكَ الْحَمْدَ اَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدَ اَنْتَ  
قِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ اَعْلَمُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ وَلِقَارُكَ حَقُّ وَالْجَنَّةُ  
حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ وَمُحَمَّدٌ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ رِبِّكَ

آمنت و علیک تو کلمت والیک ابنت سر بلک خاصمت والیک حاکم فاغدری  
ما قد ملت و ما اخربت و ما اسوسرت و ما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت<sup>۲۸</sup>

یعنی ۲۸ اے اللہ تیری، ہی تعریف ہے، تو ہی آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کافوئے ہے اور تیری، ہی تعریف ہے تو ہی آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کا تھامنے والا ہے اور تیری، ہی تعریف ہے تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری طلاقات حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق ہے، تمام انبیاء رحم ہیں۔ محمد حق ہیں، قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرا فرمان بردار ہوں۔ تجھ پر ایمان لا لیا پس بھے بھروسہ کیا تیری طرف ہی جھکا۔ تیری مدد ہی سے جبکہ ۱، تیری طرف ہی بلا لیا کر کئے اور جو میں نے علائیہ کئے۔ تو ہی میرا عبود ہے، تیرے سوا کوئی عبید نہیں۔

اور اپ رات کو پہلے پھر سو جاتے اور آخر پھر بیدار ہو جاتے۔ کبھی کبھی اپ صارع مسلمین کے لیے ابتداء شب میں جاگتے رہتے۔ اپ کی آنکھیں ستیں مگر دل بیدار رہتا اور جب اپ سوتے تو جب تک خود نہ چلک اٹھتے جگایا نہ جاتا اور جب اپ آناز شب میں کسی جگہ اترتے تو دل میں پھلو پر لیٹ جاتے اور جب صحیح کے قریب قائم فراٹے تو بازو د کا سہارا لے کر سرمنارک ہتھیلی پر رکھ دیتے (امام ترمذی<sup>۲۹</sup> لے اسی طرح بیان کیا ہے)۔

ابو حاتم نے صحیح میں لکھا ہے کہ اپ رات کو کسی منزل پر اترتے تو دل میں پھلو پر الام فرماتے اور جب صحیح سے قبل اترتے تو بانو اونچا کر لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے البتہ امام ترمذی کی روایت درست ہے۔ ابو حاتم نے لکھا ہے کہ تحریک اکتوں میثنا) صحیح سے قبل ہوتی تھی۔ اپ کی نیند سب سے زیادہ معتدل ہوتی تھی اور تھی سب سے بہتر نیند ہے اور اطیاء کا قول ہے کہ نیند کا بہترین وقت تہائی رات ہے اور دن اٹھ گھر بیوں میں مقسم ہے

سواری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنّتِ نَبِیّہ | اپ نے گھوڑے، اوٹ، چجز گھوڑ پر کامیڈی ڈال کر سواری کرتے، کبھی ننگی پیٹھ پر بھی سواری فرمائی۔ کبھی کبھی اسے دوڑایا بھی

کرتے تھے۔ زیادہ تر تنہا سوار ہوتے تھے۔ گاہے گاہے اونٹ کے پیچھے بھی کسی کو سوار کر لیتے۔ کبھی خود پیچھے بلیٹھتے اور دوسرے آدمی کو آگے بٹھایتے۔ ایک بار میں آجیوں نے بھی سواری کی۔ مردوں کو بعض اوقات اپنی ازوابِ مطہرات کو بھی۔

آپ کے مراکب کا بڑا حصہ اونٹ اور گھوڑے پر مشتمل تھا، رہے خپر تو معروف روایت یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک خپر تھا۔ کسی بادشاہ نے طبور ہدیہ نذر کیا تھا۔ ارض عرب میں خپروں کا چلن نہ تھا۔ لیکن جب آپ کو خپر ہدیہ پیش کیا گیا تو گھوڑے اور گھری کے ملاپ کے باعث میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نادان ہیں۔

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں** آپ کے پاس ایک سو بکریاں تھیں، آپ کو یہ پسند نہ تھا کہ بکریوں کی تعداد سو سے بڑھ جائے، جب کوئی بڑھ جاتی تو اس کی جگہ کسی دوسری (بکری) کو ذبح کر دیتے۔

نیز آپ کے پاس لونڈیاں اور غلام بھی تھے آپ کے آزاد کردہ غلام لونڈیوں سے زیادہ تھے امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں ابو اامر وغیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا جس آدمی نے کسی مسلمان مرد کو آزاد کیا تو یہ اسے جہنم سے نجات دلانے کا سبب ہو گا۔ اس کا ہر عضو اس کے پدالہ میں آزاد ہو گا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا زیادہ یادھش اجر ہے اور ایک غلام دو لونڈیوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر آزاد کردہ مرد غلام ہیں۔ یہ ان پانچ مقامات میں سے ایک ہے جہاں عورت کو نصف مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا مقام عقیقہ کرنے کا ہے کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک عورت کا عقیقہ ایک بکری اور مرد دو بکریوں سے ہوتا ہے اور اس مسلک کی تائید کئی صحیح اور حسن احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ تیسرا مقام گواہی دینے کے سلسلہ میں ہے، جہاں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر شمار ہوتی ہے۔ چوتھا میراث اور پانچوں دیت میں ہے۔

علہ ابن قیم نے یہ بات جس پر ایہ میں بیان فرمائی ہے، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید و فروخت** منصبِ رسالب پر فائز ہونے کے بعد خریداری میں اضافہ اور فروخت میں کمی واقع ہوئی۔ اس طرح ہجرت کے بعد مجھی آپ سے صرف چند معاملات میں فروخت منقطع ہے اور اکثر یہ فروخت خریدنے والے کے لئے زیادہ سودمند ہوا کرتی تھی، جیسے پیاسے اور پالان کی فروخت۔ ایک مدبر غلام بیعقوب کی فروخت نیز ایک غلام کی دو غلاموں کے عوض فروخت۔ رہی آپ کی خریداری تو یہ آپ نے کثرت سے فرمائی۔ دوسرے آپ نے اجرت پر کام کیا بھی ہے۔ آپ نے اجرت پر کام کرنے کے مقابلہ میں اجرت دے کر زیادہ کام لیا ہے۔

(بقیرہ حاشیہ) عورت کے مابین نصف کافر ہے۔

لیکن بات یہ ہمیں ہے، قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے۔ دونوں میں کامل سادات ہے۔ قرآن نے اکثر مقامات پر "مومنین" اور "مومنات" کو ایک ساتھ مخالب کر کے اجر و عقاب ثواب و عتاب اور جنت و جہنم کی بشارت یا وعدہ دی ہے، بنیادی حقوق میں مرد اور عورت بالکل یکساں ہیں، جس طرح مرد آزاد ہے کہ جس سے چاہے شادی کرے اسی طرح یہ حق عورت کو بھی ہے، جس طرح مرد تجارت لین دین آزاد از طور پر کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے جس طرح مرد اپنی جائیداد اور املاک کا مستقل مالک ہے اسی طرح عورت بھی ہے جس طرح مرد اپنے مستقل نام سے اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے اسی طرح عورت بھی اپنے مستقل نام سے اپنی انفرادیت قائم رکھتی ہے وہ شادی سے پہلے "مس" بن کر باپ کا، اور شادی کے بعد "مسز" بن کر شوہر کا نامہ بن کر اپنی انفرادیت سے فریم نہیں ہوتی۔ چوری، ازنا اور دوسرا جو مرد کے لئے ہے وہی عورت کے لئے ہے بھی ہے۔ اعمالِ صالح کا اجر و انعام مرد کے لئے ہے عورت کے لیے بھی ہے۔

لیکن خلقی کمزودی یا توانائی کی بنا پر مرد اور عورت میں فرقِ مرتب فروض ہے، لیکن یہ فرقِ مرتب بھی یک طرف نہیں ہے، اگر کسی معاملہ میں مرد کو عورت پر تفوق حاصل ہے تو کسی معاملہ میں عورت مرد

منقول ہے کہ آپ نے بیوت سے قبل بکریاں چرانے کے لئے اجرت پر کام کیا ہے۔ نیز حضرت خدیجہؓ کا مال تجارت نے کہ شام کا سفر بھی اسی نوعیت کا تھا اور جب تجارت مضارب کی صورت میں ہوتا مضارب، امین، اجیر و کیل اور شریک (چار حصیتیں رکھتا ہے) جب مال پر قبضہ ہو تو امین شمار ہو گا۔

جب مال میں تصرف کرے گا تو کیل ہو گا۔

جب خود بھی کام کرے گا تو اجیر کھلا سے گا۔

اور جب اس تجارت میں نفع ہو گا تو اس میں شریک بھی ہو گا۔

امام حاکم<sup>ؒ</sup> نے اپنی صحیح حاکم میں حضرت ریبع بن بدر سے انہوں نے ابو زہرا اور انہوں نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ کے مال تجارت کے سلسلہ میں برش (شام) کی طرف دو مرتبہ اجرت پر سفر کیا اور بتایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ نیز نہایہ میں ہے کہ جرش میں، جو شام میں ایک شک کا نام ہے، میں کہتا ہوں یہ روایت صحیح نہیں، کیونکہ ریبع بن بدر ثقہ روای نہیں ہے۔ اسے محمد بن نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی و ارقاطی اور ازادی نے اسے متروک لکھا ہے۔ حاکم کا خیال یہ ہے کہ ریبع بن بدر دراصل طلحہ بن عبد اللہ کا غلام ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت میں شرکت بھی کی ہے، جب یہ شریک آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا۔

”کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟“

(باقیر حاشیہ) پر تفویق رکھتی ہے، مثلاً پاکدامن محدث پر بدھنی کا اتهام لگانے کی سزا تھی کوٹے ہے، لیکن پاکدامن مرد پر بدھنی کی تہمت پر یہ سزا نہیں ہے۔  
مرہے وہ پانچ مقامات جن کا علامہ ابن قیم نے حوالہ دیا ہے کہ ”عورت نصف مرد کے بلاہرہ تو ان کی توجیہ یہ ہے۔“

(۱) ایک غلام دو باندھوں کے برابر کارہ کرو گئی کی بناؤ پر مانا گیا ہے۔

(۲) عقیقہ کا یہ فرق اس لئے ہے کہ گو اولاد ہونے کی حیثیت سے اڑ کا اور لڑکی برابر ہیں، لیکن لڑکے

اس نے عرض کیا، آپ میرے شریک تھے اور آپ بہترین شریک تھے۔ آپ نے نہ کبھی دھوکا دیا اور نہ جھگڑا کیا۔ قدری کا صیغہ مداراً ہے۔ اس کے معنی ہیں ”حق بات کا مقابلہ کرنا“، اگر اس کے آخر سے ہمزاں اٹا دیا جائے تو فقط مداراً رہ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوں گے؟ ”اچھے طریقہ سے مدافعت کرنا“۔

نیز آپ نے وکیل بنایا، خود و کالہ فرمائی۔ زیادہ تر آپ نے وکیل بنایا، آپ نے ہدیہ دیا۔ ہدیہ قبول بھی کیا، اس کا پدر بھی دیا۔ اسی طرح بخشش فرمائی اور قبول بھی فرمایا۔ سلمتہ بن اکووع بیان کرتے ہیں، بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں ایک لونڈی آئی۔ سلمتہ نے عرض کیا کہ اسے بھی عنایت فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے اسے عطا فرمادی تو اس نے اس کے بدلے میں کہہ میں محسوس مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔

رہن اور بغیر رہن ہر طرح قرض بھی لیا، نقد اور ادھار خریدی کی۔ نیز اچھے اعمال، جو جنت کی ضمانت ہیں ان پر لوگوں سے اپنے رب کے ہاں ضمانت بھی دی۔ فوت شدہ مسلمانوں کے قرض ادا کرنے کی ضمانت بھی دی، نیز آپ پر جو بھی قرض تھے۔ آپ نے سب ادا کر دیے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکم آپ کے بعد ہر امام اور امیر کے لئے ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا ہادشاہ مسلمانوں کے قرضوں کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ ادا نہ کر سکیں تو ان کا قرض بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ اگر مسلمان کی موت واقع ہو جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی کا بیت المال ذمہ دار ہوتا ہے۔ نیز اسی طرح اگر ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو تو بیت المال (خزانہ) ہمی ان پر خرچ کرے گا۔

(ب) قیہ حاشیہ نے سے چونکہ خاندان کا نام چلتا ہے لہذا اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) شہادت میں مرادہ عورت کافق نیز اکت، احساس، جذب باتیت اور رقت، تلبی کی بناء پر ہے۔

(۳) میراث میں لڑکی کو لڑکے سے کم حصہ اس لئے ملتا ہے کہ لڑکا مہر دیتا ہے اور بیوی کے جملہ مصارف کا کھیل ہوتا ہے لہذا اس کا خرچ لڑکی کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔

(۴) ہمی صورت دیت کی بھی ہے۔ (میں احمد حضری)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زمین تھی۔ اسے آپ نے اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ آپ نے سفارش کی بھی فرمائی۔ بریرہ نے آپ کی سفارش "راجحت" کے سلسلہ میں نہ مانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ناراضی فرمائی، نہ عتاب فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، شمع راہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ اٹھی سے زیادہ مواقع پر آپ نے حلف اٹھایا۔ تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حلف اٹھانے کا حکم دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ویستنبونٹ احق ہو قبل ۲۱ و سبی اتنہ الحق، یعنی؛ اور تمہرے معلوم کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دے ہاں پروردگار کی قسم یہ سچ ہے۔

اور فرمایا۔ و قال الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ قَلْ بَلِي وَرَبِّ لَنَا تَبَيَّنَكُمْ۔ یعنی، اور ان لوگوں نے جو منکر ہیں کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ کہہ دو ہاں پروردگار کی قسم البتہ آئے گی اور فرمایا۔ ثمَّ عَمِّرَ الَّذِينَ يَنْكِرُونَ كُفَّارًا لَّمْ تَمْعِنُوا قَلْ بَلِي وَرَبِّ لَنَا تَبَيَّنَ شَرُّ لَنْتَبَيَّنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یعنی؛ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہرگز وہ مرکر دو باہر ہیں اٹھیں گے، تو کہہ دے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی، تم کو بے شک اٹھنا ہے، پھر

علیٰ بریرہ کا داعر ہے کہ شوہر سے طلاق لے لی، لیکن فرط محبت کے باعث شوہر نے طلاق واپس لینا چاہی۔ یعنی رجحت کرنا چاہی مگر بریرہ نے تجدید نکاح سے انکار کر دیا، اب شوہر فریاد کشاں دربار رسالت میں حاضر ہوا، آپ کو ترس آیا اور بریرہ سے سفارش فرمائی، بریرہ نے کہا،  
"یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟"  
"آپ نے فرمایا، مشورہ؟"

"بریرہ نے کہا آپ کا مشورہ مجھے منظود نہیں؟"  
آپ نے اس پر جبر نہیں کیا خاموش ہو گئے، کیونکہ اسلام میں شادی رضامندی طرفین کا نام ہے اور اگر یہ نہ ہو تو حاکم یا ایکسی فرقہ پر جبر نہیں کر سکتا۔  
اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آج سے ۲۱ سو برس پہلے اسلام نے عورت کو وہ ازادی اور حریت عطا فرمائی تھی۔ جو آج بھی اُسے حاصل نہیں ہے۔ (ریس احمد جعفری)

تم کو جتنا ہے، جو تم نے کیا اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

قاضی اسماعیل بن اسحاق اکثر ابو بکر محمد بن داود ظاہری سے مباحثہ کیا کرتے تھے اور انہیں فقیر نہیںانتتھے تھے۔ ایک دن یہ صاحب اور ان کے ایک خلاف مقدمہ رکھ کر آئے تو ابو بکر سے حلف کے لئے کہا گیا یہ حلف کے لئے تیار ہو گئے۔ قاضی اسماعیل نے فرمایا کہ کیا ”اسے ابو بکر تم جیسا شخص بھی حلف لے گا؟“ انہوں نے جواب دیا اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی کو اپنی کتاب میں یعنی محاوٰق پر قسم کھانے کا حکم دیا ہے، انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو ابو بکر نے یہ آیات پڑھ دیں۔ قاضی اسماعیل نے ان کی خوب تعریف فرمائی اور اس دن سے انہیں فقیر کے نام سے یاد کرنے لگے۔

نیز بھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حلف میں استثناء کر دیتے، کبھی کفارہ ادا فرماتے اور کبھی اسے نبھاتے۔ استثناء کا مطلب حلف کو روکنا ہے۔ کفارہ کا مطلب قسم کھا کر اس کا عوض ادا کرنا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے ”تحلۃ الایمان“ قرار دیا۔

آپ مذاق بھی فرمایا کرتے، البتہ مذاق میں حق ہات ہی کہتے۔ آپ تو یہ بھی کرتے لیکن تو یہ میں بھی حق بات کہتے، مثلاً کسی سمت کا ارازہ کرتے تو کسی دوسرے سے دریافت فرماتے۔ اس کا راستہ اور پانی کیسا ہے؟ اس کے میدان کیسے ہیں؟ وغیرہ۔ آپ مشورہ کرتے اور مشورہ دیتے بھی تھے۔ آپ مریض کی تیمار داری کرتے، جنازہ میں شرکیں ہوتے، دعویٰ قبول فرماتے۔ بیوہ، مسکین اور کمزور لوگوں کی ضروریات کے سلسلہ میں ان کے ساتھ رہتے۔ آپ نے شعرنا، اس پر انعام بخشنا، لیکن اس میں جو آپ کی محمد بیان کی گئی۔ وہ بہت ہی کم تھی یہ کہ پر آپ نے انعام دیا۔ آپ کے علاوہ باقی لوگوں کی تعریف اکثر جھوٹ ہوتی ہے۔ ہر ہی وجہ سے کہ آپ نے حکم دیا کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مقابلہ میں آگے بڑھ گئے۔ آپ نے کشتی بھی لڑی ماتھے اپنے ہاتھ سے جو تھے کی مردت بھی کی، اکٹروں میں پیوند لگایا، اُول میں ٹانکا لگایا، بکری کا دو دھر دوہا، کپڑے سئے۔ اپنی اور اپنے اہل کی خدمت کی، مسجد کی تعمیر کے موقع پر پہنچیں اٹھائیں۔ کبھی آپ نے جھوک کی وجہ سے پیٹ پر تھپر باندھے اور کبھی سیر ہو کر تناول فرمایا،

آپ ہمان بنسے اور میز بان بھی بنئے۔ نیز آپ نے سر کے درمیان اور پاؤں کی پشت پر سنگھیاں لگوائیں۔ اور آپ نے گدی اور گردن پر بھی سنگھیاں لگوائیں، آپ نے علاج کر لیا، داغ دیا، لیکن داغ لگوایا نہیں۔ دم کیا، لیکن آپ کو دم نہیں کیا گیا اور مریض کو مضرت رسان باٹوں سے پرہیز کا حکم دیا۔

طب کے اصول ہی تین ہوتے ہیں۔ پرہیز حفظ صحت، اور مضر مادہ سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے اپنی کتاب میں یہ تینوں چیزوں جمع کر دیں نقصان سے بچنے کے لئے مریض کو پانی کے استعمال سے پرہیز بتایا گیا۔  
اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

وَإِن كُنْتُم مَرْضِي أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَكُمْ مِنْكُم مِنَ الْغَائِظِ أَوْ لَمْسُوا  
النَّسَاءَ فَلَا مُرْبِثٌ لَهُمْ وَإِمَاءَ فَتِيمٌ مَوْا صَعِيدٌ (اطیباً یعنی)؛ اور اگر تم مریض ہو، یا سفر ہو ہو یا تم میں سے کوئی تضائل حاجت سے واپس آئے، یا تم عمر توں کو سکر دے تو تم پانی نہ پاؤ تو پاک صاف مٹی سے تمیم کرو۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے مریض کو بخار کی حالت میں تمیم کی اجازت دی، جس طرح پانی نہ ہونے کی صورت میں بھی اجازت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حفظ صحت کی خاطر فرمایا:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَعْدَةً لَا مِنْ آتِيَاهُ أَخْرَ (یعنی)؛ پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو، یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں روزے رکھ لے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان المبارک میں اپنی صحت کے تحفظ کی خاطر افطار کی اجاز دی تاکہ روزہ اور سفر کی تکلیفیں اس پر غالب نہ آجائیں۔ اور اس کی صحت اور قوت پر بہادر نہ پڑے۔ اور حرم کو استغراق کے لئے سرمنڈاف کی اجازت مرحمت فرمائی۔  
فرمایا۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِضاً أَوْ بِهِ أَذْيَ منْ سَرَّأْسَهُ فَفَدْيَةٌ مِنْ صَيَاهِ رَادٍ صِدَاقَةٌ أَوْ نِسَكٌ۔

یعنی جو تم میں سے مریض ہو یا سر میں تکلیف ہو تو روزوں یا صدقہ یا قربانی کا فدیری دے

یہاں مریض کو اجات بخشی کر جس کے سر میں کچھ تکلیف ہوا اور اس نے احرام بھی باندھ رکھا ہو تو وہ سر منڈا کر گندے سے مواد اور خلاب بخارات سے کچھ نجات حاصل کر لے جس سے جو میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ کعب بن عجزہ کو تکلیف ہو گئی تھی یا کوئی اور تکلیف (چورگی وغیرہ) ہو جائے اور طب کے بھی سہی تین قواعد و اصول ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے ایک ایک بات کا ذکر فرمادیا تاکہ اس کے بندوں کو محنت کی خلافت اور فاسدیوں سے نجات پانے کے لئے ایک ماستر بلکہ نعمت مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فوازش اور رحمت و کرم کرنا چاہتا ہے اور وہی ہر ہاں رحم کرنے والا ہے۔

---

## اُنحضرت کے معاملات و معمولات

نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ معاملات میں سب سے بہتر اور برتر تھے

جب آپ کسی سے قرض لیتے تو بہت عمدگی سے ادا فرماتے جب آپ کسی ادمی سے  
قرض لیتے تو ادا کرتے اور دیر و عادیتے :

بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلَكٍ وَمَا لَكَ إِنَّمَا جَزِيزُ إِذَا سَلَفَتِ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ لَهُ يَعْلَمْ :

اللَّهُ تَعَالَى تیرے گھر اور مال میں برکت دے۔ قرض کی جزاً و حمد اور ادائیگی ہے ॥

آپ نے ایک ادمی سے چالیس صاع قرض لیے۔ بعد میں انصاری خود محتاج ہو گیا اور آپ  
کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ابھی تک ہمارے پاس کچھ نہیں آیا، اس صحابی نے کچھ  
عرض کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا، اپنی بات کرنا، کیونکہ میں سب سے بہتر ادا کرنے والا ہو  
پھر آپ نے اسے چالیس پہلے اور جالیس مزید یعنی اٹھی صاع عطا فرمائے۔ یہ روایت بڑا ذکر ہے  
آپ نے ایک اونٹ ادھار خریدا، اس کے بعد وہ بیچنے والا آیا، اور نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ  
سے سختی کے ساتھ تقاضا کرنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے بکٹنا چاہا۔ آپ نے فرمایا اسے  
چھوڑ دو، کیونکہ حق دار کو کہنے کا حق حاصل ہے۔

ایک بار کوئی پھیز خریدی۔ آپ کے پاس کوئی تقدیمت نہ تھی، آپ نے اس میں نفع حاصل  
کیا۔ آپ نے اسے بیچنے کے بعد اس کا نفع بنی مطلب کی بیواؤں پر تقسیم فرمادیا اور فرمایا کہ  
آنندہ میں اسی وقت کوئی پھیز خریدوں گا۔ جب میرے پاس قیمت ہو گی۔ اس روایت کو ابو داؤد

نے نقل کیا ہے۔ پر روایت ایک مدتِ معینہ کی خریداری والی روایت کے خلاف نہیں کیونکہ اس کا مطلب اور ہے اور اس سے کچھ اور ملاو ہے۔

ایک بار ایک قرضِ خواہ نے سختی کے ساتھ قرض کا تفاصیل کیا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے اسے پکڑنا چاہا، آپ نے فرمایا: اسے عمر مُصہرو، میں اس بات کا زیادہ محتاج تھا کہ مجھے قرض ادا کرنے کی تاکید کرتے اور وہ اس بات کا زیادہ محتاج تھا کہ اسے صبر کی تلقین کرتے۔

ایک یہودی سے آپ نے مدتِ مقرہ و تک کے وعدہ پر کوئی چیزِ خریداری وہ وعدہ سے قبل ہی اگبیا اور قیمتِ مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی مدتِ پوری نہیں ہوتی، اس نے کہا اسے نبی مطلب تم لوگ مالِ مٹول ہی کیا کرتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے پکڑنا چاہا، آپ نے ان کو روک دیا۔ اور اس کی درشت باتوں کے مقابلہ میں آپ کا حلم برداشتا ہی گیا۔ آخر یہودی کہنے لگا میں آپ کی نبوت کی تمام علامات دیکھ چکا تھا۔ ایک باقی تھی۔ اور وہ یہ کہ وہ نبی ہر جا ہلاندات کے مقابلہ میں حلیم اور بردبار ہو گا۔ چنانچہ میں نے یہی معلوم کرنا چاہا تھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔

تنہا اور صحابہ کرام کے ساتھ چلنے کی سُنّت طیبیہ | جب آپ چلتے تو خم کھا کر چلتے تنہا اور صحابہ کرام کے ساتھ چلنے کی سُنّت طیبیہ | اور آپ سب لوگوں سے تیز،

زیادہ انداز میں اور زیادہ سکون سے چلتے۔ ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ گویا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر سورج چمک رہا ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا کہ زمین آپ کی خاطر پیشی جارہی ہے اور ہم پوری کوشش کرتے لیکن آپ کو نہ پاسکتے۔

علی بن طالب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو خم کھا کر چلتے گویا بلندی سے اتر رہے ہیں اور بتایا کہ جب چلتے تو یہ تقلع“ سے چلتے۔ تقلع بلند زمین کو کہتے ہیں۔ بخلاف اونچی جگہ سے اترنے کے اور یہ رفتار و قرار اور ہمت و شجاعت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ رفتار تمام رفتاروں سے زیادہ مناسب جسم کے لئے زیادہ آرام وہ اور تھکا دینے والی چال سے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ چلنے والا یا لوگ محروم کے چلے گا، جیسے احمد اونٹ چلتا ہے یہ چال بھی مذموم ہے، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ کم عقل آدمی ہے، خصوصاً اگر چلتے چلتے دائیں بائیں بھی

دیکھتا جائے اور یا پھر آرام سے چلے گا۔ ہری خدا نے رحمن کے بندوں کی چال ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَلَيْسَ "خدا نے رحمن کے بندے جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں"۔

متقدہ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو تکریث بغير سکون اور وقار سے چلتے ہیں اور کہ کہ نہیں چلتے۔ ہری پر وقار چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ انچھی جگہ سے اتر رہے ہیں اور زمین گویا آپ کے لئے پیٹھی چاہ رہی ہے، یہاں تک کہ ایک پیدل چلنے والا بھروسی کوشش کرتا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ پہنچ سکتا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال متکبرانہ اور تکلیف دہ نہ تھی۔ بلکہ از حد معتدل تھی۔ چال کی دس قسمیں ہوتی ہیں۔ تین قسموں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ چوتھی دوڑنا، پانچوں میں رمل یعنی جو دوڑنے سے قدسے تیز ہوتی ہے اسے خوب بھی کہتے ہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طوات کرتے وقت تین چکراتیز دوڑ ہے کہ جس سے چلنے والا نہ تحکما ہے اور نہ یہ چال تکلیف دہ ہوتی ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مجرمہ الوداع میں بعض چلنے والے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں تکلیف کی شکایت پیش کی۔ آپ نے فرمایا ذرا تیز دوڑ سے مددلو، ساتوں قسم خوزنی کھلاتی ہے۔ یہ (عورتوں کی طرح) جھک جھک کر چلنے کا نام ہے۔ اس میں انکسار نہیں بلکہ زنانہ پن پایا جاتا ہے۔ آٹھویں قسم قہقہی ہوتی ہے۔ یہ دوڑ سے قدرے کم ہوتی ہے۔ نویں جمزی ہے۔ اس میں چلنے والا کو دکود کر چلتا ہے۔ دسویں متکبرانہ چال، یہ متکبرین اور غور کرنے والوں کی چال ہے۔ اور یہ وہ چال ہے کہ اس کی بناء پر ایک (بہت بڑے متکبر کو) جب اس نے فخر و غور کا مقاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں وحنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں وحنتا ہی چلا جائے گا اور تمام چالوں سے زیادہ معتدل چال سکون کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ اس طرح ہوتے کہ صحابہ آپ کے آگے آگے چلتے۔

اور فرماتے کہ میری پشت فرشتوں کے چلنے کے لئے (خانی) چھوڑ دو۔ سہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کرام کو اپنے آگے آگے کر چلتے تھے۔ کبھی آپ ننگے پاؤں اور کبھی جوتا پہن کر چل لیتے۔ صحابہؓ تنہا اور جماعت ہر طرح چلتے۔

ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ میں شریک ہوئے، آپ کی انگشت مبارک کٹ گئی ماس سے خون بہنے لگا تو آپ نے فرمایا، هل ؛ نت الا صبح و میت، یعنی "تو ایک انگلی تھی، جو خون الود ہو گئی۔ اور فی سبیل اللہ لقیت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تجھے تکلیف پہنچی کمزور صحابہؓ کو زمی سے چلاتے اور ان کو سواری پر ساتھ بٹھا لیتے اور ان کے لئے دعا فرماتے اس روایت کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔

### آپ کی نیشنست اور سہارا لگانے کا طریقہ

آپ نے میں چنانی اور بسترہ (ہر جگہ) بیٹھو جایا کرتے قیمت بنت خزندانے بتایا کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ اکڑوں تشریف فرماتے جب میں نے آپ کو اس طرح عاجزی سے بیٹھے دیکھا تو در کرانپ گئی۔ جب عدی بن حاتم حاضر ہوا تو آپ اسے گھر سے گئے تو ایک لونڈی نے آپ کی خدمت میں بچپونا پیش کیا، جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو اپنے اور عدی کے درمیان رکھ دیا اور میں پر بیٹھ گئے۔ عدی بتاتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ باادشاہ نہیں ہیں، بعض اوقات آپ چت لیٹ جایا کرتے تھے اگا ہے گا ہے آپ ایک پاؤں دوسرے پر رکھ دیتے اور بیٹ جاتے کبھی آپ تکیر سے ٹیک لگائیتے۔ کبھی دائیں پہلو اور کبھی بائیں پہلو پر بھی ٹیک لگایا کرتے۔ جب آپ باہر تشریف لے جانے کی ضرورت محسوس فرماتے تو کمزوری کی وجہ سے کسی صحابی کا سہارا لے لیتے۔

### قضائے حاجت کا طریقہ

جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اللہ ہمرا اسوف بالک من الخباث والخبايث، یعنی، اے اللہ میں خباث اور خبايث سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خباث کا مطلب شیطان مردود کے نجاست اور خباشت ہوئی ہے اور جب آپ وہاں سے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے تو

پڑھتے عفرانک یعنی "تیری بخشش چاہتا ہوں" کبھی آپ پانی سے استنبہ افراط تے اور کبھی تپھر (مٹھی) سے، کبھی دلوں کو استعمال فرماتے۔ اور جب آپ قضاۓ حاجت کے لئے تشریف لے جاتے اور کبھی آپ کسی چیز سے پرده فرمائیتے، کبھی محجور کی ٹھنڈیوں اور کبھی میدان کے کسی درخت کی اونٹ فرمائیتے۔ اسی طرح جب آپ سخت زمین پر پیشتاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین کو ایک لکڑی لئے کراس سے کر دیتے۔ یہاں تک کہ وہ نرم ہو جاتی، پھر پیشتاب فرماتے اور آپ ہمیشہ پیشتاب کرنے کے لئے نرم زمین ہی تلاش فرماتے، جو بالکل پورپی قسم کی نرم زمین ہوتی اور عام طور پر آپ بیٹھ کر پیشتاب فرماتے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پیشتاب کر لیتے تھے۔ اس کی تصدیق نہ کرنا بلکہ وہ تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشتاب کرتے تھے۔

صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشتاب کیا۔ محمد بن اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ اس وجہ سے کیا کہ آپ کو درد کی شکایت تھی۔ یعنی شرعی عذر کے باعث (ایسا کیا)، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ شفاء چاہنے کے لیے ایسا کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عربوں کے ہاں بیٹھ کے درد میں کھڑے ہو کر پیشتاب کرنا علاج ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ نے یہ کام پیشتاب سے بچنے اور درد بہنے کے لئے کیا۔ کیونکہ یہ فعل آپ سے اس وقت صادر ہوا جب کہ آپ ایک کوٹے کے ڈھیر کے پاس تشریف لائے۔ آپ مزبلہ نام کی ایک چادر اور ڈھے ہوئے تھے یہ جگہ اونچی تھی کہ اگر یہاں بیٹھ کر پیشتاب کیا جاتا تو لوٹ کر اوپر آتا۔ آپ نے اسے سترہ بنایا۔ اس طرح آپ اس کے اور دیوار کے درمیان ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ گا رہ تھا۔

امام ترمذیؒ نے حضرت عفر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے کھڑے پیشتاب کرتے دیکھا تو فرمایا، اے عفر کھڑے ہو کر پیشتاب نہ کرو۔ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشتاب نہیں کیا۔ امام ترمذیؒ نے لکھا ہے کہ یہ عبد الکریم بن ابو محارق سے مرفوع روایت ہے اور یہ راوی محمد بن ابی صالح فرماتے ہے۔ محدث بن القیم

حضرت عبد اللہ بن بریدہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین زیادتی کی باتیں ہیں کہ آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کرے یا نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی پیشانی کو صاف کرے یا مسجدہ کی جگہ پر پھونک مارے۔ ترمذیؓ نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہے۔ بنازرؓ نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ سعید بن عبد اللہ کے علاوہ اور کسی راوی نے حضرت عبد اللہ بن بریدہ سے اسے روایت کیا ہے اور انہوں نے کسی قسم کی جریح بھی نہیں کی۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہ راوی بصری ہے اور مشہور ثقہ راوی ہے۔ جب آپ بیت الخلام سے ہاہر تشریف لاتے تو قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ آپ استنبخار پانی یا ڈھیلے سے (بائیں ہاتھ سے کرتے۔ اس سلسلے میں ایسا کوئی فعل نہ کرتے جو وہی لوگوں کی عادت ہے۔ مثلاً ذکر کو کھینچنا، کھاننا، کو دنا رسی کو کپڑنا، سیر حی پر چڑنا، احلیل کے آخر میں روئی ٹھونٹنا، پانی ڈالنا اور بار بار ادھر ادھر گھوننا، یہ تمام باتیں صرف وہی لوگوں کی ایجاد ہیں۔

ابو جھفر عقیل کہتے ہیں کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہوتے اور کوئی آدمی سلام کرتا تو آپ جواب نہ دیتے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عمرؓ اور بنازرؓ کی مسند میں مذکور ہے کہ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر بعد میں فرمایا۔ میں نے اس خیال سے جواب دیا کہ تم کہو گے کہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آئندہ اگر مجھے اس حالت میں دیکھو، تو سلام مت کرو، کیونکہ میں سلام کا جواب نہ دوں گا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ واقعہ درستہ پیش آیا۔ بعض کا خیال ہے کہ مسلم کی روایت زیادہ درست ہے۔ کیونکہ وہ روایت حمّاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر سے مروی ہے اور بنازرؓ کی روایت ابو بکر سے جو کہ عبد اللہ بن عمر کی اولاد میں سے ایک شخص تھے۔ انہوں نے نافعؓ سے روایت کی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صاحب ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عمر میں۔ امام وغیرہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ لیکن حمّاک کی روایت زیادہ افضل ہے اور جب آپ پانی سے استنبخا فرماتے تو اس کے بعد زمین پر ہاتھوں گرلاتے اور جب آپ رفع حاجت کے لئے بیٹھتے تو جب تک زمین کے بالکل قریب نہ ہو جاتے، تب تک کپڑا نہ اٹھاتے۔

**چند اور امور میں آپ کی سُنت** | جو تا پہنچ کر فتنے، وضو کرنے، دینے اور بینے کے موقع پر دائیں طرف سے متروع کرنا اچھا سمجھتے تھے۔ آپ کھانا کھانے، پانی پینے اور پاک کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال فرماتے اور دوسری ہاتوں کے لئے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے۔ مثلاً خراب چیزوں کو ہٹانے اور صاف کرنے کے لئے بھی بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔

سرمنڈار نے میں آپ کی سُنت یہ تھی، یا تو سارا سرمنڈار تے یا سالا رہنے دیتے اور ایسا نہ کرتے کہ کچھ حصہ منڈرا دیں اور کچھ حصہ رہنے دیں۔ حلقی لاس (سرمنڈانا) آپ سے صرف قربانی کے موقع پر منقول ہے آپ مسواک کو پسند فرماتے، اوروزے اور افطار ہر حالت میں مسلک کرتے۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت وضو کے وقت نماز، دم گھر میں تشریف لے جاتے وقت مسواک کرتے۔ آپ اداک کی مسواک کرتے۔ آپ کثرت سے خوشبو گاتے اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے۔ روایت ہے کہ آپ نورہ بھی استعمال فرماتے۔ ابتداء میں آپ بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ بعد میں آپ نے انگ نکالنی شروع کر دی۔ اس طرح آپ نے بالوں کے دو حصے کر دیے۔

اور سدل کا مطلب پچھے کی طرف بغیر مانگ نکالے لکھا دینا ہے۔ اس صورت میں دو حصے نہ کرتے۔ آپ حام میں کبھی نہیں گئے۔ غالباً آپ نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں اور حام والی روایت صحیح نہیں۔ آپ کے پاس ایک سرمه داتی تھی۔ آپ ہر رات سوتے وقت اس میں سہ رانکھ میں میں سلاسلیاں ڈالتے۔

خناب کے متعلق صحابہ کا اختلاف ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے خناب نہیں لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خناب کیا۔ حماد بن سلمہ نے محمد سے اور انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خناب لگاتے ہوئے دیکھا حماد کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن محمد بن عقیل نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو

حضرت انسؓ کی موجودگی میں خضاب لگا دیکھا۔ ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوشبو استعمال فرماتے تھے کہ آپ کے بال سرخ ہو گئے۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ (سرخ) خضاب لگا ہے، حالانکہ آپ خضاب نہ لگاتے۔ ابو مرثہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ میرا بھٹا بھی تھا۔ آپ نے پوچھا تمہارا بھٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی، بال، آپ گواہ رہئے، پھر آپ نے فرمایا، نہ تو اس کے لئے باعث اذیت ہونہ وہ بھے دکھ دے اور فتوایا میں نے بڑھاپے کو سرخ دیکھا۔ امام ترمذیؓ فرماتے ہیں۔ کہ اس مسئلہ میں یہ روایت زیادہ معتبر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نہیں تھے جادین سلمہ سماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ جابر بن سمرة سے دریافت کیا گیا کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بڑھاپے کے نشانات تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بانگ کے قریب چند بالوں کے سوا بڑھاپے کی سفیدی نہ تھی۔ جب آپ تیل لگاتے تو اس وقت وہ لظاہارتے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور ڈارِ حسی میں کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے اور آپ اکثر سر پر کپڑا رکھا کرتے تھے۔ اور یوں علم ہوتا تھا کہ جیسے تیل کا کپڑا ہے۔ آپ کنگھی کرنا پسند کرتے تھے، کبھی آپ خود ہی کنگھی کرتے اور کبھی حضرت عائشہؓ کرتے ہیں۔ آپ کے بال نہ زیادہ تھے نہ کم۔ آپ کے بال کافوں کی نو تک آجاتے، جب بڑھ جاتے تو آپ ان کی چار لیٹیں بنالیتے۔

حضرت ام بانی بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ کی چار لیٹیں تھیں یہ روایت صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو رونہ فرماتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کو ریحان دیا جائے وہ بدنہ کرے، کیونکہ خوشبو محضرا وہ الکی ہوتی ہے یہ الفاظ روایت میں ہیں بعض حضرات روایت کرتے ہیں کہ جسے خوشبو پیش کی جائے وہ اُسے رد نہ کرے اس کا مطلب بہلی سے مختلف ہے، کیونکہ ریحان لیغا زیادہ احسان مندی کی بات نہیں۔ اکثر لوگ ریحان ایک دوسرے کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ بخلاف مشک غیر اور دوسرا بیش قیمت خوشبویات کے کہ انہیں عام طور پر دینے کا رواج نہیں، لیکن عروہ بن ثابت کی روایت جو حضرت ثما مرے ہے اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ

سلمیہ وسلم خوشبو رہنہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع حدیث ہے کہ وہ نبی ﷺ کے متعلق کہتے ہیں کہ تکیہ، تیل اور دودھ کو آپؐ رہنہیں فرماتے تھے، یہ معلول روایت ہے۔ امام ترمذیؓ نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کی تعلیم بھی یاد نہیں کر انہوں نے کیا بتایا تھا۔ ہاں عبد اللہ بن مسلم بن جندب کی اپنے والد سے اور ان کی ابن عمرؓ سے روایت نیز ابو عثمان کے مراحل سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو رسیان دیا جائے تو اسے رد نہ کرے، کیونکہ یہ جنت سے نکلا ہے۔ اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوشبو دانی تھی، جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے اور سب سے زیادہ آپؐ کو مشک کی خوشبو پسند تھی اور ”فاغیره“ خوشبو آپ کو بہت ہی بجلی لگتی، کہتے ہیں کہ یہ حناو کی خوشبو ہوتی ہے۔

موخچیں تراشوانے کا بیان | ابو عمر بن عبد البر نے بتایا کہ حسن بن صالح نے سماں سے اور انہوں نے عکر مٹھے سے اور انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موخچیں تراشنتے تھے اور لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی موخچیں تراشا کرتے تھے۔ محدثین کی ایک جماعت اس روایت کو حضرت ابن عباسؓ پر موقوف سمجھتی ہے۔ ترمذیؓ نے حضرت زید بن ارقہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی موخچیں نہ کشوائے وہ ہم میں سے نہیں ترمذیؓ سے صحیح روایت قرار دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موخچیں کاٹو اور ڈارہ می بڑھاؤ۔ اور مجوہیوں کے طریقے اختیار نہ کرو۔ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مذکور ہے کہ ”وَمُشْرِكُوْنَ كَيْ عَالَفْتُ كَرُوْ، ڈارہ می بڑھاؤ اور موخچیں تراشو“ صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ چالیس دن رات نہ گزرنے پائیں کہ تم موخچیں کٹو اور ناخن کٹو اور۔

اسلاف کے مابین مونچیں کٹوانے اور منڈوانے میں اختلاف رہا ہے کہ کوشا طریقہ ہے  
نہ ہے ؟ امام مالک موطا میں لکھتے ہیں کہ اتنی مونچیں کافی جائیں کہ اب کے کنارے ظاہر ہو جائیں  
یعنی جلد نظر آجائیں۔ ابن عبدالحکیم مالک سے روایت کرتے ہیں کہ مونچیں "اعفاء" کی جائیں  
اور ڈاڑھی بٹکائی جائیں اور اعفاء بالکل جلد سے منڈنے کا نام نہیں اور اس سمجھتا ہوں کہ مونچیں  
مناسب طریقہ سے بنائے این قاسم نے ان سے روایت کیا ہے کہ میرے نزدیک مونچیوں  
کا جڑ سے منڈوادینا ایک قسم کا مسئلہ ہے۔ مالکؓ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعفاء الشاز  
کا مطلب احاطہ کرنا ہے اور امام مالکؓ اوپر سے ہال لینے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے  
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مونچیوں کا بالکل جڑ سے منڈوادینا بدعت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ  
اس کے مرکب کو جماں مزداد بینی چاہئے اور امام مالک مزید بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب  
رضی اللہ عنہ کو جب کوئی دکھ پہنچتا تو پھونگنے لگتے، پاؤں چادر میں لبے کر دیتے اور مونچیوں  
کو بُستے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے کہ مونچیوں میں اعفاء (منڈنا) سنت سے املاکی  
بتاتے ہیں کہ ہمیں امام شافعیؓ سے اس کے متعلق کوئی قول نہیں پہنچا اور ابوحنینؓ، ابویوسفؓ  
زفرؓ، اور امام محمدؓ کا مسلک سرا اور مونچیوں کے متعلق یہ ہے کہ منڈوادینا کتروانے سے بہتر  
ابن خوبی منڈاد مالکی، امام شافعیؓ کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ان کا مسلک صحی ابوحنینؓ کے  
مطابق تھا۔ ابو عمر کا قول صحی ہی ہے۔ اثرمؓ نے امام احمدؓ کے متعلق کہا ہے کہ میں نے امام احمد  
کو دیکھا کہ وہ خوب جڑ سے مونچیوں کو منڈوادیتے تھے۔ میں نے سنا کہ وہ اس بات کو  
سنت قرار دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ خوب منڈوادینا چاہئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا کہ مونچیں منڈوادو۔ امام حنبلؓ بتاتے ہیں کہ ابو عبد اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا خیال  
ہے ؟ انسان کچھ مونچیں کٹوادے یا بالکل منڈوادے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے ؟ انہوں  
نے جواب دیا کہ بالکل منڈوادیتے ہیں کوئی گناہ نہیں اور اگر کتروانا تو صحی کوئی ہرج نہیں۔  
ابو محمد نے مخفی میں لکھا ہے کہ اس بات کا اختیار ہے چاہے تو بالکل منڈوادے اور چاہے  
تو صاف کتروانے سے۔ طحاویؓ بتاتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسوک پر بال رکھ کر اپنی مونچیوں کو کاٹ دیا اور اس طرح بالکل "منڈنا"

نہیں ہو سکتا اور حضرت عائشہؓ و حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے دلیل پیش کی ہے۔ جنہوں نے آپ کا ”اعفار“ (بالکل مونڈ دینا) نہیں دیکھا۔ اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ دس باتیں فطرت کی ہیں ان میں قص اشارب (موخچوں کو کترانا) روایت کیا ہے اور وہ روایت جو متفق علیہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ فطرت کی پانچ باتیں ہیں، ان میں سے موخچوں کو کترانا بھی ہے اور ملعونؐ نے اس حدیث سے دلیل پیش کی ہے کہ جس میں مونڈ دینے کا حکم دکھ ہے اور وہ روایت بھی صحیح ہے۔ نیز حضرت عباسؓ کی روایت کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم موخچوں کو مونڈ دیتے تھے۔ امام طحاوی بتاتے ہیں کہ اس سے اچھی طرح مونڈ دینا مراد ہے اور حقیقتاً یہاں دونوں صورتوں کا احتمال ہے۔ مزید برائی ابوسعید، ابواسید، رافع بن خدیج، سہل بن سعد، عیدالشہد بن عمر، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے متعلق لکھا ہے کہ یہ سب حضرات موخچیں منڈوا کرتے تھے۔ ابراہیم بن محمد بن حاطب بنماہیں کہیں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ اس طرح موخچیں منڈواتے تھے کہ جیسے بال ہی اکھیر ٹریبے ہوں۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کی جلد کی سفیدی نظر آتی تھی۔ طحاوی بتلتے ہیں کہ تمام حضرات کے خیال ہیں کترنا سنت ہے۔ یاں حلقوں (مونڈ دینا) سرور قیاس کرتے ہوئے زیادہ افضل ہے۔ ایسے ہی موخچوں کا مونڈ دینا افضل ہے۔

**گفتگو، خاموشی، ہنسنے اور رونے میں آپ کی سنت طبیبہ** بنی صلی اللہ علیہ وسلم تمام

خلوق سے زیادہ فصح، شیریں بیان اور گفتگو میں حلاوت اور سلسل نئے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ کا کلام دلوں میں کصب جاتا اور روح کو گرم کر دیتا۔ وہمن بھی آپ کے ان صفات حمیدہ کے معترض تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو واضح اور جداجد الفاظ بورلتے، کلام کو آپ دھراتے، اتنا تیز نہ بوئے کہ سامعین یاد نہ رکھ سکتے۔ اور جملوں میں اتنا سکوت نہ ہوتا کہ وہ گمراں گزرتا۔ بلکہ آپ کا انداز کلام ہر لحاظ سے بہتر اور مکمل تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح مسلسل تیز گفتگو نہ فرماتے، بلکہ آپ جداجد اور واضح گفتگو کرتے کہ پاس بیٹھنے والا اُسے یاد کر لینتا۔ اکثر اوقات آپ ایک بات کو تین یعنی بار دھرتے

تکہ خوب یاد ہو جائے اور جب آپ سلام کرتے تو تین ہار سلام فرماتے۔ اکثر اوقات آپ خاموش رہتے۔ ضرورت کے بغیر کلام نہ فرماتے۔ آپ کلام کا آغاز اور انعام جبراون کے دہانے سے کرتے (یعنی توجہ سے بات فرماتے) آپ جامع کلام فرماتے بات نہ زیادہ طویل ہوتی اور دلبے معنی حد تک مختصر ہوتی اور ضرورت کے بغیر آپ کلام نہ فرماتے۔ صرف اس معاملہ میں کلام فرماتے۔ جہاں ثواب کی امید ہوتی۔ جب آپ کسی بات کو ناپسند فرماتے تو پھر ہر سے ظاہر ہو جاتا۔ آپ لغو کلام اور بے ہودہ گوندھے اور دن تیز کلام تھے اور آپ کا ہنسنا اکثر تبسم کی حد تک رہتا بلکہ آپ محض تبسم ہی فرماتے۔ آپ کے ہنسنے کی آخری حد یہ تھی کہ فقط ڈاڑھیں نظر آ جاتیں۔ کسی ہنسی کی بات پر آپ مسکرا دیتے۔ یعنی کوئی قابل تعبیر بات ہو جاتی، جس کا دروغ نادر اور عجیب سمجھتے۔

ہنسی کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک تو گزر چکا۔ دوسرا خوشی کے باعث ہنسنا، یعنی کوئی ایسی بات یا واقعہ جو گدگدی پیدا کر دے۔ تیسرا غصہ کے وقت ہنسنا یعنی نہ ہر خند اور یہ اکثر غصہ میں ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ غصہ کرنے والا انسان، غصہ کا سبب دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مٹلا دشمن میرے بیضہ میں آچکا ہے اور اب میں اس پر قابض اور با اختیار ہوں، کبھی غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پالنے کے لئے ہنستا ہے، تاکہ غصہ سے توجہ ہٹ جائے اور اس کے نتائج ختم ہو جائیں۔

ہنسنے کی طرح آپ کارونا بھی ایسا ہی تھا کہ اس میں چیننا چلانا اور آواز نہ تھی۔ جس طرح ہنسنے کے وقت قہقہہ نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح گرید کے موقع پر اتنا ضرور ہوتا کہ آپ کی انکھیں ڈبڈ با آتیں اور آنسو ہو جاتے اور سینہ سے روٹے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی۔ کبھی تومیت پر رحمت کے باعث روپڑتے۔ کبھی امت پر زمی اور مطرات کے باعث، کبھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور کبھی قرآن مجید سنتے سنتے روپڑتے۔ یہ آخری رونما محبت واشتیاق اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے خوف سے ہوتا، جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراء بن علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ کی انکھوں میں آنسو آگئے اور نرم دلی کے باعث رو دیے اور فرمایا۔

آنکھ روئی ہے، دل غم کھاتا ہے۔ البتہ ہم وہی کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اسے ابراہیم تمہارے لئے ہمیں غم ضرور ہے۔

نیز جب آپ نے ایک فوہی کو حالتِ نزع میں دیکھا تو روپرے اور جب حضرت ابن مسعودؓ نے آپ کے سامنے سورہ الشاعر کی تلاوت کی اور اس مقام پر پنچھے، جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

فَكَيْفَ أَذْجَبْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هُوَكُلُّ شَهِيدٍ  
یعنی: پھر کیا حال ہو گا جب ہم بلا میں گے ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور بلا میں گے  
تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔

جب عثمان بن مطعون قوت ہوئے تو بھی آپ روئیے پھر جب سورج گرہن ہوا اور آپ نے نماز کسوف پڑھی تو آپ نماز میں رونے لگے اور کہا: اے (میرے) پروردگار کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہ کیا تھا کہ جب تک میں ان میں ہوں تو ان کو عذاب نہ دے گا اور وہ بخشش چاہتے رہیں گے اور ہم بخشش چاہتے ہیں۔ اور جب آپ اپنی ایک یہی کی قبر و تشریف فرمائیں گے تو روپرے اور کبھی آپ رات کی نماز (تہجد) میں روتے تھے۔

رونے کی کئی اقسام ہیں، ایک تو رحم کرتے ہوئے رونا اور نرم دلی سے رونا و سرادر اور خوف سے رونا، تیسرے محبت اور اشتیاق میں رونا، چوتھے خوشی و انبساط کا رونا۔ پانچوں تکالیف اور ناقابل برداشت مصائب پر رونا، چھٹا غم کا رونا۔ اس مونہ اور خوف کے رونے میں فرق یہ ہے کہ غم کا رونا دھنڈا ہوتا ہے اور دل بھی مسروہ ہوتا ہے اور غم کا رونا گہم ہوتا ہے اور دل بھی غلگین ہوتا ہے۔ اس لئے خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ آنکھوں کی حرارت اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں گرم کرے۔ ساتواں صحف و ناتوانی کا رونا، آٹھواں منافقت سے رونا۔ اس میں آنکھ روئی ہے اور دل پھر کی طرح سخت ہوتا ہے ظاہری طور پر تو یہ آدمی بڑا نم

دل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑا سنگدل ہوتا ہے۔ فوائی مستعار طور پر رونا اور مزدوری پر عینی اجرت پر رونا، جیسے رونے والیاں اجرت لے کر روتی ہیں۔ بقول حضرت عمر بن خطاب یہ عورتیں آنسوؤں کی تجارت کرتی ہیں! اور مردوں کے دکھ پر روتی ہیں۔ دسوائیات کرنے کے لئے رونا کہ جب لوگوں کو کسی مصیبت میں روتا دیکھے تو بھی رون پڑے۔ اور یہ علوم نہ ہو کہ وہ کیوں رہ رہے ہیں۔ صرف انہیں روتے دیکھا تو یہ بھی رونے لگا اور جس رونے میں محض آنسو ہوں اور آواز نہ نکلے وہ بند رونا ہوتا ہے اور جس رونے میں آواز بھی ہو تو اسے بلکہ مدد و داد (آواز والا رونا) کہتے ہیں جیسا کہ شاعر فہرست کہا ہے سے

بَكْتَ عِينِي وَحْقَ لَهَا يَكَاهَا وَمَا يَغْنِي الْبَكَاءُ وَلَا الْعَوْيلُ

یعنی؟ میری آنکھ روپڑی اور اسے رونے کا حق بھی تو ہے۔ رونے اور چینے کے سوا کوئی چارہ کا رہیں؟

اور جو محض مکلف کر کے روایا جائے اسے "تہاکی" (مصنوعی رونا) کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قابل تعریف اور دوسرا قابل مذمت ہوتا ہے، دکھاوے اور ریا کاری کے لئے ہیں بلکہ نرم دلی اور خوف خدا پیدا کرنے کے لئے رونے کی کوشش قابل تعریف ہے۔ اور لوگوں کو دکھانے کے لئے رونا قابل مذمت ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بدکے قیدیوں کے متعلق روتے دیکھا تو دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیئے کہ آپ کیوں رہ رہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آگیا تو روپڑوں گا، ورنہ مصنوعی طور پر رونے کی حالت ضرور کروں گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیڑا نہیں کہا۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنالو۔

# خطباتِ نبوی

## آل حضرت کا انداز و اسلوب خطابت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر، منبر پر اور اونٹ پر بھی خطبہ دیا ہے جب آپ خطبہ فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں۔ اواز بلند ہو جاتی اور جلال بڑھ جاتا، جیسے کہ کوئی کسی شکر سے ڈراما ہو کر صحیح یا شام کو آتے ہیں والہ ہے اور فرماتے سنتے کجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو فرائسے فرق سے دکھاتے اور فرماتے کہ اس کے بعد سب سے بہتر کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب رقرآن مجید ہے اور بہترین تحفہ رسمت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت) ہے۔ سب سے پذیرہ نہ کام بدعت دوین میں نئی رایجادات ہیں اور ہر تی ایجاد و بدعت، اگرچہ ہی ہے۔

آپ بوجی خطبہ دیتے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز فرماتے۔ وہ اکثر فقہاء کا یہ کہنا کہ آپ بارش کی دھماکا خطبہ سستغفار سے اور عبید کا خطبہ تکمیر سے شروع کرتے تو ان کے پاس اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں، حالانکہ آپ کی سنت اس سے جدا ہات کی متفقی ہے۔ یعنی تمام خطبات کے آغاز میں الحمد للہ راللہ کی تعریف اکھنہ ثابت ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے اس مسلم کو اخنیا کہا ہے اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس کو ترجیح دی۔ نیز آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ مراقب عظام وغیرہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لاتے تو چہرہ انور لوگوں کی طرف کر لیتے پھر السلام علیکم فرماتے۔ امام شعبی بتاتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما الیسا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ استغفار پڑھتے ختم فرماتے۔ آپ زیادہ تر قرآن مجید سے ہی خطبہ دیتے۔

صحیح مسلم میں امام ہشام بنت حارثہ سے روایت ہے کہ میں نے قرآن المجید کی

صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن سن کرنا دکری تھی کیونکہ آپ ہر محدث مبارک کو منبر پر اسے پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کو خطاب فرماتے: ابو داؤد میں حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پڑھتے، الحمد لله نستسینه و نستغفرلہ و نعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدى الله  
 فلَا مضل لة و مَن يضل فَلَا هادی لَهُ وَاشْهَدُ اِن لَا الَّهُ اِلَّا اللَّهُ وَمَا مَنَعَ اللَّهُ وَمَن يَعْصِي اللَّهَ فَقَدْ أَسْرَى وَمَن يَعْصِي اللَّهَ فَقَدْ أَسْرَى

فلامضل لة ومن يضل فلا هادی لة واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده  
 ورسوله ارسله بالحق بشیراً وفتیزيراً بین السلمة من يطع الله ورسوله  
 فقد اسرى ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئاً۔

یعنی عصب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ ہم اُسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش پاہتے ہیں اپنے آپ کی شرارتیوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اُسے گراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے گراہ کرے اُسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں اور ہم گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کو قیامت کے قریب ہی حق پر خوشخبری دیتے اور درانتے والا بنا کر میتوث فرمایا جو اللہ اور کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک وہ ہدایت پاگھا اور جو دونوں کی نافرمانی کرے تو وہ حرف اپنا لقصان کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بکار نہیں سکتا:

ابو داؤد نے یونس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابن شہابؓ سے جمعہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف اور کی متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بھی بڑی الفائز بتاتے، ہمیں انہیوں نے انتہاز بنا دے تباہا، کہ آپ فرماتے، "وَمَن يَعْصِهَا فَقَدْ غَوِيَ" یعنی: کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ ہو گیا؟

ابن شہاب بتاتے، ہمیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرمایا کرتے: جو اسے والا ہے وہ قریب ہے اور جو ادا ہے وہ دوسرے نہیں۔ کسی کی جلد بازی پر اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرنا وہ لوگوں سے ڈُذنا نہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتلے ہے روہی ہوتا

ہے) نہ کہ جو لوگ چاہتے ہیں ایک بات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور لوگ کوئی دوسری بات چاہتے ہیں تو، ہو گا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگرچہ لوگ ناپسند کریں، جسے اللہ قریب کرے اُسے کوئی دوسرے نہیں کر سکتا اور جسے اللہ دور کرے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

آپ کے خطبے اللہ تعالیٰ کی حمد و شناصر اس کے انعامات و اد صافِ کمال و اسلام کے اصول کی وضاحت، جنت و دوزخ اور قیامت کے ذکر، اللہ سے درنے کا حکم، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کے مواقع بیان کرنے پر مشتمل ہوتے تھے اور آپ خطبہ دیتے وقت فرمایا کرتے تھے:-  
”آے لوگو! میں جس بات کا حکم کروں تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے یا تم ہرگز وہ نہ کر دے گے۔ ہاں سیدھے ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔

اور جب خطاب کی ضرورت و مصلحت ہوتی آپ اُسی وقت خطاب فرمایا کرتے اور آپ جب بھی خطبہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور دونوں شہادتیں دیتے رہیں اُشہد  
”اَنَّ لَوْلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَهَدَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ اور آپ اپنا نام ”اسم مسلم“ کے طور پر ذکر فرماتے۔

نیز آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس خطبہ میں شہادتیں رد دونوں شہادتیں مذکورہ نہ ہوں تو وہ خطبہ گویا کہ ایک کٹا ہوا ہاتھ ہے اور آپ جب جھرو سے باہر تشریف لاتے تو آپ کو کوئی افسوس نہ ہوتا اور آج کل کے خطبیوں کا جیسے فیشن ہے مثلاً بڑے بڑے رومال سر پر باندھنا اور لپشت اور گردن پر لٹکالینا آپ ایسا نہ کرتے۔

آپ کے منبر کی تین سیٹریں، جب آپ اس پر تشریف رکھتے اور لوگوں کی طرف چھڑا لونکر لیتے تو مسوُذن کہنا اور آپ اذان سے پہلے کچھ نہ فرماتے اور نہ بعد میں کچھ بات کرتے۔ پھر جب آپ خطبہ پڑھتے تو مسوُذن یا کوئی اور اُسی کوئی بات نہ کرتا۔ جب آپ خطبہ دیتے کے بیہ کھڑے ہوتے تو آپ عصافر مبارک سے لیتے اور آپ منہ پر کھڑے کھڑے اس کا سہارا سالگایتے۔

ابو داؤد نے ابن شہابؓ سے اس طرح روایت کیا ہے اور تینوں خلفاء بعد میں اس طرح

خطبہ دیتے رہے ہیں اور کبھی آپ کمان پر سہارا لگاتی تھے، یہ معلوم ہنہیں کہ آپ نے تلوار پر بھی سیک لگائی ہے یا نہیں۔ یعنی جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ منہر پر میٹھا کرتلوار ہاتھ میں لے لیتے اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دین تکوار سے قائم کیا گیا۔ یہ واضح قسم کی جہالت ہے اور اس کے دو اسباب ہیں ایک تو یہ کہ حدیث میں صاف آتا ہے کہ آپ عصا اور کمان پر سیک لگاتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دین تودھی کے ذریعہ قائم ہوا، مان تکوار مشکین اور گمراہ لوگوں کو موشانے والی ہے اور مدینہ منورہ تو صرف قرآن پاک ہی سے فتح ہو چکا تھا، یہاں تو تلوار کی ضرورت ہی لاحق نہ ہوئی تھی۔ آپ کو جب خطبہ کے دوران میں کام پر طر جاتا تو اس سے پورا کر دیتے اور سچروالیں اگر خطبہ دیتے۔ ایک بار آپ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن و حسین شریخ قمیص پہنے تشریف لائے، آپ نے خطبہ پسند کر دیا۔ منہر سے اڑائے اور ان دونوں کو گود میں اٹھایا، پھر منہر پر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے سبیک فرمایا کہ،

اَتَهَا مَا مُوَالَكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فَتَتَّهَّـةٌ، یعنی: تمہارے پیسے اسوال داؤں و آذناں میں میں نے ان دونوں کو قمیصوں میں رکھکتے آتے دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا اور خطبہ ختم کیا اور ان کو اٹھایا۔

اور سبیک عطفانی حاضر ہوا، آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے سبیک اٹھو، دور کعت نماز پڑھو۔ اور مختصر طور پر ادا کر۔ پھر آپ نے لوگوں کو خلاصہ کر کے فرمایا، اور آپ نے منہر پر تشریف فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی ادمی جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دور کعت نماز نفل ادا کرے اور انہیں مختصر کرے۔ کبھی آپ مختصر خطبہ ارشاد فرماتے اور کبھی حسید ضرورت طوبیں کر دیتے اور آپ کا ہنگامی خطبہ مرتباً خطبہ سے زیادہ طویل ہونا اور آپ عبیدوں کے موقع پر سورتلوں کو میٹھا خطاب فرماتے اور انہیں صدقہ کی ترغیب دیتے۔

نادي المعارف

١٩٤

حصة أول

# الجادات

# آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقِ طہارت

## وضو، مسح، ہنگام

کئی فحاظ میں ایک ہی وضو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناموں میں اکثر نیاد ضوفرماتے اور کبھی بھی کبھی  
وضوفرماتے مرکاذن دمشق کے چار اوپریہ سے لے کر دو تین اوپریہ تک ہوتا۔ وضو میں آپ اپنی پانی پر  
طرح استعمال فرماتے۔ بیکن پر بھی امت کو پانی کا استعمال میں اسراف سچرہ بیشتر کی تلقین فرماتے  
آپ نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ بھی ہوں گے، جو وضو میں اسراف کر دیں گے۔ نیز  
فرمایا کہ وضو کے وقت بھی ایک شیخان ہوتا ہے جس کو ولہان کہتے ہیں، اس یہے وضو کے  
وقت و سو سوں سے پچھو۔

ایک مرتبہ حضرت سعدؓ کے پاس سے گزرے وہ وضو کر رہے تھے۔

آپ نے فرمایا، پانی میں اسراف نہ کرنا۔

انہوں نے عرقن کیا، کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟

آپ نے فرمایا: "ہاں اگرچہ تم کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے کیجیوں نہ ہوں؟"

اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک ایک بار دو دو بار اور تین تین بار عضو کو دھویا  
بعض روایات میں ایسا ہے کہ آپ نے ایک ہی وضو میں کسی عضو کو دو بار اور کسی کو تین بار دھویا  
کبھی آپ ایک ہی چلوسے کلی کرتے اور میک میں پانی ڈالتے اور کسی روایات میں چلوں سے بھی الیاف میا  
یتھے۔ کبھی کبھی کلی کرتے اور ناک میں پانی بینے کا کام ایک ہی چلوسے کرتے، اور میں چلوسے کلی کرتے، باقی

اُدھے سے ناک میں پانی ڈالتے، باقی دو یا تین چلوؤں کی صورت بیس الگ الگ یہ کام کرتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک چلو سے اپنے یہ دونوں کام اُن کے لیے۔ یہ حدیث عبد اللہ بن زید کی ہے۔ کسی صحیح حدیث میں مضمونہ رکھی کرنا اور ارشاد ناک میں پانی ڈالنا کے ماہیں فعل وارد نہیں ہے۔ لیکن علیحدہ معرف نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے جو روایت کی اس سے فعل ثابت ہے لیکن انفری لاوی کا صحابی ہونا ثابت نہیں۔

**آل حضرت کاظمۃ المسح** [بائیں ہاتھ سے، مسح پرورے سر کا کرتے، کبھی آگے پیچے ہاتھ لگایتے، مسح کے ساتھ ساتھ کافنوں کا بھی اندر باہر مسح کر لیتے، اس کے لیے الگ سے پانی نہ لیتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ احادیث عثمان سے ثابت ہے کہ اپ سر کا مسح ایک مرتبہ کرتے۔ جب حرف پیشانی کا مسح کرتے تو عاصمہ پر ہاتھ پھیر کر اس کی تکمیل کر لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہونا کہ اپ سر کا مسح کرتے، کبھی عاصمہ پر مسح کر لیتے، کبھی پیشانی اور عاصمہ پر کر لیتے لیکن حرف پیشانی پر مسح کر لینا ثابت نہیں۔ اگر موڑ سے نہ پہنچے ہوتے، یا پا تابے اس طرح میں نہ ہوتے تو پورے پاؤں کا مسح کرتے، لیکن اگر پہنچے ہوتے تو حرف موڑوں کا مسح کر لیتے، گردن کا مسح اپ سے ثابت نہیں۔

و منو کے وقت اپ فرماتے۔

ا شهدا ان لوا الله لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ولا شهداء ان محمدًا عبده  
و ر سوله اللهم جعلنى من التوابين و جعلنى من المستطهرين  
سنن نسائی میں مروی ہے کہ و منو کے بعد اپ فرمایا کرتے:  
سبحانك رب العالمين اشهد لك لا إله إلا أنت استغفر لك و أتوب إليك۔

لے چری موڑ سے تہ سوتی موڑ سے۔

و ضنو کے بعد آپ دوڑھی کا خلاں کرتے، لیکن کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ لیکن اس بارے میں ائمہ حدیث مختلف الرائے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ احمد اور ابوذر عتر کے نزدیک تخلیل صحیح (دار حی) میں انگلیوں سے خلاں کرنا ازدواجی حدیث ثابت نہیں۔ اس طرح آپ انگلیوں میں بھی خلاں کرتے، لیکن پانندی سے نہیں، کہنی اور ٹھنڈے سے اور پرانی وسائل ثابت نہیں۔ وضو کے بعد احضانہ کا خشک کرنا بھی مختلف فیہ ہے۔ کبھی خود وضو کر لیتے، کبھی کوئی دوسرا پانی ڈال دیتا، جیسا کہ صحیفین میں معتبر کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر میں آپ کو وضو کرایا، باقی رہا وضو کے وقت انگلشنزی کو ادھر ادھر گھمانا تو یہ حدیث ضعیف ہے، راستے مقررے اپنے والدر سے روایت کیا ہے اور بد دفعوی ضعیف ہیں۔ جیسا کہ دارقطنی نے ذکر کیا ہے۔

### مسح سفر اور حضر میں میسائیں حب اُنز ہے

سفر اور حضر، ہر حالت میں آپ نے سمح کیا ہے اور وفات تک یہ سلسلہ جاری رکھا، سمح کی مدت متفہم کے یہے، ایک شب دروز مسافر کے یہے، تین شب دروز مقرر فرمائی ہے، جو صحیح اور حسن احادیث سے ثابت ہے، آپ چرچی موزوں پر بھی سمح کرتے، جرالوں را اونی، سوتی، پر بھی، اور جو قوی پر بھی، اگر موزے نہ پہنچے ہوتے پاؤں دھو لیتے، پہنچے ہوتے تو سمح کر لیتے، سمح کرنے کے لیے موزے کسی بھی نہیں پہنچے اور بھی بہتر طریقہ ہے۔

### تمہم آپ کس طرح کرتے تھے؟

آپ کا دستور تھا کہ دو ایک مرتبہ ہاتھ لیتے، بہبھی روایت صحیح ہے۔ دو مرتبہ ہاتھ مازنا یا کہنیوں تک تمہم مکرنا ثابت نہیں ہے۔ امام احمد کا در شاد ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ تمہم کہنیوں تک کرنا چاہیے، وہ بہ اضافہ اپنی طرف سے کرنا ہے۔ تمہم ہر اس زمین پر کر لیتے جس پر نماز جائز ہے خواہ وہ مٹی ہو یا ریت یا لونا۔ آپ فرماتے:

”میری امت کا آدمی بہاں کوئی نماز کا وقت پائے تو اس کے پاس اس کی سجدہ اور سامان طہارت موجود ہے“

وضو کی طرح تمیم سے بھی کئی نمازوں میں پڑھی جاسکتی ہیں | ہر نماز کے لیے جدلاً کا شریعہ  
اس کا حکم دیا، بلکہ تمہارے کو بالکل وضو کا نام مقام فردا ہے اور ہی بات فربن صواب بھی ہے  
جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو۔

---

# نماز اور اركان و آداب نماز

**تیکیر، قرائت، سکتہ، رکوع، قیام، سجدہ، تاشید**

**سندت اور بدعت** انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر فرماتے اس سے پہلے کچھ نہ کہتے۔ حتیٰ کہ زبان سے نہت بھی نہ کرتے، نہ بیر فرماتے کہ میں پھار رکعت نماز کی نیت کیہیہ کی طرف رخ کر کے امام یا مقتضی بن کر کرنا ہوں۔ نہ ادا اور قضا کا فقط استعمال فرماتے، نہ وقت کا نام لیتے بہ ساری باتیں بدعت ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ بھی مروی نہیں ہے۔ نہ احادیث صحیحہ سے نہ ضعیف حدیثوں سے، نہ سند سے، نہ رسول سے، نہ کسی صحابی سے۔ تابعین میں سے بھی کسی نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا ہے، نہ انگر ارجمند نے۔

بعض مورخین نے امام شافعی کے قول سے دھوکا کھایا ہے کہ نماز و فرہ کی طرح نہیں ہے کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک ذکر نہ کرے۔ ذکر سے مراو نمازی کا نیانت سے نیت کرنا ہے۔ حالانکہ امام شافعی کا مقصد ذکر سے مرغ تیکیر ہے۔ بخلاف امام شافعی ایک ایسے فعل کو کس طرح لازمی قرار دے سکتے تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے خلفاء وصحابت نے کسی ایک نماز میں بھی رو اندر کھا ہو؟ اگر ہمیں ایک حرف بھی ان سے مل جاتا تو ہم سر تسلیم فرم کر دیتے کیونکہ بھی کی سندت اور صحابہ کے عمل سے زیادہ کوئی تجزیہ بھی بہتر اور برتر نہیں ہے۔

تیکیر کے لیے آپ دونوں ہاتھ قبده رکھ ہو کر کامزیوں یا کافوں نکل اسے

مرح اٹھایا کرتے تھے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوتی۔

نماز کا آغاز کبھی اپس دعائے کرتے:

اللَّهُمَّ بَاعْدَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَخْطَاءِي يَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔

یعنی: اے اللہ بیرے اور بیری لغزشوں کے ما بین اتنی ہی دوری کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔

کبھی فرماتے: اللَّهُمَّ اغْصِلْنِي مِنْ خطايَايٍ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ۔ (اللہم نقنی من الماءِ ثلوج وَ الخطايَا كَمَا يَنْقُضُ الشُّوْبَ لَا يَنْقُضُ مِنَ الْأَنفُسِ۔

”یعنی: اے اللہ بیری لغزشوں سے مجھے پانی، اوسے اور ٹھنڈسے دھوڈاں۔

اے اللہ مجھے خلاؤں اور گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے، جس طرح سفید کپڑا مبل سے صاف ہو جاتا ہے“

کبھی فرماتے: وجہت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفًا مسلماً  
ومَا نَاهَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ان صلوات و نسکی و بھیتی و عماق لله رب العالمین۔ لا شريك  
له و بيه ذا لاك امرت وانا اول المسلمين۔

یعنی: میں صرف اس اللہ کی طرف اپنارُخ کرتا ہوں، جس نے زینت اور اسلام  
کو پیدا کیا اور بلاشبہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بیشک بیری نماز“  
بیری قرآنی، بیری زندگی، بیری موت اللہ کے یہ ہے، جو ساری جہانوں کے  
پالنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کامجھے حکم دیا گیا ہے اور میں  
پہلا فرمانبردار ہوں“

کبھی وس مرتبہ اللہ اکبر فرماتے پھر وس مرتبہ تسبیح کرتے پھر وس مرتبہ مدد کرتے  
پھر وس مرتبہ تہذیل کرتے، پھر وس مرتبہ استغفار کرتے، پھر وس مرتبہ فرماتے اللہم  
اغفرنی وهدنی و رحمقني،

یعنی: اے اللہ بیری مغفرت کر مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے روزقہ دے“

اس کے بعد وس مرتبہ فرماتے۔ اللہم عوْذْ بِكَ مِنْ ضيق مقابر و مِنَ الْقِيَامَةِ۔

لیعنی اے اللہ قیامت کے دن بین فیيق مقام سے نیری پناہ مانگنا ہوں؟ یہ تمام باتیں  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔

روایت ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز افسوس الفاظ سے کرتے تھے۔  
سبحانک اللہم و بحمدک و تعالیٰ حمدک و لہ الہ غیرک۔  
لیعنی، اے اللہ تو ہر پاکی اور حمد کا سزاوار ہے، تبرنام او پچاہ تبر امر تبر بر طلاق تبر  
سو اکوئی نہیں، جس کی پرستش کی جائے؟

اسی طرح کی حدیث حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عمر بنی صلی اللہ علیہ وسلم  
کے مسئلے پر کھڑے ہو کر بنداؤار سے اسی دعا کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تھے، تاکہ لوگ  
اچھی طرح جان لیں امام احمد کا قول ہے کہ یہی حضرت ملک کے مسلک پا بند ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کا آغاز  
دوسرے نامور روایات کے مطابق کرے تو وہ بھی درست ہے۔ مذکورہ دعا کے بعد حضرت عمرؓ عوف باللہ  
من الشیطان الرجیم اوس بسوا اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے، کبھی  
زور سے کبھی چکے سے، لیکن زیادہ نر زور سے گراس میں کوئی شبہ نہیں کہ دن رات کی پانچوں نمازوں  
میں زور سے پڑھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات خفادر اش این، تمہور صحابہ اور اہل مدینہ سے پوشیدہ نہ تھی۔

تلادت فاتحہ کے بعد آپ امین کہتے۔ اگر فاتحہ با اوز بند پڑھتے تو امین بھی ادازے کہتے۔ اور اگر فاتحہ آہمترے سے  
پڑھتے تو امین بھی چکے سے کہتے، آپ کی فراثت اس طرح ہوں کہ رأیت پر قن کرنے اور اذری حرف کو کسی کھو پڑتے۔

**فجر کی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی۔** [سکنتہ پہلی تکیہ کے بعد دراسوڑہ فاتحہ ختم کر کے

پھر کوئی سورہ نہ رکھتے، جو کبھی طویل ہوئی کبھی تختصر۔ لیکن نماز میں زیادہ تر ایسی سورتیں پڑھتے ہو  
نہ طویل ہو نہیں نہ تختصر۔ البتہ سفر اور صحن و ری کی حالت میں پھر ٹوٹی سورتیں پڑھتے۔ آپ، نماز  
فجر میں ستر سے سو نکل پہنچتے۔ یہی نماز زیادہ طویل ہوتی تھی۔ جمعہ کے دن اکثر  
سورہ سجدہ، تنزیل اور حل اتنی پڑھتے۔ یہ آخری دونوں سورتیں یعنی سورہ سجدہ اور  
حل اتنی ایک ایک بیس پوری پوری پڑھتے۔ آج کل کے بعض لوگوں کی طرح کچھ حصہ نہ  
پڑھتے اور نہ دور کھعنتوں میں پوری سورۃ پڑھتے۔ یہ خلاف سنت ہے اور اکثر جاہلیوں

کا خیال ہے کہ یومِ حکومت کی فضیلت سو رہ سجدہ کی وجہ سے ہے یہ ہل عظیم ہے اسی وجہ سے بعض ائمہ اسے مکروہ سمجھتے رہتے کہ سورہ سجدہ اس نماز میں اس خیال کے ماتحت پڑھی جائے۔

رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے ان سورتوں کو پڑھنے سختے کہ ان میں میدا و معاد، خلق آدم، دخول جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ اس لیے بڑے بڑے معمون مثلاً عبید اور معاشر کے دن تذکیرات کے لیے ان سورتوں کا پڑھنا ہر طرح مناسب تھا۔ کبھی کبھی اپنے موقعوں پر اپ سورة "ق" اقتدریت، سیح اور غاشیہ بھی پڑھنے سختے۔

ظہر، عصر، مغرب اور عشا کی نمازوں [ابو سعید کہتے ہیں کہ نماز ظہر کی افامت سن کراس اشنا میں اگر کوئی چاہتا تو ہر اسانی لیقیت کے جا کر وہاں قضاۓ حاجت سے فارغ ہو کر گھر آتا، وضو کرتا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبھلی رکعت میں پالیتا، کبھی اپنے ظہر کی نمازوں میں کوئی تحریک نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے اپنے ظہر کی نمازوں میں اپنے نامہ "ذات الدبروج" یا "سبح سر، بلک الاعلى" یا "واللیل اذ یغشی" یا "اسماء ذات الدبروج" یا "اسماء الطاسق" کے قراءت کرتے۔

البته عصر کی نماز ہر قدر ظہر کے نصف ہوتی، اگر اسے کوئی دیتے تو، ورنہ پھر ظہر کی خفتر نماز کے برابر ہوتی۔

مغرب میں آج کل کے لوگوں کے برخلاف کبھی سورۃ اسراف بیسی طویل سورۃ پڑھتے کبھی سورۃ طورہ کبھی سورۃ مرسلات، بلکہ معوذ ترنتے ہیں۔

عشاد میں "وَتِينٍ وَسِيتون" پڑھتے، ایک مرتبہ جب معاذ بھی شریک تھے؛ "وَالشمس وَخَلْهٗ" پڑھی عام طور پر سبح "ر سمر، بلک الاعلى" اور "واللیل اذ ایشی" پڑھا کرتے۔

حضرت معاذ پر اپ کا اعتراف [اس سلسلہ میں ایک مرتبہ اپنے معاذ پر خفا ہوئے، انہوں نے اپ کے ساتھ عشاءد کی نماز پڑھی، پھر قبیله بنی عمرو بنے عوف میں گئے اور وہاں کے لوگوں سے کو عشاءد کی نماز پڑھائی اور سورہ بقدر "رجیسی طویل ترنتے" سورت شروع کر دی، اپ کو جب تک

فَبِرَبِّهِمْ خَيْرٌ فَرِمَا يَا ؟

افتان انت یا معاذ ؟ یعنی "اے معاذ کیا تو فلکنہ گر ہے ؟" ۔  
محمد کی نماز بیس آپ سورة "جعفر و منافقین" پوری پڑھتے، علاوه از جس سورة "سجع"  
و خاشیہ" بھی۔

عید عنیہ بیس بھی سورہ "ق" اور "اقتر بت" پوری کی پوری پڑھتے۔ کبھی سورہ "سجع"  
و خاشیہ"؟

یہ تھا اپ کا وہ معمول جس پر دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک حالی رہے۔  
خلفاء راشدین نے بھی اپ کی اس سنت پر باہندی سے عمل کرتے رہے۔ چنانچہ  
حضرت ابو بکرؓ فریں سورہ لقرا اور حضرت عمر سورہ یوسف" اور "خلل" اور ہود اور بنی  
اسراءيل میں سے طویل اسوریں عام طور پر پڑھا کرتے۔ اگر نماز فجر کی طویل آپ نے  
نسوچ کر دی ہوتی تو خلفاء راشدین سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی تھی اور اگر  
رہ بھی جاتی تو دوسرے صحابہ فوراً لوٹ کتے اور بتا دیتے۔

یاقی رہی وہ حدیث جو مسلم نے اپنی "صحیح" بھی جابر بن سمرة سے روایت کی ہے  
کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم فجر بیس "ق" پڑھا کرتے تھے اور بعد میں سے چھوٹی سورتیں لکھتے  
لکھتے تو یہاں بعد اسے مراد یعد فخر ہے۔ یعنی اپ فجر کی نماز تو طویل پڑھتے تھے۔  
اور بعد کی نماز بیس حنقر۔

لہ اس واقع سے اندازہ ہوتا ہے کہ سر در کائنات کو اس بات کا کتنا خیال رہتا تھا کہ دینے  
کے معاملات بیس لوگوں کو زحمت سے بچا سکیں؟ امام کے یہے خود ہے کہ وہ مقتند یا وحی کی  
سہولت کا خیال رکھے، کیونکہ انہی مقتند یا وحی میں مریضی، بوڑھی، کمزور، حاجت مند  
سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

(ارٹیسٹ: الحمد للغیری)

سورت معین کر کے نمازوں میں رہ پڑھنی چاہئے | بنی اسرائیل علیہ السلام محدث و مجدد بیدار پختہ کے سواد و سری تمام نمازوں میں سورت معین کر کے نہیں پڑھا کر شفحتے۔ چنانچہ ابو داؤد نے علی و بن شعیب کی روایت لفظ کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ: ”فرض نمازوں میں چھوٹی بڑی سورت توں میں سے کوئی الیسی سورت نہیں ہے جو میں نے آپ سے (کبھی تکبھی) انہیں ہو،“ آپ کا معمول یہ تھا کہ جو سورت پڑھتے پوری پڑھتے، کبھی کوئی سورت دو کرعتوں میں پوری کرتے، کبھی کسی سورت کا ابتدائی حصہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے، لیکن یہ نہ ہوتا کسی سورت کے نیچے سے با آخر سے قرات کر دے۔ ایک رکعت میں دو سورتیں بھی آپ پڑھ لیتے تھے لیکن نفل نمازوں میں، فرض میں نہیں۔

پہلی رکعت دو مری رکعت سے بڑی ہوتی تھی | معمولاً آپ کی پہلی رکعت دوسری کرنے کے بعد فرادم لیتے، تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے۔ رکوع اس طرح کرتے کہ دونوں ہاتھوں کے پنج گھنٹنوں پر اس طرح رکھتے ہیے انبیاء پکڑے ہوتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بہلوؤں سے جُدار کھتے، لپشت مبارک بالکل سیدھی رہتی، سر مبارک نہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہوتا نہ جھکتا ہوا، بلکہ لپشت کے سیدھو میں رہتا۔

سبحان ربي العظيم، بعضی ”بہرا پر در دھار پاک ہے اور یا عندهت ہے“ پڑھتے کبھی آتنا اضافہ اور کردیتے:

سبحانك اللهم و بحمدك اللهم المقرب يعني: اے اللہ تو پاک ہے، نزی

ہی ہم محمد و نبی کرتے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت فرم۔

آپ کا رکوع اتنا دراز ہوتا کہ ادمی یا سانی دس مرتبہ سبحانك رب العظيم

سکے۔ یہی کیفیت سجدہ کی بھی ہوتی ہے۔

اہل سنن نے حضرت انسؓ کی روایت درج کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پیچے آپ کی نماز سے اتنی ملتی جلتی نماز نہیں پڑھی جتنا اس نبوجو ان کی رماد حضرت مگر بن عبد العزیز (رضی) :

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم نے حضرت مگر بن عبد العزیز کے رکوع و بخود کا اندازہ کیا، تو اندازہ پُتو اکران میں سے ہر ایک دس تین ہوں کے برابر ہے، اور

بعد ازاں آپ سَيِّدَ الْمُتَّقِينَ حَمْدَ لَا“ کہتے ہوئے سراٹھاتے۔ اور

رفع یہ رفع کی روایت کم و بیش تیس صحابہ کی ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں اس کے خلاف آپ سے کچھ نہابت نہیں ہے، اور اس دنباء سے رخصت ہوتے وقت

نک آپ کا بھی محمول رہا۔

رکوع سے فراغت کے بعد آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور فراغت **اللَّهُمَّ وَكَلَّتِ الْحَمْدُ**۔

اوکیجی ارشاد فرماتے **اللَّهُمَّ سَرِّهَا لَكَ الْحَمْدُ**، یعنی ”سرِّہا لَكَ الْحَمْدُ“ کے درمیانہ واو کا استعمال ذکرتے، پہلی صورت صحیح نہیں ہے، دوسری صحیح ہے، آپ کا بیرکن (تقبیام) بھی یہ قدر رکوع و بخود دراز ہوتا قیام کے دورانیہ میں آپ یہ دعا پڑھتے، جو آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے۔

**سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ، اللَّهُمَّ سَرِّهَا لَكَ الْحَمْدُ، هَلْ السَّمَوَاتُ وَهَلْ الْأَرْضُ مَوْلَاهُ**

لئے حضرات اہل حدیث اور بعض دوسرے آئندہ کرام کا مسلک یہی ہے بلکہ اخاف کے ہاں ”رفع یہ رفع“ یعنی رکوع کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کان نک لے جانا اور پھر جائز ہے بلکن ضروری نہیں۔ اختلاف استحباب میں ہے، واقعہ میں نہیں۔ ابن قیم اور دوسرے اکابر کا جیال ہے کہ آپ نہ نذری بھروس پر ماں سے بلکہ ائمۃ اخاف کے نزدیک یہ دعویٰ ثابت نہیں۔ (رمیس الحمد عفری)

من شئي بعد اهل الشناء والتجدد حق ماقات العبد وكلنا لله عباد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منحت، ولا ينفع ما في منك الجدد.

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی حمد سن لی، جو اس نے بیان کی، اسے خدا، تو سزاوارِ حمد ہے، آسمانوں کے برابر، زمین کے برابر اور اس پیز کے برابر، جو اس و سماں کی پہنچائی کے بعد بھی تو پسند فرمائے۔ تیرے ہی یہے وہ تعریف و شناسی ہے جو بندہ کر سکے اور ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ جسے تو دنیا چاہیے اس کا کوئی مانع نہیں اور جسے تو کچھ دنیا چاہیے اسے کوئی دسے نہیں سکتا، اور نہ کوئی صاحبِ ثروت اپنی ثروت کے باعث تیرے سے عذاب سے پنج سکلت ہے؛ اس کے بعد آپ رفع بدرینت کیے بغیر سجدے سیدھے جلتے، بعض حفاظت..... حدیث کا جمال ہے کہ اس موقع پر بھی آپ رفع بدرینت کرتے تھے، مثلًاً محمد بن خرم بھی کہتے ہیں، بیکن بیران کا وہم ہے، امر واقعہ بہ نہیں ہے۔

مسجدے کا طریقہ اور سلوب اور دعائیں سجدے کے وقت پہلے آپ گھٹتے زمین پر رکھتے پھر راتھ، اس کے بعد ما تھا اور ناک۔ احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے، واکل بن مجرم کی روایت ہے کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے میں پہلے آپ گھٹتے ڈیکھتے، پھر راتھ رکھتے اور جب سجدے سے اٹھتے رکھتے تو پہلے راتھ اٹھاتے پھر گھٹتے۔ اس کے خلاف کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔

مسجدے کی حالت میں آپ کا دستور بہ تھا اور ناک اچھی طرح زمین سے ٹکڑا دیتے راتھوں کو پہلوؤں سے جُدار رکھتے، پنجے کندھوں اور کانوں کی سیدھیوں پر ہوتے۔

صحیح مسلم میں حضرت برادر بن عازب کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا:

جب سجدے میں جاؤ تو، تھیلیوں کو زمین پر رکھ لو، اور کپنیاں اٹھا لو، آپ کا سجدہ معتدل نہماں پیٹھ سیدھی رہتی، دونوں سے بیرون کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوتے۔ تھیلیوں اور انگلیوں کو پھیلا دیتے۔ انگلیاں ترباہم پیوںست

پھر تین نوجوانوں میں ہے کہ آپ رکوٹا میں جب جاتے تو یہ پڑھتے:  
**سُبْحَانَ رَبِّيْ أَلَا عَلَىٰ** یعنی میرا رب پاک ہے اور برتر ہے۔

سبحانک اللہ مرینا و محمد ک اللہم اغفر لی یعنی: اے ہمارے رب تو پاک  
 ہے، تو ہر حمد کا سزاوار ہے، میری مغفرت فرا۔  
 نیز آپ فرماتے:

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخْنَكَ وَعِجَانَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَوْلَا جَعَلْتَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَشَدَّتْ عَلَى نَفْسِكَ**

یعنی، اے اللہ بلاشبہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے تیری رضا کا واسطہ  
 دے کر اور پناہ مل دے کر تنا ہوں تیرے عذاب سے، تیرے عفو کا واسطہ دے  
 کر، میری حمد کا شمار کرنا میرے لیس سے باہر ہے، بے شک تو دلپاہی ہے  
 جیسا اپنے بارے میں تو تے فرمایا ہے۔

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَّيْتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَافِي، فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَنْدِي وَهَذِئِي وَخَطَّائِي وَحَمْدِي وَحَلْ ذَالِكَ عَنْدَكِ - اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْرَتْ**  
**وَمَا أَخْزَتْ - وَصَادَرْتْ وَمَا أَعْلَمْتْ أَنْتَ الْهَمَّ لِأَنَّهُ لَا أَنْتَ -**

یعنی: اے میرے پروردگار میری خطا کاری اور جہالت سے حدگز فرماء، میری زیادتی  
 صاف کر، میرا وہ گناہ بھی نخش دے، جس کا میرے مقابلہ میں تھے زیادہ علم ہے۔ اے  
 میرے پروردگار میری سی و کوشش، میری ہنسی دل بھی، میری لغزش اور میرا زادہ  
 ہر برائی جو میرے اندر ہے اسے نخش دے اے میرے پروردگار، میرے منقدم اور  
 موتگر گناہ نخش دے، وہ گناہ بھی جو میں نے علاج نہ کیا اور چیپا کر کیا، تو یہ میرا معبد و گے  
 تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں،؟

و عائے سجدہ کے بارے میں آپ کا ارشاد تھا کہ خوب اچھی طرح گردانگا کر مانگا کرو۔  
 اس باب میں اختلاف ہے کہ قبام اور کبود  
**قیام اور سجود میں افضلیت کا سوال** [میں فضیلت کسے حاصل ہے؟]

ایک جماعت کا خیال ہے کہ قیام کو متعدد وجوہ سے افضلیت حاصل ہے۔

۱- اس لیے کہ اس میں جو ذکر ہے وہ افضل الا ذکار ہے اور بہ رکھنے بھی افضل الارکان ہے۔

۲- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "قَوْمُوا اللَّهَ قَائِمَتِينَ"

۳- ارشاد بنوی ہے "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ كَاطِلُ الْقُنُوتِ"

ایک دوسری جماعت ہے جو سجدے کو قیام سے افضل مانتی ہے۔

۱- اس جماعت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

"جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھاتا ہے اور اس کی خطا عین گھٹاتیا ہے۔

۲- ربعہ بن کعب وسلمی نے جنت میں آپ کی مراقبت و مصاچحت کی استدعا کی

تو آپ نے فرمایا:-

خوب سجدے کرو،

۳- آنحضرت پر جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ افڑا ہے، اس کا خاتم الانفال پڑ رہا ہے۔ واسجد واقترب، یعنی: سجدہ کیجیئے اور خدا کا قرب حاصل کیجیئے:

۴- سجدہ کرنے والا اپنے رب کے ساتھ سفر فکنڈہ ہو کر حاضر ہوتا ہے اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں۔ اس طرح وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔

۵- سجدہ راذ عبودیت ہے اور عبودیت نام ہے تذلل کا اور خضوع کا۔

ایک جماعت کا خیال ہے کہ رات میں طویل قیام افضل ہے اور دن میں کثرت رکوع و سجود افضل ہے۔

تشہد کے لئے بیٹھنے کا طریقہ | جب آپ کا قیام طویل ہوتا تو رکوع و سجود

رکوع اور سجود بھی خنثی خواہ فہ نماز تہجد ہو یا فرضی۔

میکر کھتے ہوتے آپ سجدے سے اٹھتے، پھر بایاں پاؤں پچھا دیتے اور اس پر بیٹھ جاتے۔ داہنیا پاؤں کھڑا رکھتے، رانوں پر ما تھریوں رکھتے کہ کہنیاں رانوں پر لکھی رہتی رہے پنج گھٹنوں پر ہوتے۔

سجدے سے فارغ ہو کر جب تشریف کے لیے عیشہ نو وہ انگلیاں مٹھی میں لے لیتے اور واڑہ سانبا کر انگشت شہادت الشھادت الشھادت کے حرکت دیتے اور دعا مانگتے۔ واہی بن جھنے اس طرح روایت کیا ہے۔ آپ قعده اتنی دیر کرتے جتنی دیر سجدہ میں لگتی ہے ایو حاتم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ آپ اس موقع پر بہ دعا پڑھا کرتے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَرَحْمَنْ وَاجْبِرْنِي وَاهْدِنِي وَاسْرِقْنِي بِيْتِنِي، أَعْسِمْ بِرَبِّ رَزْقِي عَطَا فَرْمَا۔

آپ تشریف میں کیا اور کس طرح پڑھتے؟ پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو جیسا کہ ایں اور گھٹنوں پر اس طرح اٹھتے کہ موجود رانوں پر رہتا، زمین پر با تھریک کر رہا اٹھتے۔

جب آپ کھڑے ہوتے تو فوراً قرات شروع کر دیتے اور اختنام صلوٰۃ کے وقت جس طرح فراسا سکوت فرماتے اس طرح پر ایمان کرتے، جب التجیات کے لیے میٹھے تو بایاں با تھریا میں دان پر اور داہنیا با تھریا میں دان پر رکھتے، پھر شہادت کے انگل سے اشارہ کرتے، اسے خم کرتے اور حرکت دیتے، چھنگلی اور اس کے بعد کی انگلی اور انگوٹھے سے واڑہ بنایتے۔ صرف انگشت شہادت باہر رہتی اس پر نظر جھی رہتی ہے راستے آہستہ آہستہ جنبش دیتے اور دعا کرتے، بایاں با تھریا اور اس کی انگلیاں بدستور اپنی جگہ پر بنتیں، نشست بالکل ایسی ہی ہوتی جیسی سجدہ کے بعد ہو اکرتی۔

بخاری اور سلم میں روایت ہے کہ جب دوسری رکعت میں آپ جلوس کرتے بایاں پاؤں پچھاتے اور داہنیا کھڑا کرتے، لیکن جب آخری رکعت میں جلوس کرتے تو داہنیا پاؤں پہلے کی طرح کھڑا کرتے اور بایاں پاؤں اس کے نیچے سے نکال لیتے اور جسم کو زمین پر رکھ کر بیٹھ جاتے۔ پھر تشریف پڑھتے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالطَّيَّاْتُ عَلٰى سَلَامٍ عَلٰيْكَ اِيٰهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ  
عَلٰى سَلَامٍ عَلٰيْنَا وَعَلٰى عِبادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ - اشْهَدُ انَّ لِلّٰهِ اَلٰٰلٰهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً  
عَبْدُ اللّٰهِ وَسُولُهُ -

یعنی دساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے بنی سلام ہو اپ پرورد  
اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں آپ پر ہم پر اور اللہ کے تمام نیک  
بندوں پر سلام ہو بین گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معیوب و نہیں اور  
محمد اُس کے بندے، اور رسول ہیں۔

پہلے تشبہد ہے، کسی حدیث سے بھی بہ ثابت نہیں کر آپ نے اپنے اوپر  
یا انہی اُل پر درود بھیجا ہو، نہ عذر ایوب قبر عذاب دوزخ، فتنۃ جبات و حمات  
اور فتنۃ مسیح و جال سے پناہ مانگی۔ البتہ تشبہد اخیر ہیں ان باتوں کا فرمان، حدیث  
صحیح سے ثابت ہے۔

---

# نماز کی دعا اور نماز کے بعد سلام

نماز کے دران میں کون سے کام کئے جاسکتے ہیں؟

نماز میں دعائیں کرنے کے سات مقامات وہ مقامات جہاں آپ نماز میں دعائیں کرنے تھے۔

- ۱۔ ابتداء نماز میں نبکیر ترجمہ کے بعد
- ۲۔ وتر میں قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے، اور صحیح کن نماز میں رکوع سے قبل بصیرت قتوت عارضہ کے بشرطیکر بہ درست ہو کر بیو کہ روایت محل تقریب ہے۔
- ۳۔ رکوع سے سیدھا کٹرا ہونے کے بعد جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عباس ابی اویش کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر الٹھاتے تو پڑھتے سبع اللہ بن حمدا اللہ بر بناللک الحمد مل السموات ومل والارض وصل ما شئت من شئ بعد اللہ هم طهري بالشجر والبرد والمار ابارد اللہ هم طهري من اللذ طوب والخطايا كما ينقى الشوب الا وبضم من الوسخ۔

بعنی، جس نے اللہ کی تعریف کی اس نے سن لی۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار تو سزاوار حمد ہے۔ انسانوں اور زینق کی پہنچانی کے مطابق اور اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے اس کی پہنچانی کے مطابق۔ اے اللہ مجھے برف، ٹھنڈا اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاوں سے اس طرح پاک فرمائیے سفید کپڑے کو میں سے صاف کیا جاتا ہے۔

۴۔ کروع میں آپ پڑھا کرتے، سبھانک اللہ ہو بناؤ جھدیک اللہ ہو غفرانی۔  
یعنی: "اے اللہ پاک ہے۔ ہمارے پروردگار تو ستر اوار گھدر ہے۔ اے اللہ مجھے  
خشن دے؟"

۵۔ سجدہ میں آپ دعا فرماتے اور اس موقع پر آپ اکثر دعا کیا کرتے۔

۶۔ دو سجدوں کے درمیانے -

۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت فضالؓ نے عبید کی روایت میں اسی کا حکم دیا گیا  
ہے۔ نبیر آپ نے سجدہ میں دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ربی وہ دعا جو نماز کے بعد اسلام  
پھیر کر قبلہ رخ یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بنی صلی اللہ علیہ  
وسلم کی سنت سے کچھ ثابت نہیں۔ اور نہ صحیح یا حسن سند سے روایت ہے۔ نبیر فوج اور  
عصر کی نماز کے بعد اس کی تخصیص نہ آپ نے خود کی اور نہ آپ کے بعد خلفائے راشدین  
نے یہ تخصیص کی ہے اور نہ امت کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ جس نے بھی  
اسے جائز سمجھا سنت نہیں بلکہ محض استحسان سمجھا۔

نماز کی دوسری عام دعائیں | نماز کے متعلق (دیگر) عام ادعیہ کا آپ نے اہتمام  
کے احوال سے ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، جب تک وہ نمازیں  
رہتا ہے وہ اسی سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اور جب سلام پھیر دیتا ہے تو یہ سرگوشی  
منقطع ہو جاتی ہے اور اس کافر و حضور سنت سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے قرب  
وسرگوشی کی حالت میں اور اس کی طرف توجہ کی صورت میں دعا کیسے زکر کر سکتا ہے؟  
نیز جب وہ سلام پھیتا ہے تو پھر دست سوال (پھیلادیتا ہے) اور اس میں شک نہیں  
کہ اس حالت کا عکس نمازی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھئے یہاں ایک (لطیف نکتہ)  
بھی ہے۔ وہ یہ کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہوا اور اللہ کا ذکر کرے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)  
تبلیل کرے۔ تبلیل پڑھے، گھد کرنے اور نماز کے بعد شروع اذکار سے اس کی بزرگی  
بیان کرے تو پھر نمازی کو چاہیے کہ اس کے بعد بنی صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار شریف

پڑھے اور پھر جو چاہیے دعا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دوسری عبادت کے بعد ہی دعا مانگے، نہ کہ فقط نماز کے بعد، کیونکہ جب اس نے اللہ کا ذکر کیا، محمد کی اور کی شنا بیان کی اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس کام کے بعد اس کی دعا قبول ہو گی جیسا کہ حضرت فضال بن مبینؓ کی روایت ہے میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے۔ امام ترمذیؓ نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔

### سلام پھیرنے کا طریقہ

پھر بنی صلی اللہ علیہ وسلم وابی طرف سلام پھیرتے اسلام پھیرنے کا طریقہ اور (جستے) : ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّهُنَّ﴾ طرف بھی کرتے۔ اسے پندرہ صحابہؓ نے روایت کیا ہے، جن کے اسامی گرامی یہ ہیں: عبد اللہ بن مسعود، سعد بن ابی وفا، سہل بن سعد صادری، واکل بن جابر، ابو موسیٰ اشتریؓ، حذریؓ، بن شہریان، عمار بن یاسر، عبد اللہ بن عمر، جابر بن سمرة، برادر بن عازب ابو مالک اشعری، حسن بن علی، اوس بن اوس، ابو رثیہ، عدی بن حکیم و رضی اللہ عنہم، بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ سامنے کے رُخ پر ایک تسلیم سے سلام پھیرتے۔ لیکن یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ اس بحث میں زیادہ صحیح روایت حضرت عائشہؓ کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تسلیم سے پھیرتے تھے، لیکن مسلم علیکم فرماتے۔ آپ کی آواز اتنی بلند ہوتی کہ ہم جاگ جاتے یہ روایت معلوم ہے کوئی نہیں ہے مگر پہ رات کی نماز (تجھد) کے بارے میں ہے، جن لوگوں نے دو تسلیمات ذکر کیے، میں انہوں نے فرض و نقل میں جو مشاہدہ کیا اسے روایت کر دیا۔ دوسرے حضرت عائشہؓ کی روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مخمر نہیں۔ بلکہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ ایک سلام کرتے اور اس سے بھیں جلا کر دیتے۔ دوسری تسلیم کا ذکر نہیں کیا بلکہ خاموش ہیں اور ان کا سکوت اس راوی کی روایت پر مقدم نہیں ہو سکتا کہ جس نے روایت کو بیان کیا ضبط کیا، ان روایات کی تعداد بھی کثیر ہے اور ان کے روایات بھی زیادہ درست ہیں۔ ان کے اکثر روایات صحیح اور باقی حسن ہیں۔

ابو مسرون بن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وفا اور حضرت عائشہؓ

روابیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام مروی ہے۔ حضرت انسؓ سے یہی روایت ہے، لیکن ان کی روایت معلول ہے اور محمد بنین اسے صحیح نہیں سمجھتے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعدؓ کے روایات کا ذکر کیا ہے کہ آپؐ میں ایک ہی سلام کرتے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہم ہے اور عذر طلب ہے بلکہ روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامیں اور بائیس سلام پھیرتے۔ اس کے بعد ابن ماجہ کے طبق پر حضرت مصعب بن ثابت سے اور انہوں نے اسماعیل بن محمد بن سعدؓ اور انہوں نے عامر بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دامیں اور بائیس سلام پھیرتے ہوئے دیکھا۔ گویا کہ میں اب بھی آپؐ کے چہرے کا حصہ دیکھ رہا ہوں۔ (اس پر) امام ذہریؓ نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں اسے نہیں پایا۔

اسماعیل بن محمدؓ نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ کی تمام احادیث آپ سن چکے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ”نہیں“۔ آپؐ نے فرمایا، تو کیا نصف سننے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ”نہیں“، تو وہ کہتے لگے اسے اس نصف میں سے سمجھ دیجیے، جواب نے نہیں سنی ہیں، آ۔

دہی حضرت عائشہؓ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کہ آپ ایک ہی تبلیغ سے سلام پھیرتے، تو اسے تنہا زہیر بن محمد نے ہشام بن مروہ سے مرفوماً بیان کیا ہے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔ پھر سعید بن ابی سلمہ و زیرون نے روایت کیا۔ زیرون محمد تمام محمد بنین کے نزدیک ضعیف اور کثیر الخطاء میں، ان کی روایت سے جنت نہیں لائی جاتی۔ یحییٰ بن معین نے اس روایت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عمر بن ابی سلمہ اور زہیر کی روایات ضعیف، میں، جو جنت نہیں ہو سکتیں۔ نیز بتا ہے کہ حضرت انسؓ کی روایت مرف ایوب سختیباً کی سند سے مروی ہے۔ حالانکہ ان کے خیال میں ایوب نے حضرت انسؓ سے کچھ بھی نہیں ٹُنا۔ نیز کہا ہے۔

کہ حضرت حسنؑ سے رسول روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی تسلیم سے سلام پھیرا کرتے تھے۔ حالانکہ ایک تسلیم کے قائلین کے پاس عمل اپلی مددین کے سوا کوئی جگت نہیں اور کہتے، میں کہ یہ عمل اہمیتیں اکابر سے متواتر طور پر پہنچا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بات کو دلیل بنانا صحیح نہیں، کیونکہ یہ مخفی نہیں ہے کہ بہ فعل ہر روز کئی مرتبہ صادر ہوتا رہا لیکن اس کے باوجود تمام فقہاء نے اس کی مخالفت کی ہے اور درست طریقہ انہی کا ہے۔

نیز بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنن اپلی شہر کے عمل سے روشنیں ہو سکتیں اور نہ پہنچی جاسکتی ہیں۔ چاہے راہل شہر کوئی سے بھی ہوں۔ نیز حکامؓ نے مدینہ وغیرہ میں نماز کے اندر چند جدید امور چلا دیے تھے، جن پر عمل جاری رہا اور ان کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ اور اپلی مدینہ کا جو عمل خلفائے راشدین کے بعد میں تھا روہی قابل بحث ہے، لیکن وہ عمل جو خلفائے راشدین کے بعد بازمانہ صحابہؓ کے ختم ہو جانتے کے بعد کا ہے تو اُس میں اور راہلی مدینہ کے علاوہ دوسروں کے عمل میں کچھ فرق نہیں اور لوگوں کو سنت پر عمل کا حکم دیا جاتا ہے نہ کہ اس عمل کا جو عمل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد کا ہے۔

**آل حضرت کی نماز میں دعا** | بنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقِبْرٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمُسِيحِ الرَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمُحَيَا مِنْ الْمَهَاتِ الْلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَاشِ وَالْمَفَرِّ.

یعنی: اے اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح و جاہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور مرگ و جہات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں!

اور آپ نماز میں پڑھا کرتے؛ اللهم انقرنی ذنبی و درستح لیٹی داری و بارک لی  
فیما زقلتی۔

یعنی: اے اللہ میرے گناہ خش دے اور میر سلیے میرے گھر میں و  
عطاف ما اور جو تو نے مجھے رزق دیا اس میں برکت دے ॥  
نیز پڑھا کرتے تھے۔ اللهم انی اسْمَالَكَ الشَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةِ عَلَى الرُّشْدِ  
وَسَمَالَكَ شَكْرِ نِعْمَتِكَ وَحَسْنِ عِبَادَتِكَ وَاسْمَالَكَ قَدْبَا سَلِيمَا وَلِسَانًا صَادِقَا وَاسْمَالَكَ  
من خیر ما تعلم و اعوذ بالله من شر ما تعلم واستغفر لك لما تعلم۔

یعنی: اے اللہ میں امور میں ثابت قدری، نیکی پر حرم کی استذہان کرنا ہوں  
اور تیری نعمت کا شکر کرنے، تیری اچھی بحادث کرنے کی رتفیق (اچاہتا ہوں)  
اور تجوہ سے قلب سلیم و زمان صادق چاہتا ہوں اور تجوہ سے ہر اُس بجلدی کی  
درخواست کرنا ہوں جو تو جانتا ہے اور ہر اُس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں  
جو تو جانتا ہے اس سے تیری خشش چاہتا ہوں۔

اور سیدہ میں آپ پڑھا کرتے؛ سب اعط نفسی تقواہا و نرکہا انت خیر من  
نر کاہا انت ولیہا و مولاہا۔

یعنی: آئے میرے پروردگار مجھے پرہیزگاری عطاف ما اور پاک کر دے تو ی  
بہتر ہے جو پاک کرے۔ تو ہی کام ساز اور اقا ہے؛  
پرہیز رکوع، سجدہ، فعدہ اور اعتدال رکوع میں جو دعائیں پڑھتے ان کا کچھ ذکر  
ہو چکا ہے۔

دعا صرف اپنے لئے یا جماعت کیلئے نماز میں آپ کی جس قدر منقول او بیہر میں  
انقرنی فارحمتی و هدایت۔

”یعنی: اے میرے پروردگار مجھے خش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے۔  
اسی طرح تمام منقول او بیہر کا معاملہ ہے، نماز کے افتتاح پر جو دعا ہے وہ مجھ

اسی طرح رمفوض صیغہ سے ہے ۲) اللهم اغسلنی من خطایاٰی بالتلیح والبر والملائع  
البادر اللهم باغعن بینی و بین خطایاٰی کما باعدت بین المشرق والمغرب۔

امام احمد رحمۃ اللہ اور محمد بن شیعین نے حضرت نوبانؓ سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے  
روایت نقل کی ہے کہ کوئی شخص اپنی جماعت کی اس طرح امامت نہ کرے کہ دعا میں اپنی  
ہی تخصیص کرے۔ اگر اس نے الیسا کیا تو خیانت کی۔

ابن خزرجؓ نے اپنی صحیح سے سند میں روایت کیا اور یہ حدیث اللهم یا عد بینی  
و بین خطایاٰی لکھ کر فرمایا کہ یہ روایت کار دکرتی ہے جس کا موضوع یہ ہے  
کہ کوئی شخص اپنی قوم کی امامت اس طرح نہ کرے کہ دعا میں اپنی تخصیص کرے اگر اس نے  
الیسا کیا تو خیانت کی اور میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ سے سنا کہ وہ اس حدیث  
کے متعلق فرمایا کرتے۔ میرے نزدیک یہ حدیث اس دعا کے متعلق ہے کہ جب امام  
اپنے مقتدریوں کے لئے (اجتماعی) صورت میں دعا کر رہا ہو۔ جیسے دعائے قنوت و غیرو۔

### نماز کے دوران میں دوسروں کے آلام اور ضرورت کا خیال رکھا جاسکتا ہے [بنی صلی اللہ علیہ وسلم]

علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تو سر جھکا لیتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل  
کیا ہے اور تشهید میں آپؐ کی نکاح انگلی کے شارہ سے آگے نہ بڑھنی اور یہ مضمون گزر  
چکا ہے اکہ جس میں کاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انکھوں کی ٹھنڈگ، نعمت، خوشی اور  
روح نماز میں کر کمی تھی اور فرمایا کرتے تھے اے بلالؓ ہمیں نماز سے شاد کام کرو اور فرمایا  
کرتے: یہری انکھوں کی ٹھنڈگ نماز میں ہے۔

اس کے باوجود نماز کی یہ کیفیات آپؐ کو مقتدریوں کے احوال سے فاقع نہ ہوتے  
ویتیں، اگرچہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نام اور قرب خصوصی حاصل تھا۔ آپؐ نماز  
شردع کرتے تو ملویں کر دیتے پھر کسی پچھے کے رونے کی اواز سنتے تو اس خیال سے تھقر  
کر دیتے کہ کہیں ماں پر بارہ گزرے۔ آپؐ نے ایک سوار بھیجا جو فوج کا (پیش رو تھا۔  
پھر آپؐ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور جس قبیلہ سے وہ سوار آ رہا تھا۔ اس کی طرف

التفاف بھی کرتے لگے۔ چنانچہ سوار کے احوال سے بے خبر نہ رہے۔ اس طرح آپ فرضی نماز ادا کر رہے تھے اور آپ نے اپنی تو اسی امامتہ نہت ابی العاص بن ریبع کو کاذبوں پر اٹھا کر ہاتھا۔ جب آپ رکوع و سجده کرتے تو اسے نیچے بُھا دیتے۔ نیز آپ نماز میں ہوتے اور حسن و حسین ٹھیک آتے تو وہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے اور آپ طویل سجدہ کرتے اس نیوال سے کہ وہ پشت سے گرنہ پڑیں۔ آپ نماز بیس مشغول ہوتے، حفت عالیٰ شریف اپنے کام سے آیتیں اور (مسجد) کا دروازہ بند ہونا تو آپ اس طرف تشریف سے جاتے اور دروازہ کھول دیتے۔ پھر نماز بیس بوت آتے۔ نیز جو آپ کو سلام عرض کرتا، آپ اشارہ سے اس کا جواب دیتے، حالانکہ آپ نماز بیس ہوتے۔

حضرت جابر بن انس نے بیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا۔ جب بیس واپس حاضر ہوا تو آپ نماز بیس تھے۔ بیس نے سلام عرض کیا تو آپ نے اشارہ سے جواب دیا، اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم بیس روایت کیا ہے۔ حضرت افس شفیع نے بیس کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیس اشارہ کر لیتے تھے۔ اسے امام احمد نے نقل فرمایا۔ حضرت صحیح فرماتے بیس کہ بیس بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بیس نے سلام کیا آپ نے اشارہ سے جواب دیا۔ راوی کہتے بیس کہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، بہر رواہت سنن اور سند بیس نہ کو رہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے بیس کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم قباد کی طرف تشریف لے گئے وہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے راوی نے بتایا کہ آپ کے پاس الفقار حاضر ہو گئے اور انہوں نے سلام عرض کیا، آپ نماز بیس مشغول تھے بیس نے حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کس طرح جواب دیتے دیکھا۔ جب لوگ حالت نماز بیس ایسا سلام کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں فرماتے اور راس پر) جعفر بن عون نے ہاتھ کھولا اور اندر کا حصہ نیچا کر دیا اور پشت فرما دی کر دی۔ یہ سنن اور سند بیس منقول ہے۔

امام ترمذیؓ نے اس کو صحیح بتایا اور الفاظ بیر ہیں ”وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے“ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا : جب میں جبشہ سے واپس آیا تو میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھو رہے تھے میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے سر سے اشارہ فرمایا۔ اس روایت کو ہمیقی نے نقل کیا ہے۔ رہی وہ روایت جو ابو عطیفان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کہ جس نے نماز میں ایسا اشارہ کیا کہ جس سے مطلب سمجھا جاسکتا ہوتوا  
چاہیے کہ نماز کا اعادہ کرے۔ یہ روایت باطل ہے اور دارقطنیؓ نے اس کو ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ این ابی داؤد کے نزدیک ابو عطیفان ایک بہول ادمی ہے اور صحیح مقام میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ آپ نماز میں اشارہ کر لیا کرتے تھے۔ اس کو حضرت انس اور حضرت جابر رضی وغیرہ نے روایت کیا ہے ریزرا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور حضرت عائشہؓؑ آپ کے اور قبلہ کے درمیان (لبی) ہوتیں چنانچہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ انہیں ہاتھ سے اشارہ فرمادیتے۔ وہ اپنی ٹانگی سکر لیتیں اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر پھیلا دیتیں۔ کبھی آپ منبر پر نماز پڑھتے راسی پر رکوع فرمائیتے اور جب سجدہ کا موقع آتا تو ازتے۔ اور زمین پر سجدہ کر لیتے۔ پھر اس پر پڑھ رہے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ دیوار کے رخ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ ایک چور بیدایا اور آپ کے سامنے سے گزرنے لگا۔ آپ اُسے ہٹانے لگے۔ دیہان تک کہ اس کا پیٹ دیوار سے لگا دیا، آپ نماز میں مصروف تھے کہ بنی عبدالمطلب کی دو مرکبات آئیں، جو اپس میں رکم ہی تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان کو ایک دوسرے سے چھڑایا، حالانکہ نماز میں تھے۔ امام احمد رضتے بہ الفاظ مزید لکھے :  
”تو ان دونوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پکڑ لیے۔ آپ نے ان دونوں کو علیحدہ کیا اور نماز ان تو ملی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک ردا کا گزر ان تو آپ نے اپنے ہاتھ سے راشارةؓؑ ادھر فرمایا تو وہ واپس ہو گیا زیر آپ کے سامنے سے ایک رٹکی گردی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے راشارةؓؑ ہاتھ سے ادھر فرمایا تو وہ واپس

چلی گئی لئے

کبھی اپنے نماز میں رو دیتے، کبھی کھکھار لیتے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقررہ پر مجھے حاضری کی اجازت دے رکھی تھی۔ میں حاضر ہو  
جایا کرتا۔ چنانچہ جب میں حاضر خدمت ہوتا تو اجازت دے دیتے۔ نسائی اور احمدؓ نے  
اس کو نقل کیا اور امام احمدؓ کے الفاظ بیر بھی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے  
دن رات میں حاضری کے وہ مواقع حاصل تھے اور جب میں حاضر ہوتا اور اپنے نماز پڑھ رہا  
ہوتے تو کھکھار دیتے۔ اس سے امام احمدؓ نے روایت کیا ہے انہوں نے اس پر حمل بھی  
کیا ہے۔ اس طرح کروہ نماز میں کھکھار لیا کرتے اور کھکھار نے دنخوا کو باطل نماز نہ  
سمجھتے۔

(پیش) اپنے کبھی نتھے پاؤں نماز پڑھی اور کبھی جو نتھے پہن کر نماز پڑھی۔  
عبداللہ بن عمر نے اس طرح روایت کیا ہے اور جو نتھے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم  
دیا۔ ناکر۔ ہود کی خلافت ہو جائے۔ کبھی اپنے ایک پکڑے میں نماز پڑھی اور کبھی  
دو میں۔

لئے دو رانی نماز میں اس طرح کے کام عام طور پر اضاف کے ہیں "عمل کثیر" کے ذیل میں آتے ہیں  
پہنزا ناجائز میں۔ جس کی احادیث سے تصدیق ہوتی ہے۔ (رمیس احمد جفری)  
لئے جو نتھے پہن کر نماز جائز ہے اگر شجاعہ ہو کر صاف نہیں ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہنزا میں  
پر اگر بیٹا جائے۔ (رمیس احمد جفری)

## دُعَاءٌ قِنْوَتٌ

ایک اہم اور معنکرہ آراء اختلافی مسئلہ!

آپ نے دعائے قنوت ہمیشہ پڑھی یا کبھی کبھی؟ این ایک ماہ تک رکوع کے

بعد پڑھی۔ پھر ترک کرو دی اور ہمیشہ دعائے قنوت پڑھنا آپ کی سنت سے ثابت نہیں اور یہ بات ناممکن ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے پر رکعت قنوت پڑھتے ہوں اور کہتے ہوں؛ اللہم راہد فی فیمن هدیت و تولی فیمن تولیت اور آواز بلند کرتے ہوں اور صحابہؓ آئین کہتے ہوں۔ اور (یہ کام) ہمیشہ جاری رہا ہو۔ یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرمائے۔ مگر امت کو اس کا علم نہ ہوا ہو، بلکہ اکثر امت اور جمہور صحابہؓ سب ہی اسے محبوں جائیں۔ حقیقی کہ بعض ان میں یہاں تک کر گزریں کہ یہ اختراع (محدث) ہے جیسا کہ سعید بن طارق الشعیبی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا! آپ نے یقیناً نبی ملی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے پیچے نماز پڑھی ہے اور کوئی میں پانچ بیک (نماز پڑھی) تو کیا وہ سب صبح کی نمازوں میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹھے! یہ اختراع ہے۔ اہل سنن اور احمدؓ نے اسے روایت کیا۔ امام ترمذیؓ اسے صحیح حسن قرار دیتے ہیں۔ دارقطنیؓ نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تین گواہی دیتا ہوں کر میں نے ابن عباسؓ کو کہتے ہوئے سننا کہ صبح کی نمازوں میں دعائے قنوت بدعت ہے؛“ امام زہریؓ نے حجاز سے نقل کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ صبح

کی نماز پڑھی تو انہوں نے دعا میں قنوت نہیں پڑھی۔ میں نے عرض کیا "میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے دعا میں قنوت نہیں پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا" مجھے یاد نہیں کہ کوئی صحابی ایسا کرتا ہوا اور یہ بات توازنی طور پر معلوم ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو قنوت پڑھتے۔ اور دعا فرماتے اور صحابہؓ بھی اس پر آمین کہا کرتے تو امت اسے اسی طرح نقل کرتی جیسے نماز میں پہ آواز بلند قرات، رکعت نماز کی تعداد اور اوقات نماز نقل کرتی آئی ہے۔

اور انصاف یہی ہے جیسا کہ ایک انصاف پسند عالم درست، سمجھتا ہے کہ آپ نے ہر کیا سرزاً بھی پڑھا، قنوت پڑھا، ترک بھی کیا اور ہر سے زیادہ سرزاً پڑھا، قنوت سے زیادہ تر ک قنوت معمول تھا۔

نیزَ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب میں ایک پر بد و عاقف مانی اور ایک قوم کے متعلق بھی قنوت پڑھی۔ پھر جب وہ لوگ واپس آگئے اور قید سے رہا ہو گئے اور جن کے لئے بدھا کی تھی وہ مسلمان ہو گئے اور توہہ کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے تو آپ نے (قنوت پڑھنا) ترک کر دیا تو گویا آپ کی دعا میں قنوت ایک عارضی سبب سے تھی۔ جب وہ ناکل ہو گیا تو آپ نے بند کر دی اور آپ نے اسے فخر سے خصوص نہیں کیا۔ بلکہ آپ صبح اور مغرب کی نمازوں میں قنوت پڑھتے تھے امام بخاریؓ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے اسے روایت کیا ہے مسلم نے حضرت برائےؓ سے بھی نقل کیا ہے۔ امام احمدؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی ہر نماز کے بعد قنوت پڑھی۔ جب آپ آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمد لا کہتے تو اس کے بعد نبی سلیم کے قبلیہ، رعل، ذکوان، عصیہ کے خلاف و عاقف مانتے۔ اور جو آپ کے پیچے ہوتے وہ آمین کہتے۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ آفات میں خصوصاً قنوت پڑھنا اور ان کے دور ہو جانے پر جپور دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے اسے نماز فخر سے خصوص نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر آپ اسی نماز میں قنوت پڑھتے کیونکہ طوال رات، رات کی نماز سے متصل ہونے، سحری کے قریب ہونے، وقتِ اجابت، نزولِ (رحمت)، الہی کا وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ پر مشہور نماز ہے، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یادِ رات

کے فرشتے دیتے ہیں جیسا کہ مروی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول ان قرآن الفجر تا ان مشہودا کی تفسیر ہے۔

آپ قنوت میں کیا پڑھتے تھے؟ رہی ابن ابی قدیک کی روایت (جو) عبداللہ بن سعید طبری نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح کی نماز کی دوسرا رکعت میں رکوع سے سراٹھاتے تو اپنے ہاتھ اونچے کرتے اور یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ إِهْدِنِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي وَعَافْنِي فِيمَا عَفَيْتَنِي وَقُولْتِنِي فِيمَا تَوْلَيْتَنِي وَبَارَكْتِنِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي وَقُنْتِنِي شَرْمَاقْضِيَتْنِي ۝ نَلَكْ تَقْضِيَتْنِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ  
أَنْتَ لَا يَنْدَلِعُ مِنْ وَلِيَتِنِي تَبَارَكْتِنِي سَرِّهَا وَتَعَالَيْتِنِي۔

یعنی؛ ”اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں کہ جنہیں تو نے ہدایت دی ہے اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں کہ جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے اور میری کار سازی کران لوگوں میں کہ جن کی تو نے کار سازی کی ہے اور جو کچھ تو نے (مجھے) عطا کیا ہے اس میں برکت دے اور مجھے اس براہی سے بچائے کہ جو تو نے مقدر کی۔ بے شک تو حکم کرتا ہے۔ اور تجھ پر حکم نہیں کیا جاتا۔ بے شک جو تیراد و سوت ہوا وہ ذلیل نہ ہوا اور اے رب تو با برکت اور بلند ہے“ ۝  
اگر یہ حدیث صحیح یا حسن ہوتی تو کس قدر واضح طور پر قابل صحبت تھی، لیکن عبداللہ کی روایت سے یہ دعا صحبت نہیں۔ اگرچہ حاکم نے قنوت میں احمد بن عبد اللہ مزني کی روایت کو درست قرار دیا ہے۔

ابنہتہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم! میں تم سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہوں اور حضرت ابو ہریرہ صحیح کی نماز میں آخری رکوع کے بعد سمع اللہ نامن حمد لائے کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ آپ مسلمانوں کے لئے دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے اور یہ امر قطعی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور پھر ترک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی خواہش

تحمی کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اس قسم کی قنوت سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور یہ اہل کوفہ کے رد میں ہے کہ وہ صحیح کی نماز میں آفات وغیر آفات کسی بھی حالت میں قنوت کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہے اور اس پر عمل کرنا بدعت ہے۔ اور محدثین اسے آفات وغیرہ میں مستحب سمجھتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں سے بھی لوگ حدیث سے زیادہ واقع ہیں۔ اور (محدثین) کہتے ہیں کہ اس کا کرنا بھی سنت اور اس کا ترک کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے باوجود جو پر دوام کرے اس کے (اس عمل) کا انکار نہیں کرتے اور اس کے ترک کو بدعت نہیں سمجھتے اور نہ تارک (قنوت) کو سنت کا مخالف سمجھتے ہیں۔ بلکہ (ان کا خیال یہ ہے) کہ جس نے قنوت پڑھی اس نے اچھا کیا اور جس نے چھوٹدی اس نے بھی اچھا کیا، لیکن اعتدال یہ ہے کہ دعا شنا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کیا اور دعائے قنوت عبارت ہے۔ دعا اور شناسے، اس لئے وہ اس مقام پر موزوں ترجیح ہے۔ لہذا جب امام بھی مقدیروں کی آگاہی کے لئے جھر کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمرؓ نے شروع شروع میں مقتدیوں کو آگاہ کرنے کیلئے جھر سے پڑھی۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ جھر سے پڑھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے نیز آئینہ بالجھر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اور یہ اختلاف مباح ہے۔ اس کے کرنے پر کسی کو موردِ الزام نہیں بنایا جاسکتا، اس طرح نماز میں فرع یعنی یا ترکِ رفع ہے، یا تشهداتِ مختلفہ کا اختلاف۔ اذان اور اقامت کی اقسام۔ افراد متعدد اور روح قرآن میں قربانی کی احوال کا معاملہ ہے اور ہمارا مقصد تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان کرنا ہے، جس پر وہ عمل پیرا تھے۔ کیونکہ آپ ہی اس کتاب میں مقاصد اور توجہات کا مرکز ہیں اور مدارِ تحقیق مطلب بھی آپ کی ذاتِ گرامی ہے۔

ہم نے اس کتاب میں جائز اور ناجائز پر بحث نہیں کی بلکہ ہمارا مقصد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان کرنا ہے جو وہ اپنے لئے انتخاب فرماتے تھے، کیونکہ آپ کامل اور افضل ہدایت ہیں۔ پس اگر ہم یہ کہیں کہ فجر میں آپ ہمیشہ قنوت نہیں پڑھتے تھے اور نہ جھر (بسم اللہ) کا دوام تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ دوسری سنت مکروہ یا بدعت ہے۔

**ابو جعفر رازی کی روایت پر جمیح رہی ابو جعفر رازی کی روایت جو حضرت ربیع بن انسؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کی نمازوں پہیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرمائے۔ یہ روایت مسند اور ترمذی وغیرہ میں ہے۔ امام احمدؓ وغیرہ نے ابو جعفر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن مرتضیؓ نے کہا ہے کہ وہ خلط ملط کرتا تھا۔ ابو زر رضیؓ کہتے ہیں کہ اسے بکثرت و ہم تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ بزرگان (دوین) سے منکر (روایات) نقل کرنے میں منفرد ہے۔**

**قنوت، قیام، سکوت، مسلسل عمارت، دعا، تسبیح اور خشوع و خنوع (سب پر)**  
بول جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَئِهِ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَلَّ لَهُ قَانِتُونَ۔

یعنی، اور جو جو آسمانوں اور زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ ہر ایک اسی کا فرمانبردار ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

أَكْثَنْ هُوَ قَاتِ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِمًا يَحْذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ  
یعنی، کیا وہ جو فرمانبردار ہے اور نلات بھر سجدہ و قیام میں رہتا ہے۔ قیامت سے قدر تا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔

نیز فرمایا،

وَصَدَّاقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكَتِيبَهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانِتِينَ۔

یعنی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر نمازوہ ہے کہ جس میں قنوت طویل ہو۔ اور زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اُتھی، وَقَوْمُوا اللَّهُ قَانِتُينَ۔ یعنی اور اللہ کے لئے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔

**حضرت انسؓ کی روایت پر نقد و نظر** حضرت انسؓ نے باقی نمازوں کے علاوہ

فہر میں قنوت کی تخصیص کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ یہ کفار کے لئے بد دعا تھی اور کمزور مونین کے حق میں دعا یہ خیر نہ تھی، کیونکہ انس بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک ماہ تک دعا ٹے قنوت پڑھی اور پھر چھوڑ دی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جس دعا کی آپ نے مداومت اختیار کی وہ معروف قنوت (حمد وغیرہ) تھی۔ نیزابوکبر و عمر، عثمان، علی، براء بن عازب، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، ابو موسیٰ الشعري اور انس بن مالک و نفیرہ رضی اللہ عنہم نے بھی قنوت پڑھی۔ اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔

**کیا قنوت صرف فجر کے ساتھ مخصوص ہے؟** ایک تو یہ کہ حضرت انسؓ نے بتایا ہے کہ آپ نے صحیح اور مغرب

کی نماز میں قنوت پڑھی، جیسا کہ بخاریؓ نے بھی ذکر کیا ہے تو اس میں فجر سے تخصیص قنوت نہیں ثابت۔ اس طرح حضرت براءؓ بن عازب نے نقل کیا ہے اور قنوت کے متعلق فجر کی تخصیص نہیں کی ہے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ مغرب کی قنوت منسوخ ہو جکی ہے تو تمہارے مقابلہ میں کوفہ کے مباحثہ کرنے والے کہیں گے کہ فجر کی قنوت بھی منسوخ ہو جکی ہے اور مغرب کی قنوت کے منسوخ ہونے پر تم جو جبست پیش کرو گے اُسے فجر کی قنوت کی تنسیخ پر جبست بناؤ کر پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس کا تو ابد تک بھی امکان نہیں کہ تم فجر کی نماز میں قنوت کے حکم اور مغرب کی تنسیخ قنوت کے متعلق کوئی دلیل حاصل کر سکو۔ اگر یہ کہو کہ مغرب کی قنوت تو دراصل قنوت نازلہ تھی۔ قنوت راتبہ نہ تھی تو تمہارے جواب میں محمد بنیں یہ کہیں گے ”ہاں! یہی صورت قنوت فجر کی بھی ہے تو دونوں ایک جیسی ہو میں پھر فرق کیا رہا؟ اور انہوں نے (کوفیوں) نے کہا ہے کہ قنوت فجر قنوت راتبہ نہ تھی۔

بلکہ قنوت نازلہ تھی۔ اور حضرت انسؓ نے خود اس کی خبر دی (نیز) قنوت راتبہ کے معاملہ میں حضرت انسؓ ہی بنیاد میں اور انسؓ نے بتایا کہ یہ قنوت نازلہ تھی، پھر اسے چھوڑ دیا اور صحیحین میں حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوت (نازلہ) پڑھی۔ آپ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ پر بد دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے چھوڑ دی۔ دوسرے شباب نے قیس بن رجیع اور انہوں

نے عاصم بن سلیمان سے روایت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت انسؓ بن مالک سے دریافت کیا کہ ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے۔ انہوں نے جواب دیا اس گروہ نے جھوٹ بولا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک دعائے قنوت پڑھی۔ آپ مشرکین کے قہائل میں سے ایک قبیلہ کے خلاف بدعا کر رہے تھے۔ قبیل بن زبیع کو اگرچہ بھی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن بعض نے اس کی توثیق کی ہے۔

**ابوجعفر اور قبیل کی توثیق اور ضعیف** [اولہ (دوسری روایت) ابو جعفر رازی پر مختص] ہے۔ ابو جعفر اپنے اس قول میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرمائیں یا کیونکہ بحث ہو سکتا ہے؟ حالانکہ (پہلا راوی) اس سے زیادہ ثقہ یا اس کے برابر ہے اور ابو جعفر کو ضعیف قرار دینے والوں کی تعداد قبیل کو ضعیف سمجھنے والوں سے زیادہ ہے۔ اس بحث سے قبیل کی بھی سے روایت کا ضعف اور اس کا سبب معلوم ہوتا ہے۔

احمد بن سعید بن ابی مریم نے بتایا کہ میں نے بھی سے اور انہوں نے قبیل سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ضعیف ہے، اس کی روایت لکھی نہیں جاتی۔ وہ سعیدہ سے روایت کرتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک وہ منصور سے روایت کرتا ہے (لیکن) اس قسم کی باتیں راوی کی روایت رد کرنے کا موجب نہیں بنتیں۔ کیونکہ اس کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ منصور کے بجائے عبیدہ کا ذکر وہم میں داخل ہے۔

**ایک ماہ تک مسلسل قنوت** [تیسرا سے] حضرت انسؓ نے بتایا کہ وہ قنوت پڑھتے تھے۔ اور ابتدائے قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی جو انہوں نے رحل اور ذکوان کے خلاف پڑھی تھی۔ اس طرح صحیحین میں حضرت عبد العزیز بن ہمیب سے اور انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر آدمیوں کو کسی کام سے بھیجا، جنہیں قرار کہتے تھے۔ تو ایک کنوئیں کے پاس بنی سلیمان کے قہائل علیہ السلام کو ان کے قابوں پر اتنا کسے اس کنوئیں کو بیر مuron

کہتے ہیں۔ ان صحابوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے پاس نہیں آئے۔ بلکہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کے سلسلہ میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان (صحابہ) کو شہید کر دیا۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں قنوت پڑھی۔ یہ قنوت کی ابتدا تھی اور ہم بعد میں، قنوت نہ پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے چلتا ہے، ہمشہر دعائے قنوت پڑھنا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور حضرت انسؓ کا یہ قول کہ یہ "ابتدا قنوت تھی" اور پھر یہ فرمانا کہ آپؓ نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی پھر جھوڑ دی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے انہوں نے وہ قنوت ثابت کی، جو قنوت نازل تھی۔ اور آپؓ نے ایک ماہ تک پڑھا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آپؓ نے عشاء کی نماز میں ایک ماہ قنوت پڑھی جسے صحیحین میں یحییٰ بن ابی کثیر سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں ایک ماہ تک قنوت پڑھی اور آپؓ قنوت میں یہ دعا مانگتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي مُنْذَنٌ وَلِيَنِ اللَّهُمَّ إِنِّي  
بْنُ أَبِي رَبِيعٍ اللَّهُمَّ إِنِّي مُسْتَضْعِفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ دُوَّةَ أَبْشِرْ  
مُضْرِ اللَّهُو أَجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سَبْطَنَ كَسْنَى يَوْسُفَ۔

یعنی "اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے اے اللہ عیاش ابن ابی ربیع کو نجات دے، اے اللہ کرزرو زہمنیں کو نجات دے، اے اللہ مضر اللہو اجعلہا علیہم سبتن کسنسی یوسف۔"

حضرت ابو ہریرہؓ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دن صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی آپؓ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپؓ نے جواب دیا کہ جو تم دیکھ رہے ہے تھے وہ اسے ہنچ چکے۔ تو صبح کی نماز کا قذت اپسے ہی تھا وہ نازلہ ہوتا یا کسی امر ماضی کے سبب سے ہوتا اس لیے حضرت انسؓ نے اسے ایک ماہ کے لئے بتایا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپؓ نے ان کے لئے صبح کی نماز میں ایک ماہ تک قنوت پڑھی یہ دونوں درست ہیں اور حضرت عکرمؓ کی حضرت ابن عباسؓ سے روایت گزر جکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک مسلسل ظہر، عصر، مغرب، عشاء

اور صحیح کی نماز میں قنوت پڑھی۔ اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے (نیز) طبرانی نے اپنی مجمم میں محمد بن انس سے روایت کیا، انہیں مطرف بن طریف نے انہیں ابی جہنم نے بتایا اور انھیں حضرت برادر بن عازب سے روایت ملی کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز ہڑھتے اس میں دعائے قنوت پڑھتے۔

امام طبرانی فرماتے ہیں کہ مطروق سے صرف محمد بن انس نے روایت کیا ہے یہ اسناد اگرچہ قابل جوگت نہیں، لیکن پھر بھی معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ قنوت دعا کو کہتے ہیں اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہ پڑھی جس میں دعا نہ کی ہو جیسا کہ گزر چکا ہے اور ابو جعفر کی روایت اگر صحیح ہو تو حضرت انسؓ کا مطلب بھی اس سے بھی ہے کہ آپ ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے رحلت فرمائیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کہ صحیح کی نمازوں میں آپ ہمیشہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرمائیں۔

انسؓ اور عاصم کی روایت میں موازنہ (وجہ چہارم) یہ ہے کہ حضرت انسؓ کے طرقے احادیث مطلب کو واضح کرتے ہیں اور ایک حصہ دوسرا ہے حضرت کی تصدیق کرتا ہے اور متناقض نہیں ہے اور صحیحین میں حضرت عاصم احوال سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے انسؓ بن مالک سے صحیح کی قنوت کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا "ہاں؟ تو میں نے جواب دیا کہ "رکوع سے پہلے" پھر میں نے کہا کہ فلاح نے مجھے آپ کے متعلق اطلاع دی کہ آپ نے کہا ہے کہ آنحضرت نے (رکوع) کے بعد قنوت پڑھی۔ انہوں نے جواب دیا "اس نے جھوٹ بولا، بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی" ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت مخلوٰ ہے عاصم نے اس میں تفرد کیا ہے۔ کیونکہ حضرت انسؓ سے تمام روایت کرنے والوں نے اس کی مخالفت کی ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ عاصم بالکل ثقہ ہے۔ ہاں اس نے صرف دونوں کے مقام پر اصحاب انسؓ کے خلاف کیا ہے۔ حافظ نے اسے وہم بتایا ہے۔ اور جو ادا سے ساقط کرتے ہیں۔ اور امام احمدؓ سے اس کی تعلیل مروی ہے

چنانچہ ائمہ نے بتایا کہ میں نے ابو عبد اللہ یعنی احمد بن حنبل<sup>ؓ</sup> سے دریافت کیا کہ عاصم احوال کے سوا حضرت انس<sup>ؓ</sup> سے یہ روایت کس کی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے قبل قنوت پڑھی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا جس نے یہ روایت کی ہو۔ پھر ابو عبد اللہ نے بتایا کہ عاصم کی تمام رواۃ نے مخالفت کی ہے۔ ہشام نے قنادہ اور انہوں نے حضرت انس<sup>ؓ</sup> سے اور تبھی نے ابو جعفر سے اور انہوں نے حضرت انس<sup>ؓ</sup> اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا اور ایوب نے محمد سے روایت کیا کہ میں نے حضرت انس<sup>ؓ</sup> سے دریافت کیا اور حظله مرسوی نے چار طرق سے حضرت انس<sup>ؓ</sup> سے روایت کیا۔ رہا عاصم اتو میں نے اس سے معلوم کیا تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے جھوٹ کہا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد (صرف) ایک ماہنگ قنوت پڑھی۔ دریافت کیا گیا کہ عاصم سے کس نے روایت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابو معاویہ وغیرہ نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمام روایات رکوع کے بعد والی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بلکہ یہ تمام خفان بن ایمار بن رخصہ اور الجھر برہڑے سے مروی ہیں۔ میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا تو پھر وہ رکوع سے قبل قنوت کی رخصت کیوں دیتے ہیں۔ جیکہ کہ احادیث صحیحہ میں رکوع کے بعد (قنوت) ثابت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ فخر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت ہے اور وتر میں رکوع کے بعد مختار ہے۔ اور جو رکوع سے قبل کرے تو بھی کوئی ہرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فعل اور ان کا اختلاف (موجود) ہے۔ رہی صحیح کی نماز میں رکوع کے بعد تو کہا جائے گا کہ اس صحیح حدیث کی تعلیل تعجب انگیز ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے اور اسے ائمہ شافعی نے اثبات حفاظ اور ابو جعفر رازی، قیس بن زیم، عمرو بن ایوب، عمرو بن عبید، دیتار اور جابر جعفی جیسی روایت کا قابل استدلال ہونا روایت کیا ہے۔

روایات انس میں کسی طرح کا تناقض نہیں | حضرت انس<sup>ؓ</sup> کی تمام روایات صحیح ہیں | اور ان میں تناقض نہیں ملتا اور رکوع سے قبل جو قنوت کا ذکر ہوا (کہ کیونکہ) کے بعد والے قنوت کے علاوہ ہے اور اس

کا وقت بھی اس سے الگ ہے۔ تو جو رکوع سے قبل ہے (اس کا مطلب) قرأۃ کے پڑھنے کا طول قیام ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر نماز طویل قنوت (قیام) والی ہوتی ہے اور جو قنوت رکوع کے بعد مذکور ہے وہ دعا کے لئے طویل قیام ہے۔ آپ نے ایک ماہ تک ایک قوم کے خلاف اور ایک قوم کی حمایت میں پڑھا۔ پھر آپ اس کرن کو دعا شانہ کے لئے طویل رکھتے گئے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرم گئے۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت ثابتؓ اور انہوں نے حضرت الششؓ سے رہایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے رہے ہیں۔ اور لوگوں نے بتایا کہ حضرت انسؓ ایک ایسا کام بھی کرتے تھے جسے میں دیکھتا ہوں کہ تم نہیں کرتے۔ جب آپ رکوع سے سراخھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے جیلی کہ کہنے والا کہتا کہ شاید جوں گئے ہیں۔ پس یہ ہی وہ قنوت ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مامل ہے یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرم گئے اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ آپ اس طویل و قند میں خاموش نہ رہتے بلکہ اپنے پروردگار کی شناور تجویز کرتے اور دعا لائگتے اور یہ دعا اس ماہ کی معرفت قنوت سے الگ تھی، کیونکہ وہ تورعل، ذکوان، عصیہ اور بنی الجبان کے خلاف بد دعا تھی اور جو مومنین کہہ میں تھے ان کے حق میں میں دعا نہیں (رحمت تھی)

رہی صحیح کی نماز سے اس کی تخصیص تو یہ سائل کے سوال کے مطابق (حال) بات تھی کیونکہ اس نے قنوت فجر کے متعلق دریافت کیا تھا۔ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا۔ نیز آپ باقی تمام نمازوں کے علاوہ صحیح کی نماز (خصوصاً طویل) کرتے تھے۔ اور سالم سے سو آیات تک پڑھتے تھے اور جیسے کہ حضرت برادر بن عازب نے بتایا ہے کہ آپ کارکوع، اعتدال، سجد و اور قیام قریب ہوتا۔ باقی تمام نمازوں کے علاوہ صحیح کی نماز میں آپ کے طویل قیام کا خوب انہمار ہوتا۔ یہی آپ کی قنوت تھی اس میں کوئی مشک نہیں۔ اس لئے ہمیں اس میں نہ مشک ہوا اور نہ ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے رحلت فرم گئے اور جب عام لوگوں اور اکثر فقہاء کی زبان میں یہی معروف دعا قنوت بن کر رہ گئی، اللہ ہر اہدنا فیمن حدیث اُ

اور انہوں نے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فخر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھتے رہاں تک کہ آپ دنیا سے رحلت فرمائے اور اسی طرح خلفاءؓ نے راشدین اور ان کے علاوہ صحابہؓ میں سے (ایک گروہ) نے دعائے قنوت کو اپنی اصطلاح کے مطابق قنوت (محض صدر پر عمل کیا۔ اور اس مخصوص دعا) کے سواباقی (معافی) غیر معروف بن گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ پر صحیح کی (نماز) میں اس پر مذمت کرتے رہے اور ہی وہ مسئلہ ہے کہ جس میں جہو رعلام نے نماز کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کا ارتبا فعل (سلسل) نہ تھا، بلکہ یہ ثابت ہی نہیں کہ آپ نے کیا بھی ہو۔ اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ یہ روایت ہے کہ آپ نے حسن بن علیؓ کو یہ دعا سکھائی۔ جیسے کہ مسند اور سنن اربعہ میں ہے۔

حضرت حسنؓ کی روایت | (حضرت حسنؓ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ میں پڑھنے کے لئے کہاں سکھائے ہوئے ہیں)

اللَّهُ أَهْدِنِي فِيمَا هَدَيْتَ وَعَفَنِي فِيمَا عَفَيْتَ وَتُولَّنِي فِيمَا تُولَّتِ  
وَبَارِكَ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقَنِي شرْمًا فَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ  
أَنَّهُ لَا يَذَلُّ مَنْ وَالْيَتَ تَبَارِكَتْ سَبَّا وَتَعَالَيْتَ - (حسن ترمذی)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قنوت کے متعلق اس سے زیادہ حسن (دعا) نہیں جانتے۔ امام زہریؓ نے اس پر یہ الفاظ زیادہ بتائے ہیں۔

وَلَا يَذَلُّ مَنْ وَالْيَتَ وَلَا يَعْزِزُ مَنْ عَادَيْتَ -

یعنی ””تیرا دوسرا ذمیل نہ ہو گا۔ تیرا دشمن عربت نہ پائے گا““

جس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انسؓ کی قنوت سے مرد رکوع کے بعد تھی۔ تو وہ دعا و شناور کے لیے قیام ہے۔ سیلماں میں حرب روایت کرنے میں کہ، علیؓ ابو ہلال نے اور انہیں حضرت قتادہؓ کی مسجد کے سامنے حضرت خلاظت نے بتایا، میں کہنا ہوں کہ وہ حدوث شناور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اور قتادہؓ صحیح کی نامہ کے قنوت میں اختلاف کرنے لگے۔ قتادہ نے کہا کہ رکوع سے پہلے! میں نے کہا کہ رکوع کے بعد!

آخر بیس ہم حضرت انس بن مالک کے پاس آئے ہم نے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ اپنے ہوئے بتایا کہ ہم بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی راقیٰ (بیان فخری نماز) میں فخر کی نماز میں حاضر ہوئے تو اپنے نے میکبیر کی اور رکوع کیا اور سراٹھایا، پھر سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو میکبیر کی اور رکوع کیا، پھر کچھ دریکھڑے ہوئے، پھر سجدہ میں چلے گئے۔

پھر روایت حضرت ثابتؓ کی روایت کے مطابق ہے اور وہ قنوت کے مسئلہ میں حضرت انسؓ کے مطلب کی وضاحت کرتی ہے۔ اپنے ہوئے اس کے متعلق صاف بتا دیا کہ حضرت نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ قیام طویل تھا اور حضرت انسؓ کا مطلب بھی یہی تھا۔ چنان پندرہ تمام احادیث متفق ہو گئیں۔

دیگر مصائب سے روایات، تو وہ دو طرح سے ہیں، ایک مصادیب کے وقت کی قنوت جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قنوت، مسیلم کزادہ سے صحابہؓ کی جنگ کے موقع پر اور اہل کتاب کے ساتھ چہاد کے وقت، باقیوت مژہ، یا حضرت علیؓ کی قنوت، معاويةؓ اور اہل شام سے جنگ کے وقت، دوسری قسم مطلق ہے، اس کا مطلب اس رکن میں تعلویں دعا و شنا ہے۔

## مسجدہ سہو

آل حضرت ملا نشیط شاہ نے کن کن موقع پر سجدہ سہو کیا

مسجدہ سہو کی مصلحت اور حکمت [تم میسا ایک آدمی ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہوں  
اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ پس جب میں بھول جاؤں مجھے  
باد دلادو۔]

نمایاں آپ کا سہو دراصل ان کی امت پر اللہ تعالیٰ کا اذناں نعمت اور اکالی درین کا رہماں (نمایاں آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کا اذناں نعمت اور اکالی درین کا رہماں) ہوتا تھا کہ سہو میں بھو طریقہ مشروع ہوا اس میں آپ کی اقتداء کر کر ہیں۔ موطاںہ میں منقطع روایت کا یہی مطلب ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، با بھلا دیا جاتا ہوں۔ تاکہ وضاحت کروں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تو آپ کے سہو پر احکام شریعت مرتب ہوئے، جو قیامت تک آپ کی امت کے سہو پر جاری رہیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی (نماز) میں دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان فقدہ نہیں کیا۔ لیجنی سیٹھے نہیں جیسا آپ نے نماز ختم کر لی۔ تو سلام سے پہلے دو سجدہ کیے پھر سلام کیا۔ اس طرح اس سے ایک قاعدہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی اور کاشتے کے ماسو نماز کے باتی اجزاء میں سے کچھ حصہ سہو اچھوڑ دے تو وہ سلام سے قبل سجدہ سہو کرے۔

اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک رکن سہو اچھوڑ دیا اور دوسرے سے سجدہ سہو کی تعلیم عملی آپ کی طرف سے ضروری تھی، تاکہ امت اس پر عمل کر سکے اور اس سوہنی کی روشنی میں تکافی مانفات کر سکے۔

رکن شروع کیا تو منزوك حصہ کی طرف پڑئے، کیونکہ جب آپ دور رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تو صحابہؓ نے سبحان اللہ کہا۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس محل سہو بیس آپ سے اختلاف مردی ہے۔ صحیحین بیس عبد اللہ بن مجذہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کی خاتمہ میں دور رکعت کے بعد کھڑے ہوئے اور درمیان میں نہ بیٹھے۔ پھر جب آپ نے خاتمہ مکمل کرنی تو دو مسجدے کیے پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ ایک متفق علیہ روایت کے مطابق آپ نے سلام سے قبل بیٹھی ہوئی حالت میں ہر مسجدہ پر تکبیر پڑھی اور مسند میں حضرت یزید بن مارون سے اور انہوں نے سعودی سے اور انہوں نے زیاد بن علاقہ سے روایت لفظ کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت مجذہؓ بن شعبہ نے ہمیں خاتم پڑھا۔ جب آپ دور رکعت پڑھا چکے تو کھڑے ہو گئے اور نہ بیٹھے پہنچے والوں نے تسبیح کی۔ تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ چنانچہ جب آپ خاتم سے فارغ ہوئے تو سلام پھیرا، پھر دو مسجدے کئے، پھر (دربارہ) سلام پھیرا۔ اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرز کیا تھا۔ ترمذؓؐ نے اسے صحیح بتایا۔ امام یہیقؓؐ نے عبد الرحمن بن شمساہ مہری کی روایت لفظ کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عقبہؓ بن عامر جہنمی نے ہمیں خاتم پڑھائی چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کو قعده کرنا چاہیے تھا۔ تو لوگ کہتے لگے سبحان اللہ، سبحان اللہ (حضرت عقبہؓ نہ بیٹھے اور قیام میں ہی رخاز) پڑھتے چلے گئے۔ اگر خاتم کے آخری حصہ میں پہنچے تو بیٹھے بیٹھے دو مسجدے کئے اور حسب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میں نے شروع میں تمہیں سبحان اللہ و سبحان اللہ کہتے سننا کہ میں بیٹھو جاؤں، لیکن سنت دہی ہے جو میں نے کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مجذہؓ کی روایت تبین وجہ سے اول ہے۔

ایک تو وہ روایت حضرت مجذہؓ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ دوسرے وہاں سے

---

نہ خاتم ممنوع ہے۔ امام کی غلطی یا سہو و نسبان کی صورت میں مقتدىؓ رسمی طرف ” سبحان اللہ وغیرہ“ کہہ کر فوک سکتا ہے جو امام کو متنبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ (ریس احمد جعفری)

زیادہ خرچ ہے، کیونکہ قول مغیرہ راسی طرح بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتباہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت حضرت مغیرہ کے حملہ فعل کی طرف منسوب ہوا ورنہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام سے قبل ایک سجدہ اور سلام کے بعد بھی ایک سجدہ کیا ہو۔ چنانچہ ابن بجیرہ نے جو دیکھا اسے تلقی کر دیا اور حضرت مغیرہ نے جو دیکھا اسے تلقی کر دیا اس لیے دونوں باقین جائز ہو یعنی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مغیرہ کا مطلب یہ ہو کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مراجعت نہیں کی، پھر سجدہ سہو کیا۔

مغیرہ شاید سلام سے قبل سجدہ کرنا بھول گئے اور اس کے بعد سجدہ کیا، یہ سہو کا معاملہ ہے اور یہ ناممکن ہے کہ سجدہ سلام سے قبل کیجا جائے۔

۱۔ ایک مرتبہ آپ نے عشاء یا ظہرہ پڑھانے کے نماز پڑھائی وہ سجدہ سہو کی پانچ صورتیں رکعتیں پڑھ کر کچھ کلام کیا، پھر نماز پوری کی، پھر سلام پھیرا (پھر سہو کے) دو سجدے کیے، ہر آواز بلند سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کیا، پھر سجدہ سے سراٹھاتے وقت ہر آواز بلند اللہ اکبر کیا۔

۲۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر دو سجدے کیے، پھر تشهد پڑھا، پھر سلام پھیرا، ترمذی کے نزدیک یہ حدیث حسن، غریب ہے۔  
۳۔ ایک مرتبہ آپ نے عصر کی تین رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ گھر بیس داخل ہو گئے، لگوں نے یاد دلا باتوآپ بہرائے اور مزید ایک رکعت پڑھا کر دو سجدے د سہو کے، کیے۔

۴۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، لیکن ایک رکعت کم، پھر نماز پڑھا کر آپ واپس چلے تو حضرت طلحہ نے عرض کیا،

”آپ نے نماز میں ایک رکعت فراموش کر دی؟“

یہ سن کر آپ واپس لوٹے، سجدہ میں داخل ہوئے اور بلالؓ کو حکم دیا کہ افامت کہیں، پھر آپ نے (دوبارہ) نماز پڑھائی، ہر روایت امام احمد نے ذکر کی ہے۔

۵۔ ایک مرتبہ آپ نے ظہر کی چار کے بجائے پانچ رکعتیں پڑھیں۔ زیدؓ نے ٹوکا تو آپ نے بوجھا کیا بات ہے؟

لوگوں نے عرض کیا "اپنے پارچے رکھیتیں پڑھائیں ہیں" یہ سُن کر سلام کے بعد اپنے دو سجدے کیے، اس کے بعد پھر سلام پھیرا۔ یہ ہیں وہ پارچے روایات جو سجدہ سہو کے سلسلے ہیں بنی اسرائیل علیہ وسلم سے متعلقہ مروی ہیں۔

سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد اپنے سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کیا، امام شافعیؓ کا خیال ہے کہ اپنے تمام سجدے سلام سے پہلے کیے۔ امام ابو حیانؓ فرماتے ہیں کہ اپنے بعد سے ہو کے سجدے کے وہ سلام پھیرنے کے بعد کیے، امام مالک کا ارشاد ہے کہ جب نماز ہیں سہو سے نہ کی کی، لیعنی کوئی رکعت کم پڑھی تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا اور جب زیادتی کی، لیعنی کوئی رکعت زیادہ پڑھی تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا، اور اگر کسی نماز بس کی اور زیادتی جمع ہو گئی تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا۔

اثر بکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے سجدہ سہو کے بارے میں سوال کیا گی کہ کیا وہ سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے یا بعد میں؟ انہوں نے جواب دیا۔ بعض موافق پر سلام نہ پہلے اور بعض مقامات پر سلام کے بعد، جیسا کہ رسول اللہؐ کے عمل سے ثابت ہے۔ حدیث ابو ہریرؓ کے مطابق ذوالیدین کے واقعہ میں اپنے سلام کے بعد سجدہ کیا اور حدیث عمر الفراخ بنۃ حصین کے مطابق سلام سے پہلے کیا۔

اثر بکھتے ہیں میں نے امام احمد سے پوچھا ان موافق کے مطابق کیا صورت اختیار کی جلتے؟ امام احمد نے جواب دیا، باقی تمام سہو کے سجدے سلام سے پہلے کیے جائیں۔ کیونکہ یہ سجدہ سہو نماز کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، بلکہ اگر بنی اسرائیل علیہ وسلم سے بعد از سلام سجدہ مروی نہ ہوتا تو میں حرف قبل از سلام سجدہ سہو کا فتویٰ دیتا، کیونکہ نماز کی شان کا اقتضام یہی ہے کہ سلام سے پہلے سجدہ کیا جائے۔

وادو کا قول ہے کہ ان موافق کے سوا جو رسول اللہؐ سے ثابت ہیں سجدہ سہو جائز نہیں لہ لیعنی نماز دو ہر انسن چاہیے۔ (رئیسیہ الحمد صفری)

**نماز میں آنکھیں بند رکھنا سنت رسول نہیں | ایر تو بتایا جا چکا ہے کہ قشیدہ کے اندر**  
**نگاہ سے اشارہ کرتے اور آپ کی نگاہ اشارہ سے تجاوز نہ کرتی جیسا کہ خارجی نے اپنی صحیح خارجی  
 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک  
 پرودہ سے یہ ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصاویر مسلسل میری نماز میں حاصل ہو رہی ہیں اور اگر آپ  
 نماز میں اپنی آنکھیں بند کرتے تو نماز میں یہ حاصل نہ ہوتیں۔**

اس حدیث کا استدلال محل تظریب ہے، کیونکہ جو چیز آپ کی نماز میں حاصل تھی وہ وہی  
 تصاویر تجویں جن کا ذکر کیا جاتا ہے یا محض دیکھنا ہی حاصل تھا، یہ بھی احتمال ہے اور حضرت  
 عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی خوب و صاحبت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 ایک چادر میں نماز پڑھی، جس میں نقوش تھے تو آپ نے ان نقوش کو دیکھا۔ جب آپ نماز  
 سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کی چادر میرے پاس  
 لے آؤ۔ کیونکہ شروع میں یہ میری نماز میں حاصل ہوئی اور اس میں یہ بھی استدلال ہے کہ  
 اس کا مقصد وہ تھا کہ اس میں ان کی طرف التفات پیدا ہو گیا اور اس التفات کی وجہ سے آپ  
 کی نماز میں اروکاٹ ہو گئی اور شعب کی طرف التفات والی روایت سے یہ مراوہ نہیں کریں  
 سبب تھا آپ نے ایک سوار کو پیش کیا تو کہ طور پر جیسا بلکہ التفات امور لشکر کی مزدت  
 کے باعث تھا۔ اور اس سے نماز کسوف میں آپ کے ہاتھ برداھانے پر بھی روشنی پڑتی ہے۔  
 تاکہ انگوہ کا خوشہ سے سکیں، جب کہ آپ نے جنت دیکھی اور آپ کا دوزخ کو اور بیگی کے  
 ماں کو اور صاحبِ مجن کو دیکھا رجھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ایسے اس جانور سے مدعا  
 کی روایت کہ جس نے آپ کے سامنے سے گز نہ چاہا، ایک رُڑ کے اور ایک رُڑکی کو ہٹانا اور  
 دو رُڑکیوں کے درمیان اڑ بن جانا ایسے ہی جس نے سلام کیا اشارہ سے اس کے سلام کا جواب۔  
 دینا حادثہ آپ نماز میں تھے کیونکہ اسی کو اشارہ کر سکتے تھے، جس کو آپ دیکھ رہے ہوں۔  
 یہ احادیث البسی ہیں کہ جن کے مجموعہ سے پہنچنا ہے کہ آپ نماز میں آنکھیں بند  
 کرتے تھے اور فقہاء کا اس کی کراہت میں اختلاف ہے۔ امام احمد و عیزہ نے اسے مکروہ بھی

اوند فرما پا ہے کہ یہ بہودی کا فعل ہے۔ ایک جماعت نے اسے مباح قرار دیا ہے اور مکروہ نہیں سمجھا اوند کہا ہے کہ یہ صورت گاہے گا ہے خشوع کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جو نازکی رو رسا اور اس کا مقصود ہے۔ زیادہ صائب بات یہ ہے کہ بوس کہا جائے اگر انکھیں کھونا خشوع نماز میں محل نہیں۔ تو یہ صورت افضل ہے اور اگر یہ طریقہ خشوع اور اس کے قلب میں آڑ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے قبلہ رُخ حسن و بمال و غیرہ نظر آتا ہے، جس کے دل کو پر لشانی سی لاحق ہوتی ہے تو اس وقت انکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہ ہو گا اور اسے حالت میں اسے سخت کہا جائے گا اور یہ کراہت کے قول کی جاتے۔ اصولی و مقتضی شرح کے زیادہ قریب ہو گا۔

---

# اذکار و اشغال

نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں اور اوراد

فراغت صلوٰۃ کے بعد آپ کے معمولات نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کیا کہا  
کرتے؟

کس طرح بیٹھتے تھے؟

کس سرعت سے جگہ چھوڑتے تھے؟

بعد از نماز امت کے لیے کون کون سے اور ادوات اذکار شروع فرماتے؟

آپ کا عام معمول یہ تھا کہ جب سلام پھیرتے تو ہمین بار استغفار کرتے اور فرماتے اللهم  
انت السلام و منك السلام تبادر کت یا ذوالجلال والاكلام یعنی اے اللہ تو سلام ہے  
اور تجوہ سے ہی سلامتی ہے اے بزرگ دنیت واسے تو برکت والا ہے۔

صرف راتنے کیلئے کی حد تک قبلہ رُخ رہتے اور مقتند یوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو  
جاتے اور اپنے داییں یا بیٹیں کی جانب سے رُخ (نور) پھیر لیتے اور ابن مسعود نے بتایا کہ علیؑ نے  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ہار یا بیٹیں رُخ ہو جاتے دیکھا اور حضرت انسؓ فرماتے  
ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے داییں رُخ پر دیکھا۔

پہلی روایت صحیحین میں ہے اور دوسری روایت مسلمؓ میں ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں داییں یا بیٹیں  
سے اعراض کر لیتے۔ پھر آپ اپنا چہرہ اور مقتند یوں کی طرف پھیر لیتے اور ان کی سمت کے علاوہ  
کوئی دوسری سمت متوجہ نہ کرتے اور جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو جائے نماز پر یعنی حجۃ  
یہاں تک کہ سورج نکل آتا اور ہر فرض نماز کے بعد یہ الغافل پڑھتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِنَّ اللَّهَ مَنْ لَا مَقْعُودٌ لِمَا أَعْطَيَ وَلَا مَعْطُونٌ لِمَا مَنَعَ وَلَا يَنْفَعُ  
ذَلِكَ الْجَنَاحُ مِنْكَ الْجَنَاحُ -

یعنی؛ خدا نے کیتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی  
مالکیت ہے۔ اور اسی کی جمد ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو نے عطا کیا  
ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور کسی عزت دار کی عزت تیرے سامنے نفع نہیں  
درستی ॥

اور کہا کرتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ  
إِلَّا إِيمَانَ الْمُنْعَمَةَ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانِعُ الْخَيْرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْبُدُ  
إِلَّا إِيمَانُ الْمُنْلَصِينَ لِهِ الدِّينُ وَلَوْكَرَ إِلَّا الْكَافِرُونَ -

یعنی؛ خدا نے کیتا کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی مالکیت  
ہے اور اسی کی جمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوانح ڈر ہے اور  
نہ قوت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں  
کرتے۔ اسی کی فحیمتیں ہیں اور اسی کا فضل ہے اور اسی کی اچھی شنا ہے۔ اللہ کے  
سو اکوئی معبود نہیں۔ اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ خالص اسی  
کی الادعوت کرتے ہیں۔ اگر چہرہ کافر ناپسند کریں ॥

اور امام ابو داؤد تے علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
جب نماز سے سلام پھیر لئتے۔ تو یہ دعا پڑھتے:

إِنَّ اللَّهَ أَغْفِرُ مَا قَدِمْتُ وَمَا أَخْرَقْتُ وَمَا أَمْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ  
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدِرُ وَأَنْتَ الْآخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

یعنی؛ اے اللہ مجھے خوش دے، جو گزر چکے اور بعد کے ہیں اور جو ہیں نے  
پوشیدہ کیے اور جو علا نیہ کیے اور جو اسراف کیا اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو ہم

اول ہے۔ تو ہی آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔  
یہ حضرت علی کی طور پر روایت کا ایک نکار ہے۔ جسے امام مسلمؓ نے آغاز (نماز) میں روایت  
کیا ہے اور جو اپر مکون اور سبود میں پڑھا کرتے رہتے اور امام مسلمؓ کے اس میں دو الفاظ میں ایک  
تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلیم اور سلام کے درمیان پڑھا کرتے ہے، یہ تو صائب خیال  
ہے۔ دوسرے آپ انہیں سلام کے بعد پڑھا کرتے اور ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں دو مقامات  
پر پڑھتے ہوں۔

امام احمد بن حنبل نے زید بن ارقم سے نقل کیا انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خانہ کے بعد بھر پڑھا کرتے ۔

اللهم ربنا ورب كل شيءٍ وملائكة آنا شهيدٌ أنك رب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيءٍ آنا شهيدٌ أن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيءٍ آنا شهيدٌ أن العباد كلهم راحوتة آنکه ربنا ورب كل شيءٍ آجعنى سالك وراهلى في محل ساعة من الدنيا والآخرة ياذ الحمدل والاكرام  
اسمع وأستجيب اللهم اكبر نور السموات والادرض اللهم اكبر حسيبي الله ونعم الوكيل اللهم اكبر لا اكبر  
یعنی ”اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اور اس کے مالک میں گواہ ہوں کہ  
بیشک تو، ہی رب ہے، تنہا ہے، نبیر کوئی ثریک نہیں۔ اے اللہ ہمارے رب  
اور ہر چیز کے رب میں گواہ ہوں کہ محمد نبیر ابندہ اور نبیر رسول ہے۔ اے اللہ ہمارے  
رب اور ہر چیز کے رب میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی میں اے اللہ ہمارے  
رب اور ہر چیز کے رب مجھے اپنا مخلوق بنائے ..... اور میرے اہل کو بھی دنیا  
وآخرت کی ہر گھری میں۔ اے بزرگی اور عزت والے سن لے، قبول فرمائے، اللہ  
سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، انسانوں اور زین کا نور ہے، اللہ سب  
سے بڑا ہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے وہ بہتر کار ساز ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے  
سے بڑا ہے۔ (ابوداؤد)

افراد امت کے بیسے منتخب ہے کہ ہر خاکز کے بعد ہر کھاکر عزیز: سبحان اللہ ۲۳ بار

الحمد لله ۳۳ بار اللہ اکبر (۳۳ بار) اور سوان الفاظ کے ساتھ پورا کروں لا الہ الا اللہ  
وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد و هو علیٰ حل شیئی قادر۔

یعنی: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا کوئی  
شریک نہیں۔ اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے؛  
دوسری روایت میں یوں ہے۔ اللہ اکبر ۳۳ بار اس طرح سو مکمل ہو جاتا ہے۔

ایک اور روایت میں تسبیح ۲۵ بار اور اتنی ہی تمجید اور اتنی ہی تکبیر اور اتنی ہی تہلیکہ  
الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد و هو علیٰ حل شیئی قادر  
ایک اور طریقہ پر آتا ہے، تسبیح دس بار اور تمجید دس بار اور ایک اور طریقہ  
۲۱ بار جیسے بسیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرویات میں ہے کہ ہر نماز کے بعد ۳۳ باللغتی  
گپارہ بار گپارہ بار اور گپارہ بار تسبیح - تمجید اور تکبیر کہیں۔ تو بیر کل ۲۳ بار اس گلئی اس طریقہ سے  
معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعض راویوں کے تصرف کا تبھیر ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ حدیث کے الفاظ تو یوں نہیں کہ ہر نماز کے بعد  
۳۳ بار تسبیح و تمجید و تکبیر کہیں؛ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ کلمات تسبیح و تمجید و تکبیر پر  
ایک تینیں تینیں بار ہو گا۔ یعنی تسبیح و تمجید و تکبیر ہر ایک تینیں بار کہو، کیونکہ مومنی راوی حدیث  
نے ابو صالح سے روایت کیا ہے۔ ابو صالح نے یہی تفہیم کیا ہے کہ سبحان اللہ، الحمد لله، اللہ اکبر  
کہو اس طرح کران میں سے ہر ایک تینیں بار کہو، کیونکہ مومنی راوی حدیث نے ابو صالح  
سے روایت کیا ہے۔ ابو صالح نے یہی تفہیم کیا ہے کہ کہا ہے کہ سبحان اللہ الحمد لله، اللہ اکبر کہو  
اس طرح کران میں سے ہر ایک تینیں بار ہو جائے۔

رہی گپارہ کی تفصیل تو اذکار کے معاملہ میں اس کی کوئی تبلیغ نہیں ملتی۔ بخلاف سوکے کہ  
اس کی کئی مشابیں مل جاتی ہیں زنبور دس کی تبلیغ بھی پائی جاتی ہے جیسا کہ سفن میں حضرت  
ابو ذرؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔  
جس نے بسیح کی نماز کے بعد اپنے دونوں پہلو پر میٹھے میٹھے کوئی بات کرنے سے  
پہلے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک عیجی و میمت و هو علیٰ حل شیئی قادر

بعضی، خلاصے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بنا پر ہمیں  
ہے۔ اور اُسی کی حمد ہے، وہ زندگہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور دھی ہر چیز پر قادر ہے ॥  
ریه کلمات) دس بار کہے اس کے پیسے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی دس  
بڑیاں مشادی جائیں گی اور اس کے دس درجے بلند کئے جائیں گے اور اس دفعے  
وہ ہر ناپسند چیز سے حفاظت میں ہو گا اور شیطان سے بچاؤ میں ہو گا اور  
اللہ کے ساتھ شرک کے سوا کوئی گناہ اسے پکڑنہ سکے گا۔ تر مدد گئے اسے پیغام  
قرار دیا ہے۔

مسند امام احمدؓ میں حضرت ام سلمہؓ سے ایک روایت ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
نے یہ کلمات اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کو سکھاتے۔ جب وہ ایک غلام کے پیسے حاضر ہو میں  
تو اپنے فرمایا:

سوتے وقت تم ۳۲ بار سبحان اللہ اور ۳۲ بار الحمد للہ اکبر پڑھو بارہ اور  
جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو کہو لا الہ الا اللہ وحدہ کا و شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد  
وھو علی حعل شیعی قدیل دس بار اور نماز مغرب کے بعد دس بار۔

صحیح ابن حبان میں حضرت ابوالبوب النصاریؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جس نے صبح  
کے وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ کا و شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وھو  
علی کل شیعی قدیل دس بار، تو اس کے پیسے اس سے دس گناہ نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس بڑیاں  
مشادی جائیں گی اور ان کلمات کے باوقت دس درجے بلند کہے جائیں گے اور اسے چار  
غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور یہ کلمات شبیhan سے اس کا بچاؤ کرنے کے افراد  
نے نماز مغرب کے بعد دس بار یہ کلمات کہے تو اسے صحیح نہ کہ اس قسم رکے فوائد ملیں گے۔

شریعہ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گزر چکا، اللہ اکبر دس بار، الحمد للہ دس بار  
اور سبحان اللہ دس بار اور بلالا اللہ دس بار اور استغفار اللہ دس بار اور کہتے: اللہ ہو اغفرنی  
واہد فی والیم نرقی دس بار اور یوم قیامت کی تسلی سے دس بار پناہ مانگتے اور آزاد کارو دھوتا  
میں دس کا عدو کثرت سے ملتا ہے، لیکن گیارہ کا تذکرہ ابوہریرہؓ کی روایت کے سوا کہیں

نہیں ملتا، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔

صحیح ابو حاتم میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے وقت پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ عَصْمَةً أَمْرِي لَا أَصْلِحُ لِي دِينِي إِنِّي جَعَلْتُ فِيهَا مَعَاشِي الْمُهْرَابِ إِنِّي أَعُوذُ بِرَضْاكَ مِنْ سَخْطِكَ وَأَعُوذُ بِعَذَابِكَ مِنْ نَقْعَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْظِي لِمَا مُنْعَتَ وَلَا يُنْفِعُ ذَلِكُمْ مِنْكَ الْجَدِّ۔

یعنی: اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جس میں تو نے جبکہ امور کی خلافت رکھی اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جس طرح تو نے میری معاش رزق کی ارکھ دی۔ اے اللہ میں تیری خفیگی سے تیری رضاکی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے استحکام تیری معاافی کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری رحمت (اکی پناہ) چاہتا ہوں اور جسے تور و ک دے را سے کوئی دبینے والا نہیں اور کسی عزت دار کی عزت تیرے سامنے نفع نہیں دیتی ॥

مستند راک حاکم میں حضرت ابوالیوب الانصاریؓ سے روایت ہے کہ میں نے جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیجھے نماز پڑھی تو میں نے سنا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھاتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايِ وَذُنُوبِي كَلَهَا إِنَّ اللَّهَمَّ أَبْعَثْنِي وَاحِدِي وَارِزْقِنِي، وَاهْدِنِي لِصَالِحَاتِ لَا لِمُنْكَرِ وَلَا يَصْرُفْ سَيِّهَاتِ لَا لِأَنْتَ

یعنی: اے اللہ میرے تمام گناہ اور میری سب خطایب میں بخش دے، اے اللہ مجھے اسٹا اور مجھے رزق دے اور مجھے بیک اعمال و اخلاق کی برا بیت دے کیونکہ بیک (اعمال و اخلاق) کی صرف تو ہی ہرا بیت دے سکتا ہے۔ بڑیوں سے صرف تو ہی ہٹا سکتا ہے۔

صحیح ابن حبان میں حضرت حارث بن مسلم تمییزی سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: چب تو صحیح کی نماز پڑھ لے، تو وات کرنے سے پہلے یہ کلمات کرو:

اللهم اجرني من النار۔

یعنی: "اے اللہ مجھے آگ سے بچائے رہات بار، کبونکہ تو اگر اسی دن فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آگ سے تیری نجات لکھ دے گا اور جب تو مغرب کی نماز پڑھے تو نات کرنے سے پہلے سات بار بہ کلمات کہہ لے۔

اللهم اجرني من النار۔

کبونکہ اگر تو اسی نات کو فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آگ سے تیری نجات لکھ دے گا۔

ام نسائیؓ نے کبیر میں حضرت ابو امامۃ شمسیؓ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آپتناکری پڑھی تو اسے جنت میں جائیے سے صوت کے سوا کوئی پھیزہ نہ درکے گی۔

حضر بن مجبر نے اس روایت میں تغیر کیا ہے (اور) محمد بن زیاد الہانی سے اور انہوں نے ابو امامۃ شمسیؓ سے روایت کیا ہے۔ نسائیؓ نے حسین بن بشر اور انہوں نے محمد بن مجبر سے روایت کیا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور حسین بن بشر بتاتے ہیں کہ ام نسائیؓ نے اس کے متعلق کہا کہ (لا) باس بے اس میں کوئی ہرج نہیں اور دوسرے مقام پر اسے ثقہ قرار دیا۔ البتداء م بخاریؓ نے اپنی صحیح بخاری میں دونوں محدثوں کو قابل استدلال سمجھا ہے اور د محدثین اتنے کہا ہے۔ کہ حدیث اس کی تجزیہ پر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بہ موضع ہے۔ اور ابو الفرج جوزی نے اپنی کتاب میں اس سے موضوعات میں لمحہ ہے اور محمد بن مجبر پر متعلق بتایا ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ اس سے استدلال صحیح نہ ہو گا۔ یعقوب ابن سفیان کہتے ہیں کہ بہ قوی نہیں۔ اور بعض حفاظ حدیث نے اس پر انکار کیا ہے اور محمد کو ثقہ کہا ہے کہ وہ اس بات سے بندہ ہے کہ اس کی کوئی مسوغہ روایت ہو اور صحیح حدیث یعنی بخاری شریف میں اس قسم کی روایت کا پایا چنان زیادہ قابل استدلال بات ہے سیفی بن محبیض زیادہ شدت کے ساتھ اس کی توثیق کرتے ہیں اور سید جباری میں حضرت عبد اللہ بن حسن بن حسن نے اپنے والد ماحد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیتہ الکرسی پڑھی تو وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں (حفاظت میں) رہے۔

بیر روابیت حضرت ابو امامہ علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن عمر، مغیرہ بن شعبہ، جبار و عوف عبد اللہ اور انس بن مالک سے مروی ہے اور ان تمام اسناد میں ضعف بیان کا نامہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ روابیت کی اصل ضرورت ہے اور موضوع نہیں ہے اور مجھے اپنے شیخ ابو عباس بن تیجیہؓ قدس اللہ روحہ سے پہنچی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے کبھی بھی کسی نماز کے بعد تذکرہ نہیں کیا۔ مسنود و سلف میں حضرت عقبہ بن عامر سے روابیت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوفات پڑھوں۔ ابو حاتم، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم نے بتایا کہ یہ مسلم کی شرط پر مجھے روابیت ہے۔ ترددؓ میں معوف تین نکالاں فقط آتا ہے۔ مجوم طبرانی اور مسندا ابو الحنفی موصی میں عمر بن جنہان سے بھی روابیت ہے اور حضرت جابر سے مرفوعاً روابیت میں کلام کیا گیا ہے۔

”جو ادمی حالت ایمان میں ان پر عالم رہا اور جنت کے دروازوں میں جس دروانے سے چاہے اندھا چلا جائے اور سحر پشم حوریں اُس کی سانحی ہوں گی، بیرونہ شخص ہو گا جس نے،  
۱- اپنے قاتل کو معاف کر دیا ہو۔  
۲- اور قرضہ چھپ کر کے چکا دیا ہو۔ اور

۳- ہر فرض نماز کے بعد دس بار تل ہو۔ اللہ پڑھتا رہا ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اسے اللہ کے رسول چلے ان میں سے ایک ہی کام کیا ہو۔ اپنے جواب دیا ہاں! چلے ہے ایک ہی کیا ہو۔

رنیزو آپ نے حضرت معاویہ کو وہیت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد بہر دعا پڑھا کریے۔ اللہ حرامی علی ذکر رک و شکر رک و حسن عبادت ک۔

لیعنی: اس اللہ مجھے اپنے ذکر کی اور شکر کی اور اپنی طرح جہاد کی توفیق اور مدد فرمائی۔ نماز کے بعد سلام سے قبل کا بھی احتمال ہے اور اس کے بعد کا بھی احتمال ہے اور ہمارے شیخ ابن تیجیہؓ سلام سے قبل کو توزیع مجھے دیتے تھے۔

## ستره

**کون کون سی سنتیں رسول اللہ سے ثابت ہیں؟**

**ستره کس کس چیز کا بنایا جا سکتا ہے؟** بنی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار کی طرف نزد کر کے گزر گاہ کا سامانہ پھوڑ دیتے اور اس سے دور نہ رہتے بلکہ ستہ کے قریب ہونے کا حکم فرماتے اور جب آپ مگری یا ستون یا درخت کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے تو اسے دائیں بائیں جا بکر لیتے اور سفر خوشکی میں کوئی چیز گاڑ لیتے اور اس کی طرف رُخ انور کر کے نماز پڑھتے اس طرح وہ ستہ کا حام دے جاتا۔ کبھی آپ سواری کو آڑنا لیتے، اس طرح اس کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے اور اسے درست اور اس کے آخر میں نماز دا کرتے اور نمازی کو ستہ کا حکم دیتے۔ اگرچہ ایک تیر یا لاٹھی سے ہولیکن اگر نہ ملے تو زمین پر لا یک لکھرہ بھی کھینچ لے۔

ابوداؤؓ نے بتایا کہ میں نے احمد بن حنبلؓ سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لکھرہ لاں کی طرح ارف پر کھینچی جائے گی اور عبد اللہ تے بتایا کہ لکھرہ بھی پھینچی جائے گی۔ رہی لاٹھی تو وہ سیدھی ٹھاڑ دی جائے گی اور اگر ستہ نہ ہو تو صحیح یہ ہے کہ حورت، گردھا اور سیاہ کٹانا زکو فاسد کر دیتا ہے۔

**صحیح، غیر صریح اور صریح غیر صحیح** اور یہ مسئلہ، ابو ذرؓ، ابو ہریرہؓ، ابن عباس اور عبد اللہ بن مغفلؓ کی روایت سے ثابت ہے کہ معارض

روایات دو قسم کے ہیں:

۱۔ صحیح غیر صریح۔

۲۔ اور صریح غیر صحیح۔ پس جب معارض کی یہ حالت ہو تو اس کی وجہ سے راہیں اترک

نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ حضرت مائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے قبلہ کی جانب بیٹھی ہوتیں۔ یہ صورت سامنے سے گزرنے والے کے مشاہر نہیں، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزنا حرام ہے اور (نمازی) کے سامنے مٹھا مکروہ نہیں۔ اسی طرح عورت کا سامنے سے گزنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لیکن مٹھر نے میں (رکوئی مفضلۃ القراء نہیں)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چیدیشہ دس رکعتوں کا اہتمام فرمایا کرتے اور وہ درکعینیں اور عین ہم کے متعلق حضرت امین میر شے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں محفوظ کیں۔ دور کعینیں ظہر کے پہلے احمد دو اس کے بعد اور دور کعینیں مغرب کے بعد آپ اپنے گھر میں رپڑھا کرتے اور دور کعینیں عشاء کے بعد گھر میں اور دور کعینیں صبح کی نماز سے پہلے۔ یہ وہ درکعینیں ہیں جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چیدیشہ کبھی تک نہ فرماتے اور جب کبھی ظہر کے بعد دور کعینیں فوت ہو جاتیں تو آپ انہیں عمر کے بعد ادا کر لیتے یہ عمل دائمی تھا، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تو اُسے مسلسل جاری رکھتے اور اوقاتِ نہی بین سنن روایت کا ادا کرنا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عام ہو رہی ان دور (ذکورہ) سنتوں کی مکروہ اوقات میں ادا یتیکی۔ یہ آپ کے ساتھ خصوص ہے، جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی خصوصیات کے تذکرہ میں اس کی وضاحت آئے گی۔

کبھی کبھی آپ ظہر سے قبل چار رکعت پڑھتے، جیسا کہ صحیح نخاری میں حضرت مائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت کا نافرمانہ کرتے اور صحیح قبیل دور رکعت رکنا نافرمانہ کرتے، اب اگر پہ کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں نماز پڑھتے تو چار رکعت ادا کرتے اور جب مسجد میں پڑھتے تو دور رکعت ادا فرماتے، یہ واضح ہے اور بالآخر کہا جائے گا کہ کبھی آپ اس طرح کرتے۔ اور کبھی اسی طرح۔

---

لہ یہ چیز خصوصیات نبوت میں سے تھی۔ جب آپ نے ایک مرتبہ کسی وقت نماز پڑھی تو یہ آپ کا داشتی محسوب بن جاتا تھا۔ (رہیس احمد حفظی)

اس طرح حضرت عائشہؓ اور ابن عمرؓ پر ایک نے جو کچھ دیکھا رہا سے روایت کر دیا اور دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی ملعون نہیں کیا جاسکتا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چار رکعتیں ظہر کی سنت نہ تبیں بلکہ یہ ایک مستقل نماز تھی، ہبوز وال کے بعد آپ پڑھا کر تھے جیسا کہ امام احمدؓ نے حضرت عبد اللہ بن سائبؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا یہ ایک ایسی سنت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھوں دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا یک نیک عمل اور پڑھنے سے۔

سنن میں بھی حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے چار رکعت ادا کر سکتے تو نماز کے بعد ادا کرتے اور ان ماجہرؓ نے بتایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر سے قبل چار رکعت فوت ہو جاتیں تو آپ عمر کے بعد انہیں ادا کر لیتے۔ اور ترمذی میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت ادا کرتے اور (رقمن) کے بعد بھی دور کعت ادا کرتے۔ نیز ابن ماجہؓ نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت پڑھتے، جن میں طویل قیام کرتے اور ان میں مکوئی اور سجود خوب اہمی طرح کرتے۔

**حضرت عائشہؓ کی روایت** [رضی اللہ عنہا کا خیال ہے کہ آپ انہیں نہیں کرتے تھے۔] اس طرح یہ وہ چار رکعت، میں کہ جن کے منتعلق حضرت عائشہؓ سے قبل کی دو سفیتیں تو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ تمام نمازوں کی سفیتیں دو دور کعت ہوتی ہیں اور فجر کی نماز بھی دور کعت ہے (خاکہ کے لئے) اس وقت کافی فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی سفیتیں دو ہیں۔ دو مرے ظہر سے قبل کی چار رکعت زوال شمس اور نصف النہار (دو پہنچ کی وجہ سے مستقل مذکور ہیں اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ زوال کے بعد آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ قیام (اللیل رہات کی مبارکت) کے برابر درجہ رکعتی ہیں۔

اس کا راز یہ ہے کہ نصف النہار نصف اللیل کے مقابلہ میں ہے اور زوالِ شمس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے میں (اسی طرح) نصف رات کے بعد نزولِ الہمی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں قرب اور رحمت کے اوقات، میں۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے میں اور اس میں اللہ تبدیک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ امام مسلمؓ نے سیمیح مسلم میں حضرت ام جبیرؓ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سننا کہ جس نے دن رات میں بارہ رکعت (سنن) پڑھیں۔ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیا گیا اور نسانی و ترمذؓ نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ ظہر سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد دور رکعت اور مغرب کے بعد دور رکعت اور عشاء کے بعد دور رکعت اور سیمیح کی خاتمہ سے قبل دور رکعت۔ نماںؓ نے عشاء کے بعد کی دور رکعتوں کی بجائے لکھا ہے کہ عصر سے قبل دور رکعت۔ امام ترمذؓ نے رسمیح بتایا ہے۔ ابن ماجہؓ نے حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوہ امر دوایت کیا ہے کہ جس نے بارہ رکعت سنن کی پابندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنادیا، چار رکعت ظہر سے پہلے اور دور رکعت اس کے بعد اور دور رکعت عشاء کے بعد اور دور رکعت فجر سے پہلے اور دور رکعت ظہر سے پہلے اور دور رکعت اس کے بعد امید بیڑا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ دور رکعت عشاء کے بعد ممکن ہے کہ یہ تفہیر حدیث میں بعض راویوں کے اپنے کلام کا انداز ہو اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ رالفاظ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوٹ کلام ہی ہو۔ رہیں عصر سے قبل چار رکعتیں تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاصم بن حمزہ کی طویل روایت کے کے سوا کوئی سمل شاہت نہیں، جو حضرت علی سے منقول ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو عد رکعتیں (سننیں)، پڑھا کرتے تھے۔ چار رکعتیں اس وقت پڑھا کرتے جب سورج اس قدر بلند ہو جاتا جیسا کہ خاک ظہر کے لیے ہوتا ہے اور چار رکعت ظہر سے قبل اور دور رکعت ظہر کے بعد اور چار رکعت عصر سے قبل۔ ایک لفظ میں ہے کہ جب سورج مصل جاتا جتنا کہ عصر کے وقت ہوتا ہے تو دور رکعت پڑھتے اور عصر سے قبل چار رکعت پڑھتے اور ہر دور رکعتوں میں ممکنہ مقریبین پڑا اور ان مسونین پر جو متبوع ہیں۔ بیڑ مرسلین علیہم السلام پڑھ کر فصل کرتے۔

امام ابن تیمیہ اس روایت کو غلط سمجھتے ہیں [کہ وہ اس روایت کا انکار کرتے تھے اور اس کی سخت تردید کرتے تھے] میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا بھی اس کا انکار منقول ہے اور امام الحمد، ابو داؤد اور ترمذی، حضرت ابن عمرؓ سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ادمی پر درجم کرے جو عصر سے قبل چار رکعت پڑھے۔ اس روایت میں اختلاف ہے۔ ابن حبان نے اسے صحیح لہاہے۔ دوسروں نے اس کو معلول کہا ہے۔ ابن حاتم نے بتایا کہ میں نے اپنے والد سے سنادہ کہتے تھے کہ میں نے ابو ولید طیاسی سے محمد بن مسلم بن مشنی کی اپنے والد سے اور ان کی حضرت ابن عمرؓ سے اور ان کی بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کے متعلق دریافت کیا:

اللہ تعالیٰ اس ادمی پر درجم کرے جو عصر سے قبل چار رکعت پڑھے۔

تو انہوں نے جواب دیا ”اس سے رہنے دو“ میں نے عرض کیا کہ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے تو ابو ولید کہنے لگے کہ حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات میں دس رکعتوں رکی روایت کو یاد کیا ہے؟ تو اگر یہ بھی ہوتی تو وہ فروع اس کا ذکر کرتے اور بتایا کہ یہ والد کہا کرتے تھے کہ میں نے بارہ رکعتیں یاد کیں ہیں اور یہ علت قطعاً نہیں، کیونکہ ابن عمرؓ نے وہی روایت کی، جو انہوں نے اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یاد رکھا تھا کہ وہ جو دوسروں نے نہ بتایا، اس بیے دونوں روایتوں میں قطعاً کوئی تضاد نہیں۔ رہیں نماز مغرب سے پہلے دور رکعتیں تو یہ اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ آپ انہیں پڑھا کرتے تھے اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے صاحبہ کلام رحمتی اللہ عزیزم کو اس کا پابند کیا تھا اور آپ نگاہ رکھتے تھے کہ آپا بہر سنیتیں) پڑھتے ہیں؟ پھر بھی آپ نہ خلک کرتے اور انہیں منع کرتے۔

صحیحین میں حضرت عبد اللہ خزرنی سے روایت ہے کہ انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: مغرب سے قبل پڑھو، اور تیسری روایت میں آپ نے فرمایا، جو چاہو! اس بات کے پیش نظر کہ کہیں لوگ اسے سنت تو قرار دے لیں با پابندی نہ کرے

لگیں اور دو رکعتوں میں یہی صاحبہ راتے ہے کہ پرستخ و اور مندوب ہیں۔

اور سنن روایت کی طرح سنت نہیں اور وہ عام سنن اور نوافل اپنے گھر میں پڑھنے بن کا کوئی رخصی سبب نہ ہوتا۔ خصوصاً مغرب کی سنتیں، کیونکہ ان سنتوں کے متعلق اپنے منقول نہیں کہ آپ نے انہیں مزود مسجد میں پڑھا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ افراد میں کہ سفت (طریقہ) یہ ہے کہ انسان مغرب کے بعد اپنے گھروں دور کعت پڑھے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ رضوان اللہ علیہم سے یہی مردی ہے۔

سابق بن یزید کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ مغرب سے فارغ ہوتے تو سب پلے جاتے تھتی کہ مسجد میں ایک ادمی بھی باقی نہ رہتا گویا کہ وہ مغرب کے بعد کچھ نہ پڑھتے۔ آخر وہ اپنے گھروں میں پہنچ جانتے ان کی روایت ختم ہوئی۔

اگر کوئی مسجد میں دور کعتیں پڑھے تو کہا جائز ہے اور اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق ان کا قول مختلف ہے۔ ان کے روکے عبد العزیز نے ان سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا! کہ مجھے ایک ادمی کے متعلق خبر ملی، جس کا اس نے نام لیا کہ اگر ادمی مغرب کے بعد مسجد میں دو سنت پڑھے تو ادا نہ ہوں گی وہ کہنے لگے اس ادمی نے جو کچھ کہا خوب کہا اور بہت خوب استنباط کیا!

نماز مغرب کے بعد کی دور کعتیں ابو حفص نے بتایا کہ انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسا کہ ہے اور مزدہ تری فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں نماز مغرب کے بعد دور کعتیں (سنت) پڑھیں وہ گناہ گار ہو گا۔ میں نے عرض کیا کہ ابو ثور سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ وہ گناہ گار ہے؛ تو انہوں نے جواب دیا شاید وہ اس مطلب پر اس وجہ سے پہنچے ہوں گے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سنتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ ابو حفص کہتے ہیں کہ اس کی تو جیسا ہے کہ اگر کسی نے گھروں میں فرض ادا کر لیے اور مسجد اُرک کی تو بھی جائز ہو گا، اسی طرح سنتوں کا معاملہ ہے۔

اور امام احمدؓ کے زردیک بروجیسہ ٹھیک نہیں، بلکہ ان کے زردیک اس کا سبب یہ ہے کہ سنتوں کے پیسے کسی معین جگہ پا جماعت کی شرط نہیں ہے اس لئے انہیں گھر میں اور مسجد میں رہ جگہ اپنے صنا جائز ہے۔

اور مغرب کی سنت میں دو یا تینی سنت ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے اور مغرب کے فرائض کے درمیان کلام کر کے فعل نہ کرے اور حسن بن محمدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے احمدؓ کو دیکھا کہ جب ہم نے مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرا تو گھر سے ہو گئے اور کوئی بات نہیں کی اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھی۔ ابو حفص نیاتے ہیں، اس کا سبب قولِ مکحول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد دو رکعت کسی قسم کی بات کرنے سے قبل پڑھیں اس کی نماز علیہن ہیں میں اٹھائی گئی اور رہیز، نوانق فرائض سے مستصل ادا ہو جلتے ہیں۔

دوسری سنت یہ ہے کہ گھر میں رستنوں کو ادا کرے۔ امام نسائیؓ، ابو داؤد اور ترمذؓ نے کعب بن عجرہ سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد الاشہل کی مسجد میں تشریف لائے، مغرب کی نماز پڑھی۔ آخر جب سب نے نماز پڑھی تو ان کو دیکھا کہ وہ نماز کے بعد سچے پڑھ رہے ہیں تو اپنے فرمایا کہ یہ گھر کی نماز ہے اسے ابن ماجہؓ نے رافع بن خدیجؓ سے روایت کیا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ دور کعیین گھروں میں پڑھا کرو۔ الغرض بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت علیہ رہے ہے کہ آپ نے تمام سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھے جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت این عمر رضی سے روایت ہے کہ:

میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکعتیں بادر کی ہیں۔ نہر سے قبل دور کعیین اس کے بعد اور دور کعیین مغرب کے بعد اپنے گھر میں اور دور کعیین عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دور کعیین صحیح کی نماز سے قبل۔

اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نہر سے پہلے چار رکعت میرے گھر میں پڑھا کرتے، پھر تکلتی تو لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر اندر تشریف لاتے، پھر دور کعیت پڑھتے۔ اور اس طرح فخر کی سنتوں کے متعلق آپ سے

منقول ہے کہ آپ انہیں اپنے گھر میں پڑھتے جیسا کہ حضرت خضراء سے منقول ہے اور صحیحین میں ہے کہ حضرت خضراء اور ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے اونچہ جمعہ کے بعد کی سنن اور اس سے پہلے کی نماز کے متعلق ان شادِ اللہ جمعۃ البارک کے مسنون طریقہ (بہرہ فی الحجۃ) میں بحث کی جائے گی۔

**سنتیں گھر میں پڑھی چاہئیں** ای بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مقابلہ ہے۔

اسے لوگوا اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض کے علاوہ انسان کی سب سے بہتر نماز اپنے گھر میں ہوتی ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ آپ سنن و نوافل گھر میں پڑھتے۔ لیکن اگر کوئی سبب ہو جاتا تو دوسری بات تھی، جیسے آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ کے فرائض مسجد میں ادا ہوتے۔ لیکن کوئی سفر یا مرض یا اس کے علاوہ مسجد میں جانتے ہے تو ک دینے والی کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی تو اگر بات تھی، فوج کی سنتوں کے متعلق آپ کی حفاظت اور تسلسل تمام نوافل سے زیادہ سخت تر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سفر و حضر میں انہیں اور وزروں کو ترک نہ کرتے اور سفر میں بھی اپنے سعی کی سنت اور وزر پر باقی تمام سنن کی نسبت زیادہ تر سختی سے پابندی کرتے اور سفر میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ آپ نے ان دلوں کے علاوہ کوئی دوسری سنن راتیب پڑھی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے۔ اور فرمایا کہ تھتھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر کیا وہ سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے۔ بہرہ آپ کی سنت طیبہ تھی، اگرچہ اس بات کا اختصار بھی ہے کہ آپ تربع نہ فرماتے، لیکن بہرہ حال انہیں ران کے علاوہ، سنتیں نہیں پڑھیں لیا گیا لیکن حضرت ابن عمرؓ کے متعلق ثابت ہے کہ ان سے ظہر کی سنتوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہیں نے جواب دیا، اگر میں عبادت کر رہا ہوں گا تو انہیں رکعتوں کو پورا کروں گا اور یہ حضرت ابن عمرؓ کے درع رتفوئی، کام عاملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب عبید رچار رکعتوں والی نماز میں سے بھی ایک حقد کی تخفیف فرمادی تو اگر ان سے پہلے یا بعد دو رکعتیں شروع ہوں گی تو انہیں پوری کرنا زیادہ بہتر ہو گا۔

فقہاء کا ایس میں اختلاف ہے کہ فجر کی سنتوں اور وتروں میں کونسی رخاذ از پادہ ضروری ہے راس کے متعلق) دو قول بیں اور فقہاء کے اختلاف کے باعث وجوب و تر بیں کسی ممکن کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ یہی معاملہ فجر کی سنتوں کے وجوب کے متعلق ہے۔ بیں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ سے سنا وہ فرماتے تھے، فجر کی سفن (دن بھر کے) کام کے آغاز کے قائم مقام ہیں اور وہ راس کا انجام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل عبید و سلّم فجر کی سنتوں اور وتروں میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور یہ سورتین تو جد اور راس کے علم و عمل، معرفت و ارادہ اور اعتقاد و قصد پر مشتمل ہیں۔

**سورہ اخلاص کے خصائص** اس طرح کہ سورہ اخلاص اعتقاد و معرفت کے لحاظ سے **سورہ اخلاص کے خصائص** تو حیدر کے متضمن ہے اور پروردگار کی ایسی تو حیدر پر مشتمل ہے جو بر طرح سے شرک کے منافی ہے اور ایسی صمدیت (پر مشتمل ہے) جو تمام صفاتِ کمال اسی طرف مسوب کرتی ہے، جس میں کسی طرح بھی کوئی نقص نہیں پایا جاتا اور ادب و ادبیت (باب پیالا) کی نفی کرتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں کہ جو صمدیت اور توحید کے لوازم میں سے ہیں اور کوئی نفی کرنے ہیں، تاکہ تشییہ، مائلت اور نظری کی نفی ہو جائے تو یہ سورہ اس (ضمون) پر مشتمل ہے کہ ہر کمال اسی کیلئے ثابت ہے۔ ہر نقص سے وہ بری ہے۔ اس کے کمال میں تشبہ و مائلت ناممکن ہے اور راس کا شریک مطلقاً کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو توحیدی و اعتقادی کا جمود ہیں کہ جن پر اعتقاد کرنے والا تمام گمراہ اور مشرک فرقوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورۃ قرآن کے یہی سے جو تھے بل برد جبر کھٹی ہے کیونکہ قرآن میں یا خبر ہے یا انشاء اور انشاء میں میں باقی ہوتی ہیں۔ (۱) امر (۲۷)، (۲) امر (۲۸) اور (۲۹) ابا اور خبر کی دو قسمیں ہیں۔ خالق تعالیٰ کی اطلاع دینا، اس کے اسماء و صفات و حکام کی خبر دینا زیر، اس کی خلوق کی خبر دینا تو سورہ اخلاص محض اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کی خبر پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے یہ سورہ شمشت قرآن کے برابر ہے اور اس کا پڑھنے والا جیب کر اس کا اس پر ایمان بھی ہو۔ عملی طور پر شرک سے بری ہو جانا ہے۔ جس طرح علی سورہ کافروں شرک عملی و ارادی و مقصدی سے انسان کو الگ کر دیتی ہے اور علم جب کہ عمل سے پہنچے اور اس کا قائم و امام و رہنماء اور اس کا حاکم دیکھ رہا اس کو اس کے مقامات پر آنے والا ہو۔

تو گویا وہ سورہ رجیعی قل ہو اللہ احتمل شمشیر قرآن کے برابر ہو گئی۔

سورہ کافرون کے خصائص | حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا اور بتایا کہ یہ صحیح  
السندر ہے۔

اور جب شرک عملی وارادی اپنی خواہشات کی اتباع کے باعث لوگوں پر غالب ہو جائے اور اکثر لوگ باوجود اس کی مضرت و بطن سے واقف ہونے کے اس کے منکب ہو جائیں یہ کیونکہ اس میں ان کی ذات اغراض پاؤ جاتی ہیں تو پھر اس کو اکھاڑنا اور زانگی کرنا شرک عملی کے زائل کرنے سے زیادہ مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعد شرک عملی، تو علم استدلال سے دور ہو جانا ہے۔ کیونکہ موخر صورت کی حالت میں انسان کے لیے ناممکن ہے۔ کروہ رخواہ (خواہ) ہی ایک خلاف واقعہ ہات کو صحیح بحثدار ہے۔ خلاف شرک ارادی و مقصدی کے کہ محض غلبہ ہوئی اور اپنے آپ پر غلبہ، شہوت و غصب کے باعث اس کا منکب یہ کام کرتا ہے، حالانکہ اس کا علم اس کے بطن سے مضرت سے اسے الگ ہی بھی کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ "الكافرون" میں شرک عملی کو دور کرنے کے سلسلہ میں تاکید و تکرار کے ساتھ احکامات آئے ہیں جو حق ہو اللہ احمد میں نہیں ملتے۔

اب جب کہ قرآن کے دو حصے ہیں کہ ایک حصہ دنیا اس کے احکامات و متعلقات اور افعال مکلفین وغیرہ کے احوال واقعیہ پر مشتمل ہے اور دوسرے میں آنحضرت اور اس کے احوال واقعیہ پائے جاتے ہیں۔

اور سورہ ۱۵ اش لزالت ایجاد سے انتہائیک اسی دوسرے پر مشتمل ہے۔ یعنی اس میں افراد کے سوا کچھ نہیں بتایا گیا اور اس میں احوال دنیا کے مکینوں کے متعلق کوئی ہات نہیں ملتی۔ تو یہ تصفی قلائق براز ہے۔ اس روایت کے متعلق حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہی باعث ہے کہ ایک اندرونی دنیا سورتوں کو طواف کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے اور چونکہ یہ دو سورتیں انخلاص و توجہ کی ہیں اس لیے اپ دن کے کام کا آغاز بھی انہیں سے کرتے اور اغتسام بھی انہی پر فرماتے اور صحیح میں بھی انہیں پڑھتے جو کہ توجہ کا رائیک عظیم اشعار ہے۔

# تہجد اور وقت

و ترکب؟ کس طرح؟ کس تعداد میں؟ اور کیونکر؟

سنت قبر کے بعد استراحت [نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کی سنتوں کے بعد دایں پہلو پر لیٹ جاتے۔ صحیفہ بن حضرت عائشہ رضی

اللہ عنہا کی روایت سے یہی ثابت ہے۔ ترمذیؓ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی صبح کی نماز سے پہلے دورِ کعیقین پڑھے تو اُسے چاہیے کہ اپنے دایں پہلو پر لیٹ جائے۔ امام ترمذیؓ نے فرمایا کہ یہ حدیث، حسن صحیح غریب ہے۔ اور ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے اور صحیح نہیں ہے۔ صحیح طور پر آپ سے یہ فعل قوی شدید مروی ہے لیکن امر قطعاً مروی نہیں ہے۔

اور روایات امر میں عید الواحد بن زیادہ متفروہ ہے اور اس میں اس نے غلط بیان کی ہے۔

رہے ابن حزمؓ اور ان کے تبعیین تو وہ اس طرح لیٹنے کو واجب قرار دیتے ہیں اور ابن حزمؓ بتاتے ہیں کہ اس روایت کی بناء پر جو ادمی اضطلاع (لیٹنا) نہ کرے اس کی نماز باطل ہے اس مسئلہ میں وہ دیگر اگر سے متفروہ ہیں اور میں نے ان کے ایک شاگرد کی کتاب فیکھی کہ جس میں انہوں نے ایوب سے اور انہوں نے ابن سیرینؓ سے روایت کیا کہ ابو موسیؓ رافع، بنی خدیجہ اور انس بن مالک صبح کی سنتوں کے بعد لیٹتا کرتے تھے اور اس بات کا حکم بھی دیتے تھے اور محرر سے منقول ہے کہ انہوں نے ایوب سے اور انہوں نے

نافع سے روایت کیا کہ حضرت ابن عمرؓ فعل نہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بس سلام پھیر دینا، ہی کافی ہے اور ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ مجھے اس نے اطلاع دی، جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ قریشیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی وجہ سے نہ پیش کرتے، بلکہ آپ رات میں بہت محنت کرنے اس پرے امام فرماتے۔ ابن ابی شیبہ سے ابو صدیقؓ نے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک جماعت کو کروہ ففر کی دو رکعت ر سنن کے بعد لیٹ گئے۔ ان کی طرف بھیجا اور انہیں اس بات سے روک دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس طرح سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت رابن عمرؓ نے فرمایا۔ ان کی طرف جاؤ اور انہیں خبر کرو وکریہ بدعت ہے اور ابو محلہ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت ابن عمرؓ سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ (مزید) فرمایا کہا ہات ہے کہ ایک آدمی جب دو کعیتیں پڑھتا ہے تو حمار کی طرح لپٹ جاتا ہے۔ چنانچہ دو گروہ ہوں نے اس اضطجاع میں نلو۔ کیا ہے اور قبیرے گردہ نے اعتماد سے کام لیا ہے۔ اہل ظاہر کی ایک جماعت نے اس کو واجہ قرار دیا ہے اور ابن حزم اور ان کے موافقین نے اس کے ترک کرنے پر نماز کو ہاطل قرار دیا ہے۔ اور فقہاء کی ایک جماعت نے اسے مکروہ سمجھا اور اس سے بدعت فراہ دیا ہے۔ امام راہک مفروضہ نے اس میں اعتماد سے کام لیا ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ جو استراحت کی خاطر ایسا کرے تو کوئی ہرج نہیں اور جو سنت سمجھ کر کرے تو پرے مکروہ ہے۔

کیا سنت فجر کے بعد استراحت منتخب ہے؟ [قرار دیا ہے۔ خواہ اس سے انتراحت

مطلوب ہو یا نہ ہو یہ لوگ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے مجت بیتے ہیں اور جنہوں نے اسے مکروہ کہا ہے۔ انہوں نے صاحبہ کرام مثلاً حضرت ابن عمرؓ وغیرہ کے آثار سے اعتماد لال کیا ہے۔ کیونکہ وہ اس شخص کو لنگر کارتے جو ایسا کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، جنہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کیا بھی ہے۔ ان کے نزدیک صحیح مستحبہ

ہے کہ اضطجاع و ترکے بعد اور فجر کی سنتوں سے قبل تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت سے ذکر ہے۔ رہبی حضرت عائشہؓ کی روایت تو علی بن شہابؓ نے اس بات میں اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ امام مالکؓ نے اس سے روایت کیا کہ جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں یعنی رات کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو دایمیں کروٹ پیٹ جاتے، حتیٰ کہ مودون حاضر ہوتا تو آپ دو بلکی سی رکعتیں ادا فرماتے۔ یہ اس بات کی صراحت ہے۔ کہ لینا فجر کی سنتوں سے پہلے ہوتا۔ دوسروں نے ابن شہابؓ سے روایت کیا ہے ”وَكَمْ جَبْ مُؤْذِنٌ فَجَرْكِي أَذْانَهُ دَعَى“ چلتا اور آپ سفیدہ سحر دیکھ لیتے اور مُؤذن حاضر ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور دُخیف سی رکعتیں ادا فرماتے۔ پھر دایمیں پہلو پر پیٹ جاتے۔ انہوں نے بتایا کہ جب الصحابہؓ بن شہابؓ باہم مختلف ہیں تو قول وہی درست ہو گا جو مالکؓ کا ہے۔ کیونکہ وہی اتنے میں سے

بادر کھنے والے اور بات کو محفوظ رکھ لینے والے تھے۔

دوسروں کا قول ہے کہ صحیح مسلم ان دو گوئیں کا ہے جو امام مالکؓ سے اختلاف کرتے ہیں اور ابو بکر خلیفہ تھے کہا ہے کہ مالکؓ نے زہریؓ سے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ صلی اللہ علیہ وسلم عروۃؓ سے اور گیارہ رکعت پڑھتے اور ایک رکعت ملاکر و ترا ادا فرماتے، جب آپ فارغ ہو جاتے تو دایمیں پہلو پر پیٹ جاتے یہاں تک کہ مُؤذن حاضر ہوتا تو آپ دُخیف سی رکعتیں ادا فرماتے اور عقبیل، یونس، شعیب، ابن ذریب اور اور زاعمؓ وغیرہ نے امام مالکؓ سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے زہریؓ سے روایت کیا ہے کہ بنی صالح علیہ وسلم فجر کی دو رکعتیں سنت (ادا فرماتے۔ پھر دایمیں پہلو پر پیٹ جاتے یہاں تک کہ مُؤذن حاضر ہوتا تو آپ کے ساتھ باہر تشریف ساتے۔ چنانچہ مالکؓ نے بتایا ہے کہ اضطجاع فجر کی دو سنتوں سے پہلے ہوتا تھا۔ ایک اور جماعت کی روایت ہے کہ آپ نے دور کوت کے بعد اضطجاع راسترا (فرمایا) اس پسے علماء تھے فیصلہ فرمادیا کہ امام مالکؓ سے اس بات میں غلطی ہوئی اور دوسروں نے درست بتایا۔

**آں حضرت کا معمول** اور ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم نے امام مانگ سے کہا کہ ابو صلت نے ایوکریب سے اور انہوں نے ابو سعیل سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ فوجی دوستوں کے بعد بیٹھ گئے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے رفع ہبیں کرتے ہیں نے عرض کیا کہ اگر نہ یہ ہوں تو اس پر کوئی ہر ج ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بہر روایت حضرت عائشہؓ کی نہیں ہے۔ حضرت ابن عثیمینؓ اس سے انکار کرتے ہیں۔

اور جلال نے بتایا کہ ہمیں مزوری نے خردی

ابو عبد اللہ نے

کہا ہے کہ ابو ہریرہؓ کی روایت وہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ امش سے ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الواحد تنہا ہی اس کے راوی ہیں اور ابراہیم بن عاصی حادث کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ سے فوجی دوستوں کے بعد یہ نے کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ نہیں سزا ہے اور اگر کوئی ایسا کرے تو ٹھیک ہے۔

اگر عبد الواحد بن زیاد کی روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی جو اس نے امش سے اور انہوں نے ابو صالح سے کی ہے تو ان کے نزدیک اس فعل کا مقام کم از کم منتخب تو ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے اس طرح روایت کیا اور کبھی اس طرح روایت کیا۔ چنانچہ وہ کبھی اس طرح کر لیتے اور کبھی اس طرح کر لیتے، چنانچہ اس باب میں اختلاف نہیں بلکہ یہ مباحثات میں سے ہے۔

آپ کے داییں پہلو پر لیٹتے ہیں بھی ایک رات ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دل داییں جانب محلق ہے پس جب اُوی بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو اُس کو بھرپور نیند آجائی ہے، کیونکہ اسائش دراحت میں ہوتا ہے اس وجہ سے نیند خوب آجائی ہے۔ چنانچہ جب وہ داییں کروٹ پر ہوتا ہے تو وہ پر لیشان سا ہو جاتا ہے اور دل کے قلق اور اپنے مقام کی طلب و میلانے کے باعث اُسے بھرپور نیند نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے داییں کروٹ پر سونے کو پسند کیا ہے۔ تاکہ راحت مکمل ہو اور نیند خوب آئے اور صاحبِ شرع نے داییں کروٹ پر سونے کو پسند کیا ہے۔ تاکہ خوابر خوگوش میں بنتلا نہ ہو جائے۔ کہ رات کی نماز سے

بھی خودم رہے۔ چنانچہ دایں کروٹ پر سونا دل کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اور یا بھی کروٹ سونا بدن کے لئے زیادہ مفید ہے۔

نماز تہجد اور آنحضرتؐ کے معمولات سلف و خلف ناس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا نماز تہجد اپ پر فرض حقی با نہیں؟ دونوں گرد ہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے۔

وَمِنْ أَنْتِي لِفَتَهْجِدَ مِنْهُمْ نَافِلَةً لَكَ

”یعنی کچھ رات جا گزارہ جو تیرے لیے مفید ہے“

ان کا خیال ہے کہ بہرائیت، غیر و اچب ہونے کی صراحت کرتی ہے۔ دوسروں نے کہا اور کہ اس سورۃ میں یا ایہا المزمل قمرۃ التیل اللہ تنسیلا۔ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے اور کوئی آیت اس کی ناسخ بھی نہیں رہی۔ (وہیلی آیت میں، نافلۃ لک تو وہ اس نافلۃ سے مُراوزہ مادہ ہے اور مختلف ازیادہ رحمادت، از رات طویلات (نوافل) اپر دلالت نہیں کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً

یعنی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے

وہ کام دینے کے مزید برائیں بنی اسرائیل علیہ وسلم کے تہجد میں نافلۃ کا مطلب اجر اور درجات میں ازیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لئے آپ کو اس سے مختص رفرض، فرمایا، کیونکہ دوسروں کے لیے قیام بیل مباح ہے اور ان ہوں کا کفارہ ہے۔ ربے بنی اسرائیل علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گز شتر اور آئندہ گناہ نخش دیے ہیں اپر رفت درجات اور ازیادتی سر ایب میں کوشش فرماتے ہیں۔ اور دوسری لغزوں کے کفارہ کے طور پر عمل کرتے ہیں۔ جا پڑ کہتے ہیں کہ بہرائیت، بنی اسرائیل علیہ وسلم کے لیے نافلۃ کا درجہ رکھتی ہے۔

(پھر)، آپ کے تمام گز شتر اور آئندہ گناہ نخش دیے گئے ہیں تو گویا ان کی اطاعت نافلۃ یعنی ثواب میں ازیادتی کا سبب بنتی ہے اور دوسروں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ این مندرجہ نے اپنی تفیر میں فرمایا ہے کہ ہمیں علی بن ابی عبیدہ نے بتایا اور انہیں جمیع

نے ابن جریح سے اور انہوں نے ابن کثیر سے اور انہوں نے جابر سے سماحت کی کہ فرائض کے علاوہ باقی نافلۃ ہیں۔ کیونکہ فرائضِ مکنہ ہوں کا کفارہ نہیں بنتے اور زیادتی درجات کے لیے دوسرے لوگوں کیلئے نافل ہیں ہیں بلکہ یہ خصوصیت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور باقی تمام لوگ فرائض کے علاوہ گناہوں کے کفارہ کی خاطر فعلی جمادات کرتے ہیں۔ ہمیں محمد نے بتایا اور انہیں نفر نے اور انہیں عبد اللہ نے اور انہیں عمر نے اور ان کو سید و قبیصہ نے انہیں سفیان نے، انہیں عثمانؓ نے اور انہیں حضرت حسنؓ نے کہ اس آیتہ کریمہ کے پارے ہیں روایت یہ ہے کہ فتحہ حمد میہ نافلۃ لکھ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے نافلۃ رزیادتی درجات وغیرہ انہیں بنتی اور منحاکؓ سے منقول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت سے نافلۃ ہے۔ سبلہان بن جبان نے ذکر کیا کہ ہمیں ایو غائب نے یہ سند امامتہ بتایا کہ جب تو لے و منو کے اعضا کو ان کے مقام پر رکھ دیا تو نجات یافتہ ہو کر اٹھا، اب اگر تو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا تو یہ تیرسی یہ فضیلت و اجر کا سبب ہے، اس پر ایک اُدھی کھنے لگا، اسے ابو امامتہ کیا تمہارا بہ خجال ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے تو یہ اس کیلئے نافلۃ رزیادتی درجات اکا ہاثر ہو گی؟

جو اب دیا، انہیں بلکہ نافلۃ تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گی، کسی اور کسی لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ کوہ گناہوں، خطاوں، بیس دُو باہوا ہے رہا، اس کے لیے فضیلت اور اجر کا سبب ضرور ہو گی۔

ہم نے کہا کہ مقصود تو یہ ہے کہ آیت میں نفط نافلۃ سے مراودہ نہیں جس کا فعل ذرک مباح ہو یہی محب و مندوب بلکہ اس سے مراودہ زیادتی درجات ہے اور یہ صفت فرائض و مستجاب ہیں قدر مشترک ہے۔ اس طرح ”نافلۃ“ کا قول امر و جوب فی النہجہ کے منافی نہیں۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و خضر بیس قیام بیل رتجید، ذرک نہ فرمائے اور جب کبھی آپ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا یا تکلیف ہو جاتی تو دن بیس بارہ رکعتیں پڑھ لیتے۔

کیا وزیر کی قضا کرنی چاہیے؟ [میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ کو اس دلیل کے متعلق  
کے بعد قضا نہیں ہوتی۔ اور بہ تجھہ المسجد، نمازِ کسوف اور نمازِ استغفار و غیرہ کی طرح  
ہے، کیونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ رات کی آخری نمازوں پر جیسے کہ دن کی آخری نمازوں پر  
ہوتی ہے اور جب رات ختم ہو جائے اور آدمی صبح کی نمازوں پر طھرے تو وزارس کے فائم مقام  
نہیں ہو سکتے۔]

ابو داؤد اور ابن حجرؓ، حضرت ابو سعید خرازیؓ سے اور انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم  
وسلم سے روایت کیا، اگر کوئی وزیر سے پہلے سو جائے یا بھول جائے تو جب صبح ہو لیا واد  
آجائے تو پڑھ لینا چاہیے۔

لیکن اس روایت میں کئی علل ہیں، ایک تو یہ کہ بہ بعد ارجمند بن زید اسلام کی روایت  
ہے۔ اور وہ ضعیف ہے۔ دوسرے صحیح بات یہ ہے کہ ان کی اپنے والد سے اور ائمہ کی  
بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت ہے۔ امام ترمذیؓ فرماتے ہیں کہ بہ روایت سب  
سے زیادہ صحیح یعنی مرسل ہے تبیرے ابن حجرؓ نے ابو سعیدؓ کی حدیث بیان کر کے محدثین  
یہی سے نقل کیا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صحیح ہونے سے پہلے ہی وزیر پڑھو۔  
روایت کے وقت انجوزت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کیا رکعت ہوتی تھی  
جیسا کہ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیونکہ ان دونوں سے یہ ثابت ہے۔ نیز صحیحین  
میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان  
کے علاوہ بھی گیارہ سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے۔ نیز صحیحین میں انہی سے روایت ہے  
کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے اور ان میں پانچ کے ساتھ و ترکیتے  
اور صرف ان کے آخر میں سیچھتے حضرت عائشہؓ سے پہلی روایت صحیح ہے۔ اور گیارہ سے  
زائد دور کعتیں (دوراصل) پر فخر کی سنتیں ہیں۔

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے الفاظ آئے ہیں کہ رسول  
الله صلی اللہ علیہ وسلم فخر کی دور کعتیوں (سننوں) کو ملا کر تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے رہے۔

امام مسلم<sup>ؒ</sup> نے اپنی سمجھے بیس ذکر کیا ہے۔ امام بخاری<sup>ؒ</sup> نے اس روایت کے متعلق فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تبرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب فخر کی اذان سننے تو دو خفیف رکعتیں پڑھتے۔ اوزیمین بیس فاسیم بن محمد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہ فرمائی تھیں کہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دو رکعتیں ہوتیں اور ایک مسجدہ (رکعت) سے دائر کرتے۔ پھر فخر کی دو رکعتیں پڑھتے تو بیر تبرہ رکعتیں بڑھتے۔ اس طرح یہ تفسیر واضح ہے۔

دیہے حضرت ابن عباسؓ تو انہوں نے اس بیس اختلاف کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو حمزةؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تبرہ رکعت تھی۔ لیکن اس کی وضاحت اس طرح منقول ہے کہ یہ تعداد فخر کی دو رکعتیں (سنن) ملائکر بنتی ہے شعبیؓ فرماتے ہیں۔ بیس نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ تبرہ رکعتیں، اس بیس سے آٹھہ (تہجید) کے نو اقل (تین) رکعتیں دو رکعتیں دو رکعتیں فخر سے قبل کی سنیتیں تھیں اور صحیحین بیس کریب نے ان سے اپنی خالد ام المومنین بیہودہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر بیس رات گزارنے کے قصہ بیان کرتے ہوئے بنایا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرہ رکعت نماز پڑھی۔ پھر سو گئے بہاں تک کہ آپ کے خرائے کی آواز آتے لیگی۔ آخر جب آپ کو حسوس ہوا کہ فخر ہو گئی تو آپ نے دو خفیف سی رکعتیں پڑھیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر دو رکعتیں، پھر دو رکعتیں پھر دو رکعتیں پھر ایک رکعت (ملائکر) تو پڑھے۔ پھر بیٹ گئے بہاں تک کہ مودُن حاضر ہوا تو آپ اٹھئے اور دو خفیف سی رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ سمجھ کی نماز پڑھنے کے لئے باہر تشریف لائے۔ اس طرح گیارہ رکعنوں پر رائمہ کا اتفاق ہو گیا اور اگری دو رکعنوں پر اختلاف رہا کہ آیا وہ فخر کی دو سنیتیں تھیں یا ان کے علاوہ تھیں؟ اس طرح چب فرائض اور ان سنت راتبہ کو صحیح کیا جائے۔ جن پر آپ ملوکیت (دوام) کرتے تھے تو جو جمومہ رکعات بنتا ہے۔ یہ رات میں چالیس رکعتیں ہوتی ہیں۔

جن پر آپ موانع بست کرتے تھے۔ سترہ فرائض اور دس یا بارہ سنن راتبہ اور گیارہ یا  
تیرہ تہجد کی رکعتیں ہوتی۔ اس طرح جموعہ چالیس بام ہو گیا۔ اور جوان سے زاید ہوتے نہیں  
راتب (یعنی امار ضمی رہنمائی) ہوں گی، جیسے کہ خازہ فتح آٹھ رکعتیں اور جب آپ سفر  
سے مراجعت فراہوتے تو خازہ چاشت اور زیارت کے وقت کی خازہ اور تجتہ المسجد  
وغیرہ پس انسان کو چاہیے کہ وہ صوت مک اس وہ پر فائم رہے اس بیسے کہ جو شخص دن  
رات میں چالیس بار دروازہ کھلکھلاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کس قدر سریع الاجابت ہو گا  
اور دروازہ کس قدر جلد کھل جائے گا اور اللہ سے ہی مدد کا سوال ہے۔

**بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب، و ترا و راتبہ تھجد کی نماز کا ذکر** حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عشاء کی نماز پڑھی اور اندر تشریف لائے تو چار بار پھر  
رکعتیں پڑھیں پھر آپ باشہر تشریف لاتے۔ این جماعت فرماتے ہیں جب انہوں نے  
آپ کے پاس رات گزاری تو عشاء کی نماز پڑھی، پھر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور سو گئے۔  
ان دونوں کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور جب آپ بیدار ہوتے تو مساک سے آغاز فرمائے  
پھر اللہ تعالیٰ کی باد کرتے اور بیدار ہوتے وقت جو کچھ آپ پڑھتے اس کے متعلق گزرا چکا  
ہے۔ پھر آپ وضو فرماتے اور دو خفیف سی رکعتیں ادا کرتے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت  
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
جب رات کو اٹھتے تو دو خفیف سی رکعتوں سے ابتداء فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ  
کی روایت کے مطابق آپ نے اسی بات کا حکم بھی دیا، فرمایا۔

جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھتے تو اسے چاہیے کہ دو خفیف رکعتوں سے  
ایجاد کرے (مسلم شریف)

اور جب رات آدمی گزر جاتی یا اس سے قبل یا اس کے بعد اٹھتے اور اکثر اوقات آپ  
اس وقت اٹھتے جب آواز دینے والے بیتی مرغ کی آواز سنتے اور وہ اکثر نصف ثانی  
رات کے آخری نصف حصہ میں آواز لکاتا اور کبھی تو آپ اپنا اور منقطع کر دیتے اور کبھی مسلسل

چاری رکھتے اور تہی زیادہ تر ہوتا کہ آپ منقطع فرماتے جیسا کہ ابن عباسؓ نے اخیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاس رات گزارنے کی روایت میں بتایا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو مسواک کی اور وضو کیا۔ اور فرمایا۔

اَنْ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقَ لِفَوْزٍ يَأْتِيْ لَهُ وَلِيْلَةُ الْمُبَاب  
یعنی ”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے اختلاف میں  
عقل والوں کے بیسے نشان ہیں“

آپ نے یہ آیات پڑھیں بہانہ کہ سورہ ختم کی پھر کھڑے ہو گئے اور دو گفتائیں پڑھیں جن میں قیام و رکوع و سجود طویل کیا۔ پھر فارغ ہو گئے اور سورہ بہانہ کہ خراش کی اوڑائی کرنے لگی پھر آپ نے یقین مرتبہ چھوڑ کر گتوں میں اسی طرح کیا۔ ہر بار مسواک کرنے و صنو فرماتے اور بہر آیات پڑھتے۔ پھر آپ نے یقین وزیر پڑھے، پھر مسون نے اذان دی اور آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ دعا کر رہے تھے۔

اللَّهُمَّ فِي قَدْلَمَى نُورٌ وَ فِي لَسَانِي نُورٌ وَ اجْعَلْ فِي سَعْيِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي  
نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْقِي نُورًا وَ مِنْ أَمَانَتِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي مِنْ فَوْقِ نُورًا وَ مِنْ تَحْتِي نُورًا  
اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا۔

یعنی: ”اے اللہ میرے دل میں نورِ دل دے اور میری زبان میں نورِ زبان دے اور میرے کافوں میں نورِ کاف دے اور میرے انکھوں میں سے نورِ انکھ دے اور میرے پیچے نور کر دے اور میرے آگے نور دکر دے، اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے پیچے نور دکر دے، اور اے اللہ مجھے نور عطا فرماد (مسلم)“

عائشہ کی روایت کو ابن عباس کی روایت پر ترجیح اور حضرت ابن عباسؓ نے دو خفیف رکعتوں

کے ساتھ افتتاح کا تذکرہ نہیں کیا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تذکرہ کیا ہے۔ اس یہے یا تو کبھی آپ اس طرح کرتے ہوں گے اور کبھی اس طرح اور یا حضرت عائشہؓ نے وہ بات یاد رکھی جو حضرت ابن عباسؓ یاد نہ رکھ سکے اور تہی انہر ہے کیونکہ وہیس

رام المومنین رضی اللہ عنہما، ہمیشہ موانعیت سے راپ کو دیکھتیں، اور راہنمam سے) آپ رکی سنت طبیہ پر ملاحظہ کرتیں۔ نیز آپ ہی تمام مخلوقات کے مقابلہ میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بیل سے آگاہ تجیس اور ابن عباسؓ نے تو محض اپنی خالہؓ کے ہاں ٹھہرے سے رات کو مشاہدہ کیا اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بیل کے متعلق حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ میں اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہؓ کا قول ہی رمعتبر نصیحت ہوگا، اور آپ کے قیام بیل اور وتر کی انوار پر لکھتے۔ ایک تو بہر جو حضرت ابن عباسؓ نے ذکر کیا۔

قسم ثانی یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ آپ دو غفیف رکعتوں سے نماز کی ابتدا فرماتے پھر آپ اپنا اور دنماز اگیارہ رکعتوں میں ختم کرتے۔ ہر دور کعت پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت کے ساتھ وتر کرتے۔

قسم سوم اسی طریقہ پر تیرہ رکعت تھیں۔

قسم چہارم یہ تھی کہ آپ آٹھ رکعتیں پڑھتے، ہر دور کعت پر سلام پھیرتے۔ پھر مسلسل پانچ رکعت پڑھتے۔ وتر کرتے اور صرف آخر میں (تشہید) کے لیے بیٹھتے۔ قسم پنجم، نور کعت تھیں کہ جو آخر مسلسل پڑھتے اور صرف آخر میں رکعت کے آخر میں بیٹھتے اور اللہ کا ذکر فرماتے، حمد کرتے اور دعا مانگتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے پھر نویں رکعت پڑھتے پھر بیٹھ جاتے اور تکشید پڑھتے اور سلام پھیر دیتے پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے۔

قسم ششم یہ تھی کہ نونکورہ کی طرح سات رکعتیں پڑھتے۔ پھر اس کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے۔

قسم ہفتم یہ تھی کہ آپ دو دور کعت نماز پڑھتے اور آخر میں، تین وتر ادا کرتے جن میں فصل آنہ ہوتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ تین وتر پڑھتے اور ان کے درمیان فصل نہ فرماتے اور نسائی گنے انہیں سے روایت کیا کہ آپ وتر کی نماز میں دو رکعت پر سلام نہ پھیرتے۔ یہ مشاہدہ پرمبنی

سنت ہے۔

**وزر کے متعلق بعض دوسرے روایات** | ابو حاتم اور ابن حبان<sup>ؓ</sup> رہرو صاحبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اور انہوں

نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، یعنی وزر نہ پڑھو بلکہ پانچ یا سات.... دو رکعتوں) سے وزر کرو اور نماز مغرب سے تشاہد کرو۔ امام دارقطنی<sup>ؓ</sup> فرماتے ہیں اس کے تمام راوی نقہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہرو بیٹیں نے حضرت ابو عبد اللہؑ سے دریافت کیا۔ وزر بیٹیں آپ کا مسئلک سننا؟ کیا آپ دو رکعتوں پر سلام پھیرنے تھے؟

انہوں نے جواب دیا ہاں:

بیٹیں نے پوچھا، کیوں؟

فرمایا دو رکعتوں کے متعلق بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قوی اور کثرت سے ہیں۔ زہری<sup>ؓ</sup> حضرت عروۃؓ سے اور وہ عائشہؓ سے اور وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی، ہیں کہ آپ نے دو رکعتوں پر سلام پھیلرا۔

اور حادیث کہتے ہیں کہ امام احمد<sup>ؓ</sup> سے وزر کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا۔ دو رکعتوں پر سلام پھیلرا جائے گا اور اگر سلام نہ پھیلے تو مجھے امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہو گا لیکن بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیلانا ثابت ہے اور ابو طالب کہتے ہیں کہ ہیں نے ابو عبد اللہؑ سے دریافت کیا ہے۔

وزر بیٹیں آپ کس روایت کی طرف مائل ہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ ہیں سب کی طرف مائل ہوں، جس نے پانچ رکعت پڑھیں اور صرف آخری رکعت پر بیٹھا اور جس نے سات رکعتیں پڑھیں اور صرف ان کے آخری رکعت پر بیٹھا، دونوں صحیح ہیں، زیارت کی حضرت عائشہؓ خرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہیں ہے کہ آپ نو سے وزر کرتے اور آٹھویں رکعت پر بیٹھا کرتے۔ انہوں نے بتایا لیکن زیادہ مضبوط اور قوی روایت ایک رکعت والی ہے۔ اسی لئے ہیں اس پر مائل ہوں

میں نے عرض کیا کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ”کہ تم رکھتیں“  
انہوں نے جواب دیا ہاں ! را بن مسعودؓ نے حضرت سعید پر ایک رکعت کی وجہ سے  
اعتراض کیا تھا تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ کہا تھا۔

**قسم ششم:** جو نبیلؑ نے حضرت حذیفہؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضوان میں خاذ پڑھی تو رکوع کیا اور رکوع میں سیحان ربی العظیم را اس قدر (دیر تک) پڑھا جیسے کھڑے رہے پھر بلطفہ گئے اپنے پڑھ رہے تھے۔

سَمِعَتْ أَغْفِرْتُ لِي سَمِعَتْ أَغْفِرْتُ لِي

یعنی اُسے پروردگار مجھے بخش دے اسے پروردگار مجھے بخش دے ॥  
جتنی دیر کھڑے رہے بھی پڑھتے رہے۔ ابھی چار رکعت ہی پڑھی تھیں کہ حضرت  
بلال حاضر ہوئے اور صبح کی نماز کے لئے بلاذ نکلے۔

اپنے شروع رات، درمیانیہ میں اور آخر میں بھی وتر پڑھے، میں اور بعض اوقات رات بھر کھڑے رہے اور ایک ہی آہت کی تلاوت صبح نیک بار بار کرتے رہے اور وہ آہت یہ تھی۔

- ان تعن بهرقافنه عبادتك

لیکن اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے رہے گا۔

اپ کی رات کی نماز تین طرح ہوتی تھی ایک کھڑے ہو کر اور زیادہ تر بھی طریقہ  
نما۔ دوسرے بیٹھ کر نماز پڑھتے اور رکوع بھی بیٹھ کرتے۔ تیسرا یہ کہ اپ  
بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب قرآن میں سے خود اس باقی رہ جاتا تو کھڑے ہو جلتے  
اور کھڑے ہو کر رکوع فرماتے۔ یہ تینوں صورتیں صحیح طور پر اپ سے منقول ہیں۔

**ابوداؤ دراوی کی تعديل** [تو سنت نسائی بیس حضرت عبداللہ بن شفیقؓ] ماکھڑے ہونے کے موقع پر آپ کا بیٹھ جانا

سے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے فرمایا۔  
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکیع (بیہقی مارکر) نماز پڑھتے دیکھا  
 ۱۴ام نساٰیؓ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ابو داؤد کے سوا کسی نے اسے روایت  
 کیا ہے اور ابو داؤد تقریر اوی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ روایت غلط ہے  
 اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

---

# قنوت کا مسئلہ

نماز میں قنوت کے وقت، طریقہ اور دعا کا بیان

اممٰڑ کعین پڑھنے کے بعد و تر [بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ و تر کے بعد کبھی بیٹھ کر دور کعنت پڑھتے اور کبھی دور ان نمازوں میں تلاوت ر قرآن (بیٹھ کر کرتے اور جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور جب رکوع کرتے صحیح مسلم میں حضرت ابو سلمہؓ سے روایت ہے، انہوں نے بتا یا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو رام الموسنینؓ نے فرمایا آپ تیرہ رکعین پڑھا کرتے تھے۔ اول آٹھ رکعین سے پڑھتے پھر و تر پڑھتے۔ پھر بیٹھ کر دور کعین ادا کرتے۔ چنانچہ جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع کر لیتے پھر آپ اذان اور افاق مت کے درمیان نماز صحیح کی دور کعنت (سنن) پڑھتے۔]

مسند میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم و تروں کے دو خفیف سی رکعین بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذیؓ نے بھی حضرت عائشہ اور ابو امامہ و بنیہ سے اور انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم یہی روایت کی ہے۔

مسند میں حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دور کعنت و تر پڑھا کرتے تھے جن میں آپ اذانِ نزلت اور قل یا ایہا الکافرون پڑھا کرتے

**تعارض روایت اور حل اشکال** ادارہ تطبیقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے اور اکثر لوگوں کو اس میں اشکال سا ہو گا ہے اور انہوں نے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول "رات کی آخری نمازوں زریناً" کا معارض سمجھا ہے۔ ملک رحمۃ اللہ علیہ تے تو ان دور کعنیوں کا انکار کیا ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں۔ میں نہ بہر رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور زکر کسی کو پڑھنے سے منع کرتا ہوں اور تباہی ہے کہ امام مالک نے اس کا انکار کیا ہے اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ آپ نے یہ دور کعتیں اس بیس پڑھنے تاکہ وزر کے بعد نمازوں کے جواز کا علم ہو جائے اور اگر یہ پڑھی کئی بھی بیس نمازوں سے نفع نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی جیسا آپ کے اس فرمان پر جھوٹ ہے" رات کی آخری نمازوں زر کو بناؤ" (رجیفی) مستحب یہ ہے اور ان کے بعد دور کعتیں حمق مباح رجائز ہیں۔ اور اس سب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں رکعتیں سنتوں کی قائم مقام ہیں اور وزر کی تکمیل کرتی ہیں کبیوں تکہ وزر مستقبل عبادت ہے۔ خصوصاً جب کہ اسے واجب مانا جائے۔ پس وزر کے بعد دور کعتیں مغرب کی سنتوں کے قائم مقام ہیں کبیوں تکہ نمازوں مغرب دن کا وزر ہے اور یہ دور کعتیں اس کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح رات کے وزر کے بعد دور کعنیوں کا معاملہ ہے۔

**وتر میں قنوت پڑھنا چاہیے یا نہیں** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں وتر میں قنوت پڑھنا چاہیے یا نہیں کہ آپ نے وتر میں قنوت پڑھا ہو یا مرف ایک روایت ہے جو ابن ماجہؓ نے علی بن مہمون سے اور انہوں نے محمد بن نے نیز یہ سے اور انہوں نے سقیبان سے اور انہوں نے زہر یا می سے اور انہوں نے سید جعفرؑ عبید الرحمنؑ نے ابزری سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابی بن کعبؑ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزر پڑھنے تو رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے اور امام احمدؓ نے اپنے بیٹے عبد اللہ کی روایت کے مطابق رکوع کے بعد قنوت کو اختیار کیا ہے زین الزکر کو پھر قنوت کے معاملہ بھی بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہی کہ قنوت فحر سے متعلق بھی ہے۔ جب ایک رکوع سے سراخ ہماریت ہے، آپ نے رکوع کے

بعد وزر کے قنوت کو اختیار کیا ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت سے قبل یا بعد کچھ بھی منقول نہیں۔ اور جلال کہتے، میں کہ مجھے محمد بن زینجی کمال نے بتایا کہ انہوں نے ذریں قنوت کے بعد یا قبل اس سے متعلق ابو عبید اللہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ منقول نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضیک سال سے دوسرے سال تک قنوت پڑھا کرتے تھے۔

**وَتِرْمِلِينَ پُطُورِ حَنْنَةَ وَالْمَعَايِيْهَ كَلَامَاتٍ** [امام احمدؓ اور اہل سنت حضرت حسن بن علیؑ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کلمات سکھائے، جن کو بیان و تر میں پڑھا کرنا ہوں۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي فِي مِنْ هَذِهِ دُعَائِيْنِ فِي مِنْ عَافِيْتِ وَقُولَتِيْ فِي مِنْ تُولِيْتَ  
وَبَارِكَ فِي مِنْ أَعْطَيْتِ وَقُولَتِيْ شَرِّ مَا قُضِيَتْ إِنِّيْ تَقْضِيَ لَوْلَا يَقْضِي عَلَيْكَ إِنْ  
لَوْلَا يَذَلُّ مَنْ وَالْيَتَ تَبَارِكَ سَرِّيْنَا وَتَعَالِيْتَ“

اور امام بیہقیؓ اور نسائیؓ نے یہ الفاظ بھی زائد لکھے ہیں۔  
ولَا يَعْزِمُ مِنْ حَادِيْتَ۔

اور نسائیؓ نے ایک روایت پر مزید یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔  
وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ۔

اور حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب میں سر اٹھاںوں اور سجدہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے تو یہ دعا پڑھوں  
ابن حبانؓ نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ بہہ ہیں:-  
”وَ مَیْسَنَ نَفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَنَدِهِ دُعَاءً پُطُورِ حَنْنَةَ فَرَأَتِيْهُ مِنْ حَنْنَةَ عَلَى رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَيْ یَہ روایت حسن ہے اسے ہم حرف اسی (الیعنی) ابو جعفر ام سعدی کی سند سے جانتے ہیں اور اس کا نام ربیعہ بن شیبیان ہے اور  
قنوت کے متعلق ہم بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ بہتر دعا نہیں جانتے۔

اور وتر بیس دعائے قنوت حضرت گروہ نے مسعودؑ سے منقول ہے اور ان سے فخر کی نماز میں قنوت زیادہ محنت سے منقول ہے۔ اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت و تر کی روایت سے زیادہ فخر کی قنوت کی روایت زیادہ محنت کے ساتھ منقول ہے۔

**حضرت علیؑ کی روایت و تر کے باعث میں** [ابوداؤد و ترمذی اور نسائیؑ] نے حضرت علیؑ کی بے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تر کے آخر میں پڑھا کرتے تھے۔

بِرَضَاكَ أَبْنَ سُخْطَلَكَ وَمِعَانَاتِكَ مِنْ عَقْوَبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا يَحْطِي شَاءُ عَلَيْكَ إِنَّ كَمَا أَشْنِيْتَ عَلَيْكَ نَفْسَكَ۔

یعنی ”اے اللہ میں تیری خفگی سے تیری رضاکی اور تیری منزا سے تیرے عفو کی پناہ مانگتا ہوں اور میں تجوہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری شناہیں کر سکتا تو ابساہی ہے جیسی تو نے خود اپنی شنا فرمائی؟“

اس کے متعلق پربھی احتمال ہے کہ یہ اس سے قبل ہو یا بعد میں ہو اور نسائیؑ سے ایک روایت میں ثابت ہے کہ جبکہ آپ نماز سے فارغ ہوتے اور لستہ پر جاتے تو یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے اس روایت میں ہے۔ لا احصی شاء علیک و لوحہت۔

بنی صلی اللہ سے ثابت ہے کہ آپ نے یہ سجدہ میں کہا ہے، شاید آپ نے یہ نماز میں یا فارغ ہونے کے بعد پڑھا ہو۔ حاکمؓ نے مستدرک میں حضرت ابن نعیم بیاس رضی اللہ عنہما سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور وتر کے متعلق روایت کیا ہے پھر آپ نے وتر پڑھے۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو میں تے سن کر آپ پڑھ رہے ہے تھے:

اللَّهُوَ جَعَلَ فِي قَلْبِي نُورًا وَ فِي بَصَرِي نُورًا وَ فِي سَمْعِي نُورًا وَ عَنْ يَمْنِي نُورًا وَ عَنْ شَمَائِلِي نُورًا وَ فَوْقَ نُورًا وَ تَحْتَ نُورًا وَ أَمَامِي نُورًا وَ خَلْفِي نُورًا وَ جَعَلَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورًا۔

یعنی: اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میرے انکھوں میں نور ڈال دے اور میرے کالوں میں نور ڈال دے اور میرے دمیگ طرف نور کر دے

اور میرے بائیں جانب نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے؛ اور میرے پیچے نور کر دے اور میرے سامنے نور کر دے اور میرے پیچے نور کر دے اور میرے یہے اس دن نور کر دے جس دن تیری زبانہت ہو۔

کرباب اور سبھ فتنہ فتوت کے متعلق کہا ہے کہ میں اولاد عباس میں ایک دمکتے  
لائق اس نے مجھے بنایا، آپ یہ بھی فرماتے تھے۔

”لسمی و دمی و صبی و شعری و شتری۔“

یعنی ”میرے گوشت اور میرے خون اور میرے پٹھے اور میرے بالوں اور میری<sup>جلد رکھو منور کر دے)</sup>

اور دو عادات ذکر کیں۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے اور وہ سجدہ میں پڑھا کرتے تھے؛ اور اس حدیث میں مسلم کی ایک روایت میں ہے ”آپ نماز یعنی صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور آپ پڑھ رہے تھے؛ پھر پہ دعائے (ذکورہ) تقلیل کی اور ان کی ایک روایت میں ہے

وَلِنَسَانِ نُورٌ أَوْ أَجْعَلَ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظَمْتِي نُورًا۔

یعنی ”اور میری زبان نور سے بھردے اور مجھوں میں نور پیدا کر دے اور میرے پیسے نور زیادہ کر دے۔

ان کی ایک روایت میں ہے وجعلنى نوراً۔

یعنی ”اور مجھے نور بنادے“

اور ابو داؤد ونسائی نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تریس صحابہ میں ریث الداعلی اور قلیا ایمان کافرون اور قل هوالله پڑھا کرتے۔ جیب سلام پڑھتے تو قیمن بار بہ دعا پڑھتے سبحان الملک القدوس تیسری مرتبہ آپ اواز پھینک کر پڑھتے اور پندرہ کریتے۔ یہ نسائی کے الفاظ میں وار قصانی نے مزید کہا ہے؛ رب الملائکة والروح اخافت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قطع کریتے اور ہر آیت پڑھ جاتے۔ اس طرح آپ پڑھتے الحمد لله رب العالمین اور پڑھ جاتے پھر الرعن الرجم اور وقف کرتے پھر مالک یوم الدین ...“

# تلاوت قرآنِ کریم

## کتاب اللہ کی تلاوت و قراءت کے آداب

امام نہہری کی روایت اذ ہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ایک ایک آیت رکے وقفہ سے ہوتی تھی۔ اگرچہ ر آیت کا تعلق ما بعد سے کیوں نہ ہو پھر بھی آیات کے آخر میں وقف کرنا افضل ہے اور بعض قراء کا یہ خیال ہے آیات کے آخر میں وقوف کے موقع پر اضاف و مقاصد آیات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ کا الحافظ رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے ماماں بیہقی اور دوسرے (محمد ثین) نے شعب الایمان میں لکھا ہے:

و آیت کے آخر میں وقف کو ترجیح ہے۔ اگرچہ آیت کا ما بعد سے تعلق کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے سورۃ پڑھانے بہان نک کر وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو اور لکھا ہے، ایک ہی آیت کو مسیح نک بار بار پڑھتے رہتے اور لوگوں نے ترتیل اور کم پڑھنا یا جلدی اور زیادہ پڑھنے میں اختلاف کیا ہے کہ دونوں میں کوئی سورت افضل ہے۔ چنانچہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ کا خیال ہے کہ ترتیل و تدریک کے ساتھ کم پڑھنا چلدی اور کثرت تلاوت سے بہتر ہے اور اس مسلک کے حضرات نے استدلال کیا ہے کہ تلاوت کا مقصود توفیق و نذر و نفقہ ہے اور اسی پر عل کرنا، اس کی تلاوت کرنا اور راسے یا در کرنا مطالبہ کا ذریعہ ہے جیسا کہ سلف نے فرمایا ہے کہ قرآنِ عل کے لیے نازل کیا گیا اس یہے اس کی تلاوت کو عمل سمجھو۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے قرآن اس کے عالم بھی سمجھے اور جو اس میں راحکامات ہیں ان پر عامل بھی سمجھے۔ اگرچہ

زبان یاد نہ کیا ہو لیکن جس نے اُسے زبانی یاد کیا اور نہ اُسے سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا تو وہ اپل ر قرآن، میں سے نہیں۔ اگرچہ وہ کھٹا کھٹ رہا تھا (پڑھ سکتا ہو۔ انہی کا کہنا ہے کہ:-)

ایمان سب سے افضل عمل ہے اور فہم قرآن اور تدبیر قرآن ہی ایمان کا ثمر نورت ہے۔

**بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن کی مثال** اس زانوواس کام کو تو بیک و بدادر مونٹے

و منافق سب کر رہے ہیں جیسا کہ بنی صلی اللہ نے فرمایا کہ منافق کی مثال جو قرآن پڑھ رہا ہو ابھی ہے کہ جیسے رہنمائی رپھوں کے دل کو شہبواچی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔

اس باب میں لوگوں کے چار طبقات ہیں۔

۱۔ اپل قرآن و ایمان سے سب سے افضل طبقہ ہے۔

۲۔ جو قرآن و ایمان سے محروم ہے۔

۳۔ جسے قرآن تو ملا لیکن ایمان نہ ملا۔

۴۔ جسے ایمان ملا لیکن قرآن نہ ملا۔

ان کا کہنا ہے کہ جسے ایمان بغیر قرآن کے ملا وہ اس سے افضل ہے۔ جسے قرآن ملا

لیکن ایمان نہ ملا۔ ایسے ہی جسے تلاوت میں فہم و تدبیر نصیب ہوا وہ اس سے افضل ہے جو

بغیر تدبیر کے کثرت اور تبیری سے تلاوت نہ رہا ہے۔ ان کا فرعان ہے کہ:

یہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ ترتیل سے تلاوت فرماتے۔

یہاں تک کہ سورت طویل سے طویل ہو جاتی اور صحیح تک ایک ایک آیت پر کھڑے رہتے۔

**اصحاب شافعی کی روایت کے بارے میں** [علیہم السلام] اور اصحاب شافعی رحمۃ اللہ

کثرت تلاوت افضل ہے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے

استدلال کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ میں سے ایک صرف پڑھاتو اس کے بیسے ایک نیکی کا اجر دس گناہ ہے۔ میں یہ نہیں کہا

الحاء ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور نیم ایک حرف ہے لروایت ترمذی اور صحیح مسکنہ ہے کہ بلوں کہا جائے کہ تریل و تدبر سے تلاوت کرنا شہابیت افضل اور بہتر ہے اور کثرت تلاوت کا ثواب مقدار میں زیادہ ہے۔ چنانچہ پھر کی مثال بلوں ہے کہ جیسے کسی نے ایک بڑی چیز کا صدقہ کیا یا کسی نے غلام آزاد کیا کہ جس کی قیمت بہت زیادہ تھی اور دوسرے کی مثال الیسی ہے کہ جسے کسی نے بہت سے دراہم صدقہ کیے یا چند غلام آزاد کیے کہ جن کی رفرداً فرداآ قیمت کم تھی۔

صحیح بخاری میں حضرت قنادہ سے مردی ہے کہ میں نے حضرت انسؓ سے بنی صلنی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کمینخ کر پڑھا کرتے تھے۔

تلاوت جسے کان میں اور دل محفوظ کر لے شعییہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابوحنفہ نے بتایا کہ میں جلدی پڑھنے کا عادی ہوں اور اسی اوقات میں ایک رات میں ایک بار دو قراءتے ختم کرتا ہوں۔ این عیاشؓ نے فرمایا کہ مجھے بیر زہادہ پسند ہے کہ میں ایک سورۃ پڑھوں جائے اس کے کہ جو تم کرتے ہو، اس بیسے اگر تم ضرور بیر کرنا چاہتے ہو تو ایسی تلاوت کرو کہ ہمارے تمہارے کان سینٹھے اور دل محفوظ کرے۔

اب رہیمؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمؓ نے حضرت ابن معوذ کے سامنے تلاوت کی ان کی آواز بہت اچھی تھی تو رابن معوذؓ نے فرمایا، تجھ پر میرے ماں ہاپ فدا ہوں تریل سے پڑھو، کیونکہ بہ قرآن مجید کی زینت ہے اور حضرت ابن معوذؓ نے فرمایا قرآن کو شعر کی طرح نہ لگاؤ اور نہ فضول نظر کی طرح پڑھو۔ اور بجا مبڑ (قرائت) پر وقف کرو۔ اس سے قلوب کو حرکت دو اور تمہارا مقصد محض سودہ کے خاتمه پر پہنچنا شروع ہے جائے۔

## قرآن سنو تو گوش ہوش سے

عَيْدَ اللَّهُ فَرَمَّاَتِهِ بِئِنْ كَرِبَلَةَ مَسْتَوِيَّاً عَيْدَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَمَّاَهُ بِئِنْ  
كِيَامَ يَهَا الَّذِينَ أَصْنَعُوا لِيَعْنَى ، اَيْ اِيجَانَ وَالو.....

تم گوش ہوش سے سنو کیوں کریا تمہیں نیکی کا حکم ہو گا اور یا برائی سے منع کی جائے گا اور عبدالرحمن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کے پاس گیا، میں سوڑہ ہو دپڑھر ہا خداوہ کہنے لگی، اے عبدالرحمن تو اس طرح سورہ ہو دپڑھر ہا ہے؟ خدا کی قسم میں تو پچھہ ماہ سے لگی ہوں لیکن ابھی تک اس کی تلاوت سے غارغ نہیں ہوئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کبھی تو آہستہ سے تلاوت فرماتے اور کبھی جھر سے تلاوت فرماتے، کبھی طویل قیام فرماتے اور کبھی قیام میں تحفیف فرماتے زیادہ تر اپنے لات کے آخری حصہ میں دتر پڑھتے اور کبھی کبھی پہلے یا درمیانی حصہ میں دتر اپنے اور سفر میں آپ شب و روز سواری پر نفل پڑھتے۔ جدھر آپ کا رخ ہوتا اسی طرف پڑھتے۔ آپ اشارہ سے رکوع و سجود کرتے اور رکوع سے سجدہ زیادہ جھک کرتے۔

امام احمد اور ابو داؤدؓ نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ ہو جانے اور نماز کے لیے تکبیر کرتے۔ پھر انہی سواری کو آزاد چھوڑ دیتے اس کے بعد سواری کا جس طرف بھی رُخ ہوتا نماز پڑھتے رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمدؓ سے روایت کا اختلاف ہے۔ دونوں روایتوں کی بنا پر سوال یہ ہے کہ آیا جب وہ قادر ہو تو ایسا کرے یا نہ کرے؟

لے دونوں طریقے حائز ہے۔ حسب سہولت و ضرورت اُدی جس طریقہ پر چاہے عمل کرے۔

(رمیس احمد جعفری)

لئے۔ اے فقیہی اصطلاح میں تحری کہتے ہیں، سواری کا رخ کسی طرف بھی ہو بلکہ کے رخ کی نیت کرے پھر نماز بیٹھ جو گی۔ (رمیس احمد جعفری)

نماز سواری کی حالت میں | جب نماز کے اندر گھوم کر قبکر رخ ہونا ممکن ہو، شلوار محل رخ خردی ہے کیونکہ اس کے بیسے گھوم جانا ممکن ہے (خلاف) سواری کے بیچار پلٹے کے کراس کے لئے ایسا کرنا ممکن ہے اور ابو طالب نے ان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا۔ محل میں گھوم جانا بہت شکل نر ہوتا ہے اس لیے ہر رخ ہونماز پر طھے اور محل میں سجدہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ ان کے روکے حضرت عبد اللہ نے انہی سے روایت کیا ہے۔ کلاموں نے فرمایا کہ اگر محل ہو اور محل میں سجدہ کرنا ممکن ہو تو سجدہ کر لے۔ ہمون ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب محل میں نماز پڑھے تو میرے خجال میں ہمتریہ ہے کہ سجدہ کرے کیونکہ (محل میں کرنا) ممکن ہے اور فضل بن زیاد نے ان سے روایت لیا کہ اگر محل میں سجدہ ہو سکتا ہو تو کرے اور حضرت بن محمد نے ان سے نقل کیا کہ جب محل میں ہو تو بلند جگہ پر سجدہ کر لے اور بسا اوتھات اپتے اونٹ پر تکید لگایا بیکث اشارے سے ہی پڑھتے رہے اور سجدہ رکوع سے زیادہ جمل کر ادا کرتے رہے۔ اسے ابو داؤدؓ نے آپ سے نقل کیا ہے۔

# نماز چاشت

**نماز چاشت مسنون ہے یا مستحب یا مباح یا کچھ نہیں**

**آل حضرت کا عمل** | صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے کسی بھی نہیں دیکھا۔

لیکن میں پڑھتی ہوں اور مواقع محلی کی روایت میں منقول ہے کہ میں نے ابن سرثؓ سے دریافت کیا کہ آپ نماز چاشت پڑھتے ہیں؛ تو آپ نے فرمایا نہیں! میں نے کہا اور ابو بکرؓ؟ فرمایا: نہیں وہ بھی نہیں۔ میں نے سرف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا نہیں وہ بھی نہیں۔ ان کا کوئی جوابی رسم اوی ا نہیں۔

ابن ابی یمی سے منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی نے نہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا ہو۔ سو ائے ام مانؓ کے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے غسل فرمایا اور آخر کعیتیں پڑھیں۔ میں نے کوئی نماز اس سے پہنچی نہیں دیکھی۔ ماں آپ مرد کو ع اور سجود کمل کر رہے تھے۔

صحیح مسلم میں حضرت سیدالثرب بن شفیق سے منقول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں! ماں اگر آپ سفر سے تشریف لاتے تو پڑھتے، میں نے سرف

کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے درمیان اقتضان فرماتے تھے؟ فرمایا ہاں، مفصل میں اپس اکرتے۔

یحییٰ سلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بڑھا دیتے۔

**فتح مکہ کے دن آپ نے چاشت پڑھی** صحیبین میں حضرت امام ابی حییہؓ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آٹھوڑکع نماز پڑھی اور یہ نماز چاشت تھی اور حاکمؓ نے مستدرک میں بتایا کہ ہمیں اصمؓ نے اور ہمیں صغاٹیؓ نے اور انہیں این ابی مردمؓ نے اور انہیں بکر بن صفر نے اور انہیں عمر بن مرث نے بتایا اور انہوں نے بکر بن الشیخ سے اور انہیں منحاکؓ سے اور انہوں نے عبد اللہؓ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے بتایا:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر میں آٹھوڑکع نماز چاشت پڑھ دیکھا۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو فرمایا: میں نے ایک دھوکہ کی نماز پڑھی اور میرے نے اپنے پروردگار سے تین چیزوں کا سوال کیا اس نے مجھے دو عطا فرمائیں اور ایک دوک دی، میں نے عرض کیا کہ میری امرت کو خط سالی سے ہلاک نہ کیجیو، تو الرحمۃ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور میں نے سوال کیا کہ ان پر کوئی دشمن مسلط نہ ہو تو یہ بھی قبول فرمایا اور میں نے سوال کیا کہ ان میں تفرقہ پیدا نہ ہو تو یہ قبول نہ ہوا۔

**نماز چاشت میں آپ کیا پڑھتے تھے؟** میں کہ یہ روایت صحیح ہے

دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اور اس کی حالت (اعتماد) کیسی ہے؟ حاکمؓ نے اپنی کتاب فضل الفضیلی میں لکھا ہے۔ کہ ہمیں ہبوب کفیل تھے اور انہیں بشرب بن یحییٰ نے انہیں محمد بن صالح دوعلائی نے انہیں خالد بن عبد اللہ بن حصین نے بتایا اور انہیں پلال بن حبیب سے اور انہیں زافان سے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت پہنچی کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ الفتح پڑھی پھر پڑھا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْنِي وَارْحَمْنِي وَقِبْلَتِي أَنْكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ الرَّغْفُورُ۔

یعنی ”اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرم اور میری تو بر قبول فرم۔“ یہ شک

تو ہی تو بر قبول کرنے والا رحم کرنے والا بخشنے والا ہے؟“

یہاں تک کہ آپ نے ایک سو مرتبہ یہی دعا پڑھی۔

ہمیں ابو عباس اسم انہیں اسد بن حاصم نے انہیں حصین بن حفص نے بتایا انہیں سفیان سے انہیں عمر بن ذر سے اور انہیں حضرت جما ہرست سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت دور رکعت اور چھد اور آٹھ پڑھی۔ امام حمد فرماتے ہیں۔ کہ ہمیں ابو سعید مولیٰ بن اشلم نے انہیں عثمان بن عبد الملک عمری نے انہیں عائشہ بنت سعد نے بتایا انہیں حضرت ام درۃ نے بتایا کہ ہمیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا وہ فرماتی تھیں کہ ہم نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چار رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نیز حاکم فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو احمد بک بن محمد مروزی نے انہیں ابو فلکا بنسے انہیں ابو ولید نے انہیں ابو زادہ نے بتایا کہ انہیں حصین بن عبد الرحمن سے انہیں سکر و بن مرہ سے انہیں عمارۃ بن عہد سے انہیں ابن جبیر بن مطعم سے انہیں اپنے والد بزرگوار سے روایت پہنچی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا نیز حاکم فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل بن محمد نے انہیں محمد بن عدی بن کامل نے انہیں وہب بن الجیبہ واسطہ نے انہیں خالد بن عبد اللہ نے بتایا کہ انہیں محمد قیس سے انہیں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت پہنچی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ رکعت نماز پڑھی۔ پھر حاکم نے سمح بن بشب محاطی سے روایت کی ہے کہ انہیں علیسی بن موسیٰ نے بتایا کہ انہیں جابر سے ، انہیں عمر بن صبح سے انہیں مقاتل بن جان سے ، انہیں مسلم بن صبح سے انہیں مسروق سے انہیں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت پہنچی ان دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت ہیں بارہ

رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور طویل روایت ذکر کی ہے حاکم فرماتے ہیں کہ، ہبیں ابوالحمد بکر بن محمد صراف نے بتایا کہ انہیں ابو فلاہ بر قاشی نے انہیں ابو ولید نے انہیں شعبہ نے بتایا۔ انہیں ابو اسحاق سے انہیں حاصم بن حمزہ سے انہیں حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے تھے۔ یہی خیال ابو ولید کا ہے انہیں ابو عوانہ نے بتایا کہ انہیں حسین بن عبد الرحمن سے انہیں مروی تھے مرد سے انہیں عمارۃ علیہ سیدی سے انہیں ابن جعیں عنہ مطمئن سے انہیں اپنے والد سے روایت پہنچی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا۔ نماز چاشت کے بارے میں صحابہ کی شہادا حاکم فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں

خدری، ابو ذر غفاری، تیبد بن سعید ارقم، ابو ہریرہ، بر بدۃ اسلمی، ابو الدردہ، عبد اللہ بن ابی ادنی عتبان بن ماک، انس بن مالک، عقبہ بن عبد اللہ سلمی، نعیم بن ہمار، عطیفان اور امام ریاضی رضی اللہ عنہم، میں اور سورنوں میں سے حضرت عائشہؓ نبنت ابی بکر، ام تانی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم میں ان سب نے گواہی دی کہ بنی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی نماز پڑھ رکعت پڑھا کرتے تھے۔

ان روایات میں اسناد پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا رچنا پرہ فعل کی روایت کو ترک (صلوٰۃ) پر ترجیح دی گئی، کیونکہ اثبات کرتے والی روایات میں معلومات کثر سے میں جو تفصیل کرنے والے پر ترجیح میں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہ مسئلہ اکثریت کے پاس موجودہ رہے اور قلیل جماعت کے پاس پایا جائے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ، انسؓ، جابرؓ، ام تانیؓ اور علی بن ابی طالبؓ نے خبر دی ہے کہ آپؓ نے یہ نماز چاشت اپڑھی ہے اور مندرجہ ذیل احادیث اس کی تائید کرتی ہیں، جن میں اس کے وصیت اور اس نماز کے تحفظ نیز اس پر عامل کی مدرج و شفاء ملتی ہے۔

یہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ ہر ماہ پہنچنے والے

کے روزے رکھوں اور دور کوت نماز چاشت (پڑھوں) اور سونے سے قبل و تراویح میں صحیح مسلم میں اسی طرح حضرت ابوالداؤدؓ میں منقول ہے اور صحیح مسلم میں حضرت ابوذرؓ سے مرفوحاً منقول ہے۔ اخیرت نے فرمایا۔

تم بیس سے ہر آدمی پر صدقہ فی جب ہے۔ چنان پھر ہر تسبیح صدقہ ہے۔ ہر محمد صدقہ ہے، ہر تبلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہیں من المنکر صدقہ ہے۔ اور نماز چاشت کی دور کوت ان سب کے طرف سے کافی ہیں۔

نماز چاشت کی برکت و فضیلت احمد بن حضرت معاذ بن خلیل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحیح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جائے نماز پر شہر ہے، یہاں تک کہ نماز چاشت کی دور کعبینی پڑھے اور صرف اپنی ہاتھ سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ خش دے گا چاہے وہ سخندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

ترندی، سنن ابن ماجہؓ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چاشت کی حفاظت کی اس کے تمام گناہ خشے جائیں گے۔ چاہے وہ سخندر کی جھاگ کے برابر ہوں اور سنن اور سنن بن قیم بن حاد سے مروی ہے انہوں نے بتایا کہ عین نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سننا کہ اللہ عز وجل نے فرمایا: اے اولادِ ادم دن کے آغاز میں چار رکعتوں سے عاجز نہ آنا۔ میں رون کے آخر تک بختی کافی ہوں گا اور ترندیؓ نے حضرت ابوالداؤد اور ابوروزہؓ سے اور جامع ترندیؓ اور سنن ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مرفوحاً روایت ہے کہ:-

”جس نے نماز چاشت کی بارہ رکعتیں او اکیس ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنادے گا۔“

**مسجد قبایل نماز چاشت** اور صحیح سلم میں حضرت زید بن ارقم سے مردی ہے کہ انہوں نے مسجد قباد میں ایک جماعت کو نماز چاشت ادا کرتے دیکھا تو فرمایا کہا اپنیں معلوم نہیں کہ اس گھر کی کے علاوہ دوسرے وقت میں نمازو زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازو اذان میں اس وقت ہے جب کہ حادث تبریز ہو جائے اور ترمذ الفصال کا مطلب ہے کہ دلت کی حادث سخت تر ہو جائے۔ یہاں تک کہ جسم میں دو پھر کی گئی محوس ہونے لگے اور صحیح روایت) میں ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبان بن ماک کے گھر میں دور کوت نماز چاشت پڑھی اور مستدرک حاکم میں خالد بن عبد اللہ واسطی سحاودر انہیں محمد بن سفر سے اور انہیں ابو سلمہ سے اور انہیں ابو ہریرہؓ سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔  
نماز چاشت کی حفاظت صرف اواب راللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہی کیا اگر میں؟

اور بتایا کہ مسلم بن ماجح کی طرح یہ سند بھی قابل استدلال ہے اور انہوں نے اپنے شبیو خ سے اور انہیں محمد بن عمر سے انہیں ابو سلمہ سے انہیں حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی اور انہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اتنا تناکیدی، حکم انہیں فرمایا جتنا ایک بنی کو قرآن مجید اچھے انداز سے نلاو کا حکم فرمایا اور بتایا کہ شاید کہنے والے نے کہا کہ یہ خالد بن سلمہ اور عبد العزیز تبریزؓ  
محمد در اوری سے اور انہیں محمد بن عمر سے مرسل روایت پہنچی۔ چنانچہ خالد بن عبد اللہ شقہ راوی ہے اور شقر کی زائد (صفت، قبولیت رکا سبب) ہوتی ہے۔ پھر حاکمؓ نے روایت کی، انہیں عبد ان بن یزید نے انہیں محمد بن مغیرہ سکری نے، انہیں نام  
بن حکم عرنی نے، انہیں سیمان بن داؤدیا می نے، انہیں تیجی بن ابی کثیر نے بتایا اور انہیں ابو سلمہ سے اور انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت پہنچی، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

جنت میں ایک دروازہ ہے، جسے باب الصلحی کہتے ہیں۔ چنانچہ جب قیامت قام ہوگی۔ تو نداویتے والا آواز دے گا کہاں میں وہ لوگ جو نمازِ چاشت پڑھا کرتے تھویر تھا را دروازہ ہے اللہ کی رحمت سے اس میں داخل ہو جاؤ۔

جامع ترمذی میں ہے کہ جیس ابوکریب محمد بن علارنے اور انہیں یونس بن بکر نے بتایا اور انہیں محمد بن اسحاق سے روایت پہنچی کہ مجھے موسیٰ بن خلال نے بتایا کہ اسے اپنے چھانعامر بن انس بن مالک سے انہیں انس بن مالک سے روایت پہنچی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے نمازِ چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا ایک گھر بنادے گا۔

**کیا آپ نمازِ چاشت مسلسل پڑھا کرتے تھے؟** امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سے جانتے ہیں اور امام احمد اس مسئلہ میں حضرت ام حنفیؓ کی روایت کو صحیح ترجیح کرتے تھے۔ میں کہنا ہوں کہ موسیٰ بن خلال دراصل موسیٰ بن عبد اللہ بن مشتبیہ بن انس بن مالک ہی ہے۔ نیزان کی جامع میں حضرت علیہ السلام سے روایت ہے۔ انہیں حضرت ابوسعید خدراخیؓ سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راس طرح مسلسل نمازِ چاشت پڑھا کرتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ اب ترک نہ کریں گے اور پھر اس طرح ترک کر دیتے کہ ہم سمجھتے کہ اب نہ پڑھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور امام احمدؓ نے اپنی مسئلہ میں بتایا ہے کہ جیس ابویکان نے انہیں اسماعیل بن عیاش نے خبر دی، انہیں تیجیؓ بن حارث زماری سے انہیں قاسم سے انہیں ابو امامہ سے انہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پہنچی کرو،

جو فرض نماز را دا کرنے کے لیے چلا اور اس کا وضو ہے تو اس کے لیے اجر ہے جیسے حرام باندھ کر حج کے لیے چینے والے کا اجر ہوتا ہے، یا مگرہ کرنے والے کا ہوتا ہے اس کا بچھ اور مگرہ مکمل ہو جائے این ای شیبیدہ نے کہا ہے کہ مجھے حاتم بن اسماعیل

نے بتایا اپنیں مجید بن سخر سے انہیں مقرری سے انہیں اعزاز سے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملی۔ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکر بھیجا۔ چنان پھر کافی مال غیرمت حاصل ہوا اور بہ لوگ جلدی بوٹ آئے تو ایک ادمی کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم نے کبھی اس سے جلدی بوٹے والا شکر بھی دیکھا اور ناس شکر سے زیادہ مال غیرمت لانے والا (شکر دیکھا) تو اپنے فرمایا:

کہا ہیں انہیں ایک اپنے ادمی کی بخوبی دوں؟ کہ جو سب سے جلدی بوٹ آئے اور سب سے زیادہ غیرمت لے کر آئے۔ ایک ادمی اپنے گھر میں وضو کرے اور ہنڑن دفنو کرے پھر مسجد کی طرف رُخ کرے وہاں بسم اللہ نماز ادا کرے پھر اس کے بعد خانہ چاشت ادا کرے تو یقیناً وہ جلد بوٹ آئے والا اور سب سے زیادہ غیرمت لانے والا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس باب میں کئی روایات ہیں۔

### نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھنا زیادہ صحیح ہے

حاکم فرماتے ہیں کہ بنی نے حفاظت حدیث کی ایک جماعت کے ساتھ مصائب کی تو بھی تعداد یعنی چار رکعت کو پسند کرتے دیکھا، کروہ اس مسئلہ میں اخبار متواترہ صحیح کی بناء پر چار ہی رکعتیں پڑھا کرتے۔ میرا بھی یہی مسلک ہے اور انہار میں اور مشائخ حدیث کی افتخار میں اسی کو دعوت دیتا ہوں۔

ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ نماز چاشت اور احتلاف مناجات کے متعلق روایات مرفوعہ ملتی ہیں اور ان میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو اس کے مانندے والے کا ذکار کرتی ہو اور بہ معاملہ لوں ہے کہ جو منقول ہے کہ آپ نے نماز چاشت میں چار رکعتیں پڑھیں سو سکتا ہے کہ (راوی) نے آپ کو اس طرح کرتے دیکھا ہو۔ دوسرے راوی نے آپ کو چھوڑ کر توں کی ترغیب دیتے دیکھا ہو ایک اور نے درکعتیں پڑھنے کی ایک اونٹے دسی کی اور ایک اور نے بارہ رکعتیں کی ترغیب دیتے سناؤ ہر ایک نے جو سُنا اور جو دیکھا وہی روایت کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے عبد اللہ بن عوفؓ ستر کو سُنا کروہ ابوذرؓ سے کہہ رہے تھے۔

وہ اسے پیچا جئے و صیت کیجیے ।

انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جیسا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو اپنے فرمایا جس نے نماز چاشت دور کعت پڑھی وہ غافلگوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جس تے چار رکعتیں پڑھیں وہ عاشر لوگوں میں سے لکھا جائے گا اور جس نے چھر کعتیں پڑھیں اور اس دن کوئی گناہ نہیں کیا اور جس نے آٹھ رکعتیں پڑھیں وہ قانتین میں سے لکھا جائے گا اور جس نے دس رکعتیں پڑھیں تو اللہ اس کے لیے جنت بیس ایک گھن بنائے گا۔

نماز چاشت میں تعداد رکعات کے روایا [علیہ وسلم نے ایک دن نماز چاشت میں

دور کعتیں پڑھیں پھر ایک پھر چار پھر ایک دن آٹھ پڑھیں پھر چھوڑ دیا تو اس روایت نے ہمارے قول کی صحت کو ظاہر کر دیا اک حسب سابق، ہر فخر کی خبر سے اختلاف یہ ہے کہ اس کی اطلاع اس کے اپنی ذاتی مشاہدے و معائنے پر مبنی ہوا فہد مسئلہ یوں ہو تو صحیح تر مسلک یہ ہے کہ پڑھنے والا جس تعداد میں چاہے پڑھے۔ سلف کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے۔ ہمیں ابن حمید نے انہیں حریف نے بتایا انہیں ابراہیم سے روایت پہنچی کہ ایک آدمی نے حضرت اسود سے دریافت کیا کہ میں نماز چاشت کتنی رکعتیں پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا جتنی چاہو۔

نماز چاشت ان پڑھنے کے روایۃ اور روایات [اول دوسرا گردہ ترک چاشت کی روایات

باعث اور ان پر مسلم صحابہؓ کے باعث ترجیح ذیل ہے۔ چنانچہ امام بخاریؓ نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ ندوہ خود پڑھا کرتے اور نابو بکر، معاویہ و عمرؓ پڑھا کرتے تھے، میں نے دریافت کیا کہ کہاںی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں ان کا کوئی بھائی (رساوی)، نہیں۔

ویکی بتاتے ہیں کہ ہمیں سجنان ثوریؓ نے بتایا انہیں عاصم بن کلیب سے انہیں

اپنے والد سے انہیں حضرت ابو ہرثیہ سے روایت ہے کہ ماہوں نے بتایا کہ بیس نے  
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی دن نماز چاشت پڑھتے دیکھا اور علی بن عینی  
بتاتے ہیں کہ ہمیں معاذ تے انہیں شعبدتے اپنے فیضیل بن فضال نے  
بتایا انہیں عبد الرحمن بن الجراح سے روایت ہے کہ حضرت ابو یکرثے نے کچھ لوگوں سے  
کو نماز چاشت پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ تم لوگ وہ نماز پڑھ رہے ہو جو نہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور نہ آپ کے عام صحابہ رضی اللہ عنہم نے پڑھی۔  
مولانا بیس حضرت مالکؓ سے اپنے شہاب سے وہ عروۃ سے وہ عائشہ رضی اللہ  
عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز چاشت نہیں پڑھی، حالانکہ بیس  
پڑھتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام چھوڑ دیتے تھے حالانکہ آپ  
عمل کرنا پسند کرتے تھے راس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا خطرہ کہ آپ اگر مسلسل عمل شروع  
کر دیں گے تو امت پر فتنہ ہو جائے گا۔

کیا نماز چاشت ابدعت ہے؟ <sup>وَوَابُوا الْحَسْنَ عَلَى بْنِ بِطَالٍ نَّعَمَ بْنِ طَالٍ نَّعَمَ</sup> نے بتایا، سلف  
کی ایک جماعت نے حضرت عائشہؓ کی روایت  
سے انذکرتے ہوئے نماز چاشت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک جماعت نے کہا کہ یہ بدعوت ہے  
شعبی نے قبیس بن عبید سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابن مسعودؓ  
کی طرف سنت بیس اختلاف ہا بیجا تنا تھا تو بیس نے انہیں نماز چاشت پڑھتے نہیں  
دیکھا اور شعبیؓ نے سعد بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت  
عبد الرحمنؓ بن عوف سے روایت کیا کہ وہ نماز چاشت نہیں پڑھتے تھے۔

جاہدؓ سے منقول ہے انہوں نے بتایا کہ بیس اور حضرت عروۃؓ بنے زیر مسجد بیس  
گئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عزؓ حضرت عائشہؓ کے جگہ کے پاس تشریف فرمایا، اور لوگوں  
کو دیکھا کہ وہ مسجد بیس نماز چاشت پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ان سے لوگوں اکی اس  
نماز کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا یہ بدعوت ہے۔ اور ایک بار فرمایا کہ یہ

بہ اچھی بدعت ہے۔

اام شعیؒ فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابن علیؑ کو کہتے ہوئے سننا:  
مسلمانوں نے نماز چاشت سے زیادہ افضل بدعت ایجاد نہیں کی  
اور حضرت انس بن مالک سے نماز چاشت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں  
نے فرمایا کہ نمازوں پر خیل ہیں۔

**کیا نماز چاشت مستحب ہے؟** تبیرگروہ گاہے گاہے اس کو منتخب سمجھتا ہے  
اس یہے کسی کسی دن پڑھنی چاہیے۔ امام الحمدؓ  
سے مروی دور و ایتوں میں سے یہ ایک ہے اور امام طبریؓ نے اسے ایک جماعت سے  
روایت کیا ہے اور جو طبریؓ نے حضرت عبد اللہ بن شفیعؓ سے روایت کیا ہے فرمایا کہ بیس  
نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا۔

کیا جناب رسالت ناہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پر معکورتے تھے؟ انہوں  
نے فرمایا! نہیں، نہ، اگر آپ سفر سے تشریف لاتے تو پڑھتے۔ پھر انہوں نے  
حضرت ابوسعیدؓ کی روایت ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھتے  
بہبائی نہ کر، ہم سمجھتے کہ اب ترک نہ کریں گے اور رکبیں، آپ چھوڑ دیتے بہبائی نہ کر کہ  
ہم سمجھتے کہ اب نہ پڑھیں گے اور بہ اگز رچکا ہے پھر بتایا کہ اسی طرح سلف میں  
جس نے اس پر عمل کیا اس نے ذکر کیا ہے۔

شعبہ نے جبیب بن شہبید سے انہوں نے حضرت علیؑ سے روایت کیا، انہوں  
نے بتایا کہ حضرت ابن عباسؓ اس کو بعنی نماز چاشت کو ایک دن پڑھتے اور دس دن  
ترک کر دیتے اور شعبہ نے حضرت عبد اللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت ابن علیؑ  
سے روایت کیا ہے کہ (ابن علیؑ) نماز چاشت نہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ جب وہ مسجد قیارہ  
میں تشریف لانے تو نماز پڑھتے اور آپ ہر ہفتہ کو تشریف لاتے اور حضرت سفیانؓ  
نے منصورؓ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بزرگان (بین) دیگر فرض نمازوں  
کی طرح اس کی پابندی نہ کرتے۔ کبھی پڑھتے اور کبھی نماز چاشت چھوڑ دیتے۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ بیس نماز چاشت چھوڑ دینا ہوں حالانکہ میں چاہتا ہوں رکہ پڑھوں، اس طریقے کے اسے اپنے آپ پر لازم نہ فرضی کرلوں۔

سرورِ فرماتے ہیں ہم سجد میں پڑھتے تھے چنانچہ ہم حضرت ابن مسعودؓ کے جانے کے بعد بھی مُھرے رہتے، پھر اٹھتے اور نماز چاشت پڑھتے۔ اگر حضرت ابن مسعودؓ کو اس کی اطلاع ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں پر وہ بو جھوکیوں ڈالتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دلائل اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو گھروں میں پڑھو۔ نماز چاشت مسجد کے جائے گھروں پڑھنی اپنے لئے کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے۔

یہی اہم سورت ہے کہ کسی کو اس کی پابندی دیجھو کرو جو بیانست بانہہ ہونے کا شک نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں والدینے بھی زندہ کر دیے جائیں تو بھی اس نماز کو ترک نہ کروں گی، کیونکہ وہ اسے اپنے گھر میں پڑھا کر تھیں جہاں لوگ انہیں نہ دیکھ سکتے۔

### فتح مکہ کے دن چاشت کی آٹھ رکعتیں

چوتھا گروہ اس طرف گیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا اس پر ایک سبب سے عمل نقا اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایک خاص سبب سے عمل نقا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے دن چاشت کے وقت کی آٹھ رکعتیں فتح مکہ کی خوشی کے باعث تھیں اور فتح کے موقع پرستی یہ ہے کہ آٹھ رکعتیں ادا کی جائیں اور احکام اہل اسلام اسے نماز فتح کا نام دیتے تھے۔ طرسی نے اپنی تاریخ میں شعبی سے نقل کیا ہے کہ جب خالد بن ولید نے جبرة فتح کیا تو نماز فتح آٹھ رکعت پڑھی، جن کے درمیان سلام نہ پھیلا پھر فارغ ہو۔

(حمد شیعین) کا کہنا ہے کہ حضرت ام بانی مسلمان قبول یہ ہے کہ بہ نماز چاشت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے الہام کیا تو پھر چاشت کا وقت تھا نہ کہ پھر صورت ہوئی کہ چاشت کی نماز کا نام دے دیا گیا۔

## عتیان کے ہاں آپ نے نماز کیوں پڑھی؟

(بعد ایشیان اور فرماتے ہیں کہ عتبان بن مالک کے ہاں)

آپ کی نماز ایک سبب سے تھی کیونکہ عتبان نے عرض کیا تھا کہ میری نظر کمزور ہو چکی ہے میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان سیلا بارڈے آ جاتا ہے تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لا دیں اور میرے وہاں نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو مسجد قرار دے سوں، آپ نے فرمایا کہ انشاء اللہ میں ایسا کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ان کے ہاں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ رکھتے۔ اس وقت دن کی حیarat تیز ہو چکی تھی۔ بنی مسلم اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دی، پھر آپ نہیں بیٹھتے بلکہ فرمایا اپنے گھر میں تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے اس چکر کی طرف اشارہ کیا، جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھ دیں پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچے صاف بنائی، آپ نے نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا (متفق علیہ)

اس نماز کی بہر اصل اور واقعہ ہے اور بخاریؓ کے الفاظ اس میں یہ ہیں کہ حضرت عتبان سے بعض راویوں نے اختصار سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز چاشت پڑھی اور وہ (صحابہؓ) آپ کی اقتناد اور میرے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔

## سفر سے واپسی پر نماز چاشت

(صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ سفر سے واپسی پر نماز چاشت)

حضرت عائشہؓ کا وہ قول کہ رسول مقبول صلی سفر سے واپسی پر نماز چاشت ہے تو یہ واضح تراہم ہے کہ آپ کی بہر نماز ایک خاص سبب سے تھی کیونکہ آپ جب سفر کا آغاز فرماتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں دور کعت نماز ادا فرماتے۔ بہر آپ کی سنت طیبہ ہے اور حضرت عائشہؓ نے اس کی خبر دیتے ہے اور بہر جو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز چاشت

نہیں پڑھی تو جس کا انہوں نے اثبات فرمایا ہے تو وہ سفر سے واپسی فتح اور کسی قوم سے ملاقات وغیرہ جیسا کہ کوئی سبب ہے۔ جس طرح مسجد قباد بیس نماز پڑھنے کے لیے وہاں تشریف لانا۔ اسی طرح جیسے یوسف بن یعقوب نے روایت کیا ہے انہیں محمد بن ابی بکر انہیں سلطنت بن رجاء کا کہ میں نے ابن ابی اوی کو اس دن دیکھا جس دن اسے ابو جہل کے سرکٹ جانے کی خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے نماز چاشت کی دور کعینیں پڑھیں۔ اگرچہ واقعہ درست ہے تو یہ نماز شکر ہو گی، جو الفاقا چاشت کے وقت وقوع پذیر ہوئی۔ جسے شکرانہ فتح اور جسے مسترد کیا ہے وہ وہی نماز ہے جسے لوگوں نے یقین کسی سبب کے قائم کر کھاتھا اور انہوں نے پہنہیں کیا کہ یہ مکروہ یا اخلاقی سنت ہے ہال اتنی بات ہے کہ یہ آپ کی سنت ہے، لیکن انہیں حالانکہ آپ نے اس کی وصیت فرمائی اور اس سے مندوب قرار دے کر اس کی ترغیب دی آپ اُس کے بدل میں قیام الیل کر لیتے تھے کیونکہ اس سے اس کا بدل ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ آنَّ تَنِّي كَرَأْ فَأَرَادَ شَكُورًا۔

یعنی اور وہی ذات ہے جس نے مات اور دن بنائے۔ پے دیپے اس کے لیے جو بصیرت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتاودہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے عوض بدل بن جلتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی کا کوئی عمل کسی وقت فوت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوسرے وقت ادا کرے۔

فتاودہ فرماتے ہیں کہ شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اعمال کرو کیونکہ ہر دن رات) پیٹھے جا رہے ہیں لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ہر دو نزدیکی ملحہ ہے ہر نئی پیٹھ بوسیدہ ہو رہی ہے اور قیامت نک کا ہر امر موعود آ رہا ہے۔

بعض صحابہ نماز چاشت پڑھتے تھے بعض نہیں | شفیق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ادمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہیں نے رات کی نماز قوت کر دی۔ اپنے فرمایا جو عمل تو نے رات کو قوت کر دیا لے دن میں پورا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

جعل اللئیل والنهار خلفةً لمن اراد ان تذکر او اراد شکورا۔  
 (محمد بنین) فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کا فعل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ ایک دن پڑھتے اور دس دن چھوڑتے۔ اور حضرت ابن عمرؓ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ اپنے سب سے بڑے مسجد قباد میں آتے تو پڑھتے اور اپنے ہر سینچر کو مسجد قباد میں تشریف لایا کرتے۔

اور سفیانؓ نے حضرت منصورؓ سے روایت کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ فرض نمازوں کے طرح اس کی پابندی بکروہ سمجھتے تھے، کبھی پڑھتے، کبھی چھوڑ دیتے۔

(محمد بنین) نے فرمایا ہے کہ اس باب میں صحیح حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ انصار میں سے ایک فریر ادمی نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں اپنے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت طعام کی اور اپنے کو اپنے گھر میں بلا یا اور چنانی کے ایک حصہ پر اپنے کی خاطر پانی چھڑ کا۔ چنانچہ اپنے اس پر دور کوئت نماز پڑھی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے سوا کبھی نماز چاشت پڑھتے نہیں دیکھا (رواہ البخاری)

جو بھی احادیث نبویہ اور آثار صحابہؓ میں تذہب سے کام لے تو اسے معلوم ہو گا کہ یہ سب اسی قول کی طرف رہنمائی گرتی ہیں۔ (اویس، اترغیب و تحریص کی روایات تو صحیح روایات حضرت ابو ہریرۃ اور ابو قندل کی ہیں لیکن) اُن سے بھی پرشاہت نہیں ہوتا کہ یہ سنت راتیہ ہے، ویسے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرۃ کو اس کی وصیت فرمائی۔ کیونکہ مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرۃؓ رات کی نماز کے عوض درسی حدیث کو پسند

کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ان کو قبایل میں کے عوض نماز چاشت کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ وزیر پڑھنے سے قبل نہ سوتا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر رض و عمر رض و عمار رض صاحبو کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔

### مرفوع، منقطع اور موضوع حدیثیں

اس سلسلہ میں عام احادیث کی اسناد علی نظر میں۔ بعض منقطع اور بعض موضوع میں جن سے استدلال جائز نہیں جیسے حضرت انس رض کی مرفوع روایت کہ جس نے نماز چاشت پر موافحت ادا کی اور کسی عذر کے بغیر اسے منقطع نہ کیا تو وہ اور میں نور کے سخندر میں نور کی ایک کشی میں ہوں گے اسے ذکر یا بن درید کندی نے مجید سے زدا بتا کر وضع کیا۔

رہی بعلی بن اشدوق کی روایت (بجودہ) عبد اللہ بن جراد سے وہ بنی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں کہ:

تم میں سے جو نماز چاشت پڑھتے تو اُسے چاہیے کہ جمادات گزاری کرتے ہوئے پڑھے کیونکہ ایک آدمی سنت کو ایک زمانہ میں ادا کرتا ہے پھر اسے فراموش کر دیتا اور چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کی طرف ایسے (کھنچنے) ہوتے ہیں جیسے اونٹی اپنے پچھے کی طرف کھنچنے جاتی ہے جب کہ وہ گم ہو جائے!

### احادیث مرفوعدہ کا ایک مجموعہ

حاکم رحمۃ اللہ علیہ پر تعجب ہے کہ ان جمیں روایات سے کس طرح استدلال کر دلتے ہیں کیونکہ وہ اس روایت کو اس کتاب میں تحریر کرتے ہیں، جس میں متفقہ طور پر نماز چاشت کو ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ سخن یعنی بعلی بن اشدوق کا نظر بنی ملی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موضوع روایات پر مشتمل ہے۔

ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ میں کہ بعلی بن اشدوق نے اپنے بچپا عبد اللہ بن جراد سے اور انہوں نے بنی ملی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ منکرا حادثہ شناسی کی ہیں۔ یہ اور انہوں کے بچپا دونوں غیر معروف (بجهول) راوی ہیں۔

مجھے ابو مسہر سے معلوم ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ بیان نے بیانی بن اشدق سے کہا۔

تیرے چنانے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی۔

وہ کہنے لگا کہ اس نے سفیان، موطاد مالک اور کھو (دیگر) فوائد سے استفادہ کیا۔

ابو حاتم بن حبان کہتے ہیں کہ بیانی کی عبد اللہ بن جراد سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ جب

وہ بڑا ہو گیا تو اس سے مصالحت کی چنانچہ انہوں نے حدیث سے علمی جلتی باقاعدہ اخراج

کیں اور بہا نہیں روایت کرنے لگا حالانکہ یہ رانے کے متعلق اپنے بھی نہ جانتا تھا اور

بہی سبب ہے کہ ہمارے اصحاب کے مشائخ نے فرمایا۔

تو نے عبد اللہ بن جراد سے کیا سُنا ہے۔

کہنے لگا یہ نسخہ، حالانکہ جامع سفیان سے کسی حال بیان نہیں بھی روایت چاہئے نہیں

اسی طرح عمر بن قبیح کی روایت جو انہیں مقابل میں جبان سے حضرت عائشہؓ کی پہنچی کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت میں بارہ دلکشیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ طور پر

حدیث ہے جسے حاکم<sup>ؒ</sup> نے نماز چاشت کے بیان میں ذکر کیا ہے حالانکہ یہ روایت موجود

ہے اور عمر بن قبیح متنہم بالکذب ہے۔

ایک راوی پر علماء علی اسماعیل الجمالی کی جرح بتایا کہ بیان نے عمر بن قبیح کو پہنچتے سنائے

میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیبہ و سلم کا خطیبہ و ضعف کیا ہے۔ ابن عذر<sup>ؒ</sup> نے اس کو منحر احادیث

بتایا ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ثقات کے نام پر روایات و ضعف کرتا تھا اور عرض تعجب

کی بناء پر اس کی طرف سے کتب احادیث جائز ہو سکتی ہیں۔ دارقطنی<sup>ؒ</sup> فرماتے ہیں کہ یہ متوفی

ہے۔ ازدی<sup>ؒ</sup> اسے کذاب بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد العزیز بن منعہ ابان کی روایت جو

امام ثور<sup>ؒ</sup> سے انہیں حاجج بن قرافۃ سے انہیں لکھوں سے، انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے

مرقوعاً پہنچی کہ جو نماز چاشت کی پابندی کرے۔ اس کے تمام گناہ مختصر جایگزین گے۔

چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں ہوں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔

بیز حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور عبد العزیز رکے ہیں۔ ابن نجیر کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے جو اور تیجی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ کذاب ہے خبیث حدیثیں وضع کرتا ہے۔ امام خاری  
نسائی اور دارقطنی اسے متروک الحدیث بتاتے ہیں۔

یہی صورت نہاس بن فہم کی روایت کی ہے جو اسے (برعجم خوبیش) شدادر سے انہیں حضرت ابو ہریرہ سے مرقوماً پہنچی کہ جس نے نماز چاشت کی پابندی کی، اس کے تمام گناہ نہشے جائیں گے چاہے وہ سند کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور نہاس کے متعلق تیجی فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ضعیف ہے۔ یہ حضرت عطاء سے اور حضرت ابو عباسؓ سے منکر روایات  
بیان کیا کرتا تھا۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ابن عذرؓ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ  
نہیں۔ ابن حبانؓ فرماتے ہیں کہ پہ مشاہیر را اگر سے منکرات روایت کرتا ہے اور شفاقت  
کی خالفت کرتا ہے۔ اس کی روایت سے استدلال جائز نہیں اور امام دارقطنیؓ فرماتے ہیں  
یہ ضعیف الحدیث ہے تیجی قطائے نے ترک کر دیا ہے۔

ایک راوی کی جرح و تعدیل میں اختلاف رہی جبید بن صحر کی روایت جو معتبری  
کر بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا را الحدیث) یہ گزر چکھا ہے تو یہ جو  
جبید پے لسائی اور تیجی بن معینؓ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسروں نے اسے  
ثقہ بتایا ہے اور اس کی بعض روایات کا انکار کیا ہے اور جب بہ منفرد ہو تو اس کے  
روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔

نماز چاشت پڑھنے والے کے لیے بشارة رہی محمد بن اسحاق کی روایت جو انہیں  
سے انہیں انس سے انہیں اپنے بچا نثارہ سے انہیں انس سے مرقوماً  
پہنچی، جس نے نماز چاشت پڑھی اللہ انس کے لیے جنت ہیں سونے کا ایک گھنٹا کے  
لگا ہے یہ غریب روایات ہیں سے ہے۔ امام ترمذؓؓ فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ ہم  
اے سے صرف اس سند سے جانتے ہیں۔ رہی فیضیم بن ہمار کی روایت کہ

اے ابن آدم دن کے آغاز بہیں چار رکھتوں سے عاجز نہ رہ میں تجھے اس کے آخری حصہ تک کافی رہوں گا۔ اسی طرح ابوالدرداء اور ابوذرؑ کی روایت کا معاملہ ہے۔ چنانچہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ کو کہتے سناؤ ان چار رکھتوں سے یہ رے نزدیک فخر کی نماز اور اس کی سبقتیں مراد پیش کیے۔

---

لہ بہر حال یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ نماز چاشت اگرچہ فرض یا واجب نہیں بلکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے گوناگوں برکعین اور فعین رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیا کے ہاتھ نواہ وہ کسی سلسلہ سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔ دوسرے اہم اور غیر منقطع معمولات میں نماز چاشت بھی داخل ہے۔ گویا روحانی سرجنندی کے حصول میں اس سے بغیر معمولی مدد ملتی ہے۔  
(دریں احمد جعفری)

# سجدہ شکر

مصلیت کے ٹلنے یا خوش خبری پر سرپر بجود ہونا

**آل حضرت کی سُنت طبیبہ** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سُنت طبیبہ تھی۔ جیسا کہ مسندهں حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی طرح کی مسیرت انگیز اطلاع طبی تو سجدہ شکر میں گردھڑتے اور ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی خوش خبری دی گئی تو آپؐ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ امام بہقیؓ نے بخاری کی شرط سند کے اصول پر ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ ہمدان کے قبول اسلام کی اطلاع بھی تو آپؐ نے سجدہ شکر کیا، پھر سراٹھایا، اور فرمایا:

السلام علی ہمدان - السلام علی ہمدان -

مسند میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پروردگار کی طرف سے بشارت ملی کہ جس نے آپؐ پر درود بھیجا میں اس پر حکم کروں گا۔ اور جس نے آپؐ پر سلام بھیجا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ تو آپؐ نے سجدہ شکر ادا کیا سennابن ابوداؤد میں حضرت سعد بن ابی و قاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور انہی سے دیر تک دھاکرتے رہے۔ پھر میں ہار سجدہ کیا پھر فرمایا۔ میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا اور اپنی امت کی شفاقت کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی امت کا تیسرا حصہ دیا پھر میں نے سجدہ شکر کیا۔ پھر میں نے سراٹھایا اور اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لئے درخواست کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا ثلث بھی عطا فرمایا۔ میں

نے سجدہ شکر کیا۔ پھر میں نے سراٹھایا اور اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لئے التجاکی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تیراثت عطا فرمایا۔ میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ شکر میں گر گیا۔ **چند تاریخی اور اہم مثالیں** اور کعبہ بن مالک کو جب خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کری ہے تو انہوں نے سجدہ شکر کیا اور امام احمدؓ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے خوارج کے مقتولوں میں دوا اللہ یہ کو دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا اور سعید بن منصور نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب مسیلمہ کذاب کے قتل کی اطلاع ملی تو سجدہ شکر کیا۔

**قرآن مجید کے سجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ** نبی صلی اللہ علیہ وسلم (تلاوت قرآن کے دوران) جبکہ کسی سجدہ سے گزرتے تو تکبیر کرتے اور سجدہ کرتے اور بسا اوقات سجدہ میں یہ دعا پڑھتے۔

سجد و جہاں لہنی خلقہ و صور کا وشق سمعہ و بصر لا بحولہ وقوتہ۔  
یعنی: میرے پھر منے اس ذات کو سجدہ کیا، جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کی تصویر بنائی ہے اور اسے سماعت و بصدت اپنی قوت و قدرت سے عطا فرمائی؛  
کبھی کبھی آپ یہ دعا پڑھتے:

اللهم احاطط عنی بها و شررها و اكتب لي بها اجرًا و جعلها على عذرك ذخرا  
و تقبيلها مني كما تقبلتها امن عبادك داود۔

یعنی: اے اللہ اس سجدہ کی برکت سے میرا بوجھو ٹھنادے اور اسے میرے بیسے ابر بنا دے اور اسے اپنے پاس میرا ذخیرہ کرے اور میرا سجدہ اسی طرح قبول فرمائے جس طرح تو نے اپنے بندے داؤ و علیہ السلام کا قبول کیا تھا؟

اہل سنت نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے اور یہ نقل نہیں کیا کہ آپ اس سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کرتے تھے اس یہے خرقی اور متفقہ میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام شافعیؓ سے منصوص ہے کہ اس میں کوئی تشدید اور سلام بھی نہیں۔

صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مندرجہ ذیل سورتوں میں سجدہ کیا۔ اسرار تنزیل، ص، الفجر، اذ الاستماء انشقت، اقرأً بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خلقَ اور ابو داؤدؓ نے حضرت عمرو بن العاص سے روایت لکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے پندرہ مقامات بتائے ہیں ان میں سے تین سورہ مفصل ہیں۔ دو سجدہ سے سورۃ الحج میں ہیں۔ حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ سجدہ سے کئے اور مفصل میں کوئی سجدہ نہیں۔ الاسراء، المرعد، النحل، نبی اسرائیل، مریم، الحج، سجدہ الغرقان، النمل، السجدہ، حومیم (میں ہیں) اور حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت صحیحہ ثابت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرأً بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خلق اور اذ الاستماء انشقت میں سجدہ کیا۔

---

# جمعہ اور خاص جمعہ

جمعہ ہر قوم کا افضل دن تھا مگر اس نے بعد میں چھوڑ دیا

مسلمانوں کا امتیاز خاص [صیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتابت کر آپ نے فرمایا قیامت کے دن اگلوں، پچھلوں اور سبقت کرنے والوں میں ہمارا ہی شمار ہو گا، بس فرق جو ہے وہ اتنا کہ انھیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ پھر یہ (جمعہ کا دن) جوان پرالث نے فرق کیا پھر انھوں نے اس میں اختلاف کیا۔ چنانچہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہوگ اس میں ہمارے متبع ہیں (باتی) یہودی کل (ہفتہ) اور عیسائی پرسوں (اتوار) (پر بھٹک گئے)۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے پہلے تھے اللہ نے انھیں جمعہ سے بھٹکا دیا۔ اب یہودیوں کا ہفتہ اور عیسائیوں کا اتوارہ گیا۔ پھر اللہ ہمیں لایا، اور ہمیں جمعہ کی ہدایت دی، اسی طرح اس نے جمعہ ہفتہ اور اتوار بنادیا (پے در پے)، اسی طرح وہ قیامت کے دن ہمارے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم دنیا کے لحاظ سے بعد میں ہیں لیکن قیامت کے دن آگے آگے ہوں گے۔

سب سے افضل دن جمعہ کا ہے [مسند و سنن میں اوس بن اوسؓ کی روایت نجسے اصلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن اللہ نے آدم علیہ اسلام کو پیدا کیا اسی دن ان کی روح تقبیح کی]

اسی دن سورج پونک کا جائے گا، اسی دن رقیامت کی کڑک ہو گی۔ پس اس دن محمد پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

بعض حاضرین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول جب آپ مٹی میں مل جائیں گے تو ہلا خدود کیسے پیش کیا جائے گا؟

آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کروہ اپنیار کے اجسام کھائے۔

اس حدیث کو حاکم وابن جبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا،

سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کئے گئے۔ اسی دن وہاں سے انصیف نکالا گیا۔ اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہو گی۔

امام مالکؓ نے موطا میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعار روایت کیا ہے، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن دنیا میں زمین پر آثار گیا۔ اسی دن (ان کی) توہر قبول کی گئی، اسی دن وہ قوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہو گی، جن اور انسان کے سوا کوئی جاندار ایسا نہیں جو جسم کے دن قیامت کے ذر سے خالق و ترسان نہ ہو، اور اس میں ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو (اللہ) اسے ضرور بھی عطا فرمایا ہے۔

کعبؓ نے دریافت کیا، کہ کیا یہ بہرہ ہوتا ہے؟ تو میں نے جواب فریا، نہیں! بلکہ ہر جمعر کو۔

پھر انہوں نے تورات پڑھی، اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دُست فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہؓ بتاتے ہیں، پھر میں حضرت عبد اللہ بن سلام سے ملا، تو میں نے ان

علہ بہت بڑے ہی ہرودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس اعتبار سے انھیں "کعب اجڑا" کہتے ہیں (ڈیسٹ جنفری)

کے سامنے کعبہ کے واقعہ کا تذکرہ کیا، انھوں نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ وہ کونسی گھڑی ہے؟

میں نے عرض کیا، پھر مجھے بھی بتا دیجئے۔

انھوں نے فرمایا، یہ جمعر کے دن کی آخری ساعت ہے۔

میں نے عرض کیا، وہ کس طرح؟ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ساعت میں کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو (اللہ) اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، اور یہ آخری گھڑی جو آپ نے بتائی ہے ایسی ہے جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔

حضرت ابن سلام نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی جگہ بیٹھے اور نماز کا انتظار کر رہا ہو تو نماز پڑھنے تک گویا وہ نماز ہی میں مشغول رہا؟ مسندا امام شافعی رضی اللہ عنہ میں حضرت انس بن مالک سے منقول ہے کہ حضرت جبریلؐ ایک سفید آئینہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں ایک نقطہ تھا، آپ نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا، یہ جمعر کا دن ہے۔ آپ اور آپ کی امت کو اس سے شرفِ فضیلت عطا کیا گیا ہے، اور یہ دونوں نصاریٰ اس میں آپ کے تابع ہیں، اور اس میں آپ کے لئے خیر ہے، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ ایک مومن بندہ جب بھی اس میں کوئی اچھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور وہ ہمارے لئے یوم المزید ہے۔

**”یوم المزید“ سے کیا مراد ہے؟** [نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یوم المزید کیا ہے] انھوں نے جواب دیا، آپ کے پروردگار فے فردوس میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کے توڑے ہیں۔ جب جمعر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے ملاںکر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اس کے ارد گرد فور کے منبر ہوتے ہیں جن پر انہیا علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں اور یہ بنزرسونے کے بنے ہوئے، یا قوت و زبر جد سے کردھے ہوئے منزوں سے گھرے ہوئے ہیں، ان پر شہزاد اور صدیقین ہوتے ہیں۔ پس

یہ لوگ ان کے پیچے ان میلوں پر بلیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کئے گئے وعدوں کو پورا کر دیا اس لئے مجھ سے (مزید) مانگو، میں دوں گا، تو وہ عرض کرتے ہیں، اسے ہمارے پروردگار ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تم سے راضی ہو گیا اور جو تمہاری خواہش ہو، وہی ملے گا، اور میرے پاس تمہارے لئے یہ مزید (انعام) ہے تو وہ یوم جمعہ سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ اس دن ان کا پروردگار خیر عطا فرماتا ہے۔ احادیث دہی دن ہے کہ جس دن میرا پروردگار عرش پر بیٹھا، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔

**اس حدیث کی سند** اس حدیث کو امام شافعیؓ نے ابراہیم بن محمد سے روایت کیا ہے اخنوں نے مولیٰ بن عبید سے اخنوں نے ابوالاذہر معاویہ بن اسحق بن طلحہ سے، اخنوں نے عبداللہ بن عبید سے، اخنوں نے عیبر بن انس سے کہ انہیں ابراہیم نے خبر دی، کہ مجھے ابو عمران ابراہیم بن جعد نے انہیں انس نے بتایا۔

**اس سند پر حرج** امام شافعیؓ ان کے شیخ ابراہیم کے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔ [یہکن امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ معتزلی جہی قدری ہے۔ اور اس میں ہر عیوب پایا جاتا ہے، اور سند امام احمد میں حضرت علی بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جمعر کا کیوں یہ نام رکھا گیا؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ اسی دن تمہارے باپ آدم کا خیر تیار کیا گیا اسی میں صدقہ (گرج) اور بعثۃ (دوبارہ جی اٹھتا) ہے اور اسی میں بطشۃ (پکڑ) ہے اور اس کے آخر میں تین ساعتیں ہیں۔ ان میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

حضرت حسن بن سفیان نسوانی نے اپنی سند میں لکھا ہے کہ مجھے ابو مردان ہشام بن خالدار ذوق نے انھیں حسن بن یکی خشنی نے انھیں عمر بن عبداللہ مولیٰ عفرة نے انھیں انس بن مالک نے بتایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سننا، کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں سفید آئیتے کی طرح دکوئی چیز تھی، جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا میں نے پوچھا، کہ اسے جبریل، یہ کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا، یہ جمعرہ ہے، اور مجھے یہ دے کر آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید کا دن ہے۔

میں نے پوچھا، اسے جبریل، اس میں ہمارے لئے کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا، اس میں آپ کے لئے کثرت سے خیر و برکت ہے۔ آپ آخری (امت) میں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں۔ اس میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان حالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرود عطا فرماتا ہے۔

میں نے کہا اسے جبریل، یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا کہ یہ وہ گھڑی ہے جو جمعرہ کے دن ہوتی ہے اور یہ تمام ایام کا رواہ ہے اور ہم اپنے ہاں (فرشتوں کے ہاں) اسے یوم المزید (زیادہ انعامات کا دن) کہا کرتے ہیں میں نے کہا اسے جبریل، یہ یوم المزید کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا، یہ اس طرح ہے کہ آپ کے پروردگار نے جنت میں ایک ولایا بنائی جس میں سفید مشک کی خوشبو پھیلا دی، چنانچہ جب آخری دنوں میں جمعرہ کا دن آتا ہے تو پروردگار کریم اپنے عرش سے اٹکر کر کسی پر آ جاتا ہے اور نور کے منبر کر کسی کو گھیرے میں لے لیتے ہیں ان پر انبیاء و تشریف فرماتے ہیں اور مبرووں کو سونے کی کرسیاں گھیرے میں لے لیتی ہیں، ان پر صدیقین اور شہدا اور بیٹھو جاتے ہیں اور بالاخانوں کے کمین وہاں سے اٹکر مشک کے ٹیکوں پر بیٹھو جاتے اور مجلس میں اہالیان منبر و کرسی کی افضیلت نہیں دیکھتے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے اپنے آپ کو منکشف فرماتا ہے اور کہتا ہے محمد سے سوال کرو۔

وہ سب کہتے ہیں، اسے پروردگار ہم تیری رضا مانگتے ہیں، تو وہ اپنی رضا کی گواہی دیتا چکھ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگ لو، پھر وہ مانگتے ہیں۔

یہاں تک کہ ان میں ہر بندے کی آخری تمنا بھی پوری ہو جاتی ہے، اور بتایا، پھر ان پر ایسے انعامات کرتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھئے اور نہ کان نے سنے اور نہ کسی آنکھ کے دل میں

گزرے۔ پھر جبار سجناء اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے عرش کی طرف تشریفے لے جاتا ہے اور بالاخانے کے لئے اپنے بالاخانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سفید متبویں ہا سرخ یاقوت یا سبز مرد کے بالاخانے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی دراثت یا بوسیدگی نہیں ہوتی، روشنیں جن میں نہیں بہہ رہیں ہیں۔

فرمایا کہ درخت ہوتے ہیں، جن میں پلٹک رہے ہوتے ہیں ان میں ان کی بیانیں ان کے خادم اور مکانات ہوتے ہیں۔

اور تلایا، کہ اہل جنت جمعر کے رقد جنت میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں جیسے اہل دنیا ہارش کے متعلق دنیا میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں۔

حضرت جبریل بارگاہ تبوّت میں | ابن الجیل العریان نے اپنی کتاب صفتۃ الجنۃ میں لکھا ہے کہ مجھے ازہر بن مروان رقاشی نے اخیں عبد اللہ بن عراوہ شیبانی نے انہیں قاسم بن طیب نے بتایا انہیں اعیش بن ابی داؤل سے اخیں حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک نہایت خوبصورت اور روشن شیشہ تھا۔ اور اس کے درمیان ایک سیاہ چمکدار نشان تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ چمک دار داعج جو میں کیجھ سما ہوں یہ کیا ہے؟

انھوں نے جواب دیا یہ جمعر ہے۔

میں نے پوچھا جمعہ کیا ہوتا ہے؟

انھوں نے جواب دیا کہ خدا نے بزرگ و برتر کے ایام میں سے ایک دن ہے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے دیا میں اس کے شرف و فضیلت کے متعلق عرض کرتا ہوں اور اس کے متعلق جواہل جمعر اس کی امید رکھتے ہیں، نیز آخرت میں اس کے نام کے بارہ میں بتاتا ہوں۔ دنیا میں اس کا شرف و فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی مخلوق کا معاملہ کیا ہے، اور رہا یہ کہ جو اس دن اہل دنیا امید رکھتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان مرد یا عورت اللہ تعالیٰ سے بھلائی گئی دخواست کرے تو

اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔

اور آخرت میں اس کا فضل و شرف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کو جنت کی طرف اور اہل جہنم کو دوزخ کی طرف بھیجا، ان پر دن گذرنے لگے، اور یہ راتیں نہ وہ ان راتوں جیسی راتیں تھیں نہ ان دنوں جیسے دن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی مقدار اور اس کی ساعتیں بتائیں۔

اس طرح جب جمعر کا دن ہوا، جب جمعر پڑھنے والے نماز جمعر کے لیے جاتے ہیں تو اہل جنت کو ایک مناد (اواز دینے والا) آواز دیتا ہے۔

اسے اہل جنت وادی مزید کی طرف چلو۔

اور وادی مزید کے طول و عرض کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس میں اتنے اونچے مشک کے نیکے ہیں جن کے سر اسماں میں ہیں۔

انھوں نے بتایا پھر غلام انہیا نور کے منبوذ پر نکلتے ہیں اور غلام مونین یا قوت کی کرسی پر نکلتے ہیں، چنانچہ جب ان کے لیے یہ رکھ دی جاتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی بگھوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مشرقة نام کی ہوا چلاتا ہے جو اس مشک کو سب پر پھیلا دیتی ہے اور ان کے کپڑوں کی تہہ میں داخل کر دیتی ہے اور ان کے چہروں اور بالوں میں سے نکال دیتی ہے، معلوم ہونا چاہیے اگر دنیا کی کوئی عورت وہ مشک لگائے تو ساری زمین خوشبو سے بھر جائے۔

انھوں نے بتایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حاملین عرش سے کہتا ہے، اسے اپنی رپشت پر رکھ لو، تو ہمی آواز یہ سنی جاتی ہے کہ:

اسے وہ لوگوں جنھوں نے غائبانہ میری اطاعت کی اور مجھے دیکھا نہیں، اور میرے رسولوں کی تصدیق کی اور میرے احکام کی اتباع کی مجھ سے مانگ لو یہی یوم مزید ہے۔ پھر وہ سب ایک کلمہ پر متفق ہو جاتے ہیں، کہ "هم تجھ سے راضی ہوئے (اسے پروردگار) تو ہم سے راضی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرماتا ہے کہ اسے اہل جنت اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں اپنے گھر میں نہ مٹھرا تا، اس لئے مجھ سے مانگ لو، کیونکہ یہ یوم المزید ہے۔

پھر وہ سب ایک ہی جواب پر جمعت ہو جاتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم تیرے چہرو  
اور کا دسوال کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کی زیارت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان جمابوں کو اتار دیتا  
ہے، اور ان کے سامنے منکشف ہو جاتا ہے تو وہ فنا سی جھڈک دیکھتے ہی غش کھا جاتے  
ہیں۔ جب ان کو غش آتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ نجلیں تو  
ضرور جل جاتے۔ پھر اہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب اپنے منازل میں واپس چلے جاؤ پھر وہ  
لوگ اپنے منازل میں واپس آ جاتے ہیں، اس واقعہ کے باعث ان پر ضعف طاری ہو  
 جاتا ہے اور جب وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس پہنچتے ہیں تو اس نور کی وجہ سے وہ اپنی  
بیویوں سے اور ان کی بیویاں ان سے اوسمیل ہو جاتی ہیں، پھر جب دوبارہ ان کو بھارتی دی  
جاتی ہے، تو اپنی اپنی شکلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بیویاں کوہتی ہیں کہ تم ہمارے یہاں سے  
اور شکل میں گئے تھے اور اب نئی شکل میں آئے ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے  
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر تحملی فرمائی ہے اور ہم نے اس کا جلوہ دیکھا ہے۔

اور تایا "چنانچہ وہ ہر ہفتہ میں جنت کی نعمتوں اور مشک (خوشبو) سے مستفید ہوتے  
ہیں۔ چنان رسالت مأب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس  
فرمان کا کہ۔"

فلا تعلم نفس ما أخفى لغير من ترقى عليه جزاً غيرها كانوا يعلمون،  
یعنی پس کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک (نعتیں)، چھپا کر کی  
ہیں، اس وجہ سے کہ وہ عمل (صالح) کرتے تھے۔

قبل از هجرت مدینہ کا پہلا جمعہ کس نے قائم کیا؟ | ابن اسحاقؓ نے بتایا کہ مجھے  
انہیں اپنے والد سے انہیں عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے روایت ہے پھر کہ انہوں نے  
کہا، جب میرے والد کی بھیانی جاتی رہی تو (نماز جمعہ) کے لئے میں اپنے والد کی رہنمائی کرتا تھا  
جب میں ان کے ہمراہ جمعہ کے لئے نکلا، اور وہ جمعہ کی اذان سنتے، تو ابو امامہ، سعد بن زبلہ  
کے لئے سجنش کی دعا کرتے ہے پھر جب میں یہ سنتا رہا تو میں نے (دل میں) کہا۔ یہ بڑی نکی

اسی بات ہے کہ میں پچھہ دریافت نہ کروں۔

پھر میں حسبِ عادت ان کے ہمراہ (حمدہ کے لئے) نکلا، توجہ باغھوں نے جمود کی اذان سنی تو حسبِ معمول اس کے لئے استغفار کیا۔ میں نے عرض کیا آپ جب بھی جمود کی اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زدارہ کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں آخر اس کا سبب؟ اخھوں نے فرمایا، اسے میرے بیٹے، اسعد پہلاً آدمی تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ کے (علاقہ) میں حربہ بن بیاختہ کے ویرانے میں جمعہ پڑھا گیا۔ جو ایک بقیع (قبرستان) میں واقع تھا اور جسے بقیع ختمات کہتے تھے۔

میں نے پوچھا۔ آپ لوگ ان دونوں کتنے تھے؟

اخھوں نے فرمایا، کل چالیس آدمی پھر جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نبی عمر بن عوف کے ہاں قباد میں پڑھر سے، جیسا ابن اسحاق نے بتایا ہے کہ پھر منگل بدرہ اور جمعرات کو ان کی مسجد کی بنیاد رکھی، پھر وہاں سے جمود کے روزہ چل پڑے، اور نبی سالم بن عوف کے علاقہ میں نماز جمود کا وقت آیا تو آپ نے وادی کے اندر واقع مسجد میں نماز ادا فرمائی اور مدینہ میں پڑھا جانے والا یہ پہلا جمود تھا، اور یہ جمود آپ کی مسجد (نبوی) اکی تامیں سے قبل پڑھا گیا۔

ابن الحنفی فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا، جو مجھے ابو سلم بن عبد الرحمن کے واسطہ سے ہنچا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بات روایت کریں، جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و شناکی جس کا وہ اہل ہے پھر فرمایا،

آما بعد اسے لوگو، اپنے لیے (نسکی) آگے بھیجو، یاد رکھو خدا کی قسم جب تم پر اچانک موت آئے گی، پھر وہ اپنی بکریوں کو بلاعے گا تو ان کا کوئی چرد وہاں نہ ہو گا۔ پھر اس سے اس کا پروردگار فرمائے گا۔ جس کا نہ کوئی ترہمان ہے اور نہ اس کے سامنے کوئی حاجب ہے۔ کیا تیرے پاس میرا رسول نہ آیا تھا؟ جس نے تجھے تبلیغ کی؟ اور کیا میں نے مال نہ کیا تھا اور تجھے پر اپنا فضل نہ کیا تھا؟ تو پھر تو نے اپنے لئے آگے کیا بھیجا؟ پھر وہ یقیناً دل میں باعثِ نیک ہے

گاہ تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا۔ چھروہ اپنے سامنے دیکھے گا، تو دو ذرخ کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، تو جو بھی آگ سے اپنا چہرہ بچا سکے اگرچہ ایک بھجور دے کر بچا سکے تو اسے چاہئیے ایسا کر لے، جسے یہ بھی میسر نہ ہو، تو اچھی بات ہی ہی کیونکہ وہ نیکی کی قائم مقام ہو گی۔ (جس کا اجر) دس سے سات سو گواہ تک ہو گا، وَ اسْتَلِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

ابن اسحاقؓ فرماتے ہیں پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، تو فرمایا،  
 أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْأَمْدَدُ وَالْمُسْتَعْيِنُ بِهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ وَرُؤْسَنَا وَمِنْ  
 سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَرِدُ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَّهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ وَإِنَّهُمْ  
 أَنَّ لَهُ اللَّهُ إِلَهًا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابٌ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْلَحَ  
 مِنْ شَرِينَهُ أَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْأَوْسَاطِ مِنْ بَعْدِ الْكُفْرِ فَأَخْتَارَهُ عَلَى مَا سَوَّا مِنْ  
 أَحَادِيثِ النَّاسِ أَنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثَ سَرَّاً بِلْغَهٖ أَحْبُوهُ أَمَا أَحْبَبُ اللَّهَ أَحْبَبَ اللَّهَ  
 مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَلَا تَمْلُؤُ كُلُّ أَفْرَادِ اللَّهِ وَذَكْرَهُ وَلَا نَفْسٌ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَانْهُ تَدْسِمُ  
 خَيْرَتُهُ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالصَّالِحَاتِ مِنْ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أَوْقَى النَّاسُ الْمُحَلَّ وَالْمُزَمِّنُ  
 نَاصِبُهُ اللَّهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَمَا تَقُولُوا حَقُّ تَقَاتِهِ وَاصْدِقُوا اللَّهُ صَالِحًا  
 مَا تَقُولُونَ يَا فُوَاحِكُمْ وَتَحْمِلُوا بِرَوْحِ أَنَّ اللَّهَ بَيْنَكُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْصُبُ أَنْ يُنْكِثَ  
 عَهْدَهُ لَا وَالْأَسْلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

یعنی ”سب تعریفین اللہ کے لئے ہیں، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور اس سے مدد چاہتا ہوں اور اسی اپنی جانوں کے شر سے اور اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے۔ اسے کوئی ہدایت دیشے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سو کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔

اللہ نے جس کے دل کو اس سے زینت بخشی اور کفر کے بعد اسے اسلام میں داخل کیا تو وہ یقیناً کامیاب رہا، اور دوسروں کی باتوں کے مقابلہ میں اسے منتفع کر لیا کیونکہ یہ

بہترین کلام ہے اور سب سے زیادہ بلیغ ہے، جس سے اللہ مجبت رکھے تم بھی اس سے مجبت کرو، اپنے دل کی ساری محبت اللہ کے لئے (وقت) کردو، اور اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے نہ اکتا فر۔ اور تمہارے قلوب اس کے متعلق کھوٹے نہ ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین عمل اور صلح ترین کلام کا نام عطا کیا ہے۔ (اور اس میں) تمام حلال و حرام جوانسانوں کو بتائے گئے ( موجود ہیں) پس اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، اور اسی سے ڈر جتنا، ڈرانے کا حق ہے اور جربوئی تم اپنے منزہ سے نکلتے ہو، ان کے بہتر الفاظ سے اللہ کی تصدیق کرو۔ اور اللہ کی رحمت سے آپس میں مجبت کرو۔ بیٹے شک اللہ تعالیٰ اس پر نلااض ہوتا ہے کہ اس کا وعدہ توڑا جائے والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ <sup>۲۴</sup>

# یوم جمعہ

## اور اس کی تشریف، تخصیص اور تعظیم

**ایام عید پر جمعہ کی فضیلت** | آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن دن کے شرف، اس کی عظمت، اور اس کی خصوصیت کو، ایام عید پر امتیاز دیتے تھے۔

اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا جمعہ کا دن افضل ہے یا یوم عرفہ؟

اس سلسلہ میں دو قول، اور امام شافعی کے خیال میں دو سبب یہ ہیں،

۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (جمعہ کے دن) فجر کی نماز میں انہ تنزیل المسجدۃ اور هل اذی علی الافسان پڑھا کرتے تھے اور اکثر لوگ جو علوم سے آشنا نہیں ہوتے یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ایک زاید سجدہ کی وجہ سے مخصوص ہے چنانچہ اسے سجدہ جمعہ کا نام دیا گئے اور اگر کوئی اس نماز میں یہ سورتیں نہ پڑھے تو منتخب یہ ہے کہ وہ سورت پڑھے کہ جس میں سجدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کرام نے جمعہ کے دن نماز فجر میں ان سورتوں کی مداومت کو سجدہ قرار دیا ہے تاکہ جہلاء کا مد کورہ وہیم ختم ہو جائے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح کو یہ سورتیں اس لئے تلاوت فرمایا کرتے کہ یہ سورتیں ایسے معاملات پر مشتمل ہیں، جو اس دن ہوئے یا ہوں گے کیونکہ ان میں خلیق آدم، ذکر معلوم اور حشر و نشر کا ذکر ہے۔ اور یہ سب امور یوم جمعہ کو ہوں گے، تیز اس دن (صبح کو) ان کی تلاوت امت کے لئے گویا پیش آنے والے واقعات اور حالات کی یاد دہانی ہے، ورنہ وہ حقیقت سجدہ، مقصود نہ تھا بلکہ یہ تو تبعاً آگیا (کیونکہ) نمازی کی تلاوت میں یہ تو بغیر قصد کے اتفاقاً

آگیا، تو پر جمعہ کے خواص میں سے ایک خاص ہے۔

۲- دوسرा خاص ہے کہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت ستحب ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو حجود پر کثرت سے درود بھجو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں اور یوم جمعہ بھی تمام دنلوں کا سردار ہے۔ اس لئے درود شریف کا اس دن سے ایک خصوصی تعلق بھی ہے جو باقی ایام سے نہیں ہو سکتا (مزید بحث) اس میں ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ اس امتت نے دنیا و آخرت میں جس قدر بھی بحلاٹے حاصل کی سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی تمام خیر و برکات اس امت کو عطا فرمائیں۔ پہ بہت بڑا شرف ہے، جو اسے حاصل ہے اور یہ (شرف) جمعہ کے دن عطا ہوتا ہے، کیونکہ اسی دن جنت میں اس امت کو اس کے محلات و منازل کی طرف بھیجا جائے گا۔ اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ دن ان کے لئے یوم المزید ہو گا۔ یہ دنیا میں بھی ان کے لئے عید کا دن تھا۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ ان کی خروجیات و خواہشات پوری فرمائے گا۔ اور کسی سائل کو رد نہ کرے گا۔ اور یہ تمام (انعامات) اس امت کو دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے انہیں کے صدقہ میں حاصل ہوئے تو ان کا شکر و حمد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قلیل سی ادائیگی یہ ہے کہ اس شبیہ روز میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔

فرائض اسلام میں اہم ترین فرائض ۳- نماز جمعہ فرائض اسلام میں سب سے زیادہ اہم اور اجتماعاتِ اسلامیہ میں ایک پر عظمت اجتماع ہوتا ہے اور عرف کے اجتماع کے بعد اس کی سب سے اہمیت ہوتی ہے جو مخفیتی سے اسے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ہر لگادیتا ہے اور جمعہ کے دن لوگ جس قدر امام کے قریب اور نماز میں جلد حاضر ہونے والے ہیں وہ قیامت کے دن اتنے ہی اہل جنت کے قریب اور یوم المزید کے موقع زیارت (خدا نے تعالیٰ پر اولیت حاصل کر سکیں گے وجوب غسل کا حکم) ۴- اس دن وجب غسل کا حکم ہے۔ یہ امر احمد موكد ہے، نیز وجب و تر نماز میں بسم اللہ پڑھنے، عورت کے لباس پر وجب و نہ نماز

میں قہقہہ، نکیس رینگیاں لگوانا۔ اور قے کرنے پر وجوہ و ضموم سے زیادہ قوی ہے (نیز)، آخری تشدید میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وجوہ صلوٰۃ اور تقدیمی پر وجوہ قراءۃ سے زیادہ (متوکد) ہے۔

اور لوگوں کے متعلق اس کے وجوہ میں دو قول ہیں۔ ایک نقی دوسرا اثبات، تفصیل اس کی یہ ہے، کہ جس کے بدن پر بدبو ہو، اور اس کو نذل کرنے کی ضرورت ہو تو اس پر واجب ہے اور جو اس سے مستغفی ہو، اس پر مستحب ہے۔

**خوشبو لگانا** ۱۵۔ اس دن خوشبو لگانا چاہیے، اور یہ خوشبو بھی ہفتہ کے باقی ایام سے کہیں زیادہ مدد ہوئی چاہیے۔

**مسواک کرنا** ۱۶۔ اس دن مسوک کرنا اور باقی ایام کی نسبت اس میں مسوک کی ایک خاص عذرست ہے لہذا مسوک تزویر کرنی چاہیے۔

۷۔ نماز کے لئے تکمیر (تحمیر)

۸۔ امام کے تشریف لانے تک نماز، تلاوت قرآن اور ذکر میں مشغول رہے۔

**خطبہ کے موقع پر سکوت** ۹۔ خطبہ کے موقع پر خاموش رہنا، جب خطبہ ہونے لگے تو خاموش رہنا صلح قول کے مطابق واجب ہے، اگر اس نے اس کی پرواہ کی تو لغویت کا مرتكب ہو گا، اور جس نے لغویت کا مظاہرہ کیا، تو اس کا جمعہ لا لگاں گیا اور مسند میں مرفوغا آتا ہے، کہ جو اپنے ساتھی سے کہے کہ چپ ہو جاء تو اس کا (بھی) جمعہ خانع گیا۔

۱۰۔ اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ جو اُمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا۔ تو اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ایک نور پچاہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس سے روشنی ہو گی، اور دو جمیوں کے درمیان کے گناہ بخشنے جائیں گے۔ اسے سعید بن منصور نے ابوسعید خدریؓ کے قول سے ذکر کیا۔

**امن تہجیہ کا مسلک** ۱۱۔ گیارہ صوالی یہ ہے کہ امام شافعیؓ اور ان کے حامیوں کے نزدیک اس فہاد نعالیٰ کو وقایت ہمیز نماز کرو دیں۔ ہمارے شیخ ابوالعباس

ابن تیمیہ نے بھی اس مسلم کو اختیار کیا ہے حالانکہ ان کا اس سلسلہ میں لیٹ کی روایت پانچ صاد نہیں، کہ جو انہیں مجاہد سے اور انہیں ابو خلیل سے انہیں ابو قاتاہ سے اور انہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا، کہ جمعر کے سوانح نہار و بہر کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور فرمایا کہ جمعر کے علاوہ راس وقت اجتنم دہکایا جاتا ہے، بلکہ ان کے مسلم کا انعام اس روایت پر ہے کہ جو جمعر کی نماز میں حاضر ہو، مستحب ہے کہ وہ امام کے باہر آنے تک نماز پڑھ لے، اور صحیح حدیث میں منقول ہے جو اُدمی بھی بروز جمعر غسل کرے اور امکان بھر لے کر گئے حاصل کرے اور کوئی تیل لگائے یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے، پھر وہ (جمعر پڑھنے کیلئے) نکلے، اور دو آدمیوں میں تفریق نہ کرے، پھر وہ نماز پڑھے جتنا کہ اس کے مقدار میں لکھی ہے، اور جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے (اس پر) اس کے تمام گناہ جو اس جمعر سے دوسرے جمعر تک کے ہوں گے سب بخش دیئے جائیں گے (بخاری) اس لئے جو بھی اس کے مقدار میں ہو مستحب ہے کہ وہ نماز پڑھے اور امام کے نمودار ہونے تک کے علاوہ کوئی پیغیر نماز کے لئے امر مانع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی حضرات سلف نے فرمایا۔ جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں اور امام احمد بن حنبل نے بھی ان کا ہی اتباع کیا ہے کہ خروجِ امام نماز کا مانع ہے اور خطبہ امام مانع کلام ہے۔ تو انہوں نے خروجِ امام کو مانع نماز قرار دیا کہ وہ پہر ہونا (مانع نماز ہے) نیز ”لوگ اس وقت چھپتوں“ کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور زوال کے وقت سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اور جو اُدمی نماز میں مشغول ہو گا، اسے زوالِ شمس کا علم نہ ہو سکے گا، اور اس کے لئے یہ بھی ناممکن ہے کہ لوگوں کی گرد میں پھاندتا ہوا باہر آئے اور سورج کو دیکھ کر پھر لوت جائے۔ اور یہ حرکت بھی اس کے لئے ممنوع نہیں۔ نیز بعض دیگر شواہد بھی ملتے ہیں، جنہیں امام شافعی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

مثلاً انہوں نے فرمایا، الحسن بن عبد اللہ سے روایت ہے۔ انہیں سعید بن ابی سعید سے انہیں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت پہنچی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعر کے علاوہ دوسرے زوالِ شمس (کے وقت نماز سے منع فرمایا، جب تک کہ سورج نہ ڈھلن جائے۔ اسی طرح انہوں نے کتاب اختلاف الحدیث میں، روایت کیا ہے اور کتاب الجمعد میں لکھا ہے کہ ہمیں ابریز

بن محمد سے انہیں اسحق سے اور انہیں ابو خالد احمد سے اہل مدینہ کے ایک شخص سے روایت میں جسے عبداللہ بن سعید مقبری کہتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

**محمد کی ایک اور خصوصیت** [اورہ امام بیہقیؒ نے "المعرفۃ" میں عطا بن عجلان سے انہوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا، ان دونوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعر کے علاوہ نصف النہار (دو پھر) کو نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے لیکن اس کی استاد قابل استدلال نہیں ہیں۔ امام بیہقیؒ فرماتے ہیں لیکن جب ان روایات کو ابو قتادہؓ کی روایت کے ساتھ جمع کیا جائے، تو ایک گونہ قوت ہو جاتی ہے۔]

امام شافعیؒ فرماتے ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جمعر میں جلدی کرتے ہیں اور خود جامنگ نماز پڑھتے ہیں۔

امام بیہقیؒ نے فرمایا کہ امام شافعیؒ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ حدیث صحیح میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعر کی طرف جلدی جانے اور بغیر کسی استثناء کے خروج امام نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور یہ روایت ان روایات کے مطابق ہے جن میں جمعر کے علاوہ دو پھر کے وقت نماز کی اجازت ملتی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم نے حضرت عطاء حسنؓ اور کھوول کے خیال میں رخصت کا ذکر کر دیا ہے "میں کہتا ہوں" مگر دوپھر کو نماز پڑھنے کی کراہت کے معاملہ میں لوگوں میں اختلاف ہے، اور اس میں تین اقوال ملتے ہیں۔

- ۱۔ ایک تو یہ کہ یہ وقت کسی طرح بھی کراہت کا وقت نہیں۔ امام مالکؓ کا یہی مذہب ہے۔
- ۲۔ دوسرا یہ کہ جمعر وغیرہ جمعر ہر روز یہ کراہت کا وقت ہے۔ امام ابوحنیفہؓ اور ایک مشہور روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے۔

- ۳۔ تیسرا یہ کہ جمعر کے علاوہ یہ کراہت کا وقت ہے، اب (جمعر کے روز) یہ وقت کراہت نہ ہو گا۔ امام شافعیؒ کا یہ مذہب ہے۔

۱۲۔ بارھواں یہ کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ، منافقین یا سبح باسم اور غاشیہ پڑھی جائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں یہی سورتیں پڑھا کرتے تھے (سلم) نیز یہ بھی مردی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں هل اتاق حدیث الخاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ سب آپ سے ثابت ہے۔ اور یہ مستحب نہیں کہ ہر سورہ میں سے کچھ حصہ یا ایک سورہ دو کو کتوں میں پڑھی جائے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور صرف جاہل امام اس پر مدارست کرتے ہیں۔

۱۳۔ تیرھواں یہ کہ ہر ہفتہ بار بار آنے والی عید ہے اور ابو حیان اللہ بن ہاجہ جمعہ عید مکرم ہے । نے اپنی سنن میں حضرت ابو جہاہ بن عبد المنذر کی روایت سے نقل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جمعہ کا دن تمام آیام کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں سب سے بری عذالت والا ہے اور یومِ خلیل

اور یومِ خطر سے بھی زیادہ ذی شان ہے۔ اس میں پانچ خاص باتیں ہیں،

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو سیدا فرمایا۔

۲۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر آتا رکیا۔

۳۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو وفات دی گئی۔

۴۔ اور اسی دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو (اللہ تعالیٰ)

اسے وہی چیز عطا فرمائے گا، بشرطیکہ وہ حرام ہیز کا سائل نہ ہو۔ اور

۵۔ اسی دن قیامت قائم ہو گی، کوئی مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوا میں، پہاڑ اور درخت ایسے نہیں جو کہ اس روز جمعہ سے خوفزدہ نہ ہوں۔

**جمعہ کو اچھا بآس پہننا چاہیے** ۱۴۔ مستحب یہ ہے کہ اس دن سب سے بہتر

میں حضرت ابو یورش سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراتے سننا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو، اسے لگایا اور بہترین بآس پہننا پھر وہ نکلا، اور مسجد میں پہنچنے تک اس پر ممتاز طاری رہی، پھرگر (وقت ہوا) تو اس نے رکوع کیا (نماز پڑھی) اور کسی کو ایذا نہ دی، اور جب امام نکلا تو خاموش ہو گیا یہاں تک کہ

اس نے نماز ادا کی تو یہ ان دونوں (جماعوں) کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو گا۔

اور سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ اخضون نے شیعی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبین پر جمعہ کے دن فرماتے سنا "تمہارا کیا بھگتا ہے اگر تم عام بس کے علاوہ جمعہ کے دن کے لئے ایک بس خریدائے؟"

اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ شیعی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن لوگوں کے بدن پر سوف کے موٹے پکڑے دیکھے، تو فرمایا، اگر تم پکھ و سخت رکھتے ہو تو کیا ہرچ ہے کہ عام کام کا حکم کے پکڑوں کے علاوہ جمعہ کے لیے ایک افراد بس تیار کرلو۔

**جمعہ کے دن سفر** | ۱۵- جمعہ کا وقت داخل ہو جانے کے بعد اس دن میں سفر کرنا جائز ہے میں جس پر جمعہ واجب ہو۔

مرا وقت سے قبل، تو اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں۔ جو احمدؓ سے منقول اور ضمیں ہیں، ایک تو عدم جواز کا ہے، دوسرا جواز کا اور تیسرا محض جہلو کے لئے جواز کا۔ امام شافعیؓ کے نزدیک جمعہ کے دن زوال کے بعد سفر کا آغاز کرنا حرام ہے۔ سفر اطاعت میں دو قول ہیں۔

ایک تحریم کا ہے، امام نزویؓ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

دوسرा جواز کا ہے، امام شافعیؓ نے اس کی (حمایت) کی ہے۔

مرا زوال سے قبل سفر کرنا! تو امام شافعیؓ کے اس کے متعلق دو قول ہیں۔ قدیم قول جائز ہونے کا ہے، اور جدید قول نوال کے بعد کے مطابق ہے (یعنی حرام ہے)۔

صاحب التفہیم فرماتے ہیں۔ امام مالکؓ کا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن نوال کے بعد جمعہ کی نماز ادا کرنے تک سفر نہ کرے۔ اور اگر نوال سے قبل سفر شروع کرے، تو کوئی مضائقہ نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر (جمعہ) کو اگر مقیم ہو تو ادایگی نماز جمعہ تک سفر نہ کرے۔

امام ابوحنیفہؓ مطلقاً سفر کو جائز قرار دیتے ہیں۔

وارقطنیؓ نے "افراد" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:

جو جمعہ کے روز جائے اقامت سننے سفر شروع کرے۔ فرشتے اس کے لئے بد دعا کرتے میں، کر (خدا کرے) سفر میں تیر کوئی دوست نہ ہو۔ یہ ابن ابی عیین کی روایت ہے۔

مسند امام احمد میں حکمِ حکیم کی روایت سے ثابت ہے جو انہیں مقسم سے انہیں ابن عباس شے پہنچی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحد کو ایک سریہ (چھوٹی سی فوج) میں بھیجا تو انہیں جمعہ کا معاملہ آن پڑا تو ساتھی صحیح کو چلے گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں پیچھے رہتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر ان سے جاملوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، تو دریافت فرمایا، تم کیوں رُک گئے۔ پھر کراپنے ساتھیوں کے ساتھ (جہاد کے سفر) پر صحیح نہ کی؟

انھوں نے عرض کیا کہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لوں، پھر ان سے جاملوں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ تمام کچھ خرچ کر دے (اللہ کے راستہ میں تو بھی ان کے اس سفر جہاد کے برابر ثواب حاصل نہ کر سکے گا۔

یہ روایت علیل ہے، اس لئے کہ حکم کا مقسم سے سایع ثابت نہیں، لیکن یہ وہ صورت ہے جب مسافر کو اپنے رفقاء کے نزل سکنے کا خطرہ نہ ہو لیکن جب اسے اس بات کا خطہ ہو کہ زفقارے (سفر) کو پانہ سکون گا تو اس کے لئے سفر کرنا قطعاً جائز ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عند ہے کہ جو جمعہ اور جماعت کو ساقط کر دیتا ہے،

اور شاید اسی پر یہ روایت بھی محمول ہے کہ اوزاعیٰ سے منقول ہے کہ ان سے اس مسافر کے متعلق پوچھا گیا جس نے نماز جمعہ کی اذان سنی، اور وہ سواری پر کجا وہ ڈال چکا تھا کہ اس سفر پر ضرور جانا چاہئے۔

اسی طرح حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ جمعہ اسے سفر سے نہیں روکتا اور ان کا مطلب مطلقاً جواز سفر کا ہو، تو مختلف فیہ معاملہ ہے۔

اس سلسلہ میں فیصلہ کن دلیل وہ ہے جو عبد الرزاقؓ نے نقل کی ہے، انھوں نے اپنی مسند

میں لکھا ہے، انھیں عمر سے انھیں خالد بن زاد سے انھیں ابن سعید رضی اللہ عنہ یا کسی دوسرے سے بتا  
ہ پہنچی کہ حضرت عمر بن خطاب نے جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد ایک آدمی پر بابس سفر و یکھاتو  
دریافت فرمایا، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے سفر کا ارادہ کیا تھا، پھر میں نے  
ناپسند بھا، کہ نماز پڑھنے سے قبل ہی چلا جاؤں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک جمعہ کا وقت نہ آجائے۔ جمعہ سفر سے نہیں روکتا، تو یہ قول  
زوال کے بعد منع کا ہے اور زوال سے قبل کوئی ممانعت نہیں۔

نیز شودی ہے انھیں ابن ذوبیب سے انھیں صالح بن وینار سے انھیں امام زہری گیری میں معلوم  
ہوا انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز سے قبل چاشت کے وقت  
سفر کے لئے تشریف لے گئے اور ابن مبارکؓ نے حسان بن ابی عطیہ سے نقل کیا ہے، فرمایا،  
سب انسان جمعہ کے دن سفر کرتا ہے تو یہ دن اس پر بد دعا کرتا ہے کہ خدا کرے اس کی نیکیت  
میں اسے مدد نہ طے، اور نہ اسے سفر میں کوئی دوست نہ طے۔

امام افلانیؒ نے حضرت ابن حسینؑ سے نقل کیا، انھوں نے فرمایا، جمعہ کے دن نماز کے  
بعد سفر ہونا چاہیے۔ ابن جریحؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عطیہ سے دریافت کیا، کہ کیا آپ کو خبر ملی  
کہا جاتا ہے، جب جمعہ کی رات کو کسی جمعہ پڑھے جانے والے قصبه میں ظہر نے کاموں علی ملے تو  
جمعہ کی نماز پڑھنے سے قبل وہاں نہ جائے، انھوں نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، تو میں نے  
عرض کیا، "تو جعرات کے دن (چلا جائے)؟ فرمایا، نہیں، یہ تو ایسا دن ہے جس میں  
کوئی معرفت نہیں۔"

اجر فرداں کی بشارت | ۱۴۔ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کو جانے والے کے لئے ہر قدم پر کی  
سال کے روزوں اور قیام (اللیل) کا اجر ہے۔ عبدالرزاق

بکھتے ہیں کہ انھیں عمر سے سمجھی بنا ابی کثیر سے انھیں ابو قلابہ سے انھیں ابو شعبت صنعتی  
سے انھیں اوس بن اوس سے روایت ہ پہنچی۔ انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
وسلم نے فرمایا:

جس نے جمعہ کے دن اکٹھوں وغیرہ، کو دھو یا اور غسل کیا، اور جلدی اٹھا اور اس طرف

جلدی چلا، اور امام کے قریب بیٹھا، اور خاموش رہا، تو وہ جس قدر قدم اٹھائے گا، ہر قدم پر اس کے لئے ایک سال کے روزوں اور قیامِ الیل کا اجر ہے۔ اور یہ (ثواب عظیم کی عطا) اللہ پر آسان ہے۔ اسے امام احمدؓ نے اپنی مسنود میں روایت کیا ہے۔

**جمعہ کفارہ سیئیات کا دن ہے**

۱۷۱۔ ستر صویں کریمہ دن گناہوں کے کوارے کا دن ہے۔ مسنود امام احمدؓ میں حضرت عطاء خراسانی سے منقول ہے، انھیں تبیشہ بندی سے معلوم ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ جب سلمان نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد میں حاضر ہوا، اس طرح کروہ کسی کو ایندازہ نہیں دیتا، اگر ابھی تک امام ہمیں آیا ہے اور اس نے حسب استطاعت فما زاد اکی اور اگر دیکھا کر امام آچکا ہے تو بیٹھ گیا اور (امام پاشا شیر) سناء اور خاموش رہا۔ یہاں تک کہ امام نے نمازِ جمعہ پڑھا دی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اس کے تمام گناہ اس جمعہ میں نہ بخشنے جائیں گے تو اتنا ضرور ہو گا کہ دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخشنے جائیں گے۔

اور صحیح بخاری میں حضرت سلمانؓ سے منقول ہے انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس نے غسل کیا، اور حسب استطاعت طہارت حاصل کی، اور کوئی ساتیل لگایا یا کوئی عطر لگایا، پھر وہ (نمازِ جمعہ کے لئے) نکلے اور دواؤ میوں میں تفرق نہ کرے، پھر حسب مقدار نماز پڑھئے، اور جب امام خطبہ پڑھے، تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے تمام گناہ بخشنے دیئے جائیں گے۔

اور مسنود امام احمدؓ میں حضرت ابوالدرداءؓ سے مردی ہے کہ انھوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، پھر بیاس پہننا اور اگر اس کے پاس خوبیوں تو وہ بھی لگائی، پھر متاثر کے ساتھ نمازِ جمعہ کے لئے چل پڑا، نہ کسی کو چھاند کر

علیہ علماء اصول حدیث کا یہ تقریباً متفقہ اصول ہے کہ جنی حدیثوں میں عمل تپل پر اجر کثیر کی بشارت اور معصیت قلیل پر عتاب عظیم کی خبر ہو، وہ ضعیفت ہیں، چنانچہ بخاری و مسلم میں اس طرح کی حدیثیں شاذ تاریخی میں گی۔ (رسیس احمد جفری)

گزرے، نہ اسے تکلیف دے اور جو اس کے مقدار میں ہو نماز پڑھے، پھر امام کے فارغ ہونے تک انتظار کرے تو اس کے دو جمیوں کے درمیان کے گناہ بخشنے جائیں گے۔

۱۸۔ اٹھارواں یہ کہ جمعہ کے علاوہ ہر روز جہنم دہکایا جاتا ہے (اور ابن ابی قتادہ کی روایت اس کے متعلق گزار چکی ہے) کیونکہ اللہ کے ہاں یہ سب سے افضل دن ہے اور اس دن میں طاعات و عبادات دعائیں اور اللہ سب جانے، و تعالیٰ کے سامنے حاجزی وزاری کی جاتی ہے سادہ یہ چیزیں جہنم کے دہکنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن اہل ایمان کے گناہ بھی دوسرے ایام کی نسبت بہت کم واقع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فساق و فجار بھی ہفت کے ہاتھی دنوں سے اس دن گناہوں سے زیادہ تر رکے رہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب دنیا میں دوزخ کا دکھنا ہے۔ اور جمعہ کے علاوہ ہر روز اس کو گرم کیا جاتا ہے، رہا، یوم قیامت، تو اس کا عذاب کم نہ ہوگا اور نہ اہل دوزخ سے کسی دن بھی اس کی تخفیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جہنم کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے درخواست کرنا کہ کسی دن ہماری سزا میں کمی کریں تو وہ ان کی (چیخ پکار) کا جواب نہیں دیتے۔

**قبولیت و عاکی ساعت** | ۱۹۔ انسوان، اس میں قبولیت دعا کی ایک ساعت ہے اسی وقتوں اور یہ وہی گھری ہے کہ جس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو وہ اسے حضور قبول کرتا ہے۔

چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مردی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک الیسی گھری آتی ہے کہ کوئی مسلم بھی جو نماز پڑھ رہا ہو، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا، اللہ تعالیٰ اُسے وہی چیز عنایت فرمائے گا، اور ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے۔

اور مسند میں حضرت ابو بابہ منذری کی بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک تمام ایام کا سردار اور سب سے زیادہ خلقت والا ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ یوم خطر اور یوم حجی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اس میں پانچ خاص باتیں ہیں۔

ایک تو یہ کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔  
 دوسرے اسی دن ہبھٹ آدم ہوا، یعنی وہ زمین پر آتا رے گئے۔  
 تیسرا اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی۔  
 چوتھے اس دن کے اندر ایک ایسی گھٹری آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس وقت اللہ سے  
 پکھڑ مانگتا ہے تو وہ اسے عطا فرماتا ہے بشرطیکہ وہ حرام نہ ہو۔  
 پانچویں، اسی دن قیامت آئے گی کوئی مقرب فرشتہ نہیں، ہوا، سمندر، پہاڑ، درخت  
 ایسا نہیں جو اس دن کے پیش آئے والے خواست سے خالص و ترسان نہ ہو۔

---

# جماعہ کی ساعتِ قبولیت

## قائم ہے یا اٹھائی گئی؟

اقوال متعددہ و مختلفہ اس ساعت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ آیا وہ باقی ہے؟ یا اٹھائی گئی؟

اس سلسلے میں دو قول ہیں، جنہیں ابن عید البر وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

جو اس کے باقی ہونے کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اٹھائی نہیں گئی۔ ان کا اختلاف اس میں ہے کہ جماعت کے دن یہ ایک معین وقت پر آتی ہے یا غیر معین وقت پر؟

اس سلسلے میں بھی دو قول ہیں۔

جو غیر معین ہونے کے قائل ہیں۔ ان کے بھی دو قول ہیں۔

مزید برآں جو غیر معین ہونے کے قائل ہیں، ان کے مابین اس باب میں اختلاف ہے کہ کیا یہ دن کی مختلف ساعتوں میں متعلق ہوتی رہتی ہے، یا نہیں؟ اور اس میں بھی دو قول ہیں۔ اول جو اس کے معین ہونے کے قائل ہیں، ان کا اختلاف بڑھ کر گیا رہ اقوال تک پنج چکا ہے۔

۱۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہؓ سے رطیت ملی کہ انہوں نے فرمایا کہ ساعت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اور نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک رہی ہے۔ دوسرے قول کے مطابق یہ رواں کے قریب ہوتی ہے جسے ابن منذر نے حضرت حسن بصریؓ اور ابو عالیؓ سے نقل کیا ہے۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب موذن جمعرتی اذان دے، ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ قول ہمیں حضرت عائشہؓ سے پہنچا ہے۔

۴۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جب امام خطیب دینے کے لئے منبر پر بیٹھتا ہے اس کے فارغ ہونے تک کے درمیانی عرصہ میں یہ ساعت آتی ہے، ابن منذر کہتے ہیں، ہمیں یہ طایت حضرت حسن بصریؓ سے پہنچی ہے۔

۵۔ پانچواں ابو بردہ کا قول ہے کہ یہ وہ ساعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کیلئے مختسب کر لیا

۶۔ چھٹا ابو سوار عدوی کا قول ہے، اخضوں نے بتایا کہ سلف کا خیال ہے زوالِ شمس سے لے کر نماز کے وقت تک دھا تقبیل ہوتی ہے۔

۷۔ ساتواں قول حضرت ابو ذرؓ کا ہے کہ یہ ساعت ایک بالشت طلوعِ شمس سے لے کر بعد ایک گز طلوع تک ہوتی ہے۔

۸۔ آٹھواں قول یہ ہے کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے قائل حضرت ابو ذرؓ عطاو۔ عبداللہ بن سلام اور طاؤشؓ ہیں۔ یہ تمام اقوال ابن منذرؓ نے نقل کئے ہیں۔

۹۔ نواں قول یہ ہے کہ یہ ساعت حضرت کے بعد آخری وقت میں ہوتی ہے۔ امام احمدؓ مجہور صحابہؓ اور تابعین کا یہی مذهب ہے۔

۱۰۔ دسوال قول ہے یہ ساعت خروجِ امام سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک کے درمیانی عرصہ میں ہوتی ہے۔ اسے امام نوویؓ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

۱۱۔ گیارہواں، صاحب "مفتی" نے لکھا ہے کہ یہ دن کی تیسرا ساعت میں آتی ہے۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اگر انسان جمعرت کا دن (تین)، بلا بہر حصتوں میں تقسیم کر لے تو یہ ساعت مل سکتی ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں، "صرف ایک دن کو طلب حاجت کے لئے خاص کر لینا بہت آسان" دو قابل ترجیح قول ان تمام اقوال میں زیادہ قابل ترجیح دو قول ہیں جو صحیح احادیث پر مشتمل ہیں۔ اور ان دونوں میں سے ایک زیادہ قابل ترجیح ہے۔

پہلا قول کہ یہ ساعت امام کے (منبر) پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کے درمیان

میں ہوتی ہے۔ اس قول کی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جو ابو ہرثیہ بن ابو نویث سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عورث نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے والد بزرگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جمعہ کے متعلق بھی سنی ہے انھوں نے فرمایا، ہاں، میں نے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے شناہ کر رہے (ساعت) امام کے (منبر) پر بیٹھنے سے لے کر غماز کے ختم ہونے تک کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اور ابن ماجہ و ترمذی نے بھی حضرت عمر بن عوف مرنی سے اور انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت پچھر بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اُسے وہی عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا گیا، اسے اللہ کے رسول، وہ کوئی ساعت ہے؟ آپ نے فرمایا۔ جب نماز قائم ہواں وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہو جانے تک۔

دوسراؤں ہے کہ یہ ساعت نماز عصر کے بعد ہوتی ہے یہ دونوں متاخر اقوال میں سے زیاد تر بھی قول ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام۔ ابو ہرثیہ۔ امام احمد اور ایک جماعت کا قول ہے اس قول کی جدت وہ روایت ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہرثیہ سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس وقت ~~پہلی~~ مسلمان بندہ حججی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتا ہے اور یہ ساعت عصر کے بعد ہوتی ہے۔ اور ابو داؤد۔نسائی فی حضرت جابر سے نقل کیا ہے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کے دن بارہ ساعتیں ہوتی ہیں ان میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو پچھر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اُسے وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس (ساعت) کو عصر کے بعد آخری گھری میں تلاش کرو۔ اور سعید بن منصور نے اپنی سenn میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھر صحابہ جمع ہوئے اور جمعہ کے دن میں واقع اس ساعت کے متعلق تباہ لر خیال کیا تو ان کا اختلاف ہو گیا، لیکن جو کوئی آخری ساعت میں ہوئے کے متعلق کوئی اختلاف نہ کیا، اور سenn ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن سلام سے مرفی ہے۔

انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتھے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی کتاب میںی تو رواۃ میں جعفر کے دن ایک ساعت پلتے ہیں کراس وقت کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے، اللہ اس کی حاجت پوری فرمادیتا ہے۔ حضرت عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ”پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یا ساعت کا کچھ حصہ، میں نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول آپ نے درست فرمایا، یا ساعت کا کچھ حصہ، پھر میں نے عرض کیا، وہ کوئی ساعت ہے؟ آپ نے فرمایا، کہ وہ دن کی گھنٹیوں میں سے آخری ساعت (گھنٹی) ہے۔ میں نے عرض کیا (یہیں) یہ تو نماز کی ساعت نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں اجنب ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور (آخرہ وقت) کی نماز ہی نے اسے بھا رکھا ہوتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے؟“

اور جس نے یہ کہا ہے کہ یہ ساعت اس وقت ہوتی ہے جب امام خطبہ شروع کرے اس وقت سے فراغت نماز تک، تو اس نے صحیح مسلم کی روایت سے استدلال کیا ہے جو ابو بردہ سے انھوں نے حضرت ابو موسیٰ اشتریؓ سے نقل کی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے والد سے جعفر کی ساعت کے متعلق کچھ سنایا؟ انھوں نے جواب دیا، ہاں میں نے ان سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ“ یہ (ساعت) امام کے (منبر) پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہو جائے کے درمیان میں ہوتی ہے؟“

اور عبد الرحمن بن معدق نے حضرت ابوذرؓ سے روایت کیا ہے کہ ان کی بیوی نے جعفر کے دن کی اسی ساعت کے متعلق پوچھا، جس میں ایک مومن بندہ کی دعا قبول کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ (ساعت) سورج کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد تک کی ہے اور اگر اب تو نے پوچھا تو تجھے طلاق یا ان لوگوں نے حضرت ابو بردہ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ ”وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو“ اور عصر کے بعد اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور ظاہر حدیث سے استدلال زیادہ اولیٰ ہوتا ہے۔

حضرت علی کی روایت سے استدلال [ابو بردہ فرماتے ہیں کہ اس خیال کے لوگوں نے

حضرت علیؑ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے جو بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقول ہے کہ آپ نے فرمایا جب سورج داخل جائے اور سائے لوٹ جائیں اور ارواح جانے لگیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کا سوال کرو، کیونکہ یہ اوابین کی ساعدت ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اُنہے کان الہ وَا بِدِیْوِ خَفْوَ۝۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے بتایا، جبکہ کے دن جس ساعدت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نماز عصر سے غروب شمس تک ہے اور حضرت سعید بن جبیر جب نماز عصر پڑھ لیتے تو غروب آفتاب تک کسی سے بات نہ کرتے۔ اکثر سلف کا یہی قول ہے۔ اسی کے حمایت میں اکثر احادیث میں اور اسی سے وہ قول ملتا ہے کہ یہ ساعدت نماز ہے۔ باقی اقوال کی کوئی دلیل نہیں میرے نزدیک یہ ہے کہ نماز میں بھی ایک ایسی ساعدت ہے کہ جس میں وحاقبول ہوتی ہے تو اس طرح قبولیت کی دو ساختیں ہوتی ہیں۔

اگر وہ تخصیص ساعدت نماز عصر کے بعد کی آخری ساعدت ہو تو وہ اس دن سے مقررہ ساعدت ہے جو مقدم و خود نہیں ہوتی۔ رہی ساعدت صلوٰۃ قویہ نماز کے تابع ہے، جو مقدم یا موخر ہو سکتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے اجتماع و نمازوں تفریع اور اللہ کے سامنے عاجز ہی کرنے میں قبولیت دعا کے لئے ایک عجیب اثر ہوتا ہے۔ قوان کے اجتماع کی ساعدت ایسی گھری ہے جس میں احیاۃت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور اس پر تمام احادیث متفق ہیں، اور ان دو ساعتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعاء اور زاری کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی مثال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، کہ ایک مرتبہ جب آپؐ سے اس مسجد کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جو تقویٰ کی بنا پر بنائی گئی تو آپؐ نے فرمایا "یہ ہے وہ تمہاری مسجد۔ اور مسجد مدینہ (مسجد نبوی) کی طرف اشارہ کیا یہ فرمان مسجد قباد کی نفی نہیں کرتا جس کے متعلق یہ آیت "تقویٰ کی بنا پر" نازل ہوتی، بلکہ یہ دونوں مساجد میں تقویٰ ہی پر فائز ہیں۔

اسی طرح جمعد کی ساعدت کے متعلق آپؐ کافران، کریم ساعدت امام کے منبر پر مشیختے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کے درمیان ہے۔" بھی دوسری روایت کی نفی نہیں کرتا، کہ " اسے نماز عصر کے بعد تلاش کرو۔ اور اسماء میں اس سے مشابہ امثلہ آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماتعدد و ندر قوبہ نکل

یعنی تم اپنے اندر کس کو رقب سمجھتے ہو؟ (صحابہؓ) نے عرض کیا، جس کا کوئی لذکار نہ ہو، آپ نے فرمایا، رقب وہ ہے کہ جسے اپنے بچے سے کچھ حاصل نہ ہو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رقب ہے جب اس کو اپنے راکے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا اور یہ اس بات کے منافی نہیں کہ ”جس کا بچہ نہ ہو اسے رقب کہا جائے“

اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ تم میں مغلس کون ہوتا ہے؟ (صحابہؓ) نے عرض کیا کہ جس کے پاس کچھ زر و مال یا سامان و اسہاب نہ ہو، آپ نے فرمایا، مغلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح بہت سی نیکیاں لے کر آئے اور ساتھ ساتھ یہ بوجہ بھی ہو کہ اس نے کسی کو چاشنا مارا ہو، کسی کو نہ دکوبہ کیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، چنانچہ اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے اور کچھ اس کی نیکیاں وہ لے جائے۔ (الخ (حدیث)

اسی طرح آپ کا فرمانا، کہ مسکین یہ نہیں جو بھروسہ ہے، اور اسے ایک لقہ یادو لئے ایک بھروسہ یا دو بھروسہ ملتی ہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ اور وہ اسے سمجھتے ہی نہیں کہ اس پر صدقہ کرنے۔

**ساعت اجابت** | یہ ساعت عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے، تمام اہل ادیان نے اس کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اور اہل کتاب کے خیال میں یہ ساعتِ انجات ہے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس میں اخیلیں تبدیلی یا تحریف کی مزورت نہ تھی اور ان کے اہل ایمان نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔

**ساعت جمعہ اور نیلۃ القدر** | باقی جنسوں نے اس کے متعلق ہوتے رہنے کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے داخل (اس دعویٰ) کے ذریعہ احادیث کو جمع کرنے کا قصد کیا ہے جیسا نیلۃ القدر کے متعلق منقول ہے اور یہ قوی نہیں، کیونکہ نیلۃ القدر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے بچپن میں ستائیں اور آنٹیں (شب) میں تلاش کرو، اور جمعر کی ساعت کے متعلق ایسا کوئی قول منقول نہیں۔ دوسرے نیلۃ القدر کے متعلق کوئی صریح روایت نہیں ملتی کہ وہ تھیک تھیک اس وقت ہوگی۔ بخلاف جمعر کی ساعت کے، اس طرح دونوں میں امتیاز ہوگی۔

**ساعتِ جمیع اٹھائی نہیں گئی** | رہا ان لوگوں کا قول جو اس ساعت کے اٹھائے جانے پہنچے کریمہ میں گئی کے قائل ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بعض کا خیال اپنے کمر لیلۃ النcka اٹھائی گئی ہے۔ اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہ ساعت پہلے معلوم تھی اور بعد میں امداد سے اس کا علم چھین لیا گیا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ”ساری امداد سے اس کا علم رفع نہیں کیا گیا، اگرچہ بعضوں سے رفع ہو چکا ہو، اور اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس ساعت کی حقیقت اور ساعتِ اچابت اور نامروع ہو چکا ہے تو یہ مطلب باطل اور احادیث صحیح صریح کے خلاف ہے اس بنیے اس پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا۔

جمعہ کے خصائص میں سے اکیسوال خاصہ یہ ہے کہ اس میں نماز بعده ہوتی ہے، جو تمام فرض نمازوں میں اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے، جو اجتماع، عدد مخصوص، اشتراط اقامۃ (اشیطان) اور قرأتِ جہری کے عاظم سے صرف اسی میں پائی جاتی ہیں۔ اور نماز عصر کے علاوہ اس کی اس قدر تکید آئی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، چنانچہ سنن ارباعہ میں ابو جعفر عسزی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے استحقاق کے باعث تین جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مجہر لگاؤ گے راویان حدیث پر حرج | ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، اور میں محمدؐ سے حضرت ابو جعفر عسزیؑ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام معروف نہیں اور بتایا کہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس کی اس کے سوا کوئی روایت نہیں جانتا، اور سنن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تارک جمعہ کے نیئے حکم مذکور ہے کہ جو اسے چھوڑ دے وہ ایک دنیار کا صدقہ کرے۔ اگر نہ مل سکے تو نصف دنیار۔ ابو داؤدؓ، نسانؓ نے اسے قدامہ بن وبرہ اور انہوں نے سرہ بن جندب سے روایت کیا ہے۔ لیکن امام احمد فرازی ہیں کہ قدامہ بن وبرہ معروف نہیں۔ اور بیہقی بن معین فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ وہ سرہ سے اس کا ساعی صحیح نہیں مانتے۔

**جماعہ کے چند اور خصائص** | امام سالمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جمیع فرض عین ہے۔ ہاں امام شافعیؓ سے ایک قول منقول ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن یہ غلط ہے۔

جمعہ کا بامیسوال خاصہ یہ ہے کہ اس میں خطبہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شناور تمجید بیان کی جاتی ہے اس کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی جاتی ہے اور بندوں کو اس کے تعین کردہ آیام سے تذکیر اور اس کے انتقام و نجہ سے تحذیر کی جاتی ہے اور ان اعمال کی وصیت کی جاتی ہے جو انہیں اس کی طرف اور جنت کی طرف لے جائیں، اور ان باتوں سے روکا جاتا ہے کہ جو اس کی ناراضگی اور دوزخ کا سبب بنیں۔ خطبہ اور اجتماع کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔

جمعہ کا تیسروال خاصہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن عبادت کے لئے فارغ ہو جانا مستحب ہے مستحب اور واجب عبادات کے باعث باقی ایام پر اس دن کو ایک خاص فوکیت حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے لئے ایک دن ایسا بنا دیا کہ وہ اس دن دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر کیسوئی سے عبادت کر سکیں۔ تو (اہل اسلام) کے ہاں بھی جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے۔ اس طرح دنوں میں اس کی چیزیت ایسی ہے جیسے ہنسیوں میں رمضان شریف کی ہے اور اس میں ساعت اچابت کی مثال ایسی ہے۔ جیسی کہ رمضان المبارک میں لیلة القدر کی چیزیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا جمعہ کا دن درست اور (گناہوں سے) سلامت رہا اس کے تمام دن سلامت رہے اور جس کا رمضان کا ہمیہ سلامت اور درست رہا تو اس کا سارا سال پر امن (سلامت) رہا، اور جس کا چ درست اور سلامت رہا اس کی تمام عمر سلامت رہی۔

جموہ ہفتہ کی میزان ہے | پس جموہ ہفتہ کی میزان ہے۔ رمضان سال کی میزان ہے اور جو غریب کی میزان ہے۔ اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

جمعہ کا بامیسوال خاصہ یہ ہے کہ جب جموہ کی چیزیت ہفتہ میں اس طرح ہے جیسے سال میں عید کی اور عید نماز اور قربانی سے عہدہت ہے۔ اور جموہ کا دن یوم الصلوٰۃ القراء پایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جلدی سے چل کر جانے کو قربانی کا قائم مقام کر دیا۔ تو جو مسجد میں جلدی تیاری کر کے جارہا ہے، گویا وہ نماز اور قربانی دونوں کو جمع کر رہا ہے، جیسا کہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کہ آپ نے فرمایا جو اول ساعت میں داخل مسجد ہوا، گویا اس نے ایک اونٹ قربانی کے لئے پیش کیا۔ اور جو درسری ساعت میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے

قربانی کے یئے پیش کی اور جو تمیزی ساعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے ایک بھی قربانی کے یئے پیش کی۔

**ساعت جمیعہ سے متعلق فہرہ کا اختلاف** | اور اس ساعت کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے یہاں ان کے دو قول ملتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ ساعت شروع دن میں ہوتی ہے امام شافعی اور احمد وغیرہ کا ہی مذہب مشہور ہے۔ دوسرا ذریب یہ ہے کہ یہ (ساعت) زوال کے بعد جمیع ساعت میں ہوتی ہے یہ امام مالک کا مشہور قول ہے اور بعض شوافع نے مجی اسے اختیار کیا ہے، اور اس پر دو استدلال کیے ہیں۔

ایک پر کہ (مساجد) میں زوال کے بعد ہی جانا ہوتا ہے اور یہ صحیح کے جانے کے مقابل ہے جو زوال سے قبل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غدا و ہاشم رود و احہا شہر (یعنی)، ان کا صبح کا (سفر)، ایک ماہ کا اور شام کا (سفر)، ایک ماہ (کے برابر) ہوتا ہے۔ اور جو ہرگز فرماتے ہیں کہ یہ زوال کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ سلف بحدائقیوں کے زیادہ شیدا تھے، اس کے باوجود وہ طلوع شمس کے وقت یعنی صبح جمعہ کی نماز کے یئے حاضر نہ ہوتے تھے۔ اور امام مالک نے تو (جمعر کی نماز) کے یئے شروع دن میں صبح آنے کا انکار کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اہل مدینہ اس پر (عامل رہے ہوں) پہلے قول کے اصحاب نے حضرت جابرؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جو انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے۔ یعنی یہ کہ جمعہ کے دن بارہ ساعتیں ہوتی ہیں، اور منقول ہے کہ معہود ساعتیں بارہ ساعتیں ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ معتدل اور زمانی ساعتیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ ساعتیں قرار دی ہیں اور اس سے زیادہ نہیں کیں۔ اور اگر ساعتیں گھنٹیوں کے چھوٹے چھوٹے اجزاء شمار کئے جائیں تو یہ چھ حصوں میں منقسم نہ ہوں گی۔ بخلاف اس کے ان سے معہود ساعتیں ہوں گی کیونکہ جمیع ساعت جب نکل جائے اور ساتویں داخل ہو جائے تو امام نکل جاتا ہے صحیح لپیٹ یئے جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی کی قربانی (پیدیہ) قبول نہیں کیا جاتا، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں صراحت سے مذکور ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے خود نبی کرم

صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، تو شیاطین اپنے جھنڈے سے کر بازاروں میں جاتے ہیں۔ اور لوگوں کو مکرو فریب میں پھنساتے ہیں اور انہیں جمعہ سے روکتے ہیں۔ اور فرشتے بھی بسج ری آتے ہیں اور مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو لوگوں کو ایک ساعت میں دوسرے کو دو ساعتوں کے بعد لکھتے ہیں، یہاں تک کہ امام آ جاتا ہے۔ عمر بن عبد البر نے بتایا ہے کہ ان ساعت کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کا خیال یہ ہے۔ ساعت کا مطلب طلوع شمس اور اس کا کھل جانا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں جمعہ کے لئے جلد جانا افضل ہے۔ ثوری<sup>ؓ</sup>، ابو حیفہ<sup>ؓ</sup>، شافعی اور اکثر علماء جلد حاضر ہونے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر فریر کے بعد اور طلوع شمس سے قبل (نماذ جمعہ کے لئے گیا) تو رہ بہتر ہے۔

---

# جُمُعَةٌ یومِ اجتماع ہے

## جماعہ کی چند مزید خصوصیات

وہ آثار جن سے مالک استدلال کرتے ہیں [اثر م بتاتے ہیں کہ احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ انس بن مالک کا قول ہے کہ جمعہ کے دن صبح صبح ہی مسجد میں جانا مناسب نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ اور ہر چیز فرمایا۔

سبحان اللہ اس مسئلہ میں وہ کس طرف چلے گئے؟

ہم نے اس پر کتاب واضح السنن میں کافی بحث کی ہے اور یہ تھام بحث عبد الملک بن مروان ہی کے متعلق ہے۔ پھر ابو عمر بن شری نے اس کاروکیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر محض بہتان ہے۔ اور بڑھی ہے کہ جس نے ایک منکر اور محرف بات کی ہے، بلکہ امام مالک کی رائے کی تو ائمہ کے روایات اور احادیث صحیحہ سے تائید ہوتی ہے اور اہل مدینہ کا عمل بھی ان کا شاہد ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں (اہل مدینہ) کا عمل قابل استدلال ہے۔ کیونکہ جمعہ کی نماز بار بار آتی ہے۔ اور عوام و علماء سے مخفی نہیں رہ سکتی۔

جن آثار سے امام مالک استدلال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ذہریؒ نے حضرت سعید بن مسیتب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں

جو لوگوں کے متعلق لکھتے رہتے ہیں کہ پہلے (آنے والا کون ہے) اور پھر بعد میں (کون ہے)؟ تو جمعر کی طرف صحیح جلدی سے آنے والا ایسا ہے جیسے ایک اونٹ کا ہدیہ وسے پھر جو اس کے بعد آئے وہ ایسا ہے۔ جیسے ایک گائے وسے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والا ایسا ہے کہ جیسے ایک بھیر دے، حتیٰ کہ انہوں نے مرغی اور انہوں کا تند کرہ مجھی کیا ہے۔ آخر جب امام (منبر پر) بیٹھ جائے تو صحیفے پیسوں یہے جاتے ہیں اور لوگ خطبہ سنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس روایت کا مطلب نہیں سمجھتے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ (فرشتے) پہلے آنے والا ہو اور پھر ان کے بعد آنے والا ہو کے نام لکھتے ہیں اس طرح جمعر کی طرف (ہجر) صحیح صحیح جانے والا ایسا ہے جیسے اونٹ پیش کرنے والا اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے آنے والے کو انہوں نے مہر قرار دیا۔ یہ لفظ باجرہ اور تہجیر سے ماخوذ ہے اور یہ جمعر کی طرف جانے کے وقت کو کہتے ہیں اس کا طلوع آفتاب کے وقت پر اطلاق نہیں ہوتا۔ کیونکہ باجرہ یا تہجیر کا یہ وقت نہیں، اور روایت میں ہے۔ پھر جو اس کے بعد آئے۔ اور کسی ساعت کا ذکر نہیں کیا گیا انہوں نے بتایا۔ ان الفاظ کے ساتھ ابتداء میں کہی طرق ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ رہے اہل مدینہ کر وہ دن کے آنماز میں مسجد نہیں جایا کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ تک ان کا یہ عمل رہا اور یہ محبت نہیں۔ اور نہ ان کے ہاں جو یہ کہتے ہیں۔ کہ اجماع اہل مدینہ محبت ہے کیونکہ یہ تو صرف اتنی بات ہوئی گہرا بتداء روز میں انہوں نے جمعر کے لئے جانا ترک کیا تھا۔ اور یہ کام ضرورت کے پیش نظر جائز ہوتا ہے۔ اور گاہے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتداء دن میں جمعر کی طرف جانے کے بجائے اپنے ذاتی یا گھر والوں کے مصالح و معاش یا اس کے علاوہ بعض دینی و دنیاوی امور زیادہ توجہ طلب اور رافضی ہوتے ہیں۔

**”رباط“ سے کیا مراد ہے؟** اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد دوسروی خواز کا انتظار کرنا اور دوسروی نماز پڑھنے تک جائے نماز پر بیٹھا رہنا

و اپس نوٹ کر گھر جانے سے افضل ہے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جو آدمی نماز کا انتظار کرے۔ پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ اس سے افضل ہے۔ جو نماز پڑھے اور پھر اپنے گھر میں چلا جائے اور بتایا کہ جب تک وہ اپنی جائے نماز میں رہے تب تک

فرشتے اس پر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نماز کے بعد دوسرا نماز کا انتظار کرنا یہ سے (اعمال) میں ہے کہ جن کے قدر اللہ تعالیٰ گناہوں کو حاف کرتا ہے۔ اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور یہی چیز رباطِ حم کر عبادت کرنا، ہے۔ (مزید) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر کرتا ہے جو فریضہ ادا کرے اور دوسرا فریضہ کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ یہ اس بات پر شاہد ہے کہ جو صحیح کی نماز پڑھے اور پھر محمد کی انتظار میں بیٹھ جائے وہ اس سے افضل ہے۔ جو چلا جائے اور وقت پر پھر حاضر ہو جائے اور اہل مدینہ وغیرہ کا اس پر عالی نہ ہونا یہ مطلب تھیں رکھتا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔

اسی طرح جو کوئی لئے بسح کرنا اور جلدی سے حاضر ہونے کا سکھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب ہاتا ہے۔

ایک اور خاصہ جحد کا یہ ہے کہ اسی دن صدقہ کرنا باقی ایام کی نسبت زیادہ باعث ہے اجر ہے ہفتے کے باقی دنوں کی نسبت اس دن صدقہ دینا ایسا ہے، جیسے تمام مہینوں سے رمضان کے ہمیشہ کا صدقہ (افضل) ہوتا ہے۔

میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ کو دیکھا کہ وہ جب جحد کے لئے حاضر ہوتے تو گھر میں سے روٹی وغیرہ جو متيسر آتا لے لیتے۔ اور راستہ میں خنیہ طریق پر صدقہ کرتے اور میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ "جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مناجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل صدقہ کا حکم دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مناجات سے قبل صدقہ کرنا تو زیادہ افضل اور ادنیٰ ہے احمد بن زہیر بن حرب بتاتے ہیں کہ ہمیں والد بزرگوار نے انہیں جریہ نے بتایا انہیں منصورؓ سے انہیں مبارہ سے انہیں حضرت ابن عباسؓ سے معلوم ہوا۔ انہوں نے فرمایا۔

ابو ہریرہؓ اور کعبؓ اکٹھے ہوئے تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا بے شک جحد کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ اسے فری کچھ عطا فرماتا ہے۔

حضرت کعبؓ نے فرمایا، کہ میں تمہیں جمعہ کے متعلق (کچھ) بتاؤں (پھر فرمایا)، کہ جب جحد کا دن آتا ہے۔ تو ابن آدم اور رشیا طین کے سوا انسان و زمینی خشکی، چرمی، پہاڑ، درخت اور تمام مخلوقات

اس سے ترسان اور خوفزدہ ہو جاتی ہے اور فرشتے مسجد کے دروازوں تو گھیر لیتے ہیں اور جو پہلے اور پھر پہلے پہلے آتا ہے۔ اس کا نام درج کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ امام نکل آتا ہے۔ اس طرح جب امام نکل آتا ہے تو وہ صحیفے پسپیٹ دیتے ہیں۔ اور جو (امام) کے آنے کے بعد آتا ہے تو وہ اللہ سے یوں ملتا ہے کہ اس کا کچھ عمل نہیں ہوتا۔

اور ہر بالغ کو چاہئے کہ اس دن غسل کرے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے اور تمام ایام کی نسبت اس دن صدقہ کرنا افضل ہے۔ اور جمود کے دن ایسا ہے کہ جیسے اس دن سورج نہ طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرۃؓ اور حضرت کعبؓ کا مکالمہ تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس جوشبو ہو تو وہ بھی لگائے۔

جمعہ اور دیدارِ جلوہ الہی ایک مزید خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء و مونین کو جنت میں اپنا جلوہ دکھانے کے لئے تجلی فرماتا ہے۔ تو جو بھی امام سے زیادہ قریب ہو گا۔ وہ اس (اللہ) سے زیادہ قریب ہو گا اور جو جمود کی طرف نیلا جلدی سے جائے گا وہ دیدارِ الہی بھی سب سے پہلے کرے گا۔

اور رجیل بن میان نے شریکؓ سے انہوں نے ابو یقظانؓ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق وہ دنیا مزید، روایت کیا، فرمایا، (اللہ) تعالیٰ ہر جمعر کو اپنی تجلی سے سرفراز فرمائے گا۔

جمجم طبرانی میں ابو نعیم مسعودی کی روایت ہے کہ منہاں بن عمرو سے انہوں نے ابو عبیدہ سے نقل کیا انہوں نے بتایا کہ عبداللہ نے فرمایا، جمعر کی طرف جلدی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جمود کو اہل جنت کے سامنے کافر کے ایک ٹیکے پر تجلی فرماتا ہے۔ اس دن اللہ کا یہ قرب جمود کی طرف جلدی کرنے کے مطابق ہوتا ہے۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس قدر اعزاز و اکرام عطا فرماتا ہے کہ جو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا ہو گا پھر یہ لوگ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ آتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہوتا ہے۔ وہ دگھرا کر بتاتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ پھر حضرت عبداللہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں دو آدمی اور بھی تھے تو عبداللہ

فرماتے، فرمایا کہ میں نیسرا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو تمیرے میں بھی برکت فرازے گا۔ ”وبیہقی“ نے مشتبہ میں حضرت علقة بن قیس سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بتا کر میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کے ساتھ مجھ کی طرف چلا۔ تو انہوں نے وہاں میں آدمی دیکھے جو ان سے سبقت لے گئے۔ تو فرمایا، چار کا چوتھا۔ اور چار کا چوتھا مجھی دوڑ نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھا، اکر لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس قدر (قریب اور دور) بیٹھے ہوں گے جن قدر وہ مجھ کی نماد کے لئے جانے میں (جلدی یا سستی)، سے کام پاکرتے تھے۔ پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ اور فرمایا کہ چار کا چوتھا کوئی دوڑ نہیں۔

وارقطیؒ نے بتایا کہ میں احمد بن سلیمان بن حسن نے انہیں محمد بن عثمان بن محمد نے انہیں مروان بن حضرت نے انہیں نافع ابوالحسن مولیٰ بنی ہاشم نے انہیں عطاء بن ابی میمون نے بتایا انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

جب قیامت کا دن ہو گا۔ تو مون اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پس مجھ کی طرف جو سب سے زیادہ سبقت لے گیا ہو گا۔ وہ سب سے پہلے دیدار کر سکے گا۔ اور مون عورتیں یوم خطر اور یوم نحر (قریبی) کو زیارت کریں گی۔

جمعہ کا دن برکتوں اور محنتوں کا دن ہے | جنہیں محمد بن فوح نے انہیں محمد بن موسیٰ بن سعین سکری نے انہیں عبد اللہ بن جہنم رازی فنا نہیں عمرو بن ابی قیس نے بتایا۔ انہیں ابو طیب سے انہیں عثمان بن محمد ابو تقیان سے انہیں حضرت انس بن مالک سے انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا۔

میرے پاس جبریل آیا۔ اور اس کے ہاتھ میں گویا کہ ایک سفید آئندہ ہے۔ جس میں ایک سیاہ نشان ہے۔ میں نے دریافت کیا۔ اسے جبریل یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ مجھ کے اللہ تعالیٰ اسے آپ پر پیش فرماتا ہے۔ تاکہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لئے یہ عید کا دن ہو۔

میں نے پوچھا، "اور اس دن میں ہمارے لئے کیا ہے؟"

اس نے جواب دیا، کہ آپ کے لئے اس میں بھلاقی ہے۔ آپ پہلے ہیں اور ہر ہود و نصاریٰ بعد میں ہیں۔ اور اس میں آپ کے لئے ایک ساعدت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کوئی بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے۔ اگر وہ اس کے مقسم ہیں ہے عطا فرماتا ہے۔ (اگر) اس کے مقسم میں نہ ہو۔ تو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس کے خلاف لکھا ہوتا ہے۔ اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ نہ اس اسے زیادہ (رسزا) اس سے ہٹا دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا، میں نے پوچھا، کہ یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ قیامت ہے۔ جو مجدد کے دن قائم ہوگی، اور یہ دن ہمارے ہاں تمام ایام کا سردار کہلاتا ہے اور آخرت کے لوگ اسے یوم المزید کے نام سے یکہرتے ہیں۔

انہوں نے فرمایا، یہ اس طرح کہ آپ کے پردگار جل شان نے جنت میں ایک وادی فتحب کی ہے جس میں سفید مشک کی خوشبوئیں پھیلادی ہیں۔ توجہب جمعہ کا دن آتا ہے تو دالش (انپی کرسی پر نزول فرماتا ہے، پھر کرسی کے اوگر کر نور کے منبر پر بھا دیئے جاتے ہیں۔ اور انہیا علیهم السلام حاضر ہوتے ہیں اور ان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سونے کے منبر اوگر کر پر بھا دیئے جاتے ہیں اور صد یقین و شہداء حاضر ہو کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اہل غرف حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹیکوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مھر ان کا پردگار جل و عزان کے سامنے تجلی فرماتا ہے۔ تو وہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر (اللہ) تعالیٰ لے فرماتا ہے۔

"میں وہ ہوں کہ جس نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور تم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل کر دیں یہ میری تکریم کی جگہ ہے، اب مجھ سے مانگو۔ تو وہ اس کی رضا مانگتے ہیں۔ (اللہ) فرماتا ہے کہ میری رضا حقی کر میں تمہیں اپنے گھر میں آنائزتا ہوں اور شرف سے نوازتا ہوں۔ اس نے مجھ سے مانگو۔ تو وہ (پھر بھی) اس کی رضا مانگتے ہیں تو (اللہ) اپنی رضا کی گواہی دیتا ہے پھر وہ مانگتے ہیں یہاں تک کران کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مجدد کے دن ان کے لئے وہ وہ نعمتیں کھولتا

سلہ یعنی بخشنده اتوار بمحروم کے بعد آتے ہیں۔

ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں۔ اور نہ کسی کا نہ نہیں۔ اور نہ کسی بشر کے دل میں کھلکھلیں جائیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انیاد و شہد اٹھ جاتے ہیں اور اہل غرف اپنے بالاخانوں میں چلے جاتے ہیں۔

فرمایا کہ ہر بالاخانہ موتیوں کا بنا ہوتا ہے۔ جس میں کوئی دلار وغیرہ نہیں ہوتی۔ سرخ یا قوت کا بنا ہوتا ہے۔ اور سبز زبرجد کے دروازے چھت اور پرنسالے ہوتے ہیں۔ ان میں نہیں ہتھیں۔ جن میں چیل متعلق ہوتے ہیں۔ جن میں بیدیاں اور خدام ہوتے ہیں۔

فرمایا، تو جماعت کا وہ کسی بات کے محتاج نہیں ہوتے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے اور اس کے انعامات کی شرف سخی سے خوب ملتے ہوں۔ پس یہ یوم المزید ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں کئی طرق ہیں۔ جنہیں ابو حسن دارقطنی نے کتاب الرؤیہ میں ذکر کیا ہے۔

جمعہ کا دن "یوم شاہد" ہے ایک خاصہ جماعت کا یہ ہے، اکہ دارقطنی نے کتاب یوم الجمیع میں شاہد اکی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ حمید بن زنجیر نے بتایا کہ ہمیں عبد اللہ بن رافع بن موسیٰ نے انہیں موسیٰ بن عبیدہ نے بتایا۔ انہیں ایوب بن خالد سے انہیں عبد اللہ بن رافع سے انہیں ابو ہریرۃؓ سے روایت پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم موکود قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور یوم مشہود ہی یوم عرفہ ہے۔ اور جماعت کا دن شاہد ہے جس کے دن سے افضل کوئی ایسا دن نہیں کہ جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو۔ اسی دن ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اگر اس وقت مونمنہنہ اللہ تعالیٰ سے کسی بخلانی کی دعا کے توارہ مزور قبول کتا ہے۔ یا کسی شر سے پناہ چاہے تو مزور پناہ دیتا ہے۔

اور حارث بن ابی سلمۃ نے اپنی مندر میں روح سے اور انہوں نے موسیٰ سے روایت کیا کہ موسیٰ بن عبیدہ سے اس کے کئی طرق (مذکور) ہیں۔ یہم طبرانی میں اسماعیل بن عیاش سے روایت ہے کہ مجھے والد بزرگوار نے بتایا۔ انہیں حضم بن زرعة نے بتایا انہیں زرعة سے انہیں شریح بن عبید سے انہیں ابو ملک اشعری سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

یوم موکود یوں قیامت ہے۔ اور جماعت کا دن شاہد ہے اور یوم عرفہ مشہود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

نے ہمارے لئے (جمع کادن) جمعہ کا قرار دیا ہے۔ اور نمازِ عصر نماز و سطحی ہے۔

جبیر بن مطعم سے روایت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہری (مطلوب) یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوب جانتا ہے کہ یہ حضرت ابو ہرثیۃ کی تفسیر ہے۔ چنانچہ امام احمدؓ نے فرمایا، کہ ہمیں محمد بن جعفر نے انہیں شعبہ نے بتایا۔ انہیں یونس سے روایت ملی۔ (وہ فرماتے ہیں) کہ میں نے عمازوں بن ہاشم سے سُنا۔ وہ حضرت ابو ہرثیۃ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت و شاید مشہود کی مترجم کرتے ہوئے فرمایا جمعہ کادن شاہد ہے۔ اور یومِ عرفہ یوم مشہود ہے اور قیامت کادن یومِ موجود ہے۔

**جمعہ کادن یوم اجتماع ہے** | ایک اور خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے یوم اجماع بنادیا۔ اور اس (امت) سے پہلے اہل کتاب کو گراہ کر دیا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ابو ہرثیۃ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

جمعہ سے زیادہ بہتر دن پر سورج طلوع و غروب نہیں ہوا۔ جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اور لوگ اس سے گراہ ہو گئے۔ اسی طرح یہ لوگ ہمارے بعد ہیں، کیونکہ جمعہ ہمارے یہے ہے اور یہود کے لئے ہفتہ کادن اور نصاریٰ کے لئے اتوار کادن ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جمعہ کادن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جمع کر دیا ہے۔

اور امام احمدؓ نے فرمایا، ہمیں علی بن عاصم نے خبر دی انہیں حسین بن عبد الرحمن سے انہیں عمر و بن قیس سے انہیں محمد بن اشعش سے انہیں حضرت عائشہؓ سے روایت پہنچی وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ کہ ایک یہودی نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی اپنے اجازت دی۔ تو وہ کہنے لگا۔

اتسلم علیکم، (یعنی تم پر ہلاکت ہو)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم (تجھ پر)

(حضرت عائشہؓ) فرماتی ہیں۔ میں نے مداخلت کر فی چاہی کہ دوسرا یہودی داخل ہوا۔ اس

نے بھی اسی طرح کہا۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بولنے کا ارادہ کیا۔ پھر تیسرا یہودی داخل ہوا تو اس نے بھی کہا۔

السلام علیکم (تم پر موت آئے)

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، بلکہ تم پر موت آئے، اور اللہ کا غضب ہو۔ (تم) بندوں اور سوروں کے بھائی ہو۔ کیا تم رسول اللہ کو اس انداز سے سلام کرتے ہو، جس انداز سے اللہ عزوجل نے نہیں کیا؟

عائشہ فرماتی ہیں آپ نے میری طرف دیکھا۔ اور فرمایا،

ٹھہرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فخش اور تفشن کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک بات کی تو ہم نے ان پر لوٹادی۔ لہذا ہمیں ان کی بات کا کچھ ضرر نہیں اور ان پر قیامت تک پڑا گئی۔ وہ ہم پر کئی (باتوں کے) بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ اور زیادہ حسد کرتے ہیں۔ مثلاً جمعہ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پدالت دی اور وہ اس سے گراہ ہو گئے۔ اور قبلہ پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہمیں دعوت دی اور وہ اس سے گراہ ہو گئے اور امام کے پیچے آیا۔ میں کہنے پر حسد کرتے ہیں جمعہ کا انتخاب، انتخاب حسنہ ہے

مزید خاصہ جمعہ کا یہ ہے کہ یہ دن پہنچتے کے ایام میں

میں ماہ رمضان کا انتخاب اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کا انتخاب اور زین میں میں سے مک کا انتخاب اور اپنی مخلوقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا۔

آدم بن ابی لیاس فرماتے ہیں کہ ہمیں شیعیان ابو معاویہ نے بتایا انہیں عاصم بن ابو الجنود سے انہیں ابو صالح سے انہیں کعب احبار سے روایت ملی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کا انتخاب فرمایا۔ اور ماہ رمضان کو جن لیا۔ ایام کا انتخاب فرمایا۔ اور جمعہ کا دن چن لیا، راتوں کا انتخاب

فرمایا اور لیلۃ القدر کو چن لیا۔ ساعتوں کا انتخاب فرمایا اور نماز کی ساعت کو چن لیا۔ اور جمعہ

دوسرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور تین (گنا) مزید انعام کا (سببیتی)

اور رمضان دوسرے درمیان تک کا کفارہ ہے۔ اور جو دوسرے رجی تک کے درمیان کے حضرت کا کفارہ

بنتا ہے۔ اور ستر دوسرے عمر و بیک کے درمیان کی مدت کا فارہ ہوتا ہے اور اُدمی دو نیکیوں کے درمیان قوت ہوتا ہے ایک نیکی اُسے حاصل ہو جاتی ہے۔ وزیر کے دروازے بند کر دیئے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور آوازِ دی جاتی ہے۔ اسے خیر (محلانی) کے چاہنے والے رمضان آگیا کچھ جمع کر لے۔

اور آخری دس راتوں سے زیادہ اللہ کو ایسی کوئی راست زیادہ محبوب نہیں۔ جس میں عمل کیا جائے۔

**جمعہ کے دن مردوں اور زندوں کی ملاقات** | جمیعہ کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ارادح اپنی قبور کے قریب ہو جاتے ہیں۔

اور اس دن انہیں اجر ملتے ہیں، اس طرح وہ اپنے زائرین کو اور اپنے پاس سے گزرنے والوں سلام کرنے والوں کو بھیجاں لیتے ہیں اور دوسرے ایام کی نسبت اسی دن وہ اپنی جان پہچان والوں سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہیں یہ دلی ایسا ہے کہ اس میں زندہ اور مردہ اپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ جب اس دن قیامت قائم ہوگی تو پہلے اور آخر رازمانہ کے لوگ خالی زمین اہل آسمان آتا۔ غلام۔ عامل اور اس کا عامل، ظالم مظلوم، سورج اور چاند سب اکٹھے ہوں گے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ کبھی جمع نہ ہوئے۔

گویا یہ اجتماع اور ملاقات کا دن ہے یعنی وجہ ہے کہ لوگ دوسرے ایام کی بہ نسبت دنیا میں بھی زیادہ ملاقاتیں کرتے ہیں گویا یہ "یوم التلاق" (ملاقات کا دن) ہے،!

ابو تیاح لاحق بن حمید نے بتایا کہ مطرف بن عبد اللہ بدرا میں تھے۔ وہ ہر جمعہ کو اسز کر کے آیا کرتے، ایک روز جب وہ جمعہ کے دن قبرستان کے قریب تھے تو کہنے لگے، "میں نے ہر قبر والے کو اپنی قبر پر بیٹھ دیکھا ہے، اس پر لوگ کہنے لگے۔ یہ تو مطرف ہے جو ہر جمعہ کو تو آیا کرتا ہے۔ (مطرف) فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا۔

کیا تم بھی جمعہ سے واقف ہو؟

وہ کہنے لگے ہاں! اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن پرند کیا کہتے ہیں؟

میں نے پوچھا کہ اس دن پرندے کیا کہتے ہیں؟

وہ کہنے لگے کہ (پرند) کہتے ہیں۔ اسے پروردگار سلامتی۔ اچھا دن!  
ابن ابی دنیا نے کتاب المذاہت میں عاصم جحدروی سے نقل کیا ہے کہ، کہ میں نے عاصم جحدروی کو  
ان کی وفات کے دو سال بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا۔  
کیا تم (دنیا سے) چلے نہیں گئے تھے؟

انہوں نے جواب میں فرمایا: ہاں! دنیا میں تو نہیں ہوں،

میں نے پوچھا۔ تو اب آپ کہاں ہو؟

انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے  
دوستوں میں سے ایک جماعت ہر چھتر کی رات کو اکٹھے ہوتے ہیں۔

اور پھر صبح کو ہم ابو بکر بن عبداللہ مفرنی کے ہاں جاتے ہیں۔ تو ہمیں تمہاری خبریں ملتی ہیں۔  
میں نے پوچھا۔ اب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اجسام ہو یا ارواح؟

انہوں نے فرمایا: ہمیں اس، اجسام تو بوسیدہ ہو گئے، صرف ارواح ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔

راوی کا بیان ہے پھر میں نے کہا تم لوگ ہماری آمد سے گاہ ہو جاتے ہو؟

انہوں نے بتایا کہ ہم جمعہ کی رات اور جمعہ کا سارا دن اور ہفتہ کی رات میں طلوع آفتاب تک  
گاہ ہو جاتے ہیں۔ (راوی) کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا۔ کہ باقی ایام کے سوا (ان دنوں) میں کیسے  
(گاہ) ہو جاتے ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ کی فضیلت و خلقت کے باعث۔

نیز ابن ابی دنیا نے محمد بن واسع سے نقل کیا کہ وہ ہر منتهی کی صبح کو جانہ تک پہنچ جاتے پھر  
قبوں پر کھڑے ہو کر سلام کرتے، ان کے پیسے دعا کرتے، پھر واپس ہو جاتے۔ ان سے کہا گیا  
کہ اگر آپ یہی کام دو شنبہ کو کر لیا کریں تو؟

انہوں نے جواب دیا۔ مجھے خبری ہے۔ کہ جمعہ سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد تک اہل قبو  
پہنچنے والوں کو معلوم کر لیتے ہیں۔

اور حضرت سفیان ثوریؓ کہتے ہیں مجھے خاکؓ سے معلوم ہوا، انہوں نے فرمایا کہ جس نے منہ  
کے دن طلوع آفتاب سے پہلے قبر کی زیارت کی تو مردے کو اس کی آمد کا علم ہو جاتا ہے۔

ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے؟  
انہوں نے جواب دیا جمعہ کے مرتبہ کے باعث!

جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے یا مستحسن؟ [جمعہ کا ایک خاص ہے کہ مغض جمعہ کے نص ہے، اثرم فرماتے ہیں۔ ابو عبد اللہؑ سے جمعہ کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا۔ تو انہوں نے افراد سے کراہت کا اظہار کیا، ارشاد فرمایا، اگر روزے رکھنے کے دو دن میں جمعہ کا دن آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن خاص کر جمعہ کے دن رکھنے تو یہ روانہ ہیں۔]

میں نے پوچھا ایک آدمی ایک دن روزہ رکھتا ہے، اور ایک دن افطار کرتا ہے۔ اتفاقاً جمعرت کو افطار کا دن آگیا اور جمعہ روزہ کا دن بن گیا اور پھر ہفتہ کا دن افطار کا ہو گیا۔ اس طرح جمعہ کا دن مفرد روزے کا دن ہو گیا پھرہ؟  
انہوں نے فرمایا، یہ جائز ہے، ہاں اگر وہ مخصوص طور پر اسی دن کا روزہ رکھنے تو غلط ہے اصل میں عمدًا مغض جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے

امام مالک اور ابو حیینہؓ نے باقی ایام کی طرح اسے مباح بتایا ہے۔ امام مالکؓ فرماتے ہیں۔ میں نے کسی اہل علم و فقہ سے یا ان کے اتباع میں کسی سے نہیں سننا کہ وہ جمعہ کے روزے کو منع کرتا ہو۔ حالانکہ اس دن روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اور میں نے بعض اہل علم کو دیکھا کہ وہ اس دن برابر روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ وہ خاص طور پر اس دن کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

ابن عبد اللہؑ فرماتے ہیں۔ جمعہ کے روزہ سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مختلف ہیں چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہؓ نے روایت کیا کہ آپؐ ہر ماہ میں تین دن روزے رکھا کرتے اور بتایا کہ میں نے آپؐ کو جمعہ کے دن بہت ہی کم حالت افطار میں دیکھا۔ یہ صحیح حدیث ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مردی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن کبھی بھی روزہ کے بغیر نہیں دیکھا۔ ابن ابی شنبیہ نے مخصوص بن غیاث سے انہوں نے لیث بن ابی سلیم سے انہوں نے عمیر بن ابی عیر سے اور انہوں نے

ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے روایت کی ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھتے اور اس پر مذاہمت فرماتے تھے۔ اور جو امام مالکؓ نے ذکر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں۔ کہ یہ تو محمد بن الحنفیہ ہے ایک قول ہے کہ یہ صفوان بن سلیم ہے۔ اور دراوردی نے صفوان بن سلیم سے انہوں نے بنی خشم کے ایک آدمی سے روایت کیا کہ اس نے حضرت ابوہریرہؓ کو فرماتے سننا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کا روزہ رکھا۔ تو اس کے لیے آخرت کے دس سفید ایام کے برابر اجر لکھا گیا۔ کہ دنیا کے ایام ان کے مشابہ نہیں ہو سکتے۔

اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کا روزہ ایک شکنی ہے۔ جسے ایک معارض دلیل کے بغیر روکا نہیں جاسکتا۔ میں کہتا ہوں کہ درست طور پر معارض ثابت ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی طعن بھی نہیں۔ چنانچہ صحیحین میں محمد بن عباد سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جابرؓ سے پوچھا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ سے منع فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور صحیح مسلم میں محمد بن عباد سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روزہ سے منع فرمایا، انہوں نے فرمایا، ہاں! اس عمارت کے پروردگار کی قسم! اور صحیحین میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے: انہوں نے فرمایا۔ کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سننا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کا روزہ نہ رکھے، ہاں جب تک وہ اس سے قبل یا بعد میں (متصل) روزہ نہ رکھ رہا ہو (پھر کوئی محروم نہیں)، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔

**جماعات شب بیداری کے لیے اور جمعہ روزے کے لیے مخصوص ذکر و اور صحیح مسلم میں حضرت**

ابوہریرہؓ سے مروی ہے آپ نے فرمایا تو میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور باقی ایام میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرو، ہاں اگر تم میں سے کوئی روزے کر کر رہا ہو اور یہ (اتفاقاً) درمیان میں واقع ہو جائے، تو خیر! اور بخاری میں حضرت جو یہ بنت حارث سے مروی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے پاس

تشریف لائے۔ اور پر روزے سے تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا۔ انہوں نے جواب دیا۔ جی نہیں! پھر آپ نے دریافت فرمایا، کیا کل کے لئے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ جی نہیں! آپ نے فرمایا، پھر افطار کر لو۔

اور مسند امام الحمد حضرت ابن جباسؓ سے مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہیا جسے کے دن روزہ نہ رکھو۔ نیز مسند میں حضرت جنادہ ازوی سے مردی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں سات ازوی آدمیوں کے ہمراہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں کچھ عورت میں بھی تھیں۔ اور آپ صحیح کام کھانا تناول فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھالو۔ ہم نے عرض کیا اے الش کے رسول۔ ہم روزے سے ہیں۔

آپ نے فرمایا، کیا تم نے کل روزے سکے تھے؟ ہم نے کہا جی نہیں!

آپ نے فرمایا، تو کیا کل روزے رکھو گے؟

ہم نے عرض کیا جی نہیں!

آپ نے فرمایا، تو افطار کر لو۔

پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب آپ باہر تشریف لائے۔ اور منبر پر بیٹھے۔ تو پانی کا ایک برتلن منگل کیا۔ اور منبر پر بیٹھے بیٹھے پانی پیا۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور آپ اپنایہ فعل گویا انہیں دکھار رہے تھے کہ جو کوئی دن روزہ آپ نہیں رکھا کرتے۔ نیز مسند میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مردی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے عید کے دن کو روزے کا دن نہ بنایا کرو۔ سوا اس کے کہ اس سے پہلے یا بعد بھی روزے کر رہے ہو۔ اور ابن ابی شیعہ نے سفیان بن عینیہ سے انہوں نے عمران بن ظبیان سے انہوں نے حکیم بن سعید سے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کیا۔

انہوں نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی ہمیتے میں کچھ روزے رکھنا چاہے۔ تو اسے چاہیئے کہ مجرمات کا روزہ رکھ لیا کرے۔ اور جمیع کو روزہ تحریکے۔ کیونکہ یہ کھانے پینے کا دن ہے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو دن جمع کر دے گا۔ ایک روزے کا دن (اجر) اور دو روزے

مام مسلمانوں کے ساتھ قربانی کا دن !

ابد ابن جریر نے میرہ سے، انہوں نے ابراہیم سے ذکر کیا ہے کہ وہ جمعہ کے روزے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ تاکہ نماز کے لیے قوت ہو سکے۔

ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں کراہت کے تین وجود ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ جو مذکور ہوا، لیکن ایک دن قبل یا بعد میں متصل کرنے سے یہ کراہت زائل ہو جاتی ہے دوسرے جمعہ کا دن دراصل یوم عید ہے۔ اور اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

**اشکالات اور ان کا جواب** اس تعلیل پر دو اشکالات ہیں۔ ایک یہ کہ جمعہ کا روزہ حرام نہیں اور عید کے دن کا روزہ حرام ہے۔ دوسرے عدم افزار

سے اس کی کراہت زائل ہو جاتی ہے۔

ان دو اشکالات کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہ سال کی عید نہیں بلکہ ہفتے کی عید ہے اور تحریم سالانہ عید کے روزے کی ہے اور جب ایک دن قبل یا بعد میں روزہ رکھا۔ تو کوئی حریج نہیں کیونکہ اب اس فی جمعہ اور عید کے باعث روزہ نہیں رکھا ہے۔ لہذا اس کی تخصیص سے پیدا ہونے والا اعتراض ختم ہو گیا۔ بلکہ (جمعہ کا روزہ) اس کے سلسل روزوں کے ضمن میں آگیا۔ اسی پر امام احمد کی روایت حمول ہے جو انہوں نے مسند میں ذکر کی اور ساقی و ترمذیؓ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے بشرطیکرو وہ صحیح بھی ہو۔ فرمایا کہ میں نے جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن افطار سے بہت بھی کم دیکھا۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اسے جواز پر حمول کیا جائے گا۔ جسے اہل صحیح میں سے کسی نے روایت نہیں کیا۔ امام ترمذیؓ نے اسے غریب بتایا ہے۔ اس طرح یہ روایت صحیحہ کے معارض یا مقدم کیسے ہو سکتی ہے؟

تیسرا وجہ یہ ہے کہ ایسا ذریحہ سود ہو جاتے جس سے غیر دین کی باتیں دین میں شامل کر دی جاتی ہیں اور دنیوی اعمال سے فارغ ہو کر بعض ایام کو محض عبادت کے لیے مخصوص کرنے کے معاملہ میں اہل کتاب سے تشبہ ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جب باقی ایام کے مقابلہ میں اس کو فضیلت حاصل ہو گی۔ تو اس کے روزے پر ایک قوی استدلال بن جائے گا۔ اس طرح اس دن لوگوں کے سلسل روزہ رکھنے اور دوسرے ایام کی نسبت اس دن حصول

طور پر تہوار منانے سے ایک گان (گو یہ ایک مخصوص تہوار ہے) سا پیدا ہو جائے گا۔ یہ تصور شرح کے ساتھ ایک ایسا الحاق ہے۔ جو قبل ازیں اس میں نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام میل کے لئے مختص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کریمہ تمام راتوں سے افضل ہے بلکہ بعضوں نے تو اسے لیلۃ القدر سے افضل قرار دیا ہے۔ اور امام احمدؓ سے مروی ہے کہ ایسا کرنے سے اس کا تخصیص بالحبابۃ عسوس ہوتا ہے۔ اس شارع علیہ السلام نے اس رات کو قیام کے لئے مختص کرنے کو منوع قرار دے کر اس فریجہ ہی کو مسدود کر دیا۔

**جمعہ کے دن آپؐ کون سی سورتیں معمولاً پڑھا کرتے تھے؟** [بخاری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی]

نماز میں دو سورتیں **المرالسجدۃ** اور **ہل الائمن** پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں سورتیں گذشتہ اور آئندہ کے متعلق مبدأ و معاد۔ حشر غلوقات۔ قبروں سے اٹھنے اور جنت و دوزخ کی طرف جاتے پر مشتمل ہیں۔ نہ کہ سجدہ کے باعث (پڑھا کرتے) جیسے کہ بعض جہلاء اور ناقص العلم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ کسی اور سجدہ والی سورت کو بھی پڑھ دیا کرے ہیں، اور ان کا اعتقاد بن چکا ہے۔ کہ جمعہ کی فجر کو ایک ناہد سجدہ کے باعث فضیلت عطا کی گئی اور جو ایسا نہ کرے۔ اس کا انکار کرتے ہیں۔

اسی طرح پڑھے ریڑے اجتنامات مثلاً عیدوں وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سورتوں کی تلاوت فرماتے کہ جو تو حمید و مبدأ و معاد قصص انبیاء اور ان کی ائمتوں۔ ان کے اعمال کی تکذیب (و تصدیق)، ان کے کفر اور ان کی ہلاکت و شقاوت ان پر ایمان لانے والوں ان کی تصدیق اور ان کی نجات و عافیت پر مشتمل ہوں۔ جس طرح آپؐ عیدین میں سورت ق اور قرآن الحمید۔ افتریبت الساعۃ و النشق القمر اور کبھی بسیع اسم ربک **الوعلیٰ** اور ہل **ہاتاک** حدیث الفاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعہ کے دن کبھی کبھی سورۃ جمعہ کی تلاوت فرماتے۔ کیونکہ اس سورۃ میں نماز جمعہ کے متعلق آیات اس کے لئے کوشش و سعی کرنے اور اعمال مانعہ کو ترک کرنا (و اللہ) کے ذکر کی کثرت کا بیان ہے، تاکہ دارین میں فلاح و کامرانی حاصل ہو۔ کیونکہ **(اللہ)** کا ذکر بھول جانا۔ وارین میں ہلاکت و تباہی کا موجب ہے دوسری رکعت میں آپؐ **اذ اجاعك المنافقون**

پڑھتے تاکہ رامت کو نفاق جیسی براہی سے ڈالا جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے کہ ان کے اموال داولاد انہیں نماز جمعہ سے اور اس کی یاد سے نہ روک دیں۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ خسارے میں رہیں گے۔

**خطبات کا موضوع کیا ہوا چاہئے؟** [نیز آپ لوگوں کو (اللہ کے راستے) میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے۔ کہ جہان کی سعادت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور موت (کی کیفیات سے) ڈراتے۔ حالانکہ وہ (دنیا) کا دوام چاہتے تھے۔ رجحت چاہتے اور اس موت کو قبول نہ کرتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وفد کی آمد پر (تبیین) فرماتے؛ خیال یہ ہوتا کہ انہیں قرآن مجید سنایا جائے۔ اور جبھری نمازوں میں قرأت ہلیں فرماتے۔ مہی وجہ ہے۔ کہ آپ مغرب کی نماز میں سورۃ اعراف سورۃ الطور سورۃ ق کی تلاوت فرماتے، اور نماز فجر میں ایک سو آیت پڑھتے۔]

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبات میں دراصل اللہ اس کے فرشتوں، کتب، رسول اللہ کی ملاقات اور جنت و دوزخ کے ذکر کی وضاحت فرماتے۔ اور (ان باتوں پر خطاب فرماتے) جو اللہ نے اولیاء کرام اور اہل طاعت کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ اور جو اپنے اعداء اور نافرانوں کے لئے مہیا کر رکھے ہیں۔

اس طرح ایمان۔ توحید اللہ تعالیٰ اور اس کی نشانیوں سے لوگوں کے قلوب بھر جاتے اور یوں نہ ہوتا جیسے دوسروں کے خطبات ہوا کرتے ہیں۔ کہ مخلوقات کے مشترکہ امور مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسے زندگی (کے) آلام پر نور خوانی۔ موت کا خوف دلانا۔ حالانکہ یہ ایسے امور ہیں جن سے قلب میں پھر بھی ایمان باللہ توحید اور معرفت وغیرہ حاصل نہیں ہوتی۔ نہ تذکیر بایام اللہ حاصل ہوتی ہے۔ نہ دیدار الہی کی ترکیب پیدا ہوتی۔ اس طرح سامعین سن کر واپس چلے جاتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے، جب وقت آتا ہے مر جاتے ہیں۔ زر و مال تقسیم ہو جاتا ہے اور مٹی ان کے اجسام کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ افسوس صد افسوس اس طرح کے خطبوں سے کون سا ایمان کون سی توحید، معرفت اور علم نافع حاصل ہو۔

جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے خطبات کو پڑھے گا۔ تو محسوس کر لے گا۔

ذکر ان کے خلیات، ہدایت و توحید پروردگار جل و عز کی صفات کے تذکرہ اور انی اللہ کلیات ایمان کے اصول اور انعاماتِ الہیہ کر جن سے وہ اپنی مخلوق کو محیوب رکھتا ہے۔ اور تنکہ یام اللہ کر جن سے وہ اپنی قہارتیت ہے ڈرا تا ہے۔ نیز اس کے ذکر و شکر پرستیں ہیں۔ تاکہ وہ اللہ کی عظمت و صفات اور اس کے اسمائے مبارکہ کا ذکر کریں۔ (الغرض)

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ) انہیں اللہ کی طاعت و شکر و ذکر کا حکم فرماتے۔ اس طرح سامعین (و عظمن کر) واپس ہوتے۔ تو وہ اللہ کے محب ہوتے اور خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا۔

---

# خطباتِ نبوی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور اس کی نوعیت کیفیت

زمانہ گزر تاریخ اور نور نبوت نظروں سے او جبل ہونے لگا۔ شرائع دادا منے رسولوں کی صفت اختیار کر لی۔ ان کے اصل مقاصد و حقائق سے یکسریے پرواہ کرنا نہیں ادا کیا جانے لگا۔ لوگوں نے حسب دل خواہ سورتیں گھڑلیں اور ان کی زیب وزینت میں لگ گئے۔ انہوں نے رسول مولانا کو سنت قرار دے لیا، جو اس مشرف کے سزاوار نہ تھے۔ اور لا اینی مقاصد کے پیچے جل پڑے۔ انہوں نے اپنے خطبیوں کو مجمع اور علم بدینے سے مرصع کرنا شروع کر دیا، جس کا تیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا تعلق خاطر اور اصل مقصد کم بلکہ معدوم ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات محفوظ ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر قرآن مجید اور خصوصاً سورۃ ق میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ام ہشام بنت حرث بن فلانی ہیں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سے ہی سورۃ حظٹ کرنی ہے۔

**آپ کی طرف ایک مسوب خطبہ** ایز حضرت علی بن زید، بن جدر عان کی ایک ضعیف رقة ہے کہ آپ کا جو خطبہ محفوظ ہے وہ یہ ہے۔

اسے لوگوں باللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ (توبہ کرو) اس سے قبل کہ تمہیں موت آئے اور شک کاموں میں عجلت کرو اور کثرت ذکر خفیہ اور علاویہ صفات کے ساتھ اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان تعلق دھیت، پسیدا کرو تمہیں اس کا اجر ملے گا، تم قابلِ ستائش قرار دیے جاؤ گے تمہیں شق

ٹے گا اور جان لو کر بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرض کیا ہے۔ اس بجھ کا اس ہمینے میں، اس سال میں یہ قیامت تک فرض (عین) رہے گا جو اس فرض کو ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو یا جس نے میری زندگی میں یا میری وفات کے بعد اس سے انکار کیا یا ازراہ استخفاف (تمولیٰ بت) بمحکم کر، اسے چھپوڑ دیا اور اس کا کوئی عادل یا ظالم امام بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پر لگنہ کر دے گا۔ اور اس کے کاموں میں برکت نہ دے گا۔ خبردار (بادرکھو) کر اس کی کوئی خواز نہیں۔ خبردار اس کا کوئی وضو نہیں۔ خبردار اس کا کوئی روزہ نہیں۔ خبردار اس کا کوئی مذکوہ نہیں۔ خبردار اس کا کوئی حج نہیں۔ خبردار اس کے کاموں میں کوئی برکت نہیں، جب تک وہ توبہ نہ کرے اگر اس نے توبہ کرنی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ نیز آپ کا محفوظ خطبہ یہ بھی منقول ہے۔

**آپ کی طرف منسوب ایک اور خطبہ** ﴿الحمد لله أستعينه واستغفر له ونفعه  
بِاللهِ مَنْ شَرَوْرُ اَنفُسِهِ مَنْ يَهْدِي اَللَّهُ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَوْلَهُ هَاوِيَ لَهُ وَلَا شَهِدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ  
لَهُ وَلَا شَهِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا اَعْبُدُ لَوْلَهُ سُوْلَهُ - اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بِشِيرًا وَنَذِيرًا مِّنْ يَدِي  
السَّاعَةِ مَنْ يَطِعْ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ سُرِّشَ وَمَنْ بَعْضَهُمَا دَانَهُ لَا يَضْرِبُ الْأَنفُسَ  
وَلَا يَضْرِبُ اللَّهُ شَيْئًا﴾۔ (ابوداؤد)

یعنی، سب تعریفیں اللہ کے نئے ہیں میں اس سے مرد چاہتا ہوں۔ اسی سے بخشش چاہتا ہوں، ہم اپنے نفس کی شرارتیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گراہ کرے کے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، اس کے بعدے اور اس کے رسول ہیں (اللہ) نے انہیں حق کے ساتھ قیامت سے قبل بشارت دیئے والا اور ڈرانے والا اپنا کر مبعوث فرمایا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ خوش بخت ہوا اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اللہ کا کچھ نہ بگاڑ۔

سکے گا۔

**خطبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبۃ** [ جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی انگلیں سرخ ہو جاتیں۔ آپ کی آواز بلند ہو

جاتی اور آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جیسے کوئی حملہ سے ڈرارہا۔ آپ فرمایا کرتے تھے بلدی صحیح یا شام (اور بیس) (انیز) فرمایا کرتے کر جسے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا۔ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، پھر دریافی اور شہادت کی انگلی کو جوڑتے اور فرماتے ہے۔

آتا بعد، بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ سنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور تمام امور میں سے بدترین بدعات ہیں اور بدعت گرا ہی ہے!!

پھر فرماتے کہ میں ہر مومن کا اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ (خیر خواہ) ہوں جس نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل کا ہے اور جس نے قرضہ چھوڑا ہو تو وہ میری طرف اور میرے ذمے ہے (مسلم) آپ مختصر ساختہ دیتے اور نماز طویل کرتے، ذکر انہی کثرت سے کرتے اور جامع کلام فرماتے اور آپ فرمایا کرتے آدمی کی طویل نماز اور مختصر خطبہ اس کی فناہت (سبھر) کی علامت ہے اور آپ اپنے خطبات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو قواعد اسلام اور شریعت سکھاتے۔

جب کبھی کسی کام کے حکم یا ممانعت کی ضرورت ہوتی تو آپ خطبہ میں بتا دیتے یا منع کرتے جیسا کہ خطبہ دیتے وقت ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، وہ کہتیں پڑھ لو۔

اسی طرح لوگوں کی گرد نہیں چاہندے واسے کو منع فرمایا اور بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ کبھی کبھی آپ کسی ضرورت یا کسی صحابی کے سوال پر خطبہ منقطع کر دیتے اور وہ ضرورت یا حاجت پوری فرماتے پھر آپ خطبہ کی طرف لوٹ کر اسے مکمل فرماتے۔

بس اوقات آپ کسی ضرورت سے منبر سے بھی اتر گئے۔ پھر واپس آکر اسے کامل فرمایا جیسا کہ حضرت حسن و حسینؑ کو گود میں اٹھانے کے لئے آپ منبر سے اترے، انہیں گود میں بیا، پھر اسی طرح نئے نئے منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ مکمل فرمایا۔

کبھی آپ خطبہ میں کسی کو بلاستے اور فرماتے ہیں۔ نہ لام بیٹھ جا، اسے فلاں نماز پڑھو وغیرہ۔ خطبہ میں تقاضائے وقت و ضرورت کے مطابق تقریر فرماتے۔ جب کسی کو آپ ضرورت مند یا بھوکا دیکھتے تو صاحبہ کو صدقے کا حکم دیتے اور ترغیب دیتے۔

خطبہ میں آپ دعایا ذکر اللہ کے موقع پر شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے۔

جب بارش کم ہوتی تو خطبہ میں آپ بارش کے لیے دعا کرتے۔

محمد کے خطبہ میں آپ تاخیر کرتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے، جب جمع ہو جاتے تو آپ تنہایتی کسی طرح کے اظہار خنوت کے تشریف لاتے، ز آپ کے آگے آگے کوئی ندادے رہا ہوتا اور ز آپ طیستان (سبز چادر، خاص قسم کی) زیب تن کیتے ہوتے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو پیش قدحی کر کے خود صاحبہ کو سلام کرتے، جب منبر پر چڑھتے تو لوگوں کی طرف چھرو کر لیتے، انہیں سلام کرتے، پھر بیٹھ جاتے اور حضرت بلاں اذان شروع کر دیتے۔

جب (حضرت بلاں) اذان سے فارغ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ اذان و خطبہ کے درمیان بغیر و قفس کے کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خطبہ شروع کر دیتے۔

آپ تلوار یا کوئی چیز ما تحمل میں نہ لیتے بلکہ منبر بننے سے قبل تیر اور کمان پر ٹیک لگاتے رہا ان میں آپ کمان پر ٹیک لگایا کرتے تھے اور جمعہ کے موقع پر آپ عصار پر ٹیک لگاتے۔ آپ سے یہ مروی نہیں کہ آپ نے تلوار پر ٹیک لگائی ہو اور بعض جہلاء جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تلوار پر ٹیک لگایا کرتے تھے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین تلوار سے قائم ہوا یہ بعض جہلات ہے۔ منبر کے بن جانے کے بعد آپ سے مروی نہیں کہ آپ نے تلوار یا تیر و کمان کے فدیوں منبر پر قدم رجھہ فرمایا ہو اور نہ دمنبری بن جانے سے قبل آپ نے تلوار پر ٹیک لگائی۔ بلکہ (اس وقت) معمولاً آپ تیر و کمان پر ٹیک لگایا کرتے۔

آپ کے منبر میں تین سینہ صیباں تھیں اور آپ منبر بننے سے قبل ایک کھجور کے تنہے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے اور جب آپ منبر کی طرف منتقل ہو گئے تو وہ کھجور کا تنار و پڑا اور اہل مسجد نے اس کا گریہ کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اسے چھٹایا۔

حضرت انسؑ فرماتے ہیں کہ جب کھجور کے تنہے نے دیکھا کہ وہ جو وحی ستارہ ہاتھا اس

سے حروم ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مفتود ہو گیا تو اس پر گردیداری ہو گیا۔ مبڑ کو مسجد کے درمیان نہیں بلکہ مخفی سمت میں دیوار کے قریب رکھا گیا اور مبڑ اور دیوار کے مابین ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ تھا اور جب آپ جمعہ کے علاوہ اس پر بیٹھتے یا جمعہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تو (صحابہؓ) کی طرف اپنا چہرہ انور گما لیا کرتے۔

**خطبہ میں آپ کا معمول** [جب آپ خطبہ دیتے تو کھڑے ہو جاتے۔ ذاد بر خطبہ دیتے کے بعد کچھ درکے لئے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور وہ بارہ خطبہ دیتے۔]

جب آپ خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلاں اقامت کہتے اور آپ لوگوں کو قریب ہو جاتے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے۔ «کہ اگر ایک آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہتے کہ ”خاموش ہو جاؤ“ تو اس نے بھی لغو درکت کی۔ اس کا جمعہ غارت گیا۔

اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔

اور ابی بن ععب روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن تبارک پڑھی اور ہمیں ایام اللہ یا جو دلائے۔ حضرت ابوالدرداء یا حضرت ابوقدس نے اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، یہ سودہ کب اتری ہے؟ کیونکہ ہمیں نے اسے آج تک نہیں سننا تو انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جب فارغ ہوئے تو کہنے لگے۔

میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ سودہ کب اتری تھی؟ تو تم نے مجھے بتایا نہیں:

انہوں نے فرمایا، آج تمہاری ہائل نماز نہیں ہوئی بلکہ محض لغویات کے مرتکب ہوئے۔

وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ تمام ماجلا بیان کیا۔ نیز جو لاپی بن کعب نے کہا وہ بھی بتا دیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، «ابی ثوبے پس کہا؟»

اسے ابن ماجہؓ اور سعید بن منصور نے ذکر کیا ہے اور اصل روایت مسند امام احمد

میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں تین آدمی حاضر ہوتے ہیں۔ ایک تو بخواہ کرتا ہے وہی اس کا حصہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے قبول کر لیتا ہے اور چاہے روک لیتا ہے آدمی خاموشی اور سکوت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے لوگوں کی گرد نہیں پھاندتا، نہ کسی کو ایذا دیتا ہے۔ تو اس کی (نماز جمعہ) دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور تین دن کا مزید (اجر) ملتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

من جاعر بالحسنة - فلنَّ عشراً مثالها -

یعنی "جس نے ایک نیکی کی اسے دس گناہ سے گھپلے گا"

(مسند امام احمد، ابو داؤد)

# نماز جمعہ سے پیشتر

## سننیں پڑھنی چاہئیں یا نہیں

حضرت بلالؓ اذان سے فارغ ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر دیتے اور کوئی آدمی اس وقت نماز نہ پڑھتا۔ صرف ایک ہی اذان ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ نماز عید کی طرح ہے، جس سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ علماء کرام کے اقوال میں سے یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ اور سنت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے اور جب میر پدر جڑھتے تو حضرت بلالؓ جمعہ کی اذان دیتے اور جب اذان ختم ہوتی تو کسی وقفر کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینا شروع کر دیتے۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں آنکھوں نے دیکھا۔ پھر سننیں پڑھنے کا کب موقع لوگوں کو ملتا تھا۔

جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت بلالؓ کے اذان سے فارغ ہوتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جاتے اور درکعت سنت ادا کرتے تو ایسا خیال کرنے والا سنت سے بالکل جاہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بتاچکے کہ جوسر سے قبل کوئی سنت نہیں۔ امام مالکؓ کا یہی مذہب ہے اور مشہور قول کے مطابق امام احمدؓ کا بھی یہی مذہب ہے۔

**امام شافعیؓ اور ان کے ہم خیال** امام شافعیؓ اور دیگر ائمہ کرام جن کا خیال یہ ہے کہ جمعہ کی سننیں ہیں۔ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے۔ یہ (جمعہ) ظہر مقصودہ (قصر شدہ) ہے۔ اس لیے اس پر احکام ظہر نافذ ہوں گے۔ یہ بہت ہی ضعیف ہے میں

ہے۔ کیونکہ محمد ایک مستقل نماز ہے جو نماز ظہر سے جہر قرأت، تعداد رکعات، خطبہ، وقت اور شروط معتبرہ کے لحاظ سے یکسر مختلف ہے اور بعض نے صحیح بخاری کی روایت سے استدلال کیا ہے جو انہوں نے "باب الصلوٰۃ قبل الجمٰع و بعدہ" میں روایت کی ہے کہ انہیں عبد اللہ بن سیف سے، انہیں نافع سے، انہیں حضرت ابن عمرؓ سے روایت پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ظہر سے قبل اور بعد میں دور کعبت پڑھا کرتے اور مغرب کے بعد دور کعبت پڑھتے اور عشاء سے قبل دور کعبت پڑھتے اور جمعہ کے بعد کچھ نہ پڑھتے پھر گھر آ کر دور کعتین پڑھتے۔ یہ دلیل نہیں میں سکتی۔ اور بخاریؓ نے اس میں جمعہ سے قبل سنن کو بیان نہیں کیا۔ بلکہ ان کا مطلب تو یہ ہے کہ کیا جمعہ سے قبل یا بعد میں کوئی نماز پڑھنا نہ کوہ ہے؟ پھر یہ روایت بیان کی۔ اور اس میں مجھے صرف جمعہ کے بعد سنن کا تذکرہ کیا۔ اور اس سے قبل کچھ بیان نہیں کیا۔

**کیا جمعہ ظہر کا بدال ہے؟** [بعض کا خیال ہے ہے کہ چونکہ جمعہ ظہر کا بدال ہے اور ظہر سے قبل اور بعد میں سنتیں از روئے حدیث مروی نہیں اس

یہے جمعہ میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور جو یہ فرمایا کہ اپنے جمعہ کے بعد گھر جانے کے بعد سنتیں پڑھا کرتے تو اس سے صرف جمعہ کے بعد سنتوں کا وقت بتانا مقصود ہے یہ غلط خیال ہے کیونکہ امام بخاریؓ نے "باب التلوع بعد المكتوبۃ" میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظہر سے قبل دور کعتین، ظہر کے بعد دور کعتین، مغرب کے بعد دور کعتین، عشاء کے بعد دور کعتین اور جمعہ کے بعد دور کعتین۔ اس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حابہؓ کے نزدیک جمعہ کی نماز ظہر کی نماز سے عیینہ ایک مستقل نماز ہے ورنہ اسے ظہر کے تحت سمجھتے ہوئے اس کو عیینہ طور پر پوچش نہ کرتے اور جب اس کی سنن کا ذکر بعد میں ہوا تو معلوم ہوا کہ (جمعہ) سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ اور بعض نے ابو داؤدؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے، فرمایا، ہمیں مسد دنی اہمیں اسماں میں نے اہمیں ایوب نے بتایا اہمیں حضرت نافعؓ سے روایت پہنچی کہ حضرت ابن عمرؓ جمعہ سے پہلے طویل نماز پڑھا کرتے اور بعد ازاں اپنے گھر میں دور کعتین پڑھتے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل نہیں تھی جمعہ سے پہلے بھی سنتیں ہیں بلکہ ان کے اس قول "نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ایسا ہی کام کرتے تھے یہ کام طلب یہ ہے کہ آپ جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دور کعین پڑھا کرتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے اور یہ افضل ہے جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں دور کعین پڑھا کرتے تھے۔

سنن میں حضرت ابن عمرؓ کے متعلق منقول ہے کہ جب وہ مکہ میں تھے تو انہوں نے جمع کی نماز پڑھی، گھر میں تشدیف لائے اور دور کعت (سنن) پڑھیں مگر مسجد میں نہ پڑھیں۔ ان سے ددیافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ رہا جمعہ سے قبل حضرت ابن عمرؓ کی طوال نماز تو مطلقاً نوافل تھے اور جو آدمی بھی جمعہ کے لیے حاضر ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ امام کے آنے تک نماز میں مشغول رہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت نبی شہزادی کی روایت گزاری جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے بتایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور مسجد میں حاضر ہو پھر جس قدر اس کے متعدد میں ہے نماز پڑھے، پھر خاموش رہے۔ یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو جائے، پھر اس کی اقداد میں نماز پڑھے تو اس کے اور دوسرے جمعہ کے درمیان تک جتنے اس کے (گناہ) ہوں گے وہ بخشنے جائیں گے اور تین دن کا مزید (اجر) ملے گا اور نبی شہزادی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے، پھر مسجد کی طرف اس طرح حاضر ہو کر (لامن) میں کسی کو ایذا نہ دے۔ اب اگر امام کو مسجد میں حاضر نہ دیکھے تو حسپ استطاعت نماز پڑھے۔ اور اگر امام آپکا ہوتونے اور خاموش رہے۔ یہاں تک کہ امام جمعہ اور تقریر ختم کرے اگر اس جمعہ کو اس کے تمام سابقہ گناہ نہ بھی بخشنے کئے تو بھی اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ضرور ہو گا۔ یہی صحابہؓ کا طریق مسنونہ تھا۔

**ابن عمرؓ کے طرزِ عمل سے استدلال** [ابن منذر فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن عمرؓ کے متعلق روایت ملی ہے کہ وہ جمعہ سے قبل یاد کرنس پڑھا کرتے اور ابن عباسؓ ائمہ پڑھا کرتے۔

یہ تمام مباحثت اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مطلقاً نوافل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مروی تعلیمات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ترمذیؓ نے جامع میں اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ وہ

جماع کے دن نماز جمعہ سے قبل چار رکعتیں پڑھا کرتے۔ ابن مبارک<sup>ؓ</sup> اور ثور حنفی کا یہی مذہب ہے۔ اور اس علیؓ بن ابراہیمؓ بن ہانی ہرشا پوری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ کو دیکھا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو وہ نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ سورج ڈھلنے کے قریب ہو جاتا۔ جب زوال قریب ہو جاتا تو وہ رک جاتے یہاں تک کہ مئون آذان دیتا، جب آذان ہو جاتی تو اٹھتے تو دو یا چار رکعتیں پڑھتے اور دو رکعتوں پر سلام سے فصل کرتے چنانچہ جب فرض نماز پڑھ لیتے تو مسجد میں مُسْهَرَتے پھر بعد میں مسجد سے نکلتے اور کسی چھوٹی سی قریب کی مسجد میں جاتے اور دو رکعتیں مزید پڑھتے۔

اس طرح حضرت علیؓ کی روایت کے مطابق یہ چھر رکعتیں بن گئیں۔ بسا اوقات آپ ان چھر کے بعد یا کم و بیش مزید پڑھتے۔

بعض لوگوں نے حدیث سے اس کے مسنون ہونے پر استدلال کیا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ، میں محمد بن میخی سے انہیں یزید بن عبد اللہ سے انہیں بقیرہ سے انہیں مبشر بن عبید سے انہیں حجاج بن ارطاة سے انہیں عطیہ عوفی سے انہیں ابن عباس سے روایت پہنچی انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے قبل چار رکعتیں پڑھتے جن میں کوئی فصل نہ ہوتا۔ ابن ماجہؓ نے "باب الصلوٰۃ قبل الجمٰع" میں ذکر کیا ہے۔

اس روایت میں کئی انتقام ہیں:-

۱۔ ایک تو یہ کہ بقیرہ بن ولید مدرسین کا امام ہے، اس کا سامع صراحت سے مذکور نہیں اور وہ معن بھی ہے۔

۲۔ دوسرے مبشر بن عبید مذکور اوری ہے۔

۳۔ تیسرا حجاج بن ارطاة ضعیف مدرس ہے۔

۴۔ چوتھے عطیہ عوفی کے متعلق امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ ہشیمؓ اس میں کلام فرماتے تھے اور امام احمدؓ نے اسے ضعیف قرار دیا۔ اور عبد اللہ بن احمدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی کو فرماتے سننا کہ ایک شیخ جسے مبشر بن عبید کہتے تھے حص میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ہے اور اس سے بقیرہ اور ابو میر وغیرہ روایت کیا ہے۔ اس کی تمام احادیث موضوع اور جھوٹ دکا پلندہ ہیں۔

امام دارقطنی اگر فرماتے ہیں کہ مبشر بن عبید متروک راوی ہے اس کی روایات کا اتباع نہیں کیا جاتا  
امام بہقی فرماتے ہیں کہ عطیہ عوفی قابل استدلال نہیں اور مبشر بن عبید مقص وضع روایات سے  
فسوب ہے۔ اور حجاج بن ارطاة بھی قابل محبت نہیں ہے۔

اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ دیتے تو اپنے گھر تشریف لے جاتے اور دو رکعت سنت پڑھتے اور حکم دیتے کہ جو پڑھ لے وہ اس کے بعد چار پڑھے۔

ہمارے شیخ ابو عباس ابن قمیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں پڑھتے تو چار رکعتیں پڑھتے اور اگر اپنے گھر میں پڑھتے تو دو رکعتیں پڑھتے میں کہتا ہوں کہ احادیث کا ہی مفہوم ہے اور الوداع نے حضرت ابن عذر سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب وہ مسجد میں پڑھتے تو چار رکعتیں ادا کرتے۔ اور جب گھر میں پڑھتے تو دو رکعتیں پڑھتے اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ملی ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ دکی نماز پڑھ سے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد چار رکعتیں پڑھ لے۔ واللہ عالم !

سلہ یہ اور اس طرح کے دوسرے مباحثت دراصل فہمی سائل ہیں۔ علمی طور پر بحث و نظریہ دوسری چیز ہے، لیکن اگر فہمی پر مشتمل درکار ہو تو پھر کتب فقہہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور نہ غلط روی اور غلط فہمی کا انداز پڑھنے ہے۔

(دُلیس احمد جعفری)

# نماز عیدین

نماز عید کے لئے آپ ایک راستے سے جاتے  
اور دوسرا سے آتے تھے

عید کی نماز ہمیشہ عیدگاہ میں [نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز (عید) پڑھا کرتے یہ عیدگاہ (جائز نماز) مدینہ کے شرقی دروازہ کے پاس تھی۔ یہ وہی عیدگاہ ہے جہاں حاجیوں کا محل رکھا جاتا ہے۔

مسجد (نبوی) میں نے صرف ایک مرتبہ جب بارش ہو گئی تھی۔ نماز عید پڑھی چنانچہ آپ نے لوگوں کو وہیں نماز پڑھانی۔ بشرطیکہ یہ روایت، جو سنن ابو داؤد اور ابن حجر میں وارد ہوتی ہے ثابت بھی ہو۔

آپ کی سنت طیبیہ یہ تھی کیا آپ نے ہمیشہ دونوں عیدوں کی نمازوں میں پڑھی۔ (عیدگاہ) جاتے وقت آپ سب سے بہترین بناس زیب تن فرماتے۔ آپ کے پاس ایک بناس تھا جیسے عیدین اور جمعہ کے موقع پر زیب تن فرماتے۔ ایک بار آپ نے دو سبز حادروں اور ایک بار سرخ چادر کا استعمال فرمایا۔ لیکن یہ چادر بالکل سرخ نہ ہو گی جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کے لیے چادر (برد) کا لفظ نہ استعمال ہوتا۔ واقعہ یہ ہے اس میں فقط سرخ دھاریاں تھیں۔ جیسے عام طور پر متنی چادریں ہو کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اسے سرخ چادر سے تعبیر کر دیا گیا۔ وہ نہ بغیر کسی تعارض کے آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے زرد اور سرخ

بلاس سے منع فرمایا ہے بچنا نجیب حضرت عبد اللہ بن عفر کے یوں پر حجب و سرخ کپڑے دیکھئے تو آپ نے انہیں جلا دینے کا حکم دیا، پس یہ نامکن تھا کہ اس زنگ میں اس قدر سخت ترین گات بھی پائی جائے اور پھر صحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کریں اور یہی پیزی اس بات کی شاہد ہے کہ سرخ بلاس حرام یا شریدر مکروہ ہے۔

آپ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے قبل چند محبوسین تناول فرمائیتے۔ آپ انہیں وتر رطاق عدو) میں لکھاتے۔ البتہ عید الفتح کے موقع پر عید گاہ سے واپس آجائے تک کچھ نہ کھاتے۔ واپس آنے کے بعد، آپ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔

**آداب نماز عیدین** | دونوں عیدوں کی نماز (سے قبل)، آپ غسل فرماتے (صحیح حدیث) آپ پہلی تشریف لے جاتے۔ نیزہ آپ کے آگے آگے لے جایا جاتا جب عید گاہ میں پہنچتے تو آپ کے سامنے نصب کر دیا جاتا تاکہ اس کی آڑ بنا کر نماز پڑھ سکیں۔ کیونکہ ان دونوں عید گاہ ایک کھلائی میدان ہوتا تھا، جس میں کوئی عمارت یا دیوار موجود نہ تھی اور آپ کھوج (نیزہ) ہی آپ کے لیے سُترة کا کام دیتا تھا۔

آپ عید الفطر کی نماز میں تاخیر فرماتے اور عید الفتح کی نماز میں تعجب فرماتے۔ حضرت ابن عفر اتباع سنت کی شدت کے باعث طلوع شش سے قبل گھر سے نہ نکلتے اور گھر سے نکلتے ہی عید گاہ تک تکمیر کرتے رہتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں پہنچتے تو اذان، اقامۃ یا الصلوۃ جامعت جیسے کلمات کہے بغیر ہی نماز شروع فرمادیتے۔ اور سنت یہی ہے کہ ان میں سے کوئی فعل نہ کیا جائے آپ اور آپ کے صحابہؓ جب عید گاہ میں پہنچتے تو عید گاہ سے قبل کوئی (نفل وغیرہ) نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے اور خطبہ سے پہلے نماز شروع کرتے۔ اس طرح آپ دو رکعتیں او کرتے۔ پہلی رکعت میں تکمیر اولیٰ اسمیت سات مسلسل تکمیریں کہتے اور ہر دو تکمیریں کے درمیان ایک بلکا ساوقہ ہوتا۔ تکمیرات کے درمیان آپ سے کوئی مخصوص ذکر مردی نہیں۔ حضرت ابن عفر اتباع سنت کی شدت کی وجہ سے ہر تکمیر کے ساتھ رفع یہیں کرتے تھے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تکمیریں ختم فرماتے تو قرأت شروع کرتے۔ یعنی سحدہ پھر اس کے بعد سورۃ ق

والقرآن المجید ایک رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ و انشق القمر پڑھتے بسا اوقات آپ دور کھتوں میں سبھ ۱۸ اسم ربک اللہ علی اور حمل ۲ تاک حدیث الفاشیہ پڑھتے۔ یہ آپ سے صحیح طور پر مروی ہے، اس کے علاوہ صحیح روایت میں کچھ اور مروی نہیں، جب قرأت سے فارغ ہو جاتے تو تکبیر کہتے اور رکوع میں چلے جاتے پھر ایک رکعت مکمل کرتے اور سجدہ سے اٹھتے (پھر) پانچ بار سلسلہ تکبیر میں کہتے جب تکبیر میں مکمل کرنے تو قرأت شروع کر دیتے۔ اس طرح ہر رکعت کے آغاز میں تکبیر میں کہتے اور بعد میں قرأت کرنے امام ترمذیؒ سے حضرت کثیر بن عبد اللہ بن عمر و بن عوف کی روایت سے منتقل ہے کہ انہیں اپنے والد سے انہیں اپنے دادا سے روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر مہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیر میں کہیں اور دوسری میں قرأت سے قبل پانچ تکبیر میں کہیں اور دوسری میں قرأت سے قبل پانچ تکبیر میں کہیں۔ ترمذیؒ کا قول ہے کہ میں نے محمد بن عینی امام بخاریؒ سے اس روایت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس پاب میں اس سے زیادہ صحیح روایت کوئی اور نہیں اور میں بھی اسی پر فتویٰ دیتا ہوں۔

تذکرہ و معظمت کا سلسلہ | نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے تو فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے۔ لوگ صفوں پر بیٹھے ہوتے تو آپ ان کے سامنے وعظ کہتے، وصیت کرتے اور امر و نہی فرماتے اور اگر رشکر مجہضا چاہتے تو اسی وقت بھیجتے یا کسی بات کا حکم کرنا ہوتا تو حکم فرماتے۔ عید گاہ میں کوئی منبر نہ تھا جس پر چڑھو کر دو ععظ فرماتے ہوں) نہ مدینہ کا منبر بہاں لایا جاتا، بلکہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر تقریب کرتے۔

حضرت جابرؓ بتاتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں ہوا تو آپ نے خلبہ سے پہلے اذان اور اقامۃ کے بغیر نماز شروع کی۔ اس سے فارغ ہو کر حضرت بلاںؓ کے کاندرے کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا، اس کی اطاعت کے رغبت دلائی اور نصیحت کی اور پھر (انعامات خداوندی وغیرہ) یادو لائے۔ پھر آپ خواتین کی طرف تشریف لے گئے۔ اور انہیں نصیحت کی کہ متفق علیہ)

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الحرمی کے موقع پر عید گاہ میں جاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھتے پھر فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لاتے اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوتے (مسلم) حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو لوگوں کے ساتھ دو رکعت نماز (عید) پڑھتے پھر سلام پھیر کر اپنی سواری پر چڑھ کر لوگوں نے سامنے تشریف لاتے، لوگ بیٹھے ہوتے ان سے آپ فرماتے صدقہ کنو وہ یہ سن کر اکثر عورتیں مختلف اشیاء انگوٹھی اور بندوں کا صدقہ کرتیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوئی مثلاً کسی (فدا الشکر) کو صحیحبا ہوتا تو آپ اسے سرانجام دیتے ورنہ واپس تشریف لے جاتے اور مسیحین میں بھی حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے نماز پڑھی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دریا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو آپ اتر ڈرے، پھر عورتیں حاضر ہوئیں تو انہیں نصیحت کی (الحدیث)، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کبھی منبر پر اور کبھی سواری پر خطاب فرماتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچی اینٹوں کا یا مٹی کا کوئی منبر بنایا گیا ہو۔ ان دونوں روایتوں کی صحت میں کوئی شک بھی نہیں اور اس میں بھی کوئی مشک نہیں کہ مسجد (نبوی) سے منبر نہیں لے جایا جاتا تھا سب سے پہلے جس نے اسے (مسجد نبوی) سے نکلا وہ مردان بن گم (اسموی) تھا۔ اس کی مخالفت کی گئی۔ (مرا یا کچی اینٹوں یا مٹی کا منبر تو سب سے پہلے مردان کی

لے اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورت اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ شوہروں کو صدقہ کی ترغیت دیتے، نہ کہ عورتوں کو، یا یہ ہوتا کہ عورتیں یہ ارشاد سن کر، اپنے شوہروں تک آپ کا یہ ارشاد پہنچاتیں اور وہ جو کچھ دینا چاہتے دے دیتے۔ لیکن عورتوں نے بھی ایسا کرنے کے مزورت نہیں محسوس کی۔ ارشاد نبوی سننا اور وہیں بیٹھے بیٹھے جو چیزیں پاس تھیں۔ ان میں سے جو چاہا دے دیا، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو مال بیوی کا ہو، خواہ ذاتی طور پر یا شوہر کا دیا ہو جاؤ اس پر تصرف میں وہ شوہر کی اجازت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ بطور خود جو چاہے کر سکتی ہے۔  
(رئیس احمد جعفری)

امارت کے تحت مدینہ میں کثیر بن صلت نے (منبر) بنایا جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ لہذا غالب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں کسی اونچی جگہ کھڑے ہو جاتے اسے دیکھو تو رہ کر ہبہا تھا۔ پھر آپ وہاں سے اتر کر عورتوں کی طرف تشریف لاتے اور ان کے سامنے خطاب اور وعظ فرماتے اور نصیحت فرماتے۔

خطبات کا آغاز حمد و شنا سے آپ تمام خطبات الحمد للہ (اللہ کی حمد و شنا) سے شروع کرتے کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے عیدین کا خطبہ تکبیر سے شروع کیا ہو، سنن ابن ماجہ میں حضرت سعید سے مردی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے کہ نبی مصلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں کثرت سے تکبیر کرنا کرتے اور عیدین کے خطبات میں تو ان کی اور ہبہ کثرت ہو جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خطبات عیدین کا افتتاح تکبیروں سے آپ کرتے تھے، بلکہ عیدین واستقاء کے خطبات کے افتتاح میں لوگوں کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا افتتاح تکبیر سے ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ خطبہ استغفار کا افتتاح استغفار سے ہو گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ الحمد سے ہو گا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فرمان ہے کہ ہبہ تکبیر (موخر صورت) ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کوئی کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ ہو گا وہ بے کار اور راگاں ہے۔

آپ اپنے تمام خطبات الحمد للہ (اللہ کی حمد) سے شروع کرتے۔ آپ نے تماس حاضرین کو اجازت دی، چاہیں تو بیٹھیں اور چاہیں تو چلے جائیں اور اس کی اجازت دی کہ اگر جمعہ کے دن عید آجائے تو جمعہ کے باعث غماز عید مختصر کر دیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم (عید گاہ میں) جاتے وقت مختلف راستوں سے آتے جاتے ایک راستے سے تشریف لاتے اور دوسرے راستے سے جاتے۔ بعض نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے ”تاکہ دونوں راستوں کے مکینوں کو سلام کر سکیں“ اور بعض کے نزدیک مقصد یہ تھا کہ دونوں گروہ آپ کی برکت حاصل کر سکیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ دونوں راستوں کے حاجت مندوں کی ضرورت پوری کر سکیں۔ ایک قول کے مطابق اس طرز عمل کا فرشا یہ تھا کہ تمام راستوں اور شاہراہوں میں اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو سکے۔ ایک قول کے مطابق یہ تھا کہ اسلام اور اہل اسلام کی

عزت و شوکت، نیز اس کے شعائر کا قیام دیکھ کر منافقین جل اٹھیں اور ایک قول کے مطابق مقصود یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ زمین کا ہر لکڑا گواہی دے۔ کیونکہ مسجد اور عیدگاہ میں جانے والے کے ہر قدم پلاس کا ایک درجہ بلند ہو گا۔ اور دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہو گا۔ اسی طرح وہ گھر لوٹ کر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے۔

نیز مروی ہے کہ آپ عرف کے دن فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی نماز عصر تک اس طرح تکبیریں کہتے۔

أَللَّهُ أَكْبَرُ، أَللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا إِلَهَ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔

# نماز کسوف

## سورج گھن کے موقع پر آنحضرتؐ کا اسوہ

**نماز کسوف آپؐ نے کس طرح پڑھی؟** | جب سورج گھن میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدم اٹھاتے گویا سراسر ایمکنی کے عالم میں پشت مبارک پر چادر والے برآمد ہوتے (ایک مرتبہ) کسوف (سورج گھن) کی کیفیت یہ تھی کہ دن کے شروع میں دو یا تین نیزے تک آفتاب بلند ہوا تھا کہ گھن میں آگیا۔ فوراً ہی آپؐ (مسجد) میں آئے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک طوبیل سورت پڑھی اور جہر (یہ آواز بلند) سے تلاوت کی۔ پھر رکوع کیا اور دیر تک رکوع میں رہے۔ پھر رکوع سے سراٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے۔ لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ جب سراٹھایا تو فرمایا۔

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ كَمْ سَمِعَ بَنَالَكَ أَنْحَمَدَ -

یعنی؛ جس نے (اللہ) کی تعریف کی۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ اے ہمارے پروردگار تو ہی سزاوار ہے۔

پھر قرأت متروع فرمائی، پھر رکوع کیا جو دیر تک جاری رہا۔ لیکن رکوع پہلے رکوع سے کم (طوبیل) تھا، پھر رکوع سچھاٹھایا، پھر ایک طوبیل سجدہ کیا اور اس سے خوب طول دیا۔ پھر دوسرا رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کیا۔ اس طرح ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدہ سے بن گئے

گویا آپ نے دو رکعتوں میں چار رکوع اور چار سجدے کیے۔

آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اس نماز میں آپ نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور ارادہ کیا کہ جنت میں سے (انگور کا) ایک

خوشہ توڑ لیں اور وہ (صحابہؓ) کو دکھائیں اور آگ میں دوزخیوں کو بھی دیکھا (نیز) ایک عورت دکو دوزخ میں) دیکھا کہ ایک بتی اسے فوج رہی ہے (جسے بے دردی سے) اس نے پاندھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ جھوک اور پیاس سے مر گئی اور عورت بن مالک کو دیکھا جو آگ کے اندر اپنی اٹی میں گسیٹ رہا ہے اور یہ پہلا آدمی تھا۔ جس نے دین ابراہیم علیہ السلام کو بدل دیا اور اس میں حاجیوں کے ایک چور کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔

نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ کسی کی موت یا پیدائش پر گھن میں نہیں آتے۔ اس لینے جب تم یہ (صورت) دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تکبیر کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اسے امتحان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی قسم خدا سے زیادہ کسی کو اس پر غیرت نہیں آتی کہ اس کا بندہ زنا کرے، یا اس کی بندی زنا کرے۔ اسے امتحان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی قسم جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے یہ

نیز اس خطبہ میں ارشاد فرمایا۔

”میں نے اس بجگہ وہ چیز دیکھ لی، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ جنت کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ جب تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا تھا اور میں نے دوزخ کو بھی دیکھا کہ اس کا ایک جتہر دوسرے سے سخت تر ہو رہا تھا۔ جب تم نے مجھے پچھے پہنچتے دیکھا تھا۔ ایک نقطہ یہ ہے۔ کہ میں نے آگ کو دیکھا اور آج سے زیادہ ہونا کا منتظر بھی نہیں دیکھا اور میری طرف وحی کی گئی کہ قبروں میں تم اڑ مائے جاؤ گے یا قرب آمد و جہاں کے زمانے میں کوئی تم میں سے کسی کے پاس آئے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیجاں ہو؟ تو مومن۔ یا فرمایا کہ یقین رکھنے والا (مومن)۔ کہے گا کہ (یہ) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے

رسولی ہیں۔ ہمارے پاس دلائل اور بہایت لے کر تشریف لائے ہم نے قبول کیا۔ ایمان لائے اور اطاعت کی تو اس سے کہا جائے گا سو جاتو نیک ہے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ تو موسیٰ تنھا۔ اور منافق۔ یا فرمایا کہ مرتاب (شک کرنے والا) کئے گا، میں نہیں جانتا۔ میں نے لوگوں کو کچھ سمجھتے سناتو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔

دوسری روایت میں جو امام احمد بن حنبل نے تخریج کی ہے یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و شناکی اور پھر شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ (محمد صلعم) اس کے بعد سے، اس کے رسول میں۔ پھر فرمایا۔

”اسے لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں (یہ بتاؤ) کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے پورا کا کے پیغامات کی تبلیغ میں کچھ کمی کی؟“

ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی۔ اور جو آپ کے ذمہ داری ڈالی گئی تھی پوری کرو دی۔“

کسوف و خوف کا تعلق کسی کی زندگی یا موت سے نہیں [پھر آپ نے فرمایا، ما بعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ

اس سورج یا اس چاند کا گہن یا ان ستاروں کا اپنے مطالع سے بہٹ جانا اہل زمین کے بڑے بڑے لوگوں کی موت کے باعث ہوتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کے بعد ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ دیکھا ہے کہ ان میں سے کون تائب ہوتا ہے؟

خدا کی قسم جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ ہونے والے واقعات دیکھے اور خدا خوب جانتا ہے کہ قیامت تک نہ آئے گی جب تک تیس کذاب (ازحد جھوٹے) نہ آجائیں۔ آخری دکذاب، کاناد جمال ہو گا، جس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہو گی۔ گویا کہ الہ بخوبی کی آنکھ ہو۔ اور جب وہ خروج کرے گا تو جلدی ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے گا تو جو اس پر ایمان لائے گا۔ اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی اتباع کرے گا۔

کا گز شستہ کوئی نیک عمل اسے فائدہ نہ دے گا۔ اور جو اس کا انکار کرے گا، اس کی تکذیب کرے گا۔ اس سے کسی گز شستہ براہی (غلطی) پر موافخہ نہ ہو گا اور وہ حرم شریف اور بیت المقدس کے علاوہ بہت جلد ساری زمین پر گھوم جائے گا۔ اور وہ مسلمانوں کا بیت المقدس میں عاصروں کے گا۔ جس سے یہ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو جائیں گے، ان پر سراسی میگی طاری ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے شکر کو ہلاک کرے گا۔ یہاں تک کہ دیوار کی بنیاد پا درخت کی جڑ سے آواز آئے گی۔

اسے مسلمان، اسے مومن یہ بپروردی ہے۔

(یا فرمایا، کریم کافر ہے) اور اسے قتل کر دے۔

مردی ہے کہ آپ نے دوسرا طریقہ پر بھی نماز کسوف ادا کی ہے۔ مثلاً ہر رکعت میں تین رکوع اور ہر رکعت میں چار دکوع اور ایک صورت یہ بھی تھی جیسے عام نماز کی ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکوع ہو لیکن کبار احمد اس کی صحت کے قائل نہیں۔ جیسے امام احمد، امام بخاری اور شافعی اسے غلط سمجھتے ہیں۔

شافعیؒ کہتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا۔

بعض لوگوں کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں تین رکوع کیتے۔

شافعیؒ کہتے ہیں میں نے سائل سے دریافت کیا، آیا تمہاری بھی بھی رائے ہے؟ اس نے کہا نہیں تو لیکن آپ (اس کا فتویٰ) کیوں نہیں دیتے، جبکہ یہ آپ کی دو رکعت والی روایت میں ایک رکوع زیادہ بتایا گیا ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے منقطع ہے اور ہم متفرق پر منقطع کو ثابت نہیں کرتے۔ لہذا ہم اس وجہ کو قطعاً غلط سمجھتے ہیں۔

امام بیہقیؒ فرماتے ہیں شافعیؒ کا منقطع سے مطلب عبید بن عمر کا قول ہے۔ اور محمد بن عبید (کا ایک گروہ تعداد رکوع میں روایات کی تصحیح کرتا ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار (نماز کسوف) پڑھی۔ تو یہ تمام سورتیں جائز ہوں گی اس طرف اسحق بن راہویہ، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، ابو بکر بن اسحاق ضبطی اور ابو سليمان خطاہی گئے ہیں اور ابن منذرؒ نے بھی اسے صحیق

سبھا ہے اور امام بخاری و شافعی نے جو روایات میں ترجیح دی ہے وہ زیادہ اولی ہے اور میں بھی حضرت عائشہ کی روایت کی طرف جاتا ہوں اور اکثر روایات اسی پر مبنی ہیں اور یہی مذہب ابو یکثیر اور قدما کا ہے اور اسی کو استاذ ابوالعباس بن تیمیہ نے اختیار کیا ہے اور باقی تمام روایات کو وہ ضعیف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار نماز کسوف پڑھی تھی۔ جب اس دن گھن پڑھا۔ جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ اس موقع پر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی اور لوگوں کو ایسے موضع پر مذکرا ہی، نماز، دعاء و استغفار، صدقہ اور (غلاموں) کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔

---

## نماز استقامہ

**طلب باراں کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ**

**نبی اکرم کی دعائے استقامہ** | یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں پر بارش کی دعا فرمائی۔

ایک بار جوہر کے دن سبز پر خطبہ کے دوران آپ نے دعائے بارش کی، اور کہا:

اللهم اغثنا اللهم اغثثنا اللهم استقنا اللهم استقنا

یعنی، اے اللہ ہم پر بارش فرما، اے اللہ ہم پر بارش فرما۔ اے اللہ ہمیں پلا، اے اللہ ہمیں پلا۔

دوسرے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ ایک دن وہ میدان نماز میں باہر نکلیں گے۔ چنانچہ جب سورج نکل آیا تو آپ اس طرح برآمد ہوئے کہ سڑا خشوع تفرع بنے ہوئے تھے۔ یکسر خاکساری اور انکسار کا پہلو لیے ہوئے۔ جب آپ میدان نماز میں پہنچے تو منیر بندھوڑھے اگر یہ روایت درست اور صحیح ہو ورنہ کسی طریقہ پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا بیان کی، اس کی بزرگی بیان کی۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا اس کے یہ الفاظ منقول ہیں:-

”سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بلا امہراں نہایت رحم کرنے اور روز جزا کا اٹک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی (بے پرواہ) ہے

اور ہم محتاج ہیم پر بارش تازل فرمائے جو کچھ ہم پر نازل فرمائے ایک مدت تک  
معیشت اور گزران کا (سبب) بنادے۔

پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تضرع و اناہت اور دعائیں مشغول ہو گئے اور (اتھ)  
اوپنچا کرنے میں مبالغہ کیا۔ یہاں تک کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے  
لوگوں کی طرف پیٹھ کی اور قبلہ رخ ہو گئے اور اس وقت قبلہ رخ حالت میں آپ نے اپنی  
چادر کو جھی بدل لیا۔ چنانچہ دائیں طرف کو بائیں اور بائیں طرف کو بائیں کر لیا۔ پیٹھ کے حصہ کو سامنے اور  
سامنے کے حصہ کو پیٹھ کی طرف کر لیا۔ اس وقت آپ کے بدن پر سیاہ چادر تھی اور قبلہ رخ  
حالت میں آپ نے دعا شروع کر دی۔ لوگ بھی اسی طرح (قبلہ رخ) تھے۔ اخراً آپ اتر آئے۔  
پھر آپ نے نماز عید کی طرح نداواذان اور اقامۃ کے بغیر دو رکعتیں اوکھیں اور ان دو رکعتیں  
میں جہر (بآواز بلند) سے قرأت کی، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سبھی ۴ اسم ربیک  
الا علی اور دوسری میں هل اتاق حدیث الغاشیۃ کی تلاوت کی۔

تسیس اطراقہ یہ منقول ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن کے علاوہ کئی اور دن مدینہ کے منبر سے  
محض دھائے بارش کی۔ اس موقع پر آپ سے کوئی نماز استقامت منقول نہیں۔  
چوتھا یہ کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ نے دعائے بارش کی۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے  
اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہ ہے۔

اللهم اسقنا عیشا مغیثا مزیعا طبقا عاجلا غیر رائث نافعا غیر ضار۔

یعنی: اے اللہ ہماری تشکنگی ایسی بارش سے دور کر دے جو فریاد رس ہو، ارزان  
کرنے والی جلدی آئے، والی دیرہ کرنے والی، ففع دینے والی اور ضرر نہ دینے۔  
پانچویں یہ کہ آپ نے زوار کے قریب دعائیں جو مسجد کے دروازے سے باہر ہے۔ اور  
جسے آج کل باریں اسلام کہتے ہیں (اس وقت) آپ مسجد کے دائیں جانب اتنے ناصلہ پر  
تھے جتنی دور پھر پھینکا جاسکے۔

چھٹی بار آپ نے کسی غزوہ میں دعا کی۔ جب مشرکین نے سبقت کر کے پانچ پر قبضہ  
کر لیا تھا اور مسلمان بیاس سے یہ حال ہوا ہے تھے۔ انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

سے فریاد کی، اس موقع پر بعض منافقین کہنے لگے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی سیرانی کے لئے دعا مانگی تھی۔ اگر یہ نبی میں تو یہ بھی اپنی قوم کے لئے سیرانی کی دعا کریں گے۔

چنانچہ بھی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر می تو آپ نے فرمایا۔

کیا انہوں نے یہ کہا ہے؟ شاید تمہارا پروردگار تمہیں سیراب کر دے۔

پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ابھی آپ نے ہاتھ ہٹائے تو تھکر بادلوں نے سایہ کر لیا اور بارش شروع ہو گئی۔ چنانچہ وادی میں سیلاس آگیا، لوگوں نے پانی پیا اور خوب سیر ہو گرہا۔

آپ سے جو دعا منقول ہے وہ یہ ہے۔

اللهم استق عبادك ويهامك وانشر حمتك ولهم بلدك الميت اللهم استنا  
غیثاً مغيثاً صریحاً صریعاً فاغیر ضاره عاجلاً غیر اجل۔

یعنی "اے اللہ تعالیٰ میں سیراب کر، فرمادیں کرنے والے میند سے جس کا نجام اچھا ہو اور جو ازدانتی کرنے والا ہو، ضرر نہ کرنے والا ہو، جلدی کرنے والا اور دیر نہ کرنے والا ہو"

آپ نے جب کبھی بھی طلب براں کے لئے دعا کی تو ضرور بارش ہوتی اور جب بارش زیادہ ہونے لگی تو آپ سے لوگوں نے باول چھٹ جانے کی درخواست کی آپ نے بادلوں کے چھٹ جانے کی بھی دعا فرمائی اور کہا:

اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاء كا والمجال والطراب وبطون الاودية  
ومنابت الشجر۔

یعنی "اے اللہ تعالیٰ اور دگر اور ہمارے اوپر نہ ہو۔ اے اللہ تعالیٰ اور پہاڑوں

اور وادیوں کے علاقہ میں اور درختوں کی جڑوں پر بارش کر"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باول دیکھتے تو دعا کرتے۔

اللهم حتىاناً فاقها

یعنی اے اللہ یہ بارش بھر بور اور فائدہ مند ہو۔ ایسے موقع پر آپ جسم مبارک سے

کپڑا ہٹا لیتے تاکہ اس پر بارش کا پانی پڑے۔

آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ تو فرمایا، کیونکہ یہ اپنے پروردگار سے نیا عہد ہے امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جسے میں متھم نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب حضرت حافظہؓ سے تھا۔ حضرت بریڈین ہاد سے مروی ہے کہ جب سیلا ب سا آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ آؤ ہمارے سامنے اور ہاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا بنا دیا ہے پھر ہم اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدل اور ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتا۔ آپ اُصر (پریشان) پھرتے۔ جب بارش ہو جاتی تو خوش ہو جاتے اور پریشانی ہاتھی رہتی۔ آپ خطرہ عسوس کرتے تھے کہیں یہ عذاب نہ ہو سالم بن عبد اللہ کو اپنے والد سے مرفوع احادیث سنھی ہے کہ جب آپ وحائی بارش کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اللهم إستنا غيثاً مغيناً من يقاغدْ قَمِّ جَلَّ عَامَاطْهَا سَحَادَةُ الْمَهْمَاسْنَا  
الْغَيْثَ وَلَا تَجْلِطْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ اللَّهُمَّ إِنْ بِالْعِبَادِ وَالْبَلَادِ وَالْبَهَائِرِ وَالْخَلْقِ مِنْ  
الْأَلَّا وَأَمْرُكَ وَجَهْدُ الْفَسْكَ مَا لَهُ شَكُورٌ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ انْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَادْعُ لَنَا الْأَصْرَ  
وَاسْقُنْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَانْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَحَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ اسْرِفْ عَنْ  
الْجَهَنَّمْ وَاجْمُعْ وَالْعَرَى وَاكْتُفْ عَنْ أَمْلَأِ الْمَهَدِ عَمَّا لَيْكَشِفَهُ غَيْرُ اللَّهِ هُوَ أَنَا  
فَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَنَّاصًا فَأَرْسِلْ أَسْمَاءَ عَلَيْنَا مَدْرَسًا۔

یعنی۔ ”اے اللہ ہمیں سیراب کرایے مینے سے جو فریاد سی کرے، ارزانی لائے کثیر ہو، بھروسہ و تمام، گھننا ہو، خوب ذمی ہو اے اللہ ہمیں مینے سے سیراب کر ہمیں مالیں نہ فرماؤ بندے، شہر، چوپائے اور محلوقات، وکھ، مصیبت اور شکنگی میں مبتلا ہیں۔ پس ہم صرف تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے یہ کھیتی آگ اور ہمارے لئے دودھ چلا اور ہمیں آسمانی برکات سے پلا اور زمیں کی برکات ہمارے لئے آگ۔ اے اللہ ہم سے وکھ، جھوک، عریانی اٹھا۔ اور ہماری تکالیف دو کرنے جو تیرے سے سوا اور کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اے اللہ ہم، تجوہ سے بخشش چاہتے ہیں۔

بے شک تو ہی بخششے والا ہے ہم پر آسمان (سے بارش) خوب رسائے  
امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ امام دعائے بالاں میں یہی الفاظ استعمال کیا کرے۔

نیز کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے لئے دعا مانگتے تو دونوں ہاتھ دھماتے اور جب بارش کا پھلا قطرہ گرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارش کو اپنے جسد انور پر لیتے اور مجھے اس نے بتایا ہے کہ جسے میں متنہم نہیں سمجھتا انہیں عبد العزیز بن عفر  
سے انہیں کھوں سے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا  
افواج کے مقابلہ کے وقت اور قیام نماز کے وقت اور بارش کے وقت دعا کی قبولیت کا سوال کرو۔

اور مجھے ایک سے زیادہ روایہ سے یاد ہے کہ نزول بارش اور اقامت نماز کے وقت دعا مزور قبول ہوتی ہے۔

بیہقی فرماتے ہیں کہ انہیں موصول کی حدیث سے جو انہیں سهل ہیں سعدؓ سے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے متعلق پہنچی ہے۔ معلوم ہوا کہ اذان کے وقت، لطائی کے وقت اور بارش کے وقت دعا مزور نہیں ہوتی۔

حضرت ابو امام تھجیؓ سے مروی ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا چار مواقع پر آسمان کے دروازے کھوں دیے جاتے ہیں اور دعا مزور قبول ہوتی ہے

- ۱۔ جب فوج صفت بستہ ہو، جنگ و پیار کے لئے۔
- ۲۔ نزول بارش کے وقت۔

- ۳۔ قیام نماز کے وقت۔
- ۴۔ اور کعبہ مکرہ کی زیارت کے وقت۔

# دورانِ سفر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور سنن

**آنحضرت کے سفر کی نوعیت** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر چار مرح کے ہوتے تھے۔

- ۱۔ سفر بہرہت -
- ۲۔ سفر جہاد، یہ اکثر ہوتا رہتا تھا۔
- ۳۔ سفر مرگ -
- ۴۔ اور سفر رجع -

جب آپ سفر کے لیے نکلتے تو ازواجِ مطہرات کو ساتھے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اسی کو ساتھے جاتے۔ البتہ جب آپ نے رجع کے لیے سفر کیا تو تمام ازواجِ مطہرات رضا کو ساتھ ریلیا۔

جب آپ سفر کرتے تو اپنے دن بیس نکلتے۔ آپ سحرات کو تشریف لے جانا پسند کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ آپ کی امت کو سویرے سویرے (جانے) میں برکت دے۔ اور جب آپ کوئی لشکر یا وقدر بھیجننا پایتے تو اپنے دنے وقت میں بصیرتی اور اگر مسافر نہیں ہوتے تو انہیں حکم فرماتے

کہ ایک کو ابیر نہایت ہے۔ آپ نے مسافر کو تو تنہا سفر سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایک ساحر شیطان ہے، دو شیطان دو شیطان ہے ہیں۔ تین دراصل سوار، بیسے اور منقول ہے کہ جب آپ سفر کے لیے اُٹھتے تو پڑھتے ہے۔

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهُتُ وَبِكَ اعْتَصَمَتُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ فِي مَا هُنَّ يَفْسِدُونَ وَمَا لَهُ أَهْمَانٌ  
اللَّهُمَّ إِنِّي عَوْدِي إِلَيْكَ التَّقْوَىٰ وَغَفْرَانِ ذَنْبِي وَجَهَنَّمَ الْخَيْرَ إِينَّمَا تَوَجَّهُتُ -

یعنی: اے اللہ بیس تبری طرف متوجہ ہو اور تبری ہی وامن پکڑتا ہوں۔

اے اللہ جس کا مجھے غم ہے اور جس کا غم نہیں ران سب ہیں) میری کفایت فرم۔ اے اللہ مجھے تقویٰ عطا فرم اور میرے گنا ہوں کون خش دے اور بھلائی کی طرف میرا رُخ کر دے، خواہ میرا رُخ کسی طرف بھی ہو؟

جب آپ کے سامنے سواری پہنس کی جاتی تو آپ رکاب بیس پاؤں رکھتے وقت لِبِمِ اللَّهِ كَفِتَتْ - اور جب اس کی پشت پر سوار ہو جاتے تو پیر دعا پڑھتے،  
الحمد لله الذي سخر لنا هذن (وما كناله مقتنين وإنما إلى سرينا المقلبون۔  
پھر پڑھتے - الحمد لله الحمد لله الحمد لله - اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر  
پھر پڑھتے - سبحانك في ظلمت نفسی فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت -

رَبِّنَا پڑھا کرتے: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هذنَ الْبَرَوْ التَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ  
مَا تَرَضَى اللَّهُمَّ هؤنَ عَلَيْنَا سَفَرُنَا فَاطْوُ عَنَّا بَعْدَ لَا اللَّهُمَّ إِنَّ الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ  
وَالْخَلِيفَةُ فِي الْوَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَارِ السَّفَرِ وَحَسَابِهِ الْمُنْقَلِبُ  
وَسَوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْوَهْلِ وَالْمَالِ -

یعنی: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمارے لیے اسے مستخر کیا اور ہم اسے جمع کرنے والے نہیں تھے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔  
اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔

تو پاک ہے بے شک ہیں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو مجھے خشن دے،  
کیونکہ بخشنے والا حرف تو ہی ہے۔

اے اللہ ہم اس اپنے سفر میں تجوہ سے نیکی، تقویٰ اور اس عمل کا سوال  
کرتے ہیں، جس سے نورا ضی ہو۔ اے اللہ ہم پر ہمارا سفر آسانے  
کر دے اور ہمارے لیے اس کی دور کی لپیٹ دے۔ اے اللہ سفر  
میں تو ہی آقا ہے اور گھر میں تو ہی محافظت ہے۔ اے اللہ میں سفر  
کی ایذا اور تکلیف دہ والی سی اور گھر اور حال میں برے منظر سے  
پناہ چاہتا ہوں۔

جب واپس تشریف لاتے تو سابقہ دعا بھی پڑھتے اور اتنے الفاظ کا اندازہ  
کر دیتے۔

آیوب تائبون عایدون لربنا حامدون۔

یعنی: موت نے والے، تو بہ کرنے والے اپنے پروردگار کی عبادت کرنے  
والے تعریف کرنے والے۔

نیز آپ اور صاحبہ کرام جب یمندی پر چڑھتے تو تمکیم کہتے اور جب نیچے  
وادیوں میں اترتے تو تسبیح کہتے اور جب کسی بستی کے پاس آتے اور اسے میں  
داخل ہونا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اللهم رب السموات السبع وما اظلم من ورب الارضين السبع وما اقلن  
ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ذرین اسألك من خير هذه القرية  
وخير جمعت فيها واعوذ بك من شره او شر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا  
جناها واغذر نا من وباهما وجيئنا الي اهلها وجب صلحى اهلها علينا۔

یعنی: اے ساتوں آسمانوں کے پروردگار اور جنمے پر وہ سایہ گسترش میں

اور سالوں زینتوں کے پروردگار اور جو کچھ انہوں نے اٹھا رکھا ہے اور شیا طین کے پروردگار اور جن کو انہوں نے گواہ کیا اور ہواؤں کے پروردگار اور جن چیزوں کو انہوں نے اڑایا۔ میں تجھ سے اس بستی کی بجلائی اور جو بجلائی اس میں تو نے جمع کر کھی ہے۔ مانگتا ہوں اور میں اس کے نظر سے اور جو اس میں شنز جمع ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں اس کے پھلوں کا رزق عطا فرم اور ہمیں اس کی دبائے پچا اور اس کے رہنے والوں میں ہمیں محبوب کر دے اور اس کے نیک یکنتوں کے لیے ہمارے دل میں محبت ڈالے۔ اور چار رکعت والی نماز کو قصر کرنے

### بہ حالت سفر نماز میں قصر کا معمول

(چنانچہ جب آپ (سفر کے لیے) نکلتے تو مدینہ واپس پہنچنے تک (چار رکعت) والی نماز میں دو رکعتیں پڑھتے۔ آپ سے پہر ثابت نہیں کر آپ نے سفر میں چار رکعتیں مکمل پڑھتی ہوں۔ رہی حضرت عائشہؓ کی روایت کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی قصر کرتے اور نماز مکمل پڑھتے، کبھی افطار کرتے اور کبھی روزہ رکھتے پہر روایت صحیح نہیں۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ کو کہتے سنا کہ یہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ یہ روایت باطل ہے۔ ام المؤمنین، رسول اللہؐ اور مجیع صحابہؓ کے خلاف کیونکہ جا سکتی تھیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دو دو رکعتیں فرض کی تھیں! پھر جب آپؐ نے مدینہ کی طرف، بحرت کی تو صلاۃ حضر میں دو دو رکعتوں کا اضافہ کر دیا اور صلاۃ سفر جوں کی توں قائم رہی، پھر یہ کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف عمل کر رہے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا جیال تھا کہ نماز قصر خوف و سفر دونوں سے مشروط ہے۔ اس لیے جب خوف ختم ہو گیا تو سید قصر زائل ہو گیا یہ تاویل صحیح نہیں کیونکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم حالت امن میں سفر کرتے ہوئے۔

نماز میں بھی شد قصر کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اس آیت کے مفہوم میں دشواری ہوئی تو انہوں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا۔ اپنے فرمایا بہر اللہ کا صدقہ ہے اور امت کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت سنی کر (عبادات سے) مفہوم حکم مراد نہیں اور ماموتے و خالق دنوں ملنے قصر نماز کا گناہ اٹھ جاتا ہے۔ مقصود بہر ہے کہ بہر مندرجہ مفہوم کی ایک مخصوص نوع ہے۔

بعض کا جیال ہے کہ بہر آیت قصر کی مقاصی ہے جو ان روئے تحفیف شامل ہے قصر ارکانیت اور قصر تعداد پر دو رکعتیں کم کر دینے سے اور یہ دو باتوں سے مشروط ہے۔ سفر اور خوف۔

جب دنوں یا تین پانچ یا بیس تو قصر مباح ہو گا اور تعداد ارکانیت میں قصر کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور اگر دنوں مذکورہ شرائط ختم ہو گیں تو وہ مامون و تقيیم بن گئے اور قصر کا حکم بھی جائز رہا۔ پھر انہیں مکمل نماز پڑھنا ہوگی اور اگر دنوں میں سے ایک سبب پایا جائے تو ایک پر قصر کا حکم مرتب ہو گا۔ یعنی جب خوف اور اقسامت ہو تو عدد رکعات پورے ہوں گے۔ البتہ ارکانیت میں قصر ہو گا۔ یہ قصر کی ایک قسم ہے، قصر مطلق نہیں جس کا ذکر آیا ہے اور اگر سفر اور امن کی حالت ہو تو عدد رکعات میں قصر ہو گا۔ اور ارکانیت مکمل ہوں گے۔ اس کا نام نماز امنت ہو گا۔ اور بہی قصر کی ایک نوع ہوگی۔ قصر مطلق کو کہا جائے گا۔ عذر د رکعات میں کمی کے باعث اسے نماز مقصود کہتے ہیں اور کمی کبھی ارکانیت کی تکمیل کے باعث اسے نماز نام بھی کہتے ہیں۔ اور بہر آیت مذکورہ کے حکم قصر کے تحت داخل نہیں۔ پہلی اصلاح اکثر متأخر ہے قیہا کے ہاں مصروف ہے اور دوسری اصطلاح صحا بہر جیسے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابی شہبازؓ وغیرہ سے مبنی اور ہے۔

حضرت عائشہؓ نے فرمایا نماز دور کعتوں میں فرض کی گئی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف بھرت فرمائی تو سفر کی نماز سابقہ مقدار بیس رہ گئی اور حضرت کی نماز میں اضافہ ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے کے نزدیک سفر کی نماز چار سے کم ہو کر (دو تک) نہیں آئی بلکہ بہ اسی طرح فرق ہے اور حالت سفر (میں را پیدا کرے) ہی دور کعut فرض سے میں اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضرت پیوس چار دور کعتوں میں اور سفر میں دور کعتوں اور خوف میں ایک رکعت فرض کی دستافق علیٰ حدیث عائشہؓ البتہ امام مسلمؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے منفرد روایت کی ہے۔

### حضرت عمر بن خطاب سفر کی نماز چار کے بجائے دور کعut فرض سے فرماتے ہیں۔ نماز سفر

کی دور کعتوں میں، جمعر کی دور کعتوں میں اور عبید کی دور کعتوں میں اور یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکمل نماز میں، قصر نہیں میں احمد جس نے افترا باند صادہ نامزاد ہوا۔ بہ بات حضرت عمرؓ سے ثابت ہے۔ انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا ہم امنیٰ کی حالت میں بھی قصر کرتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یہ جو اللہ کی تم پر خیرات پے لہذا اس کا صدقہ قبول کرو۔

اُن دونوں روایتوں میں کوئی تناقض نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جواب دیا کہ یہ تم پر اللہ کا صدقہ ہے اور اس کا دینہ آسانی اور سہیل ہے تو حضرت عمرؓ جانتے گئے کہ آپ کا مطلب قصر عدد رکعات نہیں۔ جیسا کہ اکثر لوگوں نے سمجھا رکھا ہے اور فرمایا نماز سفر کی دو، ہی دور کعتوں میں اور یہ مکمل ہیں، قصر شدہ نہیں، لہذا آپ سے ثابت نہیں ہوتا کہ قصر عدد رکعات ہے نماز کا جی چاہے پوری پڑھ لے جی چاہے قصر کرے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے سفر بیس ہجتیں دو دور کعینیں پڑھیں، اور ایک بار نمازِ خوف کے سوا اپنے نے کبھی بھی چار رکعتیں نہیں پڑھیں جس کا ہم آئندہ ذکر کریں گے۔

### حضرت عثمانؓ کی روشن اور اس کی تاویل

علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے۔ تو اپنے مدینہ واپس آنے تک دو دور کعینیں ہی پڑھتے رہے (متفق علیہ) اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کو خبر ملی کہ حضرت عثمانؓ بن عفان نے منیٰ بیس چار رکعتیں پڑھیں تو فرمایا: اَنَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَيْهُ تَرَاجِعُونَ۔ بیس نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ بیس دور کعینیں پڑھیں۔ میں نے حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ منیٰ بیس دور کعینیں پڑھیں اور میں نے حضرت عمرؓ کے ساتھ منیٰ بیس دور کعینیں پڑھیں کاشش مجھے چار رکعتوں پر مقبول رکعتیں حاصل ہو سکیں، حضرت عثمانؓ کے اس فعل کی تاویل نہ کوہ بیس لیش ریکہ بہر راویت درست بھی ہو) ان بیس سے ایک تاویل بہر سے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضرت عثمان نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھی اور فرمایا کہ اے بیوگو! جب بیس بیان آیا تو بیس نے بہاں نکاح کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی ادمی کسی شہر میں نکاح کر لے تو وہ بیان پر مفہوم کی نماز پڑھے۔ اسے امام احمدؓ نے اپنی سند میں روایت کیا اور عبد اللہ بن زبیر حمید ری فی اپنی مسند میں (بیان کیا) اور ہمیقیؓ نے انقطاع اور تفعیف کی بنا پر اس اسے محلول قرار دیا ہے۔ امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس پڑھنے نہیں کیا، حالانکہ جو رح کرنا اور مجبور جیتنے کا تذکرہ کرنا ان کی عادت ہے۔

امحمدؐ اور حضرت ابن عباسؓ کی نصیبہ ہے کہ مسافر اگر نکاح کرنے تو اسے (وہاں) مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ ابوحنیفہؓ مالکؓ اور ان کے اصحاب کا یہی قول ہے اور حضرت عثمانؓ کی طرف سے کسی حد نکل بیہ غدر معقول ہے اور حضرت عائشہؓ کے لئے بیہ توجیہ کی گئی ہے کہ وہ ام المومنین تخلیقیں اس لیے جہاں ہی اتنا ہے وہیں ان کا وطن تھا۔ بیہ توجیہ بالکل مکروہ ہے کیونکہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے پاپ تھے اور ازدواج مطہرات کی امور میں زوالدہ بتنا، آپ کی ابویت کی فرع ہے۔ لیکن اس توجیہ کے مطابق آپ نے کبھی سفر بیں مکمل (نماز) نہیں پڑھی۔

ہشام بن عروۃ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ (حضرت عائشہؓ) سفر میں چار رکعت پڑھا کر تیسہ۔

میں نے عرض کیا کاش آپ دور کعتیں پڑھتیں۔

انہوں نے فرمایا: اے میرے بھانجے یہ میرے لیے کچھ بو جھو نہیں۔

حضرت امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ مسافر کی نماز اگر دور کعت ہوتی تو حضرت عثمانؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ مکمل نماز کیوں پڑھنے؟ اور نہ مسافر کو متقدم کے ساتھ مکمل نماز پڑھنے دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بنی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا، مکمل بھی کی اور قصر بھی کیا رنبرا حضرت ابراءیم بن محمد نے طلحہؓ بن عمر سے، انہوں نے عطاء بن رباح سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اللہ علیہ وسلم نے سفر بیں (نماز) مکمل بھی پڑھی اور قصر بھی کیا۔ ہمیقیؓ بتاتے، میں کہ ایسے ہی مغیرۃ بنے زیاد نے عطاء سے روایت کیا ہے اور سنن کے لحاظ سے زیادہ صحیح روایت ابو بکر حارثیؓ نے، میں بتائی، انہوں نے دارقطنی سے انہوں نے حاصل سے انہوں نے سعید بنے محمد بن ایوب سے انہوں نے ابو عاصم سے انہوں نے عمر بن سعید سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت

کیا کہ آپ سفر میں مکمل نماز بھی پڑھتے قصر بھی کرتے، روزہ بھی رکھتے اور افطار بھی کرتے۔

وارقطنیؒ فرماتے ہیں کہ بہرائیہ مصحح ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر بن شاپوری کی سند سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے عباس دوری سے انہوں نے ابو جعیمؓ انہوں نے علام بن زہیر سے انہوں نے عبد الرحمن بن اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ میں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک سفر عمرہ کیا۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پتے قرآن میں نے فصو بھی کہا اور مکمل نماز بھی پڑھی روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا۔

**حضرت عائشہؓ کی روایت کی چیزیں** اپنے فرمایا: اے عائشہؓ

ابن تیجیہؓ کو فرماتے سن کہ یہ حدیث حضرت عائشہؓ پر جھوٹی تہمت ہے اور حقدقت بھر ہے، کہ حضرت عائشہؓ کبھی بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے خلاف دوسرے طریقہ پر نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں جب کہ انہیں قصر کرتے دیکھو چکی تھیں، پھر بھر کیونکہ ملکتے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی سبب کے وہ مکمل نماز پڑھنے لگتیں؟ حالانکہ انہیں کی روایت ہے کہ نماز کی دو رکعتیں فرضیہ کی گئیں۔ پھر حضرت کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اور سفر کی نماز ویسے ہی دو رکعتیں کی صورت میں رہنے دی گئی۔ پھر یہ کبے گمان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ اللہ کے فالض میں تریا دقی کر تھی اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی مخالفت کرتی ہے۔

امید بن خالد نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے کہا کہ ہم حضرت کی نماز خوف قرآن میں پاتنے ہیں لیکن قرآن میں نماز سفر نہیں ملتی۔ تو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اے میرے بھائی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میعادت فرمایا اور ہم کچھ نہ جانتے تھے تو اب جس طرح ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کو کرتے دیکھا اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔

اور حضرت انس بن مالک نے ہمیں کہہ رہا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے۔ آپ مدینہ والیں نزیریف لاتے تھے دودو رکعیں پڑھتے رہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسفر ہیں، رفاقت کی۔ آپ اور ابو بکر، عمر، عثمان کوئی بھی دور کھتوں سے زیادہ نہ پڑھتا اور یہ تمام احادیث صحیح ہیں۔

سفر کی حالت ہمیں سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں | ہمیں کہا پتے  
یہ حالت سفر قرض سے پہلے یا بعد ہیں و ترا اور فجر کی سنتوں کے علاوہ دوسرے سنتیں پڑھی ہوں۔ البته بتی صلی اللہ علیہ وسلم و ترا اور فجر کی سنت کو سفر و حضر کسی موقع پر ترک نہ فرماتے۔

حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سفر ہیں بتی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی ہے۔ آپ دسفر ہیں کبھی تسبیح نہ پڑھتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لقد حسان نکو فی رسول اللہ اسوة حسنة۔

یعنی تمہارے یہے رسولؐ کی زندگی اسوۃ حسنے ہے۔

آپ سے ثابت ہے کہ آپ سواری کی پشت پڑھیج رنوافل (پڑھنے تھے جو صریحی اس کا رُخ ہوتا اور صحیعین ہیں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہیں اپنی سواری کی پشت پر نوافل پڑھنے تھے۔ جو صریحی اس کا رُخ ہوتا اس سے وہ خماز شب رتجہ و فرو مراد لیتے تھے۔ لیکن فرانقی رسواری پر نہ پڑھتے، البته و ترا سواری پر اور اکر لیتے تھے۔

لہ تسبیح سے مراد سنت ہے۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رات کو نوافل پڑھتے۔ حالانکہ (فِ الرَّقْب) میں آپ قصر کر رہے ہوتے۔

اور صحیحین میں عامر بن ربعیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سفر بیس رات کے وقت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی پشت پر نوافل پڑھتے دیکھا۔ یہ قیام اللیل تھا۔ یعنی تہجد کی نماز تھی۔

امام احمد بن حنبلؓ سے سفر بیس نوافل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا۔

میرا خیال ہے کہ یہ حالت سفر نوافل پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ اسفل کرتے تو فرض نماز سے قبل اور بعد نوافل پڑھا کرتے یہ طریقہ حضرت عمر، علی، ابن مسعود، جابر، انس، ابن عباس، اور ابو ذرؓ سے مروی ہے۔ البته حضرت ابن عمرؓ فِ الرَّقْب سے قبل اور بعد بیس نوافل پر پڑھتے تھے۔ یاں درمیان شب میں وتر کے ساتھ (نوافل پڑھ لینے) فرضی بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ قصر نماز (فرضی سے قبل اور بعد بیس (توافق)، نہیں پڑھتے تھے۔ اور نہ اس سے قبل یا بعد بیس پڑھتے سے منع فرماتے کیونکہ محسن تطوع (رضامکارا نہ فعل) ہے نہ کہ سبق راتیہ جو اقا کی صورت میں ضروری اور لازمی ہوتی ہیں۔

رہی حضرت عائشہؓ کی وہ روایت کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل چار رکعت اور اس کے بعد دور کعت کبھی ترک نہیں فرماتے تھے اور اسے بخاریؓ نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے اس بات کی صراحت نہیں ہوتی کہ آپ نے (ظہر کی قبل یا بعد کی سنتیں) سفر میں بھی ادا کی ہیں۔ بلکہ خیال یہ ہے کہ بخاریؓ نے آپ کا معمول بتایا ہے، جب آپ سفر میں نہ ہوتے اور سفر کے حالات سے عورتوں کی نسبت مرد زیادہ واقف ہوتے

بیس اور حضرت ابن عمرؓ بتا چکے ہیں کہ آپؐ نے دور کنتوں سے زیادہ نہیں پڑھی اور خود حضرت ابن عمرؓ بھی اس سے قبل بال بعد بیس کچھ نہیں پڑھتے تھے۔

**سواری پر نفل پڑھ لینے کا جواز** [طبیعتہ بہر تھی کہ آپ نوافل سواری پر بھی پڑھ لینے خواہ جس طرف اس کا رخ ہوتا۔ رکوع و سجود اشاروں سے کرتے آپ کا سجدہ رکوع سے قدرے بنچا ہوتا۔

اور احمدؓ اور ابو داؤدؓ نے حضرت انسؓ کی حدیث نقل کی ہے۔ آپ تکبیر افتتاح (نحر بحمد) بیس اپنی اوٹنی کو قبلہ رخ کر لیتے۔ پھر باقی تمام نماز اس سمت بیس پڑھتے رہتے جس طرف اوٹنی جارہی ہوتی۔ اس حدیث بیس شبیہ ہے۔ تمام رواۃ چہنوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کیا ہے۔ انہوں نے مطلق بات کہی ہے کہ آپ سواری پر نماز پڑھتے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہوتا۔ نہ تکبیر تحریک وغیرہ کو اس سے مستثنی کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عامر بن ربعۃؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے اور ان حضرات کی احادیث حضرت انسؓ کے روایت سے زیادہ صحیح ہیں اور اللہ، ہی خوب جانتا ہے اور آپؐ نے راحله پر اور حمار پر بھی نماز پڑھی۔ اگر بہر روایت صحیح ہو، اسے مسلم نے اپنی صحیح بیس حضرت ابن عمرؓ کی رسم (سند) سے نقل کیا ہے۔

پارش اور بیچڑ کے باعث رآپؐ نے اصحابہؓ کے ساتھ سواریوں پر بھی فرض نماز پڑھی اگر بہر روایت صحیح ہو۔

احمدؓ ترمذیؓ اور نسائیؓ نے نقل کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اورصحابہؓ ایک تنگ جگہ پر ہیچے آپؐ اپنی سواری پڑھتے اور اوسمان تھا اور نیچے بیچڑ اتنے بیس نماز کا وقت آگیا۔ آپؐ نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا، اس نے اذان دی اور اذان مت کی، پھر بنی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار آگے بڑھے اور اشاروں سے نماز پڑھائی اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کیا۔

ترندگی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے جس میں عمر بن ریاح منفرد ہیں لیکن حضرت انسؓ کے فعل سے یہ ثابت ہے۔

### دو وقت کی نماز میں ایک وقت میں پڑھنے کی اجازت

طبعہ بر تھی کہ جب اپ سوچ ڈھلنے سے قبل سفر اختیار کرتے۔ ظہر کو عصر کے وقت تک مُؤخر کر دیتے اور پھر دونوں کو مجع فرماتے اور اگر سفر شروع کرنے سے قبل سفر اختیار فرماتے تو ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے اور جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو عشاء کے قریب تک مُؤخر کر کے عشاء کے ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھتے۔

حاکمؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر بن محمد بن احمد بن بالوبہنے انہیں مولیٰ بنے ہارون نے انہیں فلیتہ بن سعید نے انہیں بیٹ بن سعد نے تبا یا انہیں یزید بن ابی جیب سے انہیں ابی طفیل سے انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوك میں تھے۔ جب اپ سوچ ڈھلنے سے پیشتر سفر اختیار فرماتے تو ظہر کا وقت مُؤخر کر لیتے۔ یہاں تک کہ اسے عصر کے قریب لے آتے اور دونوں کو مجع کر لیتے اور جب سوچ ڈھلنے کے بعد سفر اختیار فرماتے تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ پھر جل پڑتے اور جب مغرب سے قبل سفر کرتے تو مغرب کو مُؤخر کرتے تا انکہ عشاء کے ساتھ سے ادا کرتے اور جب مغرب کے بعد سفر فرماتے تو عشاء میں جلدی کر لیتے اور اسے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیتے۔ حاکمؓ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے تمام روایۃ ثقہ ہیں اور شاذ الاستاد و المتن ہے اور اس کو محلّ بھی انہیں سمجھتے کہ محلول کہہ سکیں۔

اور اسحق بن راہبہنے روایت کی ہے کہ انہیں شبیاب سے انہیں لیٹ سے، انہیں عقبیل سے انہیں ابن شہاب سے انہیں حضرت انسؓ سر

روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا تو نظر اور عصر اکٹھی پڑھتے۔

یہ سند اپ کے سامنے ہے شبابہ دراصل شبابہ بن سوار ثقہ ہے اس کی روایت حضرت بیٹھ بن سعد سے شیخین کی شرط کے مطابق اس سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس کا اقل درجہ یہ ہے کہ اس سے حضرت معاذ کی روایت کو قوت ملتی ہے۔ اس کی اصل صحیحین میں موجود ہے بلکن اس میں مجمع تقدیم نہیں۔

ابو داؤد فرماتے ہیں، شام نے عروۃ سے انہوں نے حسین بن عبد اللہ سے انہوں نے کریب سے انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مفضل یعنی مجمع تقدیم کے متعلق حضرت معاذؓ کی روایت کی طرح روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس تے کریب سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا بیس تمہیں سفر کی حالت بیس بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤ؟ جب سورج ڈھل جاتا وہ اپنے گھر میں زوال کے وقت نظر و عصر کی نیاز اکٹھی پڑھتے اور جب سورج ڈھلنے سے قبل سفر کرتے تو نظر کو عصر کے وقت تک موخر کرتے اور دونوں کو عصر کے وقت بیس ادا کرتے۔

راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے بھی بات مغرب اور عشاء کے متعلق کہی تھی۔

اور اسماعیل بن اسحاق نے بتایا کہ انہیں اسماعیل بن ابی اویس نے انہیں ان کے بھائی نے انہوں نے سلیمان بن مالک سے انہوں نے بشام بن عروۃ سے انہوں نے کریب سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی۔ تو اپ سورج ڈھلنے سے

قبل تکلتی، سوار ہوتے اور جل پڑتے، پھر اترتے، ظہر اور عصر کو مجمع فرمائکر رہتے اور اگر سورج دھلنے تک نہ چلتے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ادا کر کے پھر سوار ہوتے جب سوار ہوتے کا ارادہ فرماتے اور رد و مری طرف (نماز مغرب کا وقت) ہو چکا ہوتا تو مغرب و عشاء کو مجمع فرماتے۔

ابوالعباس بن شریح بتاتے ہیں کہ بھی بن عبد الجبید تے ابو خالد الحرسی نہیں نے مجاج سے انہوں نے حکم سے انہوں نے مقسم سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے تبا یا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج دھلنے کے بعد سفر کرتے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیتے اور اگر سورج ایجھی تہ دھلا ہوتا تو ظہر کو موخر کرتے۔ آخر کار عصر کے وقت سے رائیک ساتھ ادا کرتے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں کہ یہ مجمع تقدیم اس بات کا اشارہ کرتے ہے کہ عرفہ بیس وقوف کی خاطر آپ نے ظہر اور عصر کو مجمع کیا تاکہ دعا کے وقت سے مفصل ہو جائے۔ اور باوجود اس کے کہ نماز عصر کی ادائیگی بغیر تکلیف کے ملکت سے ہوتی۔ پھر بھی اتر کر اسے منقطع نہ فرماتے، اس لئے مشقت اور ضرورت کے باعث مجمع (بیت الصلوٰتین) اولی ہے۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ معرفہ کے دن عصر کا مقدم کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ بہر دعا کے ساتھ ہی متصل ہو جائے۔ اس لئے اسے نماز عصر سے قطع نہ کیا جائے اور مزدلفہ بیس مناسب بہر ہے کہ سفر برادر جاری رہے اور مغرب کے لئے اذکر اس کو منقطع نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سفر بیس تجویل کے وقت مجمع بیت الصلوٰتین کی اہمیت

کی سفت طبیبہ بہر نہ تھی کہ سواری کی حالت بیس مجمع بیت الصلوٰتین کرتے۔ جیسا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور نہ حالت نزول بیس بہر عادت طبیبہ تھی۔ یہ حرف

اس وقت ہوتا جب آپ کو سفر کی جلدی ہوتی۔ اور جب آپ نماز کے بعد چل رہے ہوتے جیسا کہ ہم تبوک کے متعلق بتا چکے ہیں۔

اور عرفہ کے سوا آپ سے یہ منقول ہے کہ آپ نے بغیر سفر کے نمازِ مجمع کی ہو، تاکہ وقوف کا اتصال ہو جائے جیسا کہ شافعی اور ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اذْمَعْ بَيْنَ الصَّلَوةِ وَبَيْنَهُ سفر سے مختص تباہا ہے اور اسے قربانی کا تتمہ قرار دیا ہے اور ان کے جیاں میں سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

ابنہ احمد و مالک اور شافعی نے اس کا سبب سفر قرار دیا ہے۔ یہ مختلف الرائے ہو گئے۔ اس لیے شافعی اور احمد نے ایک روایت کے مطابق سفر طویل کو اس کا سبب قرار دیا ہے اور اہل مکہ کے لیے اسے جائز قرار نہیں دیا۔ امام مالک اور احمد نے دوسری روایت کے مطابق اہل مکہ کے لیے عرفات میں قصر اور مجمع کو جائز تباہا ہے اور ہمارے شیخ نے اس اختیار کیا ہے۔ اور ابوحنیفہ نے عبادات میں اسے اختیار کیا ہے (پھر ہمارے شیخ نے اسے روکیا ہے) اور طویل سفر میں اسے قصر اور مجمع کرنے کے متعلق وجہ جوانہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ سلف کی کثیر جماعت کا ذہب ہے۔ امام مالک اور ابوحنیفہ نے اہل مکہ کے لیے منسوس تباہا ہے۔ اور بنی اکرم مسی الہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قصر و افطار (سفر میں روزہ نہ رکھتے) میں سفر کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی بلکہ سفر مطلق میں آپ نے اسے مطلق چھوڑ دیا، جیسا کہ سفر میں پہم کو مطلق کر دیا۔ اس سلسلہ میں آپ سے صحبت کے ساتھ کچھ بھی منقول نہیں۔

اور ایک دن، دو دن یا تین دن کی تحد بہر جو مردی ہے۔ تو اس سلسلہ میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔

# تلاوت قرآن

لحن و ترتیل کے ساتھ یا سادگی سے؟

**موافق اور مخالف مسکن** آپ کا معمول تلاوت میں ترتیل تھا۔ تیزی اور سرعت کے ساتھ تلاوت ذکرتے بلکہ ایک ایک حرف کر کے واضح طور پر تلاوت

فرماتے۔ آپ ایک ایک آیت کی تلاوت و قفة کر کے کرتے اور مد کے حروف کو کھینچ کر پڑھتے مثلاً ”رَحْمَنٌ“ اور ”رَحِيمٌ“ کو مد سے پڑھتے اور تلاوت کے آغاز میں آپ شیطان رحیم سے اللہ کی پناہ مانگتے اور پڑھتے : **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**

اور گاہے گاہے یوں پڑھتے : **أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** من همزہ و نفخہ و نفسہ۔ آپ تلاوت سے قبل تعود پڑھتے اور دوسروں سے قرآن مجید سننا پسند فرماتے۔ آپ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو حکم فرمایا تو انہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ سن رہے تھے۔ اس موقع پر اس قدر خشوع طاری ہوا کہ آپ کی آنکھیں ڈوب ڈب با آئیں۔

آپ کھڑے کھڑے، بلیٹھ کر، لیٹ کر، وضو اور بغیر و ضو کے، جنابت کے علاوہ (ہر حالت) میں قرآن پاک پڑھ لیتے اور اس کی تلاوت سے بیٹھنے فرماتے اور آپ بہترین انداز سے تلاوت فرماتے اور کبھی کبھی آپ کی آواز لوٹ آتی جیسا کہ اکافی تکھنہ اللہ فتحا پڑھتے وقت آپ کی آواز لوٹ گئی اور عبد اللہ بن مفضل نے آپ کی ترجیح کی کیفیت تین باراً آئی صورت میں

بیان کی۔ (بخاری) اور حب آپ کی مندرجہ ذیل احادیث کو جمع کیا جائے۔

۱۔ ”قرآن پاک، کو اپنی آوازوں سے زینت بخشویا“

۲۔ ”جو قرآن میں تخفی سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں“

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے زیادہ اذن نہیں دیا جیسا کہ اچھی آواز کا احسان کیا ہے کرو وہ قرآن کو تخفی کے ساتھ پڑھتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رآوازیں (ترجیح اونٹنی کو چلانے کے لیے) اضطراری امر نہ تھی بلکہ قصد تھی۔ کیونکہ اگر یہ اونٹنی کو ہنکانے کے لیے ہوتی تو قصد کے ضمن میں داخل نہ ہوتی اور نہ حضرت عبداللہ بن مفضل اس کی حکایت کرتے اور آپ اسے از خود کرتے تاکہ سکون حاصل کریں اور آپ دیکھتے کہ اس طرح اونٹنی تیز چل پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی آواز منقطع ہو جاتی۔ پھر بتاتے ہیں کہ ”آپ قرأت میں ترجیح کیا کرتے۔ اس لیے ترجیح ان کے فعل کی طرف نسب کی گئی اور اگر محسن اونٹنی ہنکانے کے لیے ہوتا تو آپ سے قصد ترجیح ہوتی۔

ایک شب آپ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کی تلاوت سنی جب (ابو موسیٰ) کو خردی گئی تو کہنے لگے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو آپ کی خاطر از حد حسین اور اچھے انداز میں تلاوت کرتا اور اپنی آواز سے خوب زینت دیتا۔

اور ابو داؤدؓ نے سخن میں عبدالجبار درد سے نفل کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک ابی ملیکہ کو کہتے سنا کہ عبداللہ بن یزید نے بتایا کہ ہمارے پاس سے ابو بشارؓ گزرے۔ ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ آخر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اچانک ایک ادمی کو جس کی (ظاہری) حالت کمزور تھی۔ میں نے کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے وہ جو قرآن مجید کو تخفی سے (اچھی آواز سے) نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

راوی نے بتایا کہ پھر میں نے ابن ابی ملیکہ سے کہا۔ اے ابو محمد، اگر انسان کی آواز اچھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟

وہ فرمائے لگے جہاں تک ہو سکے اسے اچھا بنائے۔

میری رائے میں اس سلسلہ کی وضاحت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں لوگوں کے اختلاف ہر فرقہ کے طبق واصول احتجاج اور صحیح صورت سلسلہ کا ذکر ضروری اور لازمی ہے۔

اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مد و نصرت سے صحیح مذہب کو نہایہ ہے؟ ایک گروہ کا خیال ہے، الحان کی قرأت مکروہ ہے۔ یہ مذہب امام احمد اور مالک وغیرہ کا ہے۔ امام احمد نے علی بن سعید کی روایت میں الحان کی قرأت کے متعلق فرمایا ہے کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی۔ بلکہ یہ محدث (بدعت) ہے مروزی کی روایت کے مطابق آپ نے الحان کو بدعت قرار دیا ہے اور (فرمایا ہے) کہ اسے نہ سننا چاہیے۔

عبد الرحمن متطلب کی روایت کے مطابق بھی آپ نے الحان کی قرأت کو بدعت کہا ہے۔ ان کے لڑکے عبد اللہ (نیز) یوسف بن موسیٰ، یعقوب بن حبان، اثرم، ابراہیم بن حارث کی روایت کے مطابق الحان کی قرأت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہاں! اگر یہ پرسوز ہو تو پھر برع نہیں، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ پڑھا کرتے تھے۔

اور صالح کی روایت ہے آپ نے فرمایا۔ قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ یعنی خوش آوازی سے پڑھو اور مروزی کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی پر حُسْن صوت سے زیادہ اذن نہیں دیتا کہ وہ قرآن مجید کو تلفی سے پڑھے اور ایک یہ قول بھی منقول ہے کہ:

”جس نے تلفی کے ساتھ قرآن نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں“

تو ایک عینیہ فرماتے ہیں قرآن تلفی سے پڑھنا چاہیے۔

شافعی فرماتے ہیں آواز بلند کرے۔ ان کے سامنے سورہ فتح کے واقعہ اور ترجیح کے متعلق معادیہ بن قرۃ کی روایت بیان کی گئی تو ایک عبد اللہ نے اس کو الحان کے معنی میں ماننے سے انکار کر دیا، جن روایات سے الحان کی رخصت پر استدلال کیا جاتا ہے ان کا انکار کیا۔

ابن قاسم نے مالک سے روایت کیا کہ ان سے نماز میں الحان کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ فرمائے گئے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ اور فرمایا کہ یہ تو غناء ہے، لوگ اس طرح گاتے ہیں تاکہ اس پر چند داہم مل جائیں۔

وہ حضرات جن سے ان کی کلامت منقول ہے وہ یہ ہیں : انس بن مالکؓ، سعید بن حبیب سعید بن جبیر، قاسمؓ بن محمد، حسنؓ، ابن سیرینؓ، اور ابراہیم الخنفیؓ فضلاً اور عبد اللہ بن زید عکبری نے بتایا کہ میں نے ایک آدمی سے ستاکر وہ امام احمدؓ سے دریافت کرتا تھا کہ الحان سے تلاوت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ؟ انہوں نے یہ بھا تمہارا نام کیا ہے ؟ اس نے کہا محدث۔

تو فرمائے گے ، اگر تجھے محمدؓ پر صحیح کر کہا جائے تو کیا پسند ہو گا ؟ قاضی ابو عیلیؓ فرماتے ہیں کہ یہ کراہت بیان کرنے میں مبالغہ ہے (یعنی از حد مکروہ ہے)۔ حسن بن عبد العزیز حمویؓ نے کہا کہ ایک آدمی نے وصیت کی اور ترکر میں ایک لونڈی چھوڑی جو الحان سے قرآن پڑھتی تھی۔ تو میں نے احمد بن حنبل اور حضرت بن مسکین اور الہبیؓ سے دریافت کیا کہ میں اس سے کیسے فروخت کروں ؟ تو وہ کہنے لگے اسے سادہ طور پر یعنی نہایت معمولی نرخ پر فروخت کر دو۔ میں نے انہیں اس میں ہونے والا نقصان بتایا مگر وہ یہی کہتے رہے کہ اسے سادہ طور پر کم نرخ پر زیگ دو۔ قاضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس نئے یہ فرمایا کہ اس لونڈی سے سماع مکروہ تھا۔ اس نے اس پر گائے کی طرح اجرت لینا جائز نہیں۔ ابن بطل فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ تخفی بالقرآن کا مطلب اچھی آواز سے تلاوت، قرأت میں ترجیح اور آواز و لحن میں تحسین ہے۔ نیز بتایا کہ یہ ابن مبارکؓ اور نظر بن شمیل کا قول ہے اور جن لوگوں کے نزدیک قرآن کو الحان سے پڑھنا جائز ہے، ان کے بارے میں طبریؓ نے حضرت عمر بن خطابؓ سے نقل کیا ہے کہ وہ ابو موسیؓ سے کہا کرتے کہ ہم نے پروردگار کا صرف ذکر کیا اور ابو موسیؓ پڑھتے ہیں اور الحان کرتے ہیں اور فرمایا کہ جو قرآن میں ابو موسیؓ کی طرح تخفی کر سکے تو اسے مناسب ہے۔

اور حضرت عقبہ بن عامر قرآن مجید (تلاوت میں) سب لوگوں سے زیادہ اچھی آواز میں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطابؓ سے کہنے لگے کہ میرے سامنے فلاں سورت پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے تلاوت کی سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرے اور فرمایا۔

میں انہیں سمجھتا تھا کہ یہ نازل ہو چکی ہے۔  
 راوی کہتا ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ نے اس کی اجازت دی ہے۔ عطاء بن ابی رباح  
 سے مردی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن اسود بن ابی زید رمضان کے مہینہ میں مساجد  
 میں اچھی آواز کی تلاش کیا کرتے اور محاودی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب  
 رحمۃ اللہ علیہم کے متعلق نقل کیا ہے کہ وہ الحان کے ساتھ قرآن مجید سنائے اور محمد بن عبدکیم  
 بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور امام شافعیؓ اور یوسف بن عمرؓ کو الحن سے قرآن پاک سنتے  
 دیکھا۔ ابن جریر طبریؓ نے یہی مذکور اختیار کیا ہے۔

الحن کو جائز قرار دینے والے بتاتے ہیں کہ ابن جریر کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ حدیث  
 کامطلب تحسین آواز اور غناہ معموقوں ہے کہ قاری سننے والے کو غمزدہ بنادے ابوالحسن بطال  
 نے بتایا ہے کہ اس سلسلہ میں اس روایت سے بھی اشکال واقع ہو جاتا ہے جسے ابن ابی شیبہ  
 نے روایت کیا انہیں زید بن جباب سے انہیں مولیٰ بن ابی رباح سے انہیں اپنے والد سے انہیں  
 عقبہ بن عامر سے روایت ملی کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 قرآن سیکھو اور اسے تفہی سے پڑھو اور اسے لکھو۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے  
 قبصہ میں میری جان ہے۔ یہ بہت جلد حافظہ سے نکل جاتا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ عمر بن ابی شیبہؓ نے بتایا کہ ابو عاصم نبیل کے سامنے تفہی بالقرآن کے سلسلہ  
 میں ابن عینیہؓ کی تاویل ذکر کی گئی کہ ”اس سے استغفار چاہتے ہیں“ تو انہوں نے فرمایا، ابن عینیہ  
 نے کچھ بھی نہیں کیا۔

ہمیں ابن جریرؓ سے انہیں عطاء بن عبدیل بن عییر سے روایت ملی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے  
 پاس معزفہ (ماجر) تھا، جس سے آپ غناکے ساتھ تلاوت کرتے، خود روتے اور دوسروں کو  
 ملاتے تھے۔

اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ستر الحنوں میں زبور پڑھتے تھے اور  
 ایسے طریقے سے پڑھتے کہ عام لوگ اس سے طرب حاصل کرتے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن عینیہ کی تاویل کے متعلق دریافت کیا گیا تو وہ کہنے لگے ہم سے

بہتر جانتے ہیں، ان کا مطلب استخارة کا ہوتا تو فرماتے من نم پستنون با القرآن لیکن جب آپ نے یتغفی بالقرآن فرمایا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان کا مطلب تغفی ہے۔ فرمائے ہیں تجھیں آواز اور تلاوت میں ترجیح و تطریب ایسی چیز ہے کہ جو نغمہ میں موثر، سماع کی داعی اور اس طرف مائل کرنے میں خوب (اشرکتی) ہے۔ تو گویا اس طور پر الفاظ میں سنتے والوں کے لیے میلان اور قلوب میں ان کے معافی کی تنقید میں (شدت) پیدا ہو جاتی ہے اور حصول مقصد میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ گویا یہ کڑوی دوامیں مٹھاں ہے جس سے مقامِ مرٹ تک دوا کی رسائی آسانی سے ہو جاتی ہے اور کھانے میں خوبی پیدا کرنے اور مصالہ جات کے قائم مقام ہے تاکہ طبیعت اسے قبول کرنے پر راغب ہو سکے۔ جس طرح ایک عورت اپنے مرد کے لیے خوشبو زیورات اور حسن پیدا کر کے جاذبیت پیدا کرتی ہے تاکہ مقاصدِ نکاح پورے ہو سکیں۔

اور کہتے ہیں کہ چونکہ ادمی کے لیے طرب اور اشتیاقِ غنا ایک لازمی امر ہے اس لئے طرب غنا کی بجائے طربِ قرآن متعین کیا گیا جیسے کہ ہر حرام و مکروہ کے عوض میں بہتر چیز مقرر ہوئی اور تیروں کے ذریعہ تقسیم کرنے کی بجائے استخارہ مقرر ہوا۔ جو توحیدِ خالص اور توکل سے عبارت ہے اور بدکاری کی جگہ نکاح، جو شے کی جگہ نیزوں سے مسابقت اور سماعِ شیطانی کی بجائے سماعِ حلال فرائی متعین ہوا۔ اور اس کے نظائر کثرت سے ملتے ہیں اور حرام چیز زیادہ تر یا کیتاً مفسدہ پر مشتمل ہوتی ہے اور تطریب و لحن سے پڑھنے میں کوئی ایسا (مفسدہ) نہیں پایا جاتا کیونکہ وہ وضیٰ کلام سے خارج نہیں ہوتی اور سماع اور اس کے فہم میں اڑ نہیں بنتی، بلکہ اس کے بر عکس صورت ہوتی ہے۔

یعنی لوگ کہتے ہیں کہ لحن و طرب کلمات کو ان کی اصل وضع سے نکال دیتے ہیں اور سماع اور اس کے فہم و درک میں حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حالات و اقدامات اس کے خلاف ہیں اور فرمائے ہیں کہ ”یہ ترجیح و تطریب ایک ایسا امر ہے جو بھی توکیفت ادا کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی سلیقہ اور امر طبعی پر مشتمل ہوتا ہے اور کبھی تکلف اور بناوٹ سے عبارت ہوتا ہے اور کیفیات ادا کلام کو اس کے مفردات کو وضع سے خارج نہیں کر سکتی بلکہ یہ تو آواز نکالنے والے کی آواز کی صفات ہوتی ہیں، جو (آواز کو) باریک اور سوٹا کرنے اور اس میں امالہ کرنے، قاری کی طویل و متوسط مد کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کیفیات صرف حروف کے لئے

تعلق رکھتی ہیں اور انہاں و تطریب کا آوازوں سے تعلق ہوتا ہے اور ان کیفیات کے آثار نقل کنا ناممکن ہے۔

پاں ادا ٹے حروف کی (کیفیات قدسے بیان ہو سکتی ہیں) اس لئے ہم اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں، لیکن یہ مکمل نقل نہ ہوگی بلکہ صرف ممکن حد تک ہم اسے نقل کر سکیں گے جیسا کہ سورہ فتح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح اس طرح بیان ہوئی ۱۱۰۔

تطریب و تلحین دو باتوں سے عبارت ہے۔ مدّ اور ترجیح۔ اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ رحمٰن اور رحیم پڑھتے۔ وقت مکو کھنچتے (طوبیل کر کے پڑھتے) انگریز شہنشہ صفات میں آپ سے ترجیح بھی ثابت ہو چکی ہے۔

(حن) کے مانعین نے کئی طرح کے استدلال دیئے ہیں۔ ایک روایت حضرت مذیع بن یمان سے ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ،

قرآن پاک کی عرب کے لحن اور آواز میں تلاوت کرو۔ اور اہل کتاب اور فاسق کے لحن سے بچو۔ کیونکہ عنقریب میرے بعد ایسی اقوام آئیں گی جو قرآن پاک کو غناء اور نوحہ کے انداز میں پڑھیں گی (قرآن)، ان کے ملک سے آگے نہ بڑھے گا۔ ان کے قلوب فتنہ میں مبتلا ہوں گے اور ان کے قلوب بھی (مفتون ہوں گے) جنہیں وہ اپنی شان و حکار ہے ہوں گے اسے ابو الحسن اور زرین نے تجربہ الصحاح میں روایت کیا اور ابو عبد اللہ حکیم ترمذیؒ نے فوار الاصول میں نقل کیا ہے۔

خاضی ابو بعلیؓ نے جامع میں اس سے اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط قیامت ذکر فرمائیں اور ان میں سے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ قرآن کو با جدرا (کانا) تصور کر لیا جائے گا۔ ایک آدمی جو نہ زیادہ پڑھا ہو اور نہ افضل ہو گا بعض اس وجرہ سے ان کے سامنے تلاوت کرے گا کہ وہ اسے غناء کے انداز میں گائے گا اور فرمایا کہ زیاد نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن کو سے کر آیا۔ اس سے کہا گیا کہ پڑھو تو اس نے آواز بلند کی اور طرب انگریز طریقہ (سے پڑھا) اس کی آواز بلند تھی، حضرت انس نے اپنا چہرہ کھولا، آپ کے چہروں پر سیاہ دھجی تھی اور فرمایا،  
اے شخص وہ تو اس طرح نہ پڑھتے تھے۔

اور جب حضرت رانس (ع) کوئی غلط بات دیکھتے تو اپنے چہرہ سے دھمی اٹھاتے اور منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرب انگیز موزون کو اذان میں طرب پیدا کرنے سے منع فرمایا جیسا کہ ابن حجر الحنفی نے حضرت عطاء مسیح اہنگوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرب انگیز طریقہ پر اذان پڑھنے والا ایک مذکون تھا اپنے فرمایا کہ اذان آسان اور سہل ہے۔ اگر تیری اذان آسان اور سہل ہو (تو اذان دے) ورنہ اذان دست دے۔ (واحد قطبی)

اور عبد الرحمن بن سعید حافظ نے حضرت قنادہ سے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت مدار سے ہوتی جس میں ترجیح نہ تھی۔

اور منقول ہے کہ ترجیح و تطریب میں غیر موزون ہمزة اور غیر محمد و دمدھوقی ہے اور ایک الف کی ترجیح میں کمی الف ایک واو میں کمی واو اور ایک یا ام کی ترجیح میں کمی یا ام بن جاتی ہیں (قرآن مجید کے الفاظ میں) زیادتی ہے اور یہ ناجائز ہے۔

اور جو سلف کے حالات سے کچھ باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ تکلفات اور موسيقی کے لحاظ کے ساتھ تلاوت قرآن سے پیزار تھے، جو محدود و گنجی میں موزون کردہ حرکات و ایقاع کا نام ہے اور وہ اس انداز کی تلاوت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے از جد خائن تھے۔

اور یہ بھی معلوم ہے کہ (صحابہؓ) تحریک و تطریب سے پڑھتے اور قرآن میں اپنی آوازوں کو خوبصورت بناتے۔ کبھی تو غناک طریقہ سے اور کبھی طرب اور اشتیاق آمیز طریقہ سے تلاوت کرتے اور یہ ایک ایسا امر ہے جو متن اقتضا نہ طبیعت ہے اور شدت تقاضا کے طبائع کے باعث شارع علیہ اسلام نے اسے منوع قرار نہیں دیا۔ بلکہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسے مستحب فرمایا اور بتایا کہ جو اس طرح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت سنتا ہے اور فرمایا جو قرآن کو تلقنی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

اور اس روایت میں دو وجہ ہیں ایک امر واقع ہے۔ جس پر ہم سب عمل پیزا ہیں اور دوسرا اس طریقہ کی مخالفت جو (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے مخالف طریقہ و سنت پر ہو۔

# مرتضیوں کی عیادت

مرتضیوں کی عیادت میں مسلم، کافر، مشرک کی قید نہیں

کافر خادم کی عیادت صاحبہ میں سے یوں بیمار ہو جاتا آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔

اپنے کتاب میں سے ایک آپ کا خادم تھا آپ نے اس کی بھی عیادت کی۔ آپ نے اپنے بھائی کی عیادت کی، حلا نکد وہ مشرک تھے۔ ان دونوں پر آپ نے اسلام پیش کیا۔ چنانچہ بہودی مسلمان ہو گیا۔ آپ مرتضی کے قریب تشریف لے جاتے اور اس کے سر ہانے سمجھتے اس کا حال دریافت فرماتے اور پوچھتے کیسے ہو؟

منقول ہے کہ آپ مرتضی سے پوچھتے کر دہ کیا چاہتا ہے؟ فرماتے کہ کیا تمہیں کسی پیغز کی خواہش ہے؟ اگر وہ کچھ چاہتا اور آپ سمجھتے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں تو اسے کھانے کا حکم فرماتے۔ آپ مرتضی پرداہنا ہا تھو پھیرتے اور دعا پڑھتے۔ اللہ ہر راب الناس اذہب الباس و اشفق انت الشافی لاشفاعك لا يغادر سقماً۔

لیجنی: اے اللہ لوگوں کے پروردگار دکھر دور کر اور شفاعة عطا فرمادے

تو ہی شفاء دینے والا ہے۔ تیرے سوا کہیں سے کوئی شفای نہیں۔  
الیسی رشفاء کر کوئی بیماری نہ رہنے دے۔

اور یہ دعائی پڑھا کرتے: مسح الیاس سب الناس بیدل الشفا  
لما شلت له الانت.

یعنی: ہم لوگوں کے پروردگار دکھنے والے۔ تیرے ہی ما خر  
بیس شفاء ہے تیرے سوا کوئی راس روگ کو محولتے والا نہیں۔  
اور آپ مریض کے لیے تین بار دعا فرماتے، جبیا کہ آپ نے حضرت سعد  
کے لیے دعا کی۔

اے اللہ سعد کو شفاء دے اے اللہ سعد کو شفاء دے اے اللہ سعد کو  
شفاء دے۔

اور جب آپ مریض کے پاس تشریف لاتے تو فرماتے، کوئی فکر نہیں۔  
انشار اللہ سب شعبیک ہو جاتے گا۔ بسا اوقات فرماتے: یہ بیماری رکنا ہوئے  
کا کفارہ اور ٹھوہر بنے جاتے گی۔

اور جس کے زخم یا پھوٹرا یا کوئی تکلیف ہوتی آپ اس پر دم کیا کرتے۔ پہنچنے  
شہزادت کی انگلی زمین پر رکھ دیتے۔ پھر اسے اٹھا لیتے اور پڑھتے۔

بسم اللہ تریۃ أرضنا برقۃ بعضنا یشفی سقیمتا باذن ربنا۔

یعنی "اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم بیس سے بعض کے لعاب  
سے ہمارے بیمار کو شفاء دے گی، ہمارے پروردگار کے اذن سے" یہ  
یہ صحیح ہیں متقول ہے اور یہ ان الفاظ کے خلاف ہے جو اس روایت میں  
آتے ہیں کہ ستر بزاریے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت بیس داخل ہوں گے  
اور وہ ایسے ہوں گے کہ نہ قودہ دم کریں گے اور نہ دم کرائیں گے۔ تو واقعہ یہ  
ہے "لادیرون دم نہ کریں گے" کا لفظ راوی کی طرف سے بر بندی غلطی  
اضافہ ہے۔ بیس نے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ کو فرماتے سنائے کہ یہ حدیث یوں ہے۔

کر دے، وہ لوگ میں بھاڑ پھونک، ترکرا بیس گے؟ میں رامن قیم، کہتا ہوں کہ یہ لوگ جنت میں اس وجہ سے داخل ہوں گے کہ ان کی توجید کامل ہوگی۔ انہیں اپنے پروردگار پر ہر طرح توکل ہو گا، اسی کی طرف سکون ملے گا، اسی پر اعتقاد کریں گے اور اسی سے راضی رہیں گے اور اپنی تمام ضروریات اسی کے سامنے پیش کریں گے اور اسی سے راضی رہیں گے اور اپنی تمام ضروریات اس کے علاوہ کسی طرح کا سوال کریں گے اور نہ کوئی بد فائی اتنے کے عذام میں اٹڑتے سکے گی۔ کیونکہ بد فائی رشگون توجید کو ناقص اور کمزور کر دیتی ہے۔

(فرمایا) اور جھاڑ ردم کرنے والا غصن ہے اور دم کرنے والا سائل ہے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرایا ہے، دم کرایا کر جوتم میں سے اپنے بھائی کو نفع دے سکے اسے چاہیئے کہ وہ ضرور نفع دے۔ اگر بہ کہا جائے کہ سبھیں کی اس روایت کا کیا جواب ہو گا۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو ہاتھ کھٹکتے کر لیتے پھر ان پر پھونکتے اور قل هوا اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکا کرتے اور ان دونوں (تہجیلیوں) کو جہاں تک ہو سکنا جنم پر طے لیتے اور سر سے شروع کرتے اور پھر وہ سے بعینی وہ حصہ جو جسم میں سے سامنے کا ہوتا، آپ تین مرتبہ ایسا کرتے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے مجھے حلم دیتے کہ میں ایسا کروں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت تین طرح سے مردی ہے۔ ایک ابھی ذکر کوہ ہو چکا ہے۔ دوسریہ کر آپ اپنے جسم بدارک پر پھونک لیتے۔

تمیرے یہ کہ حضرت عائشہؓ اتنے (سورتوں کو پڑھ کر) آپ پر پھونک دیا کرتے اور برکت کی خاطر آپ دست بدارک کو حسدا ہر پھر تین ہے۔

(اور پھٹکے) الفاظ یہ میں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر محو ذات پڑھتے اور پھونک لیتے۔

یہ الفاظ خود ایک دوسرے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر پھونک لیتے ہیں ضعف اور تکلیف کے باعث آپ اپنے سلسلہ طہرہ پر لا تھویر سکتے۔ اس لیے حضرت عائشہؓ کو حکم دیتے کہ پھونک لینے کے بعد آپ کے ہاتھوں لو جسد اطہر پر پھیر دیں۔ تو یہ در اصل سے ہم کتنا نہیں ہے اور نہ (حضرت عائشہؓ) نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیتے کہ میں آپ پر دم کروں۔ بلکہ باتِ حرفاً اس قدر ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر دم کر چکنے کے بعد (عائشہؓ) سے فراتے کر دہ آپ کے ہاتھوں کو (بدنِ مبارک) پر پھیر دیتے۔ پھر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم دیتے کہ میں بہ کروں، یعنی آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسد اطہر پر پھیر دوں جیسا کہ آپ رحمت کی حالت میں (خود کرنے) تھے۔ اور مریض کی عبادت کے لیے کوئی دن مقرر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبیبہ میں سے نہیں تھا۔ اور نہ اوقات میں سے کوئی متعین وقت تھا۔ بلکہ آپ دن رات تمام اوقات میں (حسبہ خودت) مریضوں کی عبادت فہما۔ اور سند میں آپ سے منقول ہے کہ جب ایک آدمی اپنے مسلمانہ بھائی کی عبادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باش میں چلتا ہے۔ بہانے تک کہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے رحمتِ مُحَمَّد حاصل پر لیتی ہے، چنانچہ اگر وہ صحیح کو عبادت کرے تو شام تک ستر بزار فرشتے اس کے لیے دعا نے رحمت کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کو عبادت کرے تو صحیح تک ستر بزار فرشتے اس کے لیے دعا نے رحمت کرتے ہیں۔

ایک لفظ یہ ہے کہ جو مسلمانہ بھی دوسرے مسلمانے کی عبادت کرے گا تو اللہ اُس کے لیے ستر بزار فرشتے بھیجے گا۔ جو اس کے لیے دعا نے رحمت کرتے رہیں گے۔ یعنی دن کی کسی گھری میں (عبادت کی ہوگی) بہانے تک کہ شام ہو جائے اور رات کی کسی گھری میں (عبادت کی ہوگی) بہانے تک کہ صحیح ہو جائے گی۔

اور آپ بیماری چشم کے مریضوں کی بھی میادت فرمایا کرتے۔  
 اور کبھی آپ مریض کی پیشانی پر درست بیمار رکھتے، پھر اس کے سینہ اور  
 پیٹ پر (راختہ) پھیرتے اور دعا کرتے۔ اے اللہ اسے شفادے۔  
 اور آپ چہرے پر بھی رماختہ پھیرتے اور جب آپ مریض سے مالوس  
 ہو جاتے تو پڑھتے؛ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم اللہ کے ہی سے  
 اور ہم اُسی کی طرف نوٹنے والے ہیں۔

# نمازِ جنازہ

## مسجد میں پڑھنی چاہیے یا مسجد کے باہر؟

**میت کے لئے دعا میغفرت** [جنازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تمام و مری امتوں کے خلاف زیادہ کامل اور میت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھائی پر مشتمل تھی۔]

اپ ایسا طرز اختیار فرماتے، جس سے میت کو قبر میں اور حشر کے دن نفع پہنچے، اور اس کے اہل واقارب کے ساتھ اچھا برداشت جس سے ان کا غم کم ہو۔ اور زندہ لوگوں کی عبادت بھی اپ کے دل میں تھی۔

جنازوں میں آپ کی سنت طیبہ تھی۔ خدا نے تعالیٰ کی عبادت بکل طور پر قائم کرنا، میت پر احسان اور اسے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف احسن و افضل طریق پر روانہ کرنا۔ صحابہؓ کاقطاروں کی متعدد میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ میت کے لئے بخشش چاہنا اور مغفرت اور رحمت اور عفو و دلگذاری دعا کرنا، پھر اس کے آگے آگے چلتا بہاں تک کر اسے مدد تک وداع کیا جائے۔

اس کے بعد آپ صحابہؓ سمیت قبر کے سامنے کھڑے ہوتے اور میت کے لئے تسبیت کی دعا کرتے جس کی اس وقت ضرورت ہوتی اور گاہے گاہے اس کی قبر پر تشریف لے جاتے۔ میت کو سلام فرماتے۔ اور اس کے لئے دعا کرتے جس طرح دنیا میں ایک قبیلہ ایک اوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے چنانچہ مریض کے ساتھ آپ کا پہلا سلوک حالت مرض میں تذکرہ آخرت ہوتا آپ اسے وصیت اور توہین کا حلم دیتے، اور جو اس کے پاس آتا اسے حکم دیتے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین گرے

تکہ کلمہ طیبہ اس کا آخری کلام ہو۔

بھر ان اقوام کی عادات کی ممانعت جو بعثت و نشور (حشر و نشر) پر ایمان نہیں رکھتیں جیسے  
چہرے پر تھپٹ مارنا، پکڑے پھاڑنا۔ سر منڈو اانا اور عاویلا کرتے ہوئے آواز بلند کرنا وغیرہ۔

میت کے لئے آنسو بہانا جائز ہے اور میت کے لئے خشوع اور ایسا گریپ کہ جس میں  
اور نہ ہوا اور صرف دل ہی غلکین ہو سنت قرار  
آپ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے اور فرماتے تھے۔ انکھ آنسو بھاتی ہے، دل غلکین ہے، اور ہم وہ  
کہتے ہیں جس سے ہمارا پردگار راضی ہو۔

آپ نے اپنی امت کے لئے حمد و استرجاع (إِنَّا بِدِينَهُ وَلَا نَا مُلِيهُ سِرْاجُونَ) اور اللہ  
راضی رہنا سنوں قرار دیا، اور یہ یا تین گریچھم اور غم دل کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تما  
خلوق میں سے سب سے راضی بقضاء اللہ اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے اور اس کے لیے  
اپنے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر فوری محبت و رحمت و رقت کے باعث رو جائی  
اور آپ کا قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و شکر سے بھر چکہ اور نہیں اس کے ذکر و مدین مشفولاً  
اور بعض لوگوں کو اس بات میں اشکال ہو جاتا ہے کہ ایک عارف کا رکا فوت ہو گیا تو وہ  
ہنسنے لگا، پوچھا گیا کہ تو اس حالت میں ہنس رہا ہے؟

وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امر کا فیصلہ فرمایا تو میں نے چاہا کہ اس کے فیصلہ پر راضی؟  
جاوہ۔ تو اہل علم کی جماعت کو اس میں اشکال سا ہو گیا اور کہنے لگے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ  
فت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگے؟ حالانکہ آپ تو تمام خلوق سے زیادہ اللہ  
امر و فیصلہ پر راضی ہیں اور یہ عارف اس قدر راضی ہوا کہ ہنس دیا؟

میں نے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ کو فرماتے تھا کہ اس عارف کی سنت سے ہما  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ کامل ہے، کیونکہ آپ نے عبد ہونے کا حق ادا کر دیا۔  
طرح آپ کا قلب رضاۓ الہی اور بچے کے متعلق رحمت و رقت کے لئے وسعت اختیار کر  
چکا۔ پھر آپ نے اللہ کے امر فیصلہ پر رضا خالہر کی اور حمد بیان کی، اور رحمت و رقت کے  
باعث روئے۔ رقت نے آپ کو رونے پر، عبودیت اور اللہ کی محبت نے رضا و حمد

بھیور کر دیا۔ لیکن اس عارف کا قلب دو مختلف اوصاف کا متحمل نہ ہو سکا، اور دونوں کے شہود و قیام کے لئے اس بالطن میں وسعت پیدا نہ ہو سکی اس لئے اس کی عبودیت رضا اس کی عبودیت رحمت و رقت میں آڑ بی گئی۔

**میت کی تطہیر و تجہیز** [نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میت کی تطہیر و تجہیز اور خوشبو وغیرہ لگانے میں جلدی کرتے اور سفید کپڑوں میں مکفین کرتے۔

میت لائی جاتی اور میت لائے جانے کے بعد جب آپ کو بلا یا جاتا آپ تشریف لا کر اس کے پاس مٹھرتے، یہاں تک کہ تجہیز ہو جاتی اور پھر آپ نماز جنازہ پڑھتے اور اسے قبر تک پہنچاتے۔ پھر صحابہؓ نے محسوس کیا کہ یہ بات آپ کے لئے تکلیف وہ ہے، لہذا مریض کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو بلا تے، آپ تجہیز و غسل و کفن کے وقت موجود رہتے۔ پھر محسوس کیا کہ یہ بھی آپ کے لیے باعث مشقت ہے، تو صحابہؓ ہی تجہیز و مکفین کرتے اور چار پانچ پر میت کو لے جاتے۔ آپ سے مسجد سے باہر اس کا جنازہ پڑھتے۔

اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا آپ کی سنت مراقبہ نہیں، بلکہ آپ مسجد سے باہر ہی جنازہ پڑھا کرتے تھے اور گاہے گاہے مسجد میں بھی جنازہ پڑھ دیتے جیسا کہ آپ نے سہیل بن بیضاء اور اس کے بھائیؓ کا مسجد میں جنازہ پڑھا لیکن یہ آپ کی سنت اور عادت میں شامل نہ تھا۔

اور سنن ابو داؤد میں صالح مولیٰ تواتر کی روایت سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو یہیہؓ سے روایت کی مخصوص نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھے، اس کے لئے کچھ (اجر) نہیں۔

روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ خلیفہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ "اس پر کچھ نہیں اور دوسرے اویت کرتے ہیں" کہ اس کے لئے کچھ نہیں۔ ابن ماجہ نے سنن میں نقل کیا ہے اس کے الفاظ ہیں۔ "فليس له شئ" اس کے لیے کچھ نہیں، لیکن امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

صالح راوی ائمہ اصحاب الرجال کی نظریں | امام احمدؓ نے فرمایا ہے کہ یہ صالح مسوی تو آمدہ ہیں کہ یہ حدیث صالح کے منفرد ہوتے ہوئے ثقہ ہے اور حضرات عائشہؓ کی روایت اس سے زیادہ صحیح ہے، اور صالح کے عدل میں اختلاف ہے۔ مالکؓ اس پر جرح کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مسجد میں نماز (جنائزہ) پڑھی۔

میں کہتا ہوں کہ صالح فی نفسه ثقہ ہے جیسا کہ عباسؓ نے ابن معین سے روایت کی ہے کہ وہ فی نفسه ثقہ ہے اور ابن بی مريم اور شیخی نے کہا کہ ثقہ محبت ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مالکؓ نے اسے ترک کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مالکؓ نے انہیں اس وقت پایا جب کہ (کبر سنی کے باعث) ان کے حواس جاتے رہے اور ثوریؓ کی ملاقات بھی اسی زمانہ کی ہے لیکن ابن ابی ذریبؓ نے اس حالت تک پہنچنے سے قبل ان سے (حدیث) کا سماع کیا اور علی بن فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں۔ ہاں البۃ (کبر سنی کے باعث) ان کے حواس درست نہ رہے تھے۔ ثوریؓ نے ان سے اس حالت کے بعد سماع کیا اور ابن ابی ذریب کا سماع اس سے قبل تھا اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ ان کی (عقلی) حالت ایک سوچ پیش صدی سے خراب ہوئی، اور نظر رجال سے ایسی روایات کرنے لگے جو موضوعات سے ملتی جلتی تھی اور ان کی قدیم اور جدید احادیث مختلط ہو کر رہ گئیں اور ان میں فرق نہ کیا جاسکا اس نے ان کا ترک اولیٰ ہے۔ ( )

خطابیؓ فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے مسجد میں نماز (جنائزہ) پڑھائی اور یہ بھی معلوم ہے کہ عام مہاجرین و انصار بھی اس میں شریک ہوئے اور ان کا ترک انکار اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے اور فرمایا، کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی روایت تاویل سے اگر ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اجر میں کی ہو جائے گی وہ اس طرح کر، جو مسجد میں نماز جنائزہ پڑھے، تو خیال یہ ہے کہ وہ واپس چلا جائے گا اور دفن میں شریک نہ ہو گا اور جو جنائزہ کے ساتھ چلے اور قبرستان کے قریب جنائزہ

پڑھے وہ دفن میں بہر حال شریک ہو گا، اور دو قیراط اجر کا مستحق ہو گا۔ نیز کثرت اقدام پر اگر ثواب حاصل ہو گا۔ اس طرح مسجد میں جنازہ پڑھنے والا اس ادمی سے اجر میں خسارے میں رہ گیا جو کہ مسجد سے باہر جنازہ پڑھتا ہے۔

رباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کر فلاشی لد و داس کے لیے کچھ اجر نہیں۔“ ایک جماعت نے اس کی یہ تاویل کی ہے قلہ شیعیہ کہ اس پر کوئی موافق نہیں، تاکہ دونوں لفظ متحد ہو جائیں اور تناقض نہ رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وان ۲۳ ساتر قلہا یہاں بھی اس کا معنی فعلیہا یعنی اگر تم براہی کرو گے تو تمہارے لیے یعنی تم پر ہو گی، دونوں احادیث میں یہ لوگوں کے طریقہ (بیان) ہیں اور صحیح مسلک وہی ہے جو ہم شروع میں بیان کر رکھے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے۔ کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر ہوا کمرے بجز کسی عذر کے اور دونوں امور جائز ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ مسجد سے باہر ہو۔

میت کو وفور محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو میت کو ڈھانپ دیا جائے اس کی آنکھیں بند کی جائیں اور اس کے چہرے اور بدن کو (کپڑے) سے چھپا دیا جائے۔  
بس اوقات آپ میت کا بوسہ لے لیتے جیسا کہ آپ نے عثمان بن مطعون کا بوسہ لیا اور روئے اسی طرح حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشافی کا بوسہ لیا۔

اور آپ میت کوئی پانچ یا غزال کے خیال کے مطابق (جس قدر ضرورت ہو) غسل فتنے کا حکم دیتے اور آخری غسل کافر کے (پانی) سے دینے کا حکم دیتے۔

اور میدانِ جنگ کے شہید کو غسل نہ دیتے۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے شہدا کے غسل سے منع فرمایا، البتہ آپ ان سے نورا دہ تھیار (اور چہرے کا سامان بہاس) آمد یافتے، اور انہیں ان کے کپڑوں میں دفن کر دیتے، اور ان پر نماز جنازہ نہ پڑھتے اور جب کوئی حرم فوت ہو جاتا تو آپ اسے پانی اور بیری (کے پتوں کے جوشاندہ کا) غسل دیتے

اور اسے دو کپڑوں میں کفن دیتے۔ اور یہ حرم کے دونوں اپنے کپڑے لعینی تہہ بند اور جاودہ بھی اور خوشبو لگانے اور سر و ڈھانپ دینے کا حکم دیتے۔ اور میت کے ولی کو حکم دیتے کہ کفن اچھی طرح دیں اور سفید (کپڑے کا) کفن دیں، ازحد مہنگے کفن سے منع فرماتے اور جب کفن تھا جسم کو ڈھانپ دینے سے کم پڑ جانا تو اس کا سرچھپا دیتے اور پاؤں پر گھاس ڈال دیتے۔

**مقرض کا قرض نماز جنازہ سے پہلے ادا ہو جانا چاہئے** نماز جنازہ کے لئے جب آپ کے سامنے میت لائی جاتی

تو آپ دریافت فرماتے،  
کیا اس پر قرض ہے یا نہیں؟

اگر اس پر قرض نہ ہوتا تو جنازہ پڑھ دیتے اور اگر قرض ہوتا تو جنازہ نہ پڑھتے اور صحابہؓ سے فرماتے کہ وہی اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا (دعا نماز) شفاعت تھی۔ اور آپ کی شفاعت ضرور قبول ہو جاتی، اور حیرہ بندہ رہن میں (مقرض) تھا اور جب تک (قرض) ادا نہ کر دیا جائے جنت میں داخلہ نہیں ملتا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراغی اور کشائشِ مرحمت کی تو مقرض کا جنازہ پڑھ دیتے اور اس کا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیتے اور اس کا مال اس کے وارثوں کو دے دیتے۔

جب آپ نماز جنازہ شروع فرماتے تو تکبیر کہتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شنا بیان کرتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے جنازہ پڑھایا تو پہلی تکبیر کے بعد بلنڈ آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور (بعد میں) فرمایا "تاكہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔"

اسی طرح ابو امامہ بن سہل نے فرمایا کہ پہلی (تکبیر) کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا (لیکن) اس کی سند صحیح نہیں۔ ہمارے شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت سے اور ابو امامہ بن سہل نے صحابہؓ کی ایک جماعت سے نماز جنازہ میں درود مشریف پڑھنا بھی نقل کیا ہے اور الحنفی بن سعید انصاری نے حضرت سعید قرقی سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا کہ انہوں نے نماز جنازہ میں حضرت عبادۃ بن

سماست سے درود و شریف کے متعلق بچھپا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہین بتائیں گا (کہ جب نمازِ جنازہ) شروع کرو۔ تو تجھیر کہو بچھر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھے اور دعا کرو۔

اللهم ان عبیدك فلا ناخان لويشرك بل وانت اعلم به ان کات  
محستا فز في احسانه وان كان مسييا فتمها وزعنده اللهم لا تحرمنا (احجرة)  
ولا تضلنا بعد الا.

”یعنی اے اللہ بے شک تیرا فلاں بندہ تیرے ساتھہ شرک نہ کرنا تھا اور تو ہی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے، اگر وہ نیک (حسن) تھا تو اس کی شکیوں میں اضافہ فرماؤ اور اگر بُرا تھا تو اس سے درگذر فرماؤ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔

نمازِ جنازہ کا مقصد ہتھیت کے لئے دعا اس طرح دعاؤں کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

اللهم اغفر له ولامه واعف عنہ و اكرم نزلہ و وسع مدخلہ و اقلہ  
بالماء والشلیہ والبر و لقہ من الخطایا کما ینقی الشوب الہ بیض من  
النس و ابدله دارا خیراً ممن دارا واهلاً خیراً ممن اهله و نز و جا خیراً  
من شر و جهہ و ادخله الجنة و اعذہ ممن عذاب القبر و ممن عذاب الناس۔

یعنی اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرماؤ، اس کو معاف کر دے اس کو باعزت مکان دے، اس کا گھر و سینج کر دے۔ اسے پانی برفت اور مُحنڈ سے وحش  
دے اور اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دے جس طرح کہ سفید کپڑے کو  
میل سے صاف کیا جاتا ہے اور اس کے اپنے گھر سے بہتر گھر اپنے اہل سے بہتر  
اہل اپنے زوج سے بہتر زوج عطا فرماؤ اور اسے جنت میں داخل فرماؤ اور اسے قبر  
کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچالے“  
نیز آپ کی ایک دعا یہ بھی منقول ہے:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمِيتَنَا وَصَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا وَذَكْرَنَا وَلَا شَانَا وَشَاهِدَنَا وَغَائِبًا  
اَللّٰهُمَّ صَنَعْتَنَا حَيْيَةً مَنَّا حَيْدَه عَلٰى اَلْأَسْلَامِ وَالسُّنْنَةِ وَمَنْ تَوْفَيْتَهُ مَنَافِرِنَه  
عَلٰى اَلْأَيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْمِلْنَا اَحْيَرَكَ وَلَا تَفْتَنْنَا بَعْدَكَ -

”لیعنی اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ کو چھپوٹے اور رہنے کو مذکرا اور موئش کو  
محجور اور غائب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے توجہے زندہ رکھے تو اے  
اسلام اور سنت پر زندہ رکھ اور جسے فوت کرے تو حالت ایمان میں فوت  
کر۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد آزمائش میں  
نہ طوانا“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لئے خلوص سے دعا کرنے کا حکم دیتے۔

نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہنی چاہئیں | اور آپ چار تکبیریں کہتے اور صحیح روایت یہے  
صاحبہؓ چار پانچ اور چھ (تک) تکبیریں کہا کرتے۔ چنانچہ زید بن ارقم نے پانچ تکبیریں کہیں اور آپ کے بعد  
بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تکبیریں کہی تھیں (مسلم) اور حضرت علیؓ بن ابی طالب  
نے حضرت سہیل بن حنیف کی (نماز جنازہ) میں چھ تکبیریں کہیں۔ نیز اہل بدہ پر آپ نے چھ تکبیریں  
کہیں۔ دوسرے صحابہؓ پر پانچ تکبیریں اور باقی لوگوں پر چار (دارقطنی)

اور سعید بن منصور نے حکم سے انہوں نے ابن عینیہ سے نقل کیا کہ (صحابہؓ) اہل بدہ پر  
پانچ چھ اور سات تکبیریں تک کہا کرتے، یہ صحیح آثار ہیں اس لئے اس میں ممانعت کی کوئی  
بات ہی نہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی چار سے زیادہ کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے  
خود اور آپ کے بعد صحابہؓ نے اس پر عمل کیا۔

# اسوہ حسنی

قبیں اونچی اور سختہ کرنے اور نالہ و شیوں کی ممانعت

نماز جنازہ کی تکبیر میں مروی ہے کہ نماز جنازہ میں آپ ایک سلام پر اکتفا کرتے، ایک حدیث میں آپ سے دو سلام بھی مروی ہیں۔ یہ تھی وغیرہ نے حضرت معتبری کی حدیث سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو چار تکبیر میں کہیں اور ایک سلام کیا۔ لیکن امام احمد رشم کی روایت میں فرمائیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث موضوع ہے۔ خلال نے اسے معلومات میں ذکر کیا ہے۔ اور ابراہیم بھری بتاتے ہیں کہ ابی عبد اللہ بن ابی اوضی نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھا تو چار تکبیر میں کہیں۔ پھر تصور ڈی دیر خاموش مظہرے رہے۔ ہم نے خیال کیا کہ پانچوں تکبیر کہیں گے (لیکن) پھر انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جب فارغ ہوئے ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، جتنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کام ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، ان میں سے ایک جنازہ میں نماز کی طرح سلام پھینا ہے۔ ان دونوں کو یہ تھی وغیرہ نے ذکر کیا، لیکن ابراہیم بن مسلم بھری کو ابن معبدیؓ نے اور ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا

ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی اوضی سے اس کے خلاف مروی ہے۔ امام احمدؓ نے ان سے اور احمد بن قاسم سے نقل کیا کہ وہ ایک سلام پھیرتے تھے۔ ابو عبد اللہؑ سے دریافت کیا گیا کیا آپ کسی صحابی کو جانتے ہیں کہ جو جنازہ میں دو طرف سلام پھیرتا ہو ہے فرمایا نہیں صرف چند صحابہؓ ایسے ہیں، جن سے یہ منقول ہے۔ کہ وہ دلیں طرف خفیف سا ایک سلام پھیرتے تھے پھر ان کے نام بتائے جو یہ ہیں:

حضرت ابن عثیرؓ، ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، والمر بن استفت، ابن ابی اوضی، زید بن ثابت اور امام زین العقیلؓ نے علیؓ بن ابی طالب، جابر بن عبد اللہ، انسؓ بن مالک اور ابو امامة بن سہل بن حنیف کا نام بھی ذکر کیا ہے، تو یہ سب دس صحابہ ہوئے۔

اور ابو امامةؓ وہ ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پایا۔ اور آپؓ نے ان کا نام ان کی والدہ کے داد ابو امامة، اسعد بن زرارہ کے نام پر رکھا۔ یہ صحابہ اور کبار تابعین میں سے ہوئے۔

اور رہار فوج دین کا معاملہ، تو امام شافعیؓ کا خیال ہے کہ اثر کے باعث اور نماز میں منت بر قیاس کرتے ہوئے رفع دین سمجھا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر پر حالت قیام میں رفع دین فرمایا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں شافعی کا اثر سے مطلب وہ ہے جو ابن حمزةؓ اور انسؓ بن مالکؓ سے مروی ہے کہ آپؓ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے اور داہنہ ہاتھ بالیں پر رکھ دیتے (سنن ہیحقی) اور ترمذی مشریف میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب) قبر پر نماز جنازہ پڑھی تو اس میں داہنہ ہاتھ بالیں ہاتھ پر رکھ دیا (لیکن) یہ روایت مذید بن سنان رہادی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز جنازہ اگر آپؓ سے جمیعت جاتی، قبر پر نماز جنازہ پڑھتے۔ چنانچہ آپؓ نے ایک بار ایک رات کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ ایک بار تین (رات کے بعد) اور ایک بار ایک ماہ کے بعد (نماز جنازہ پڑھی) اور اس میں کوئی انتہائی مدت نہیں مقرر ہے۔

امد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر پر نماز جنازہ میں کس کوشک ہے؟ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب نماز جنازہ فوت ہو جاتی تو آپ قبر پر جنازہ پڑھتے اور یہ چند وجوہ ہے۔ جو سب کے سب لمحن ہیں۔

نیز امام احمدؓ نے قبر پر جنازہ پڑھنے میں ایک ماہ کی مدت کا تعین کیا ہے کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ وہ مدت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے اتنی مدت کے بعد بھی جنازہ پڑھا۔

امام شافعیؓ نے میت کے بوسیدہ نہ ہو جانے تک کی مدت مقرر فرمائی ہے اور مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کے سواب کو منع کیا ہے جب کہ ولی غائب ہو (اور جنازہ نہ پڑھو سکا تو جب موقع ملے پڑھ لے)۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ مرد کے سر کے قریب اور سورہ کے وسط میں کھڑے ہوتے۔

طفل کی نماز جنازہ پڑھنا بھی سُنّت نبویٰ ہے [صحیح روایت میں آپ سے ثابت ہے] کہ آپ نے فرمایا:

بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے بچوں کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ تمہارے (ایسے نیک اعمال ہیں جو تم نے آگے بھیجے ہیں)۔

احمد بن ابی عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے احمدؓ سے سوال کیا کہ سقط پر آپ کس وقت جنازہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟

فرمایا جب چار ماہ کا (حمل ساقط) ہو کیونکہ اس وقت اس میں روح پھونک دی جاتی ہے میں نے عرض کیا حضرت مخیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ طفیل (بچے) پر جنازہ پڑھا جائے آپ نے فرمایا، یہ صحیح مرفوع روایت ہے۔

میں نے کہا اس میں تو چار ماہ کا کوئی بیان نہیں۔

آپ نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب کا قول بھی ہے۔ اب اگر کہا جائے کیا نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، جس روز وہ فوت ہوئے، تو اس میں اختلاف ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہؓ سے مردی ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر اٹھا رہا تھا ماہ تھی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے بتایا کہ انہیں اپنے والد سے انہیں ابن الحلق سے انھیں عبد اللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو حزم سے انھیں عمرہ سے انھیں حضرت عائشہؓ سے یہ بتا دیا۔ امام احمدؓ روایت حنبل میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قطعاً منکر ہے۔

اور خلالی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ کو بتایا گیا کہ مجھے میرے والد نے انھیں اسود بن عامر نے انھیں اسرائیل نے انھیں جابر نے بتایا اور انھیں عامر سے انھیں حضرت برائٹ بن حاذب سے روایت سنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، اور ان کی عمر رسولہ ماہ کی تھی۔ اور ابو داؤد نے جہنی سے نقل کیا کہ جب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاعد میں ان کا جنازہ پڑھا، اور یہ مرسل ہے اور جہنی کا نام عبد اللہ بنی یسار کوئی ہے۔

اور حضرت عطا بن ابی رباح سے منقول ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا جب کہ ان پر صرف ۷۰ راتیں گزری تھیں، یہ روایت صحیح مرسل ہے اور اس میں ایک (راوی) عطا میں اور یہ عمر میں تجاوز کر چکے تھے، اس لیے ان آثار میں لوگوں کا اختلاف ہے چنانچہ جن لوگوں نے نمازِ جنازہ کو ثابت کیا ہے اور حضرت عائشہؓ سے منقول روایت کو صحیح نہیں مانا ہے۔ جیسے امام احمدؓ وغیرہ۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مسائل حضرت برائٹ کی حدیث کے باعث ایک درسرے کی تقویت کا باعث ہیں۔

اور بعض لوگوں نے جابر جعفری کی روایت کے ذریعہ، حضرت برائٹ کی حدیث کو افادہ ان مسائل کو ضمیعت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ابن الحلق کی روایت ان سے صحیح تر ہے۔ ابراہیمؓ کی نمازِ جنازہ نہ پڑھنے کے سبب میں صحیح اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کا جنازہ اس بیسے نہیں پڑھا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے وہ نمازِ جنازہ

اس لئے نہیں پڑھا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت کی وجہ سے وہ نماز جنازہ سے بے نیاز ہو گئے۔ کیونکہ نماز جنازہ کی حیثیت رعایت سے نجات دلانے کے لئے، شفاعت کے حقوق ہے جیسے شہید نماز جنازہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ جس دن ان کی وفات ہوتی اسی دن سورج گہن میں آگیا، اس لئے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی بجائے نماز کسوف میں مصروف ہو گئے۔ ایک اور جماعت کا خیال ہے کہ ان آثار میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لئے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھوائی لیکن نماز کسوف میں مصروف دیا تھا۔ اب بعض کا خیال ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھوائی لیکن نماز کسوف میں مصروفت کی وجہ سے خود مشریک نہ ہو سکے اور ایک قول یہ ہے کہ جنازہ نہیں پڑھا، اس لئے ایک گروہ کہتا ہے کہ اثبات کی روایت زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ اس میں علم کی زیادتی ہے اور جب نفی و اثبات میں تعارض ہو جائے تو اثبات مقدم سمجھا جاتا ہے۔

خود کشی کرنے والے اور خائن کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے [اودھ حد امزا] کے

باعث مقتول کی نماز جنازہ میں اختلاف ہے جیسے زانی جو سنگسار کیا جا چکا ہو۔ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہدینہ کو حبم کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔

حضرت عمرؓ نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے۔

آپ نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستراؤ میوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب تک اس کی وسعت پہنچ جائے اور کیا اس سے بھی زیادہ کسی کی توبہ افضل ہو سکتی ہے جبکہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی (رضاء) پر اپنے آپ کو از خود قربان کر دیا (مسلم)، اور صحیح بخاری میں ماعذ بن مالک کے اسی طرح کے قصہ میں متفق ہے کہ آپ نے اس کے لیے کہات خیر ارشاد فرمائے، اور اس کا جنازہ پڑھا اور بریدہ بن حصیب نے بتایا کہ آپ نے فرمایا ماعذ بن مالک کے لئے بخشش کی وہاں مالگو چنپہ لوگوں نے دعا مانگی

کہ اسے اللہ ماعذ بن مالک کو بخش دے۔ ان دونوں اوقات کا مسلم نے صحیح ذکر کیا ہے اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آپؐ نے اس کا جنازہ پڑھا (بخاری)، اور یہ عبد الرزاق کی حدیث ہے جو معلل ہے۔ حضرت ابو بردہ اسلامیؓ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعذ کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا (ابوداؤد)

میں کہتا ہوں کہ غامدیہ کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ثابت ہے کہ آپؐ نے اس کا جنازہ پڑھا ہی ماعذ کی روایت تو اس کے بارے میں یا تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ صلوٰۃ کا مطلب دعا ہے کہ آپؐ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اور تمک صلوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ آپؐ نے تاویبا اور زجرًا نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور اگر یوں کہا جائے کہ الفاظ میں تعارض ہے تو پھر ہم حدیث غامدیہ کی طرف رجوع کریں گے کہ وہ بالکل صاف اور واضح ہے۔

نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپؐ جنازہ کی مشایعت بھی کرتے آپؐ کے بعد خلفاء راشدین اور ان کے

انبع کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر سوار ہوتے تو جنازہ سے پیچے رہتے اور اگر پیدل ہوتے تو قریب رہتے۔ چاہے پیچے اور آگے آگے یاد میں باہیں۔

اور آپؐ میت کو لے جانے کے لیے جلدی کا حکم فرماتے۔ چنانچہ صحابہ جنازہ کے کر تیز تیز چلتے، اور آج کے زمانہ کی طرح آہستہ آہستہ قدم اٹھانا یہ سنت کے خلاف انتہائی کمر وہ اور بدعت ہے۔ اور اہل کتاب یہ یوں کے مثال ہے اور جو ایسا کرتا تھا حضرت ابو بکرؓ اس پر کوڑا اٹھاتے اور فرماتے کہ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاہیت میں رمل (تیز روی) کرتے تھے۔ حضرت ابن مسحود فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنانے کے ساتھ چلنے (کی کیفیت)، کے متعلق پوچھا تو آپؐ نے فرمایا جنہب (دکنی) (تیز روڑنا) سے کم (چلو)، اسے اہل سنت نے روایت کیا اور جب آپؐ جنازہ کے ساتھ جاتے تو پیدل چلتے اور فرماتے امیں سوار نہیں ہوتا جب کہ فرشتے پیڈل جا رہے ہوں۔ جب آپؐ فارغ ہو جاتے تو کبھی پیدل تشریف لاتے اور کبھی سوار ہو کر تشریف

لاتے اور جب آپ (جنازہ) کے ساتھ چلتے تو جب تک وہ رکھ نہ دیا جاتا اس پر بھی نہ بلیجتے اور فرمایا، جب تم جنازہ کے ساتھ چلو تو (جنازہ) رکھ دینے سے قبل نہ بلیجو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں کہ رکھ دینے سے مراد زمین پر رکھ دینا ہے۔

**غائبانہ نماز جنازہ آپ کا عام معمول نہ تھا** [کوئی مسلمان (دور دراز علاقوں میں) وفات

پاجایا کرتے تھے تو آپ ان کی غائبانہ نماز

جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے (عام) میت کے جنازہ کی طرح جبش کے شہنشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس وجہ سے تین مذہب پیدا ہو گئے۔

ایک یہ کہ غائبانہ نماز جنازہ مشرع اور امت کے لئے سنت ہے کہ ہر غائب کا جنازہ پڑھیں، آپ سے منسوب ایک روایت کے مطابق امام شافعی اور احمد رحمہما اللہ کا یہی قول ہے۔ ابوحنیفہ اور طرکٹ نے فرمایا کہ یہ فعل آپ کے ساتھ مخصوص تھا اور دوسروں کے لئے نہیں۔ ان (آخر)، ائمہ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ (انحضرت) کے سامنے چار پانی گئی ہو اور آپ نے اس طرح جنازہ پڑھا ہو کہ آپ (نجاشی) کو گویا حاضر اور سامنے دیکھ رہے ہوں، اگرچہ وہ دور تھا۔ اگرچہ صحابہؓ نے نہیں دیکھا (لیکن) (صحابہؓ) جنازہ پڑھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع عمل ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے سواد نجاشی کے ہر آدمی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو اور جیسے آپ کا فعل ہے اس طرح آپ کا ترک (فعل) بھی سنت ہے، اور آپ کے بعد کسی دوسرے کے لئے ممکن نہیں کہ وہ دور دراز کی مسافت سے بھی کسی کسی میت کی چار پانی دیکھے اور اس کی خاطر (جانب)، اٹھا دیا جائے تاکہ وہ اس کا جنازہ پڑھ سکے اس بحث سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا۔

اوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں ہبھر یہ ہے کہ اگر غائب کسی ابیسے علاقے میں فوت ہو جائے جہاں اس کا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو تو پھر اس کا جنازہ غائبانہ پڑھ دیا جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا، کیونکہ وہ کفار کے درمیان فوت ہوا تھا۔

اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تا اور ایسی جگہ فوت ہو جہاں اس کا جنازہ پڑھا گیا ہو تو پھر غائبانہ جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے جو ادا ہو چکا، اعادہ کی ضرورت نہیں بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی بھی اور نہیں بھی پڑھی۔ آپ کا فعل اور ترک (فعل) دونوں سنت ہیں۔ اس کا ایک مقام ہے۔ اور اس کا (دوسرا) مقام ہے۔ اور احمدؓ کے مذہب میں تین اقوال ہیں اور ان کی صحیح تروضاحت بھی ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ ان کے اصحاب کے خیال میں نماز جنازہ مطلقاً (غیر مشروط) پڑھی جائے۔

صحیح روایت میں الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے سامنے سے جب جنازہ گذرا تو اس کے لئے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور بیٹھنا بھی آپ سے ثابت ہے، اس لئے یہ مختلف فیہ مسلم بن گیا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ قیام مسوخ ہے اور بیٹھے رہنا آخری فعل تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں امر جائز ہیں۔ اور آپ کا فعل (قیام) استتاب کو اور ترک (قیام) حجاز کو ظاہر کرتا ہے اور اعلیٰ نسخ سے یہ (تاویل) زیادہ مناسب ہے۔

میت کے لیے قبر میں بنائی جائے ہے [بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اور نصف النہار کے وقت دفن رکیا جائے۔]

اور آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ بعد بناتے اور قبر گھری کرواتے اور میت کے سرادر پاؤں کی جگہ کو فراخ کرواتے۔

اور آپ سے منقول ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا تو آپ پر دعا پڑھتے،  
بسم الله رب با الله و على ملة رسول الله۔

اور ایک روایت میں ہے بسم الله و في سبيل الله و على ملة رسول الله  
(۱) یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولؐ کی مدّت پر (۲) اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے راستہ میں اور اللہ کے رسولؐ کی مدّت پر۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ میت کی قبر پر جب اس سے دفن کیا جاتا تو سر کی جانب تین بار چلو جھر کر مٹی ڈالتے اور جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو آپ اور آپ کے صحابہؓ اس کی قبر پر کھڑے ہو جاتے اور اس کے لیے تسبیت کی دعا کرتے اور صحابہؓ کو حکم فرماتے کہ اس (میت) کے لیے ثبات کی دعا کریں۔ اور آپ قبر کے پاس بیٹھ کر نہ پڑھتے اور میت کو تلقین کرتے، جیسا کہ اج کل لوگ کرتے ہیں۔

وہ کام جو خلاف سنت ہے [احد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہ قبروں کو رازحد کرو] اور نچا کیا جائے۔ غریبی انہیوں یا پتھروں یا کچی انہیوں سے پختہ کرنا احمدیہ پا سنت میں داخل ہے، اور نہ ان پر تقبے بنانا سنون ہے۔

یہ تمام حرکات مکروہ بدعات ہیں اور یکسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو بھیجا کہ جس تصویر کو دیکھیں مٹا دیں۔ اور جس بلند قبر کو دیکھیں اسے ہموار کر دیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ ان بلند و بالا تمام قبروں کو ہموار کر دیا جائے۔ نیز آپ نے قبر پر چونا لگانے اور اس پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ اور ان پر کہتے تھے تیرید کرنے کی مانعست کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی قبریں نہ ہی رازحد (بلند و بالا) نہیں اور نہ ہی بالکل ہموار نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک احمد آپ کے صاحبین رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں۔

مقابر کو سجدہ گاہ بنانے کی مانعست [نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے اور ان پر چلانے کی مانعست فرمائی اور آپ نے اس کو سختی سے روکا، ایسا کرنے والوں پر آپ نے لعنت کی ہے اور قبروں کی طرف رُخ کر کے غاز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپ نے اپنی امت کو اس بات سے بھی روکا ہے کہ وہ آپ کی قبر کو عید (میلہ عرس وغیرہ لگانے کا مرکز) بنالے اور قبروں کی زیارت کرنے والوں پر لعنت کی۔]

اور آپ کی سنت یہ تھی کہ قبروں کی توہین نہ کی جائے اور نہ انہیں روشن کیا جائے اور نہ بیٹھ یا نگیر لگایا جائے اور نہ اس شدت (عزت کی جائے کہ انہیں سجدہ گاہیں بنالیا جائے

اور ان کے پاس یا ان کی طرف نماز پڑھی جانے گے، میلے شروع ہو جائیں اور انہیں بہت بنالیں، گویا ان کی پوجا ہو رہی ہے۔

زیارت قبور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبۃ آپ جب اپنے حملہ کی قبروں پر تشریف

لے جاتے تو ان کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے بخشش چاہتے اور جذب برحمت سے تاثر ہو کر تشریف لے جاتے، یہی زیارت قبور ہے، جو امت کے لئے آپ نے مشرع اور مسنون بتائی ہے اور حکم دیا ہے کہ جب لوگ قبور کی زیارت کریں تو یہ دعا کریں۔

السلام علیکم اهل الدین من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله  
بکر لوحقوں فسال اللہ لقا و لکم العافية۔

یعنی، اسے مومن اور مسلمان اہل دیار تم پر سلامتی ہو اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت کی دعا (درخواست) کرتے ہیں۔

یہ آپ کی سنت تھی کہ آپ قبور کی زیارت کے موقع پر ان کے لیے دعا، ترجمہ اور استغفار چاہتے جو غاز کے موقع پر کی جاتی ہے، لیکن مشرکین نے اس سنت کا انکار کیا اور میت کو پکارنے کے (اللہ) سے شرک کرنے لگے اور اپنی ضروریات (میت) کے سامنے پیش کر کے اس سے مدد چاہئے لگے اور اس کی طرف توجہ کرنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبۃ کے صریح اختلاف ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توحید اور میت پر احسان کرنے سے عبارت ہے اور ان (مشرکین) کا طریقہ شرک میت اور اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب ہے، اور اس کی تین اقسام ہیں :

- ۱۔ یا تو میت کے لئے دعا کریں گے۔
- ۲۔ یا میت کے وسیلہ سے دعا کریں گے۔
- ۳۔ اور یا اس کے پاس (جاکر) دعا کریں گے۔

ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان (مردوں) کے قریب جا کر دعا کرنا مساجد میں دعا کرنے سے زیادہ اوتی اور باعث تقویت ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہؓ کی سنت طبیبہ پر غور کرے گا۔ اس کے سامنے ان دونوں طریقوں کا فرق صاف اور واضح ہو جائے گا، توفیق خیر دینے والا خدا ہی ہے۔

**پساندگان سے تعزیت داخل سنت ہے** اور میت کے اہل خانہ سے تعزیت بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے

سنت طبیبہ میں داخل تھی۔

آپ کا یہ طریقہ زندگان کے تعزیت کے لئے صحیح ہوتے اور رمیت کے لئے قبر کے پاس یادو سری جگہ قرآن مجید پڑھتے۔ یہ تمام باتیں جدید اور بکروہ قسم کی بدعات ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے فیصلہ پر سکون و رفتہ کا ثبوت پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے اور (أَنَا أَنْتَ لِلَّهِ وَ إِنَّا لِكَيْفَيْهِ سَرَاحُ عَوْنَانَ) پڑھا جائے۔ اور اس مصیبت کے باعث کپڑے پھاڑنے والویں اور میت کرتے ہوئے آواز بلند کرنے یا بال منڈروادیں سے آپ نے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔

اور آپ کی سنت طبیبہ یہ تھی کہ میت کے اہل خانہ (تعزیت کے لئے آنے والے) لوگوں کو کھانا نہ کھلانے بلکہ آپ نے حکم دیا کہ دوسرا لوگ (دوست اور عزیزان کے لئے کھانا تیار کر کے انہیں بھیجنیں۔ اور یہ چیز اخلاقی حسنہ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور پسندگان کو سبکدوش کرنے والا عمل تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنی مصیبت کے باعث لوگوں کو کھانا کھلانے سے (معذور) ہوتے ہیں۔

اور آپ کی سنت یہ تھی کہ (نبی) میت (کے ماتم کی) منادی نہ کی جائے بلکہ آپ اس سے منع فرماتے اور فرمایا کرتے کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔

اور حضرت حذیفہؓ نے اس بات کو ناپسند سمجھا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو لوگوں کو آواز دے کر بتایا جائے اور فرمایا کہ مجھے ٹھہرے کہ یہ نبی (موت کی منادی) نہ بن جائے۔

# نمازِ خوف

حالتِ جنگ میں نماز پڑھنے کی مختلف صورتیں

اللہ تعالیٰ نے خوف و سفر نماز خوف میں ایک رکعت بھی جائز ہے کی حالت میں ارکان نماز اور تعداد رکعات میں قصر کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جب سفر پر خوف نہ ہو تو تعداد رکعات میں تقریر کرنے اور جب خوف ہو سفر نہ ہو تو قصر رکعات کی اجازت عطا کی ہے۔ یہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبیبہ تھی اور اس سے سفر و خوف کی حالت میں آیت تقریر کی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔

اور نمازِ خوف میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبیبہ یہ تھی کہ جب دشمن سے آپ کے اور قبائل کے درمیان ہوتا تو تمام مسلمان آپ کی اقتداء کرتے۔ آپ میکبیر کیتھے آپ رکوع کرتے وہ سب رکوع کرتے، پھر آپ سراخھاتے وہ بھی آپ کے ساتھ سراخھا لیتے۔ پھر آپ سجدہ میں جاتے اور جو صف آپ کے قریب تر ہوتی روہ بھی سجدہ کرتی، اور آخری صف دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہتی۔ جب آپ پہلی رکعت سے فارغ ہوتے اور دوسرا کے لیے آٹھتے تو آپ کے کھڑے ہوتے پھر دوسرا صف سجدہ کرتی۔ پھر وہ پہلی صف کی جگہ کھڑے ہوتے اور پہلی صف متوڑ ہو جاتی تاکہ صف اول کی فضیلت دونوں گروہوں کو حاصل ہو جائے اور صف ثانی بھی بنی صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت میں دو مسجدوں میں شریک ہو سکے۔ جس طرح صفت اول نے پہلی رکعت میں دو مسجدوں کی نعمت حاصل کری تھی۔ اسی طرح اجر و ثواب میں دو فنوں گروہ برابر (کے شریک) ہو جائیں یہ انتہائی عدل تھا۔ اسی طرح جب آپ رکوع میں تشریف لے گئے تو دو فنوں گرد ہوں نے پہلے کی طرح عمل کیا اور جب آپ تشبید کو قدرہ میں گئے تو دوسری صفت نے دو مسجدے کیجئے اور پھر آپ کے ساتھ تشبید میں شریک ہو گئی، اس طرح آپ نے سب کے ساتھ، ہی سلام پھیر دیا اور اگر دشمن سے قبلہ کے علاوہ کسی دوسرے رُخ پر ہوتا اس وقت کمیجی آپ دو جماعتیں بنایتے۔ ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی رہتی اور دوسری جماعت کے ساتھ۔ آپ نماز پڑھنے، اس طرح کی جماعت آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور پھر خازکی حالت ہی میں وہ دوسرے گروہ کی جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی اور دوسرا گروہ اس کی جگہ اکرا آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کرتا۔ پھر سلام پھیر دیا جاتا اور امام کے سلام کے بعد ہر گروہ ایک ایک رکعت خود ادا کرتا۔ اور کمیجی ایک گروہ کے ساتھ آپ ایک رکعت ادا کرتے پھر دوسرے کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ کھڑے ہوتے کرو گروہ اپنی رکعت ثانیہ ادا کر لیتا، پھر دوسری گروہ آتا اور آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیتا، پھر جب آپ تشبید پڑھ لپٹا تو مل کر سلام پھیر دیتے اور کمیجی آپ ایک جماعت کے ساتھ دو کعبیتیں ادا کرتے اور دو گروہ آپ سے قبل سلام پھیر لیتا اور آپ تشبید میں بیٹھے رہتے (آخر دوسری گروہ آتا اور آپ اس گروہ کو دور کعینیس پڑھاتے اور ان کے ساتھ سلام پھیر دیتے۔ اس صورت میں آپ چار رکعتیں ادا کرتے۔ اور صحابہؓ دو رکعتیں پڑھتے اور کمیجی ابسا ہوتا کہ آپ ایک گروہ کے ساتھ دو کعبیتیں ادا فرماتے اور اس کے ساتھ، ہی سلام پھیر دیتے۔ پھر دوسری گروہ آتا آپ اس کے ساتھ بھی دو کعبیتیں پڑھتے اور سلام پھیر دیتے۔ اس صورت میں آپ ہر گروہ کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے اور کمیجی آپ ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھتے اور وہ چلا جاتا اور وہ

گروہ کوئی اور رکعت نہ پڑھتا۔ پھر دوسرا گروہ آ جاتا۔ آپ اس کے سامنہ ایک رکعت پڑھتے اور وہ دیگر گروہ مزید کوئی رکعت نہ پڑھتا۔ اس صورت میں آپ کی تو دو ہوتیں ہوتیں لیکن (صحابہؓ) کی ایک ایک رکعت ہوتی۔

ان تمام مندرجہ بالا صورتوں میں نمازِ خوف، جائز ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ نمازِ خوف کے متعلق جو روایت بھی آئی ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پھر یا سات صورتیں نہ کورہ ہیں اور بہ سب جائز ہیں۔

---

# زکوٰۃ

## کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر نہیں؟

زکوٰۃ وصول کرنے کا عادلانہ اصول ہراغنبار سے کامل و مکمل تھا، وقت کے لحاظ سے بھی، قدر کے لحاظ سے بھی اور نصاب کے لحاظ سے بھی۔ اسی صوف زکوٰۃ بیس بھی سارے باب اموال اور مساکین نے کے ضروریات و مصیار الحکایا پورا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مال اور صاحبِ مال کے لئے باعث طہارت بنایا ہے۔ چنانچہ اسے صرف اغذیاء پر ہی واجب کیا ہے، بھی وجرہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ زوالی نعمت سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس بیس برکت اور بڑھوتی ہوتی رہتی ہے افات کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، اس طرح گویا زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ایک قسم کی حفاظت، فیصل اور قلعہ ہونے جانا ہے۔

(زکوٰۃ) چار اقسام کے مال ہر لکھائی گئی، جو کہ زیادہ تر لوگوں میں روایت دوں رہتا ہے۔ جس کی اہمیت سب مانتے ہیں۔

- ۱۔ ایک فصل اور کچل۔
- ۲۔ دوسرے چوپاگے، اونٹ، گھانے اور بکریاں وغیرہ۔
- ۳۔ قیسرے دہ دو جو ہر خوبیں قوم عالم کی جیشیت حاصل ہے۔ یعنی سونا اور چاند ہے۔

۷۔ پھر تھے مختلف قسم کا مال تجارت۔

زکوٰۃ ہر سال بیس صرف ایک بار فرض ہے۔ نیز اسے فصلوں اور پھلوں کے پیشے اور مکمل ہونے سے مشروط کر دیا گیا اور بہر سب سے زیادہ منصفانہ (قانون) ہے کیونکہ ہر ماہ یا ہر میہماں سے فرض قرار دینا صاحبِ مال کے لئے ضروری ہے اور عمر میں صرف ایک بار فرض کرنا ممکن ہے کیونکہ مال کے حق بیس نقصان دہ تھا۔ چنانچہ سال بیس ایک بار فرض کرنا فی الحقيقة سب سے زیادہ منصفانہ ہے۔

علاوہ از بیس صاحبِ مال کی کوشش و حصولِ دولت کے تفاوت کو دیکھ کر اس بیس بھی فرق کر دیا گیا۔ چنانچہ الیسوں دولت جو کسی کو اچانک بمحض شدہ مل جائے جیسے رکاز (رزیق) میں دبا ہوا خزانہ تو اس پر صرف نہیں (پانچواں حصہ) فرض کیا گیا اور اس کے لیے سال کا گز ناشرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جو نہیں الیسا خزانہ ملے اسی وقت نہیں کی ادائیگی واجب ہو گئی۔

درستے ہے پھل اور فصلیں جن بیس انسان کو بہت کم مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر رکاز سے نصف بعینی عشر (دو سو اس حصہ) زکوٰۃ لگاتی۔ کیونکہ زین کی درستی اور بوانی وغیرہ میں کسی خاص کلفت اور مشقت سے سابقہ نہیں پر طتا، نہ ڈول کہیںچہ پڑتے ہیں، نہ پانی خریدنا پر طتا ہے بلکہ اگر زین کو بسرا کرنے کے لئے خادموں یا مزدوروں سے کام لیا جائے، ڈولوں سے سینچائی کی جائے، کشوی سے کھودے جائیں تو پھر اور کم ہے۔ بعینی نصف عشر (بیسیسوں حصہ) مال کا نہ صاحبِ مال کے سفر یا ذاتی درویست کا نتیجہ ہو یا وقفہ و انتشار کا ہاندہ ہو تو ایسے مال پر ربع عشر (چالیسوں حصہ) لازم آتا ہے اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس موخر الذکر کی تکلیف فصلوں اور پھلوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فصلوں اور پھلوں کا نہ تجارت کے بڑھنے سے زیادہ آسان اور سہیل ہے۔ اس لیے ان کے واجبات بھی تجارت سے زیادہ ہوتے چاہیے اور انہار یا آسمانے کے پانی (باثرثے) کے ذریعہ ڈول یا چھڑکاٹ کی نسبت زیادہ

نمودرتا ہے اور خزانہ جیسی صورت میں تمام انواع سابقہ سے زیادہ خالدہ شامل ہوتا ہے اور چونکہ ہر ماں کو وہ کم ہی ہو، موساواتہ کامنگل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تحمل رذکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر ہوتا کہ ارباب ماں کو فرمان پہنچ اور مسکین کو غاطر خواہ فائدہ ہو جائے۔ چنان پہنچ چاندی کا نصاب دو صد درہم، سو نے کا بیس مشقال۔ دلوں اور چھلوں کا پانچ دسق جو عرب کے پانچ اونٹوں کے بو جھوکے برابر ہوتا ہے اور بکریوں کے لیے چالیس بکریاں، گائے کے لیے تیس گاہیں اور اونٹوں کے لیے پانچ اونٹ نصاب مقرر ہوا۔

لیکن اگر نصاب اپنی جنس کی چیز کی اوائیگی کامنگل نہ ہو تو پھر ایک بکری قبضہ ہو گی اور اگر پانچ پانچ سے کم رفرہ، ہو گئے تو پھیں بن گئے اب اس کی جنس میں سے ایک را اونٹ، گائے دیگر، کامنگل ہو گا اور بھی واجب بھی ہو گا اور اب کہ اونٹوں کی کثرت و نقلت کے حساب سے اس واجب کی عمر بیس کمی و بیشی بھی مقرر ہو گئی جیسے کہ این مخاض سے بنت مخاض اس سے آگے بڑھ کر اہنے لیوں اور بنت لیوں اور اس کے بڑھ کر حقہ اور حق اور اس سے بڑی دلکشی، جذر اور جذبة تو جوں جوں اونٹوں کی تعداد بڑھے گی (مال رذکوٰۃ کے جانور کی عمر بڑھتی جائے گی) تا انکہ عمر کے آخری حصہ دکھل اونٹ انک جا پہنچے گی تو اب گویا تعداد کی زیادتی کو رذکوٰۃ کے ماں کی زیادتی کے مقابلہ میں رکھا گیا۔ اس لیے اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اموال پر اس قدر بوجھ دلا گیا جو موساواتہ کے لئے کافی ہو اور (امراز) پر بوجھ نہ شناور دوسری طرف مسکینت کے لئے بھی کافی ہو اور انہیں دوسری طرف، اسی احتیاج نہ رہے۔ چنان پہنچ اغیار کے ماں پر اس قدر رذکوٰۃ فرض کی گئی کہ جو فقر اور کو کافی ہو رہیں بایس بھر (دو نوں گرد ہوں) کی طرف سے نظم ہونے لگا، اغیار نے واجبات کو روک لیا اور لینے والوں نے استحقاق کے بغیر بینا شروع کر دیا اس طرح ہر دو گروہ کی طرف سے مسکینت و فزار کو عظیم نقصان پہنچا۔ اور مسالہ بیس کٹی اقسام کے جیسے تراشے گئے (چنان پہنچ) پروردگار کریم نے خود صدقات رکھ مصروف

کو تقیم فرمایا اور ان کی آنکھ، نواس بنا بیس اور بہہ دو قسم کے لوگوں بین ملتی ہیں۔ ایک تو وہ جو ضرورت کے مطابق لیتا ہے اور ضرورت کی شدت و ضعف، کمی و زیادتی کے مطابق سوال کرتا ہے۔ جیسے فقراء اور مساکین۔ مفروض اور مسافر لوگ بیس دوسرگروہ وہ ہے۔ جو اسے منفعت کے باعث لیتا ہے، جیسے رزکوہ جمع کرنے والے، ملازمین، تالیف، تلوپ اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے باعث مفروض ہو جانے والے اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے اور لینے والا محتاج نہ ہو۔ اور نہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ واستہ ہو تو اس کا رزکوہ میں کچھ بھی نہیں۔

**رزکوہ صرف مستحق کو دینیں چاہیے** | جب آپ کو معلوم ہوتا کہ بہتر شخص عطا کرتے اور اگر کوئی اہل رزکوہ آپ سے درخواست کرتا تو اس کو بہہ کہہ دیجئے کے بعد رزکوہ دیتے۔

”بیدار کھو بکر اس میں غنی اور کمانے کے قابل انسانوں کا کوئی حصہ نہیں؛ آپ صاحبِ مال سے رزکوہ لے کر مستحق کو عطا فرماتے، آپ کی عادت طبیبہ یہ تھی کہ جس علاقے کی رزکوہ جمع ہوتی وہیں تقیم کی جاتی۔ اگرچہ رہنمی تو پھر آپ کے پاس بصحیح دی جاتی چنانچہ آپ اسے دوسری جگہ تقیم فرماتے۔ ایسی وجہ تھی کہ آپ اپنے عاملین کو وادیوں میں بھیختے۔ اور بستیوں میں نہ بھیختے بلکہ حضرت معاذ شکو حکم دیا کہ اہل تمنہ سے رزکوہ لے کر انہیں کے فقراء میں تقیم کر دو۔ اور بہہ نہ فرمایا کہ میرے پاس لے کر آجانا اور نہ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ عاملین کو چوپا پایوں، پھلوں اور فصلوں جیسے ظاہری اموال کے مالکوں کی طرف بھیجا تھا بلکہ آپ کھجوروں کے مالکوں کے پاس اندازہ کرنے والے کو بھیختے اور وہ ان کی کھجوروں کے پاس سے گزرنا اور دیکھتا کہ کتنے وسق کھجور میں ہو رہی ہیں اور ان پر رزکوہ کی مقدار کا اندازہ کرنا اور آپ اندازہ کرنے والے

کو حکم دیتے کہ ان کے لیے تبریز پر چوتھا حصہ چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ (چوتھائی حصہ) کو اندازے میں ظاہر نہ کرتا کیونکہ کھجور بیس آفات سے کم، ہی محفوظ رہتی ہیں۔ یہ اندازہ اس لیے کیا جاتا تاکہ ارباب مال کے چھلوٹ کو خوارک بنانے، ختم کر ڈالتے اور انہیں اپنے تصرف میں لے آنے سے قبل، ہی زکوٰۃ کی مقدار معلوم کریں جائے اس لیے آپ اندازہ کرنے والے کو اہل خبر اور ان کے مزار علیین کے پاس سے بھیختے اور وہ ان کے چھلوٹ اور فصلوں کا اندازہ کر لبٹا اور اس (زکوٰۃ) کے ایک حصہ کا یقین کر ڈالتا۔ پھر آپ حضرت عبد اللہ بن رواحد کو (ان کی طرف) بھیختے۔ اور جب یہ لوگ انہیں رشوت دینا پڑا ہنتے تو حضرت عبد اللہ بن رواحد فرماتے۔

تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تمہارے پاس اس ہستی کے پاس سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم لوگ (اس حرکت کی باعث)، میرے نزدیک بندروں اور خنازیر سے زیادہ فاصل نفرت ہو۔ لیکن تمہارے ساتھ نفرت اور حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ میں تم کو انصاف نہ کروں تو وہ (بیہود) کہتے، اسی وجہ سے (یعنی اس انصاف کے باعث) آسمانِ دُر بینِ فاکم ہیں۔

اور گھوڑے چر، گردھے، سبزیوں، ریگستانی اور ایسے چھلوٹ سے آپ زکوٰۃ نہ لیتے جو نرتوں کے جاتے ہیں اور نہ ان کا ذیخرا ہوتا۔ سوائے انگور اور کھجور کے، کیونکہ ان دونوں کی زکوٰۃ کیا کرتے اور خشک ورزا کا امتیاز نہ بر تھے۔

کیا شہید پر زکوٰۃ واجب ہے؟ فیر ہے چنانچہ ابو داؤدؓ نے عمر بن شعیب سے انہیوں نے اپنے والد سے انہیوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ بھی متعان کا ایک ادمی ہلال بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہید کا عشرے کر حاضر ہوا۔

نیز اس نے اس وادی کے لئے اس کی درخواست قبول فرمائی پھر جب حضرت

سکر بن خلاب رحمۃ اللہ علیہ نجیبینے تو سفیان بن حنبل وہب نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے مکھا تو حضرت عمر بن نے جواب بھیجا کہ اگر وہ تمہیں بھی شہید کا عشراسی طرح ادا کرے جس طرح بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا ہے تو اس کا علاقہ اس کی نگرانی میں رہنے دوا و راگر ایسا نہ کرے تو بہر (علاقہ) بر سات کی مکھیاں (اعطیہ خدا) میں جس کا جی چل پے کھائے۔

اس حدیث کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں وہ کہ ہر دس قرب میں ایک قرب، اور سفن ابن ماجہ میں حضرت عمر و بن شعیب کی روایت ہے کہ انہیں اپنے والد سے، انہیں دادا سے روایت پہنچی کر آپ نے شہید سے عشر دسوال حضرہ لیا اور سند امام میں ابو بیمارۃ ثقفی سے مروی ہے انہوں نے بتایا، کہ میں نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول، میرے پاس شہید کا چھتا ہے۔

آپ نے فرمایا، دسوال حضرہ ادا کرو۔

میں نے سرفہرست کیا اے اللہ کے رسول، اس سے میری نگرانی میں رہنے دیجیئے۔

آپ نے منتظر فرمایا۔

اور عبد الرزاق نے عبد اللہ بن حمر سے انہوں نے ذہری سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو زہرا سے روایت کیا۔ کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ نے اہل نہر کو مکھا کہ شہید میں سے دسوال حضرہ لیا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں انس بن عیاض نے انہوں نے حارث بنت عبد الرحمن سے انہوں نے ابو ذماب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے سعد بن ابی ذماب سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ پھر میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میری قوم کے لیے ان کے اموال میں سے ذکر لوتہ کا حضرہ متعین نہ

فرما دیجئے جب وہ اسلام لا کر عمل پیرا ہوں، چنانچہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے متظہور فرمایا اپنے انجمنے ان پر گورنر زر عامل مقرر کر دیا۔ راپٹ کے بعد حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر بن نافع نے بھی مجھے اتنے پر گورنر مقرر کیے رکھا۔ راوی نے بتلا با کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی سپاہ فیام بھی نہ تھا۔ انہوں نے کہا بیس نے شہید کے متعلق اپنی قوم سے بات کی اور اس سے کہا کہ اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہو گئے کیونکہ جس سچل کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ اس میں کچھ بھی غیر نہیں ہوتی۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ کے خیال میں کس قدر رزکوٰۃ ہو گی؟ میں نے کہا کہ (سوال حضرت) پھر میں نے دسوال حضرتے لیا اور حضرت عمر بن نافع نے خطاب سے طا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ حضرت عمر بن نافع نے اسے لیا اور اس کی قیمت مسلمانوں کے صفات رکے مال) میں رکھو دی۔ ارے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

### احادیث اور احکام احادیث میں اختلاف

ان احادیث اور احکام احادیث میں عمارت کے اختلاف ہے۔ چنانچہ خارجی فرماتے ہیں، صحیح مسئلہ کے مطابق شہید میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ترمذیؓ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم ثابت نہیں اور ابن منذر فرماتے ہیں کہ شہید کے عشر میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روایت فرمائی۔ اور نہ کوئی اجماع ثابت ہے۔ اس لئے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ شہید میں عشر کی روایت ضعیف ہے اور جس روایت میں ہے کہ عشر نہ لیا جائے گا، عمر بن عبد العزیز کی روایت کے سوا وہ بھی ضعیف ہے اور سعد بن ابی ذناب ایسا قول نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید میں سے صدقہ لینے کا حکم نہیں دیا اور اگر کچھ فرمایا ہے تو دینے کے لیے اسے تطوع (یعنی نفلی صدقہ) کی صورت دی ہے۔ شافعیؓ فرماتے ہیں کہ میرا جیال تو یہ ہے کہ (شہید والے) سے کچھ نہ لیا جائے، کیونکہ نہ لینے کی روایات تناقض ہے۔

ہیں۔ لیکن یعنی کی روایات ثابت نہیں۔ اس یعنی اسے معاف ہی رکھا جائے اور زینبی بن آدم نے روایت کیا کہ ہمیں حسین بن زید نے بتایا۔ انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روا کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید ہیں زکوٰۃ نہیں ہی زینبی بنے بتاتے ہیں کہ حسن بن صالح سے شہید کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس یہیں کوئی (زکوٰۃ) نہیں بتائی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے۔ کہ انہوں نے شہید ہیں سے کچھ نہیں لیا۔ حمیدری کہتے ہیں کہ ہمیں سفیان سے انہیں ابراہیم بن یاسر سے انہیں ماؤس سے انہیں معاذ بن جبل سے روایت پہنچی کہ ان کے پاس گائے کام سراور شہید لا بایا گیا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے ان دونوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز (زکوٰۃ) کا حکم نہیں دیا۔ شافعی فرماتے ہیں کہ ہمیں مالک سے اور انہیں عبد اللہ بن ابی بکر سے معلوم ہوا تھا، بتایا کہ میرے والد کے پاس حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا کنٹوپ آیا اور وہ اس وقت منی میں نظر ہے، فرمایا کہ گھوڑوں اور شہید پر زکوٰۃ مت لینا۔ یہ آشما یک دوسرے کو قوی کرتے ہیں۔ اُن کے خلاف بھی متعدد ہیں اور فرق بھی مختلف ہیں اور انہیں مرسل روایات مسند روایات کے (راجتمان) سے قوی ہو جاتی ہیں۔

**امام ابوحنیفہ کا مسئلہ** امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ پر شہید (عشری زین) اولاد اگر بہ خراجی زین سے حاصل کیا گیا ہو تو پھر اس پر کچھ بھی واجب نہ ہو گا کیونکہ خراجی زین کے مالک پر بوجراج واجب ہوتا ہے وہ فصلوں اور پھلوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اسی اسی وجہ سے کوئی دوسرا ٹیکس اس پر عائد نہیں کیا جا سکتا اور عشری زین کا معاملہ بہ ہے کہ اس کے مالک پر کوئی ٹیکس عائد نہیں۔ لہذا اس کی پسند اوار پس اسے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔

امام الحمد<sup>ؐ</sup> نے دونوں فرم کی زبینوں کو مساوی قرار دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خراجی اور عشری سب پر رعنیر واجب قرار دیا ہے۔ لیکن وجوہ کے حامیوں کے مابینے اختلاف ہے کہ آیا اس کا نصاب متعین ہے یا نہیں؟ ایک بہ قول ہے کہ قلیل و کثیر سب پر واجب ہے بہ ابوحنیفہ<sup>ؓ</sup> کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نصاب متعین ہے کہ لیکن اس کی مقدار بین اختلاف ہے۔ ابو یوسف<sup>ؓ</sup> فرماتے ہیں کہ دس رطل رمقدار نصاب ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ پانچ افراد ہے اور ایک فرق چھتیس عراقی رطل کا ہوتا ہے۔ امام الحمد فرماتے ہیں کہ اس کا نصاب دس افراد ہے رامام الحمد<sup>ؐ</sup> کے اصحاب کا فرق کے اندازے بین اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ساٹھر طل کا ہوتا ہے۔ دوسرے کے مطابق چھتیس رطل کا اور تیسرا کے مطابق سو لر طل کا ہوتا ہے اور یہی امام الحمد<sup>ؐ</sup> کی ظاہری کلام کا مطلب ہے۔

زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے دعا اور جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دعا دیتے۔ چنانچہ کبھی آپ اس طرح دعا فرماتے۔

اللّٰهُمَّ باركْ فِيهِ وَ فِي أَيْلَهِ

بعنی اے اللہ اسے اور اس کے اونٹوں کو برکت عطا فرا۔

اور کبھی کہتے۔ اللہم صل علیہ۔

بعنی اے اللہ اس پر رحم فرا۔

اور زکوٰۃ کی مد بین اچھا اچھا مال چھانت لینے کا دستور نہ تھا بلکہ او سط درجہ کا مال رہینے کا اصول مروج تھا، اس لیے آپ نے حضرت معاذ رض<sup>ؓ</sup> کو مال زکوٰۃ کے لیے راچھا اچھا مال لینے سے منع فرمایا۔

ایک کے لیے صدقہ دوسرے کے لیے پر بہر صدقہ کرنے والے کو اپنے بنی صلی اللہ علیہ وسلم

صدقة کا رہا اور بدلتے سے متوج فرماتے۔ اور اگر کوئی فقیر کسی غنی کو صدقہ کا مال بدیہ کے طور پر دیتا تو آپ اس کو کھایا لینے کی اجازت دیتے چنانچہ حضرت زیرینہ پر جو ماں صدقہ کیا گیا تھا آپ نے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ بہر ماں اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

کبھی آپ کا مال صدقہ میں سے مسلمانوں کے مصالح رفاقتی، کاموں کے بیٹے قرض لے لیتے۔ مثلاً آپ نے ایک شکر ترتیب دیا۔ لیکن اونٹ کم رہ گئے۔ آپ نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے فرمایا کہ صدقہ کی جوان اونٹیوں میں سے لاوڑ اور آپ اپنے ہاتھ سے اونٹ کو نشان لگاتے تھے۔ آپ ان کے کافنوں میں نشان لگاتے تھے۔ اور جب کبھی قحط سالی ہو جاتی تو آپ مالکان رذیفے سے صدقہ کا قرض بھی لے لیتے جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دو سال کے صدقہ کا مال قرض سے بیا۔

# فطرہ اور اس کی اہمیت

عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا سُنّت ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول [نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہرگز

علام ہر ایک پر حشی کہ جو کسی کی کفالت میں بیو اس پر بھی کھجور یا جو یا پنیر کشمکش کا ایک صاع صدقہ فطرہ فرمایا ہے۔ نیز آپ سے آئے یا گندم کا ایک صاع بھی منقول ہے اور معروف یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ان مذکورہ اشیاء کے مقابلہ میں گندم کا نصف صاع مقرر کیا ہے۔ رابو (روا) اور صحیح میں ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یہ مقدار مقرر کی ہے۔ اس سلسلہ میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرسل اور مستد آثار ملتے، یہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ ان میں سے حضرت ثعلبۃ بن عبید اللہ بن ابی صیف کی روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

گندم کا ایک صاع دو ادمیوں پر تقسیم ہو گا) (مستد امام احمد)

حضرت حضرت بصریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے یعنہ کے مہر پر

رمضان کے آخر میں خطبہ دیا، اور فرمایا، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ لیکن یہ لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں یعنی اہل مدینہ والوں سے فرمایا، اسٹھوا اور اپنے بھائیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاد، غلام، مرد، عورت پر کھجور یا جو کا ایک صاع یا گندم کا نصف صاع فرض کیا ہے، لیکن جب علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اشیاء کی ارزانی دیکھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فراخی اور کشادگی عطا فرمائی ہے۔ لہذا گندم اور دوسری سب چیزوں میں ایک صاع ادا کیا کرو۔ اور ہمارے شیخ ابن تیمیہؓ اس نزد ہب کو قوی سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کفارات میں امام احمد نے اسی قول پر قیاس کیا ہے اور فرمایا ہے کہ دوسری چیزوں کی نسبت گندم نصف صاع واجب ہے۔

آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز عبید سے قبل صدقہ ادا فرمادیا کرتے اور سلتے میں آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

جس نے نماز سے قبل ادا کیا وہ مقبول نہ کوئا ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے۔

اور صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہ عبیدگاہ کی طرف لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرو۔ ان دونوں روایات کا مقتضی یہ ہے کہ (صدقہ) کو نماز عبید سے مؤخر نہ کیا جائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ فوت ہو جاتا ہے جیسی درست مسلک ہے، کیونکہ ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں اور نہ کوئی ناسخ ہے۔ اور نہ اجماع اس کی نقی کرتا ہے اور ہمارے شیخ ابن تیمیہؓ اسی نسبت کو قوی سمجھتے تھے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ قربانی امام کی ادائی نماز پر موقو بے نزد وقت پر اور اگر کوئی امام کی نماز سے قبل قربانی کا باغور ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ قربانی نہیں ہوگا بلکہ یہ حاضر بکھری کا گوشت ہے۔ یہی بات

دوسرے مسائل میں بھی صادق آتی ہے۔ دو موقع پر آپ سے بھی بھی فعل ثابت ہے۔

صدقہ فطر مسائیں کے لیے | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ بہ مختص قرار دیتے اور اقسام اشتگانہ پر ایک ایک ممٹی تقیم نہ کرتے۔ نہ آپ نے اس کا حکم دیا اور نہ آپ کے بعد صحابہؓ یا تابعین میں سے کسی نے ایسا کیا بلکہ ہمیں جو اقوال پہنچے ہیں ان میں سے ایک بھی ہے کہ اسے صرف مسائیں پر ہی صرف کیا جا سکتا ہے اور یہ قول دوسرے قول سے زیادہ قابل ترجیح ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسے اقسام اشتگانہ پر تقیم کر دیا جائے۔

تفصیل صدقات میں سنت رسول | تفصیل صدقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ بہ مختص کے پاس جو کچھ بھی ہوتا صدقہ کر دیتے۔ آپ تمام لوگوں سے زیادہ صدقات کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرماتے اور آپ اس کی بکثرت وفات نہ چاہتے اور آپ سے جو بھی سوال کرنا، آپ اس کو تغوطہ بیا بہت ضرور عطا فرماتے اور آپ کی عطا الیسی مختص کہ جیسے فقر کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ آپ کے نزدیک صدقہ کرنا سب سے زیادہ محظوظ ہے اور آپ جو کچھ عطا فرماتے اس سے آپ کو عطیہ دینے والے سے بھی کہیں زیادہ فرحت اور خوشی ہوتی۔ آپ تمام لوگوں سے زیادہ سمحی تھے اور آپ کا ہاتھ گویا ر عطا کرتے (میں) ایک چلتی ہوئی آندھی تھا۔ کوئی ضرور تمند آتا تو اسے اپنے آپ پر بھی ترجیح دیتے، کھانتے ہیوسے بھی اور لباس میں بھی۔ آپ کے عطا یا اور صدقات کمی انواع کے تھے۔ کبھی بہیہ کرتے کبھی ہدیہ دیتے کبھی ایک چیز خریدتے پھر سمجھنے والے کو اس کی قیمت اور وہ چیز دونوں عطا فرمادیتے جیسا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ فرمایا، کبھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ یا افضل اور بہتر عطا فرماتے۔ کبھی کچھ خریدتے تو اس کی قیمت بہت زیادہ

عطافرماتے، پر یہ قبول فرمائتے لیکن ہر ملکن صدقہ اور احسان کی صورت میں  
لطف و کرم کرتے ہوئے اس سے زیادہ یا دگنا عطا فرماتے، آپ کا صدقہ و احسان  
آپ کے حالات اور بُلگیت کے مطابق ہوتا۔ چنانچہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا  
فرج کر دالتے۔ آپ صدقہ کرنے کا حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے۔ آپ حال  
و قال کے مطابق اس کی دعوت دیتے۔ جب کسی نجیل کو دیکھتے تو اسے سخاوت  
و عطا کی ترغیب دیتے۔ جو بھی آپ کی مصاہبیت میں رہ جاتا اور آپ کے طبق  
کار کو دیکھ پاتا تو وہ بھی اپنے آپ کو جو دوسخاوت سے روک نہ سکتا، اور آپ کی  
سنت طبیبہ بہ نجی کی احسان و صدقہ اور نیکی کی دعوت دیتے۔

### نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصول کمال و شرح صدر کے اسباب

سے بردا سبب کامل طور پر اور بوری قوت کے ساتھ عقیدہ توجید نکھا، اس چیز  
کی زیادتی ہی آپ کے اشرح صدر کا سبب نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَفْمَنْ شَرِحَ اللَّهُ صَدَرًا لِلْأَوْسَلَادِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ  
یعنی کیا وہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تو وہ اپنے  
پروردگار کی جانب سے نور پر ہے۔

اور فرمایا: فَمَنْ يَرِدُ اللَّهُ أَنْ يَعْصِيَ يُشَرِّحَ صَدَرًا لِلْأَوْسَلَادِ وَمَنْ يَرِدُ  
يَضْلَلُهُ يَجْعَلُ صَدَرًا ضَيْقًا حَرْجًا كَا فَمَا يَضْلَلُ فِي الْسَّمَاءِ

یعنی، پس جس کے متعلق اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے  
اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے  
کہ اسے گراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بے قرار سانہا دیتا ہے۔ گویا  
وہ آسمان پر زبردستی سے اچڑھ رہا ہے۔

اس طرح شرح صدر کے سب سے بڑے اسباب توجید اور ہدایتیں  
اور تنگی تکب کے سب سے بڑے محکمات شرک اور گمراہی ہیں۔ اور اسی تقلیل

میں سے نور ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کے قلب میں ڈال دیتا ہے اور یہ نور ایمان کا نور ہوتا ہے، چنانچہ یہ سینہ کو حشوتا اور وسعت عطا کرتا اور قلب میں فرحت پیدا کرتا ہے اور جب بندے کے قلب سے نور ضائع ہوتا ہے تو وہ تنگ (دل) اور پر لشان ہو جاتا ہے، اور گویا وہ سب سے زیادہ تنگ اور دشوار قسم کے قبدر خانہ میں ہوتا ہے۔

جامع ترمذی میں مروی ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک نور قلب میں داخل ہوتا ہے (نور قلب)، میں وسعت و انتراوح پیدا ہو جاتا ہے:

عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہے۔

اپنے فرمایا رہا اس کی علامت، دوام کے گھر کی طرف اناہت اور دار الفرود رو نیا، سے نفرت، اور موت کے آئے سے قبل ہی اس کی تیاری ہے۔ چنانچہ بندے کو انتراوح کے باعث اس نور کا حصہ عطا ہوتا۔

یہی معاملہ نور حسی اور نظمت حسی کا ہے، وہ سینہ میں وسعت پیدا کرنی ہے اور یہ تنگ دل پیدا کرتی ہے۔ اسی قلبیل سے علم ہے، وہ سینہ میں اس قدر انتراوح اور فراخی پیدا کرتا ہے کہ دنیا بھر سے زیادہ وسعت حاصل ہو جاتی ہے لیکن جہالت، تنگ دل اور القباش پیدا کرتی ہے اس لیے بندے کا علم جس قدر بڑھتا ہے انتراوح اور وسعت قلب میں اُسی قدر اضافہ ہوتا ہے اور یہ پر علم کی خاصیت نہیں بلکہ صرف اسی علم کی خاصیت ہے جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ وہی علم فائدہ بخش ہے۔ اسی علم کے حاملین تمام انسانوں سے زیادہ وسیع نظر و اے، فراخ دل،

اخلاق حسنہ کے ماک اور فواہش ہوتے ہیں۔ اسی سے اناہت الـلـہ اور اللـہ کی محبت قلبی اس کی طرح جھکاؤ، اس کی عبادت کو تعمت سمجھتے کا اساس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے زیادہ بندے میں کوئی بات شرح قلب

کی موجب نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات انسان یوں بھی کہنے لگتا ہے کہ اگر میں جنت میں اسی حالت میں رہنا پت اللہ کی حالت میں، ہوتا تو میری زندگی کیا خوب ہوتی۔

**انشرح قلب۔** خوش نفسی اور تنعم قلبی ہی محبت کو عاص طور پر بہت نیا<sup>د</sup> داخل سے چھے اس کا اساس ہوتا ہے وہی اس کار منشناں ہوتا ہے، اور جس قدر محبت قوی اور شدید ہوگی اسی قدر سینہ میں فراخی اور انشرح ہو گا، ننگ دل پاس بھی نہیں پھٹکتی، البتہ اگر وہ اہل باطل اور بے کار لوگوں کو دیکھوئے تو انہیں دیکھو لینے سے اس کی آنکھوں میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے اختلاط اس کے لیے روحانی بخار منہ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے اعراض، دوسروں کے ساتھ تعلق قلب، اللہ کے ذکر سے غفلت اور دوسروں کی محبت، ننگ دل کے سب سے رڑے اسایا ہوتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے محبت رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے باعث اسے مزادرے گا اور نبیر اللہ کے زندگی میں اس کا قلب محسوس کر دے گا، پس کرہ ارض پر اُس سے زیادہ یہ نخت، ننگ دل اور بدحال کون ہو گا؟ ہر حالت اور ہر مقام پر ذکر خدا کی مدد و مرت شرح صدر کے اسایا میں سے ہے، اس لیے انشرح صدر اور نعیم قلب کے لیے ذکر میں ایک عجیب تاثیر رکھی گئی ہے اور تنگی، انقباض اور عذاب کے لیے غفلت ہی ایک عجیب تاثیر ہے۔

**خلق کے ساتھ احسان کا بر متوأ -** اسی طرح خلق کے ساتھ احسان کا براو

کے ساتھ روا رکھا ہے مانی طور پر بھی اور دوسرے طریقوں پر بھی، حسن اور کریم ساری خلقت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ شرح صدر کا حامل ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے اور وہ نعیم قلب کی دولت سے ملاماں ہوتا ہے اور بخیل جس میں احسان کا مادہ نہیں پایا جاتا، وہ سب لوگوں

سے زیادہ تنگ ظرف، بیحال اور حزن و ملاں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچل اور سخنی کی مثال دی ہے کہ جیسے دو ادھی ہوں، جن کے بدن پر لوپے کے بیاس ہوں جیسے ہی سخنی صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بیاس کھل جاتا اور فراخ ہر جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے گھٹیتا ہے اور نشانات پھوڑ جاتا ہے۔ اور ہونہی بیچل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو روپے کے بیاس کی ہر کڑی اپنی جگہ پڑھ جاتی ہے اور وہ فرما بھی فراخ نہیں ہوتا، تو گویا یہ سخنی مومن کے شرح صدقہ اور وسعت قلب کی مثال ہے اور دوسری مثال بیچل کی تنگ ظرفی اور انقباضی قلب کی ہے۔

### شجاعت اور وسعت ظرف

اسی طرح شجاعت ہے کیونکہ شجاع وسعت اور بزرگ نام لوگوں میں تنگ ظرف اور منقیبیں ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فرحت اور خوشی نہیں اور نہ لذت و تمہت ہے۔ وہاں اگر کچھ حاصل ہو گا تو صرف دلیسی ہی لذت پھوپاؤں اور جیوانات کو فہم و فراست سے خاری ہونے کے سبب حاصل ہے۔ اسی طرح بلکہ ان تمام مذکورہ صفات سے زیادہ اہم بھی ہے کہ دل ان تمام صفات مذکور سے خالی کر دیا جائے جو تنگی اور عذاب کا سبب بنتے ہیں اور اس کی سخت بیان اڑبن کر رہ جاتے کیونکہ جب تک انسان شرح صدر کے اسباب کی طرف راستی نہ ہو گا اور صفات مذکورہ اس کے قلب سے خارج نہ ہوں گے تو اسے کماختہ ارشاد صدر حاصل نہ ہو گا۔

### قلب کے انقباض و جسم کے حرکات

اسی طرح نظر دکام، استعمال حمالہت اور پینے فضول اور لغو چزوں کا ترک کرنا اور ان سے بپنا ہے کیونکہ پر فضولیات آلام و نکوم اور ہموم کو قلب میں انقباض و جسم اور تنگی پیدا کرتے ہیں اور عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ بلکہ دنیا و آخرت کا بیشتر عذاب اپنی کی کر شکر سازی ہے۔

رواقہ بہرے کہ ان آفات میں سے کسی آفت میں حصہ لے کر انسان اکسی قدر  
تینگ نظر اور بدحال ہو جاتا ہے اور کسی قدر پر ایشان اور منقبض ہو جاتا ہے۔  
(رواقہ بہرے کہ ان خصالیں جمیدہ میں سے کچھ حصہ حاصل کر کے بھی انسان کسی  
قدر خوش عیش ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اسی پر دار اور اسی کے گرد سرگردان  
ہوئی ہے، اس ادمی کا حصہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے۔

**إِنَّ اللَّهَ بِمَا رَأَى لَكُفَّيْ نَعِيمٌ**

بے شک توگ لوگ البتہ اعتمتوں میں (رگرے ہوئے) ہوں گے۔  
اور برے ادمی کا حصہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں ہے۔

**إِنَّ الْفُجَّارَ لَغَيْرِ حَاجِحِينَ**

بے شک فاسق لوگ دوزخ میں ہوں گے۔

ان دونوں کے درمیان کئی امتیازات میں صہیلیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ  
ہی جاتا ہے۔

الغرض بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حستہ میں اکمل میں۔ آپ ہی سے تزہ  
صدر و سمعت قلب، انکھوں کی ملٹنڈس اور روحاںی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔  
گویا آپ تشرح صدر اور جباتِ روحانی، اکمل الخلق میں اور اس اتباع کے باعث  
بندے کو بھی جو تشرح صدر اور ذکر کے لیے درجہ کمال میں حاصل ہو گا۔ آپ کے  
متبعین کو ان کے اتباع کے مطابق اللہ کی جانب سے حفاظت، عصمت (تحفظ)  
دفاع، اعزاز اور امداد و امانت حاصل ہوگی، یعنی کوکم اور بعض کو زیادہ، پس  
جو بخلافی پائے اسے چاہیے کروہ اللہ کی حمد کرے اور یہ سے اس کے علاوہ کچھ اور  
(یعنی مزا) ملے تو چاہیے کہ صرف اپنے آپ کو مستحق ملامت خجال کرے۔

# روزہ اور اس کے برکات و مصالح

صوم رمضان کے تدریجی مرحلے، خصیت و عزیمت کے پہلو

عبد اور معبود کا باہمی راز | روزے سے مقصود شہوات سے جبکس نفس اور مالوفات سے انقطاع اور قوائے شہوانیہ کی تعديل ہے۔ تاکہ انتہائی سعادت اور پورے انعامات حاصل ہو سکیں اور اسے شرفِ قبول حاصل ہو، جو دراصل فدیعہ ہے تذکیرہ نفس کا اور اسی میں حیات ابدی متعہ ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، جس میں انسان دوسرا کی بھوک، اور دوسرا کی پیاس اور دوسرا کی لکفت پورے طور پر پسوس کر سکتا ہے۔ اکل و شرب کی پیکمی شیطان کے لئے تنگنا ہے بن جاتی ہے، جس سے اس کا گز نادشوار ہو جاتا ہے۔ نیز معاد و معاش کے مضرات کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یہ (بدن) کے ہر عضو کو تسلیم بخشتا اور ہر قوت کی بے راہ روی کو قابو میں رکھتا ہے گویا یہ پہنچنگاری کی لگام اور جنگ کرنے والوں کی ڈھال ہے۔ صالحین اور مقریبین کی ریاضت ہے اور تمام اعمال میں روزے کا عمل ہی ایسا ہے جو صرف رب العالمین کے لئے ہے، ایکونکرد فنے دار ہر چیز سے رکار ہتا ہے۔ وہ کھانا پینا اور شہوت رضاۓ الہی کی خاطر چھوڑ دیتا ہے گویا اس نے نفسانی خواہشات، محبوب بائیں اور لذات دنیاوی اللہ کی محبت اور رضاکی وجہ سے ترک کر دیں۔

یہ عمل (روزے کا) بندھے اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک راز ہے جسے حرف وہی جانتا ہے۔

اس میں صحی بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے اکمل اور حصول مقصود کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نیز عوام کے لئے آسان تر صحی ہے۔ چونکہ مرغوبات و شہوات سے بچنا تمام کاموں سے زیادہ مشکل اور سخت تر تھا۔ اس لئے اسے ہجرت کے بعد اسلام کے عہد متوسط تک ملوخر کیا گیا تاکہ عوام کے قلوب تو حید اور غماز پر جنم جائیں اور قرآن کے اوصیے مالوف ہو جائیں۔ چنانچہ یہ کام ہجرت کے بعد عہد اسلام کے وسط تک اٹھا رکھا گیا۔ یہ تدریجی طور پر بروئے عمل آیا۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال یہ فرض کیا گیا۔ چنانچہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ فور رمضانوں کے روزے درکھ چکے تھے۔

روزے کے تین مرتب تھے۔

پہلا طریقہ تحریر تھا، یعنی اگر کوئی چاہے تو ہر روز فقیر کو کھانا کھلاتا رہے اور خود روزہ نہ رکھے پھر یہ ہوا کہ بوجہ شخص یا عورت اگر چاہیں تو ہر روز فقیر کو کھانا کھلادیا کریں اور خود روزہ نہ رکھیں، نیز مرضی اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ حاملہ اور دو دھپلانے والی عورت کو اگر اپنی یا بچہ کی سخت کاظمیہ ہو تو قضا کی تائید کے ساتھ وقتی طور پر مسکین کو ہر روز کھلا کر روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔

دوسرے طریقہ لازمی روزے کا تھا، اگر روزے دار کچھ کھانے سے پہلے سو جاتا تو اگلی رات تک اس پر کھانا پینا حرام تھا۔

اس دوسرے طریقہ کو تعمیرے طریقہ نے مسونع کر دیا اور یہ قیامت تک مشروع رہ گیا  
صوم و صال پر آپ کا عمل لیکن صحابہؓ کو ممانعت آپ رمضان شریف میں کثرت  
چنانچہ رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ قرآن مجید کی منزلوں کی دلکشی کرتے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ شد

کے ساتھ سخاوت کرتے۔ آپ لوگوں سے بہت زیادہ سخی تھے۔ لیکن رمضان میں توصیۃ و احسان تلاوت قرآن مجید، نماز، ذکر اور اعیاذ بہال میں ازحد اضافہ ہو جاتا اور دوسرا سے چہینوں کی نسبت رمضان المبارک کے مہینہ کو عبادت کے لیے مخصوص فرمائیتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صوم و صالح مسلسل روندہ رکھتے تاکہ آپ ہر وقت اپنے پروگار کی عبادت میں مصروف رہ سکیں۔

(لیکن) آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صوم و صالح سے منع فرماتے تھے۔

وہ عرض کرتے کہ آپ تو یا رسول اللہ صوم و صالح رکھتے ہیں؟

تو آپ فرماتے: میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اپنے پروگار کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس خوردنوش میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس میں دو قول ملتے ہیں۔

ایک تو یہ کہ یہ خوردنوش حسی ہے، جو (مادی) منہ سے رکھایا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ یہی الفاظ کا حقیقی مطلب ہے اور اس سے روگردان ہونے کی حاجت نہیں۔

دوسرے قول یہ ہے کہ اللہ کے خوردنوش عطا کرنے کا مطلب علوم کی غذا ہے اور اللہ کے سامنے لذتِ مناجات، اس کے قرب میں سکون چشم اس کی محبت کے انعامات کا فیضان ہے جو قلب پر نازل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس قسم کے دیگر احوال، جو غذائے قلبی، انعامات روحانی سکون نفس و روح کی حیثیت رکھتے ہیں اور جسے کچھ بھی تحریر ہو جو وہ جانتا ہے کہ بدن قلبی اور روحانی غذا کے مقابلہ میں یکسر حیوانی غذا سے مستغنی ہو جاتا ہے خصوصاً ایسا آدمی جو اپنے مطلوب کو حاصل کرے، مسرور ہو اور اپنے محبوب کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہو، اس سے راضی ہو محبوب کے لطف و کرم۔ ہدایا اور احسانات ہر وقت اسے مل رہے ہوں اور محبوب بھی رکھتا ہو۔ تو کیا یہ محب کے لیے سب سے بڑی غذا نہیں؟ (اگر دنیاوی م الواقع پر ایسے حالات ہو سکتے ہوں) تو (فدا سوچیے تو سہی) اس جیب کی کیا کیفیت ہوگی؟ جس سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں، جس سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں۔ اور جس سے زیادہ جمیل و کامل کوئی نہیں اور جس سے

زیادہ محسن کوئی نہیں۔ جب محب کا دل اس کی محبت سے لبریز ہو گیا اور قلب کے تمام اجزاء بدن کے تمام جوارج اس کی ملکیت میں آگئے۔ جب اس کی محبت سب سے زیادہ گہری اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ اور اپنے حبیب کے ساتھ یہ اس کی شان ہوتی ہے تو یہ کیسے نہ ہوتا کہ یہ محبت اپنے حبیب کے ہاں سے دن رات نہ کھاتا پیتا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور اگر یہ مادی خود دنوش ہوتا تو صوم وصال تو اگر رہا آپ صائم (روزے دار) ہی نہ ہوتے اور یہ کیفیت اگر صرف رات کی حامل ہوتی تو وہ صوم وصال نہ ہوتا۔

**صوم وصال کے بارے میں مین قول** [اینراپ صحابہؓ کے سوال پر] آپ صوم وصال رکھتے ہیں؟ جواب نہ دیتے کہ "میں وصال نہیں کرتا" اور یہ نہ فرماتے کہ "میں تمہاری طرح نہیں ہوں" بلکہ آپ نے تو وصال کا اقرار کیا۔ اور اس بات کی نفع فرمادی کہ آپ کی اور صحابہؓ کی حالت یکسان نہیں، بلکہ امتیازی ہے جیسا کہ صحیح علم میں حضرت عبد اللہ بن عفرؓ سے مروی ہے حکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان الْمبارک یعنی صوم وصال رکھا۔ تو لوگوں نے مجھی وصال متروع کر دیا۔ پھر آپ نے انہیں منع فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ آپ وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ مجھے کھلایا اور پلائیا جانا ہے اور مجھی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتت پر رحمت کے باعث صوم وصال سے منع فرمایا اور سحری تک اجازت دی۔

صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدريؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے تھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سننا اوصال مت کرو، جو وصال کرنا چاہے تو اسے حاصل کر کرے۔

اب سوال یہ ہے کہ مسلم کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وصال جائز ہے یا حرام ہے یا کروہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مسلم میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس میں تین اقوال ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ اگر استطاعت ہو تو جائز ہے۔ حضرت عبد اللہ بن ذی بریر وغیرہ سے

یہی مروی ہے۔ حضرت ابن زیگر کئی کئی ایام تک وصال کرتے تھے۔ اس سلسلہ والوں کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے صوم وصال رکھا۔ حالانکہ آپ نے انہیں منع کر دیا تھا جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ نے صوم وصال سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ چنانچہ جب (صحابہؓ) نہ رکے تو انہوں نے آپ کے ساتھ ایک دن دو دن تین دن (صوم وصال) رکھا تو منع فرائض کے بعد بھی آپ کا صحابہؓ کے ساتھ عمل کر وصال ثابت ہے۔ اگر یہ ممانعت حرام کے معنی میں ہوتی تو صحابہؓ رکنے سے انکار نہ کرتے اور آپ اس کے بعد اور ان کے عمل کا اقرار (یعنی تائید) نہ فرماتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب صحابہؓ نے منع کرنے کے بعد بھی (صوم وصال) رکھا۔ حالانکہ (حضور) جانتے تھے اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے رحمت و تخفیف کے الادہ (سے منع) فرمایا تھا اور حضرت عائشہؓ نے بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے باعث صوم وصال کی خلافت کی تھی (متفق علیہ)

(۴) دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ وصال جائز نہیں۔ امام مالک، ابو حنیف، شافعی اور ثوریؓ کا یہی مذہب ہے کہ ابن عبد البرؓ ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے کسی کے لیے بھی جائز نہیں بتایا۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی کراہت پر شافعیؓ کی نفس موجود ہے اور ان کے اصحاب کا اعلان ہے۔ بعض نے مکروہ تجویزی اور بعض نے تحریکی بتایا ہے اور حرام بنانے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت سے استدلال کیا ہے اور نبی و ممانعت تحریم کی مقتضی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا فرمان رحمت کے باعث "تحریم کی نفسی شہیں کرتا، بلکہ تأکید کرتا ہے کیونکہ یہ بھی رحمت کے باعث ہوا کہ اسے ان پر حرام کر دیا، بلکہ تمام سناہی (ممنوعات) کا انتہا پر رحمت اور اس کے تحفظ و درفاع کی خاطر ہی ہیں۔

مرا ممانعت کے بعد بھی وصال کرنا تو یہ اس لیے نہیں کہ ممانعت کے باوجود ادنی کے صیام وصال کو برداشت کیا اور یہ (مقصد بھی تھا) کہ ممانعت کا سبب اس کی حکمت اور مضر عنصر بھی کھل کر سامنے آجائے۔ چنانچہ جب وصال کا ضرر اور خلافت کی حکمت عیناں

ہو گئی تو ہی قبولیت مانعت اور ترک وصال کی داعی بن گئی کیونکہ جب انہیں وصال سے عبادت میں تکلیف محسوس ہونے لگی جو اللہ کے حقوق میں سب سے زیادہ اہم اور قابل ترجیح کام ہے اور فرضی ظاہری اور باطنی امور میں ہرج ہونے لگا اور بھوک اللہ (حقوق کی ادائیگی) میں رکاوٹ بننے لگی تو ان کے سامنے وصال کی مانعت کی حکمت اور ضرر آگیا اور ان کا کہنا ہے کہ صحیحین میں حضرت عمر خطاۃ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اس قدر ہو جائے اور دن اس قدر چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو (گویا)، رونے وال افطار کر لے۔ اور صحیحین میں اس طرح حضرت عبد اللہ بن ابی اوی سے مروی ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے وقت افطار آنے پر منظر قرار دے دیا۔ اگرچہ افطار نہ کرے اور یہ بات شرعاً وصال میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے (نیز)، ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت فطرت پر رہے گی اور جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ تب تک بحلانی پر رہے گی۔ اور سنن میں آپ سے مروی ہے کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک دین غالب رہے گا۔ (اول) یہودی اور عیسائی (افطار میں) دیر کرتے ہیں (نیز)، سنن میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا (اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا سب سے زیادہ محظوظ بندہ وہ ہے جو سب سے جلدی افطار کرے یہ روایت تاخیر افطار کی کراہت ظاہر کرتی ہے۔ لہذا جو رات افطار کو ترک دے تو یہ کس قدر (غلط) کام ہوگا؟ اور جب ایک ہات مکروہ ہو تو وہ عبادت شمار نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عبادت کو کم انک متحب کا درجہ ضرور حاصل ہونا چاہیے۔

(۲) میسر قول جو تمام اقوال سے زیادہ احتدال پسندانہ ہے یہ ہے کہ سحری نک وصال حائز ہے۔ یہ ہی احمد اور رمذق سے منقول ہے حضرت ابوسعید خدروی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

”وصال نہ کرو اور جو تم میں سے وصال کرنا چاہیے تو اسے چاہیئے کرو وہ سحری نک وصال کرے (بخاری)

یہ روزے کے لئے سب سے زیادہ سہل اور معتدل وصال ہے اور یہ عشاہ کے کھانے کے قائم مقام ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرماؤ خر ہو گیا تو اس صورت میں، روزے دار مہین رات میں ایک ہار کھائے گا۔

**روزیت ہلال کی تحقیق اور شاہد کی شہادت** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہ تھی کہ جب تک دوست ہلال کی تحقیق نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جاتا آپ روزے مروع نہ کرتے جیسا کہ آپ نے حضرت ابن عمرؓ کی شہادت قبول کر کے روزہ رکھا۔ نیز ایک اعرافی کے کہنے پر روزہ مروع کرو یا۔ اور ان دونوں کی خبر پر اعتماد کیا اور انہیں لفظ شہادت کا پابندیں کیا اگر یہ خبر دینا ہو تو خبر واحد میں رمضان کے لئے کافی ہو جاتی اور اگر شہادت ہوئی تو شاہد کو لفظ شہادت کہنے کا پابند نہ کرتے اور اگر رویت یا شہادت دونوں نہ ہوتیں تو آپ شعبان کے تیس دن پورے کرتے اور اگر تیسیوں رات کو باول یا براحتا تو آپ تیس دن مکمل کرتے اور پھر راگلے روزہ روزہ رکھتے۔

اور آپ باول کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے نہ آپ نے اس کا حکم دیا بلکہ فرمایا۔

جب باول ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کئے جائیں۔

اہ آپ خود بھی ایسا ہی کرتے۔ اس طرح یہ آپ کی سنت بھی تھی اور یہ آپ کا حکم بھی تھا اور یہ روابیت آپ کے اس فرمان کے منافی نہیں کہ جب تم پر باول چھا جائے تو اس کا اندازہ کر لو اور قدر (اندازہ) سے مراد حساب مقدر ہے اور اس سے مراد تکمیل (ماہ) ہے جیسا کہ فرمایا:

«أَعْصِمُوا الْعِدَّةَ»، «عدت پوری کرو»

اور اکمال سے مراد اس ماہ کو مکمل کرتا ہے، جس کی (آخری تاریخ پر)، باول چھا گیا جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ "شعبان کی مدت پوری کرو" اور فرمایا جب تک دیکھ رہے لوتب تک روزہ نہ رکھو اور جب تک (چاند) دیکھ رہے لوتب تک افطار نہ کرو۔ اگر باول چھا جائیں تو مدت مکمل کرو اور یہ جو اکمال مدت کا حکم دیا اس سے مراد چھینہ ہے اور یہ روزے

اور افطار کے موقع پر ہے۔

اس سے تذیادہ واضح روایت آپ کا فرمان ہے کہ مہینہ اسیں دن کا ہے اس لئے جب تک اسے دیکھنے لوتب تک روزہ نہ رکھو اور اگر بادل چھا جائیں تو مدت (ماہ) پوری کرو۔ لفظی طور پر ابتدائے ماہ اور معنوی طور پر آخر ماہ کی طرف راجح ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں۔ کہ لفظی مطلب کی فنی کردی جائے اور فقط معنوی مراد کو درست قرار دیا جائے دیز، آپ نے فرمایا، کہ مہینہ تیس دن کا (بھی) ہے اور مہینہ اسیں کا (بھی) ہے۔ اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن مکمل کرو اور کہ رمضان سے قبل روزے مت رکھو (بلکہ) چاند دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو لیکن اگر ابر کا مکمل اڑکا وٹ بن جائے تو تیس (دون) مکمل کرو۔

اور فرمایا، رمضان کا روزے رکھ کر استقبال نہ کرو۔ ایک لفظ یہ بھی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے ایک یادو دن قبل روزے مت رکھو، ہاں ایسا آدمی جو پہلے سے روزے رکھتا چلا آرہا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یوم غیم (بدعل کا دن) اس نبی میں داخل ہے۔ مرفوعاً حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ "رمضان سے قبل (اس کے استقبال کے لئے) روزے مت رکھو (بلکہ) اسے دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر ہی افطار کرو۔ اگر ان کے درمیان بادل آڑ بن جائے تو تیس دن پورے کرو۔ (صحیح ابن حبان)

اگر چاند میں شک ہو جائے تو؟ اود حضرت ساکھ نے حضرت عکرمہ سے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا کہ ہلال رمضان کے دیکھنے میں لوگوں کو شک ہوا۔ بعض نے کہا کہ آج (روزہ) ہے اور بعض نے کہا کہ کل ہو گا۔ چنانچہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتانے لگا کہ اس نے چنان دیکھا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو کہ اللہ اکابر اللہ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ۔ (اللہ کے سوا کوئی محبود و کار ساز نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ

کے رسول ہیں) کی گواہی دیتا ہے؛ اس نے کہا، ہاں بے شک دیتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلاںؓ کو حکم دیا، انہوں نے لوگوں میں منادی کر دی کہ روزےِ رکھو، پھر فرمایا کہ اسے دیکھو کہ روزےِ رکھو اور اسے دیکھو کہ ہی افطار کرو۔ اگر تم پر باول چاہائیں تو تیس دن کا اندازہ کرو۔ پھر روزےِ رکھو اور اس سے قبل ایک دن کا روزہ مت رکھو۔

یہ تمام احادیث صحیح ہیں، بعض روایات صحیحین میں ہیں اور بعض صحیح ابن حبان حکم وغیرہ میں ہیں۔ اگرچہ بعض کو معلوم فزار دیا گیا ہے لیکن مجموعی طور پر ان کی صحت استدلال معلوم نہیں رہتی۔ اگر کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبیبہ ہے تو حضرت عمرؓ بن خطابؓ، علیؓ بن ابی طالب، عبد اللہ بن عمرؓ، انسؓ بن مالک، ابو ہریرہؓ، معاویہؓ، عمرؓ بن عاص، حکم بن ایوب غفاری عائشہؓ، اسماعیل بنت ابی بکر نے آپ کے خلاف کیوں کہا؟ نیز سالم بن عبد اللہ، مجاہد، طاوسؓ، ابو عثمان نہدیؓ، مطرف، بن شجیز، سیمون بن مهرانؓ، ابکر بن عبد اللہ مرنی نے کیوں مخالفت کی؟ نیز اہل حدیث و سنت کے امام احمد بن حنبل نے کیسے مخالفت کی؟

ابہم ان ائمہ کرام کے مستند اقوال پیش کرتے ہیں۔ ولید بن مسلم کہتے ہیں انہیں ثوابان سے انہیں اپنے والد سے انہیں رکھو!ؓ سے روایت پہنچی کہ جب چاند رات کو آسان پر ابر ہوتا۔ تو حضرت عمر بن خطابؓ روزہ رکھتے تھے۔ اور فرمایا کہ تو کہ رمضان پر قدم نہیں ہے بلکہ تحری ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق شافعیؓ نے بتایا کہ انہیں عبد الحزیر بن محمد و راود وی نے انہیں محدث عبد اللہ عمر و بن عثمان سے انہوں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت حسینؓ سے روایت کیا کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب نے فرمایا کہیں شعبان کے ہمینہ میں روزہ رکھنے کو رمضان کے ہمینہ میں افطار کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور دوست ابن عمرؓ کے متعلق تو کتاب عبد الرزاق میں ہے کہ ہمیں عمر سے ابی ایوب سے ابی عمر کے متعلق روایت پہنچی کہ جب باول ہوتا تو وہ صحیح کو روزہ سے ہوتے اور اگر باول نہ ہوتا تو افطار کر لیتے اور

صیحین میں ان سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے (چاند کو) دیکھو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو افطار کرو۔ اور اگر بادل چھا جائیں تو اس ہمینہ کو مکمل کرو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نافع کی روایت سے مزید بتایا ہے کہ جب شعبان کی انتیس تاریخ ہوتی تو حضرت عبد اللہ بن حکیم کو (چاند) دیکھنے کے لئے بھیختے۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو وہی بات ہوتی اور اگر نہ دیکھتے اور نہ بادل آٹھے آٹھا تو اپ صبح کو افطار کرتے اور اگر بادل وغیرہ سامنے ہوتا تو صبح کو روزہ رکھتے۔

**اقوال متعددہ و مختلفہ** [رہبی حضرت انس والی روایت تو امام صاحب نے فرمایا ہے ہمیں سُعیل بن ابراہیم نے انہیں بھی بن ابی الحسن نے بتایا کہ میں نے ظہر ہیاں کے قریب چاند دیکھا، تو لوگوں نے روزہ کھوؤں لیا۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں چاند دیکھنے اور لوگوں کے افطار کرنے کی خبر دی۔ وہ فرمائے گئے یہ میرے لیے اکتسواں دن مکمل کرے گا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حکم بن ایوب نے لوگوں کے روزے سے قبل میرے پاس پیغام بھیجا کہ میں کل روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مخالفت کرتا پسند نہ کیا اور روزہ رکھ لیا (اس لئے) آج میں (انپار روزہ) رات تک مکمل کر دوں گا۔

حضرت معاویہؓ کے متعلق یہ ہے : احمدؓ فرماتے ہیں ہمیں مغیرؓ نے انہیں سعیدؓ و بن عبد الرحمنؓ نے انہیں کھول اور ابن حلسؓ نے بتایا کہ حضرت معاذ بن ابی سفیانؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں شعبان کے چینیہ کاروڑہ رکھنے کو رمضان کے چینیہ میں افظال کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں ۔

حضرت عمر و بن عاصی کے متعلق یہ ہے : احمدؓ نے فرمایا ہمیں زید بن جابؓ نے انہیں ابن اہیفؓ سے انہیں عبد اللہ بن سبیرؓ سے انہیں عمر و بن عاصی کے متعلق روایت پہنچی کروہ رمضان کے مشکوک دن کاروڑہ اکٹھا کرتے ۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق یہ ہے کہ ہم نے ابو ہریرہؓ کو فرماتے سنائے کہ "اگر میں رمضان کے چھینٹے میں ایک دن کی عجلت کروں تو یہ بھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس میں ایک دن کی تاخیر کروں، کیونکہ جب میں عجلت کروں گا تو اس میں سے زایدہ بھی تو

نہ ہو گا۔ اور اگر دریکر دی تو فوت ہو جائے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ ہے کہ سعید بن منصور نے فرمایا، ہمیں ابو عوانۃ سے انہیں یزید بن جبیر سے انہیں اس قاصد سے خبر ملی جو رمضان کے مشکوک دن میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ شعبان میں روزہ رکھنا بخوبی ہے میں افظار کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

حضرت اسماعیل بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے متعلق مروی ہے کہ سعید (ذکور) نے بتایا کہ ہمیں یعقوب بن عبد الرحمن سے انہیں ہشام بن عروہ سے انہیں فاطمہؓ بنت منذرؓ سے خبر ملی کہ جب کبھی بھی رمضان کی ابتداء میں باطل چھا جاتے تو حضرت اسماعیل ایک دن قبل روزہ شروع کرتے ہیں اور تقدم کرنے کا حکم بھی فرماتیں۔ احمدؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں روح بن عبادا انہیں حماد بن سلمہ سے انہیں ہشام بن عروہ سے انہیں فاطمہ سے انہیں اسماعیل سے بتاتے ہیں کہ (حضرت اسماعیل) رمضان کے مشکوک دن کا روزہ رکھا کرتی تھیں۔

جس قدر اقوال ہم نے احمدؓ کی سند سے لکھے ہیں۔ یہ مسائل فضل بن زیادہ سے ہیں اور اثر مم کی روایت میں ہے کہ جب آسمان پر بادا، یا کوئی دوسری بات ہوتی تو صحیح کو روزہ رکھتے اور اگر آسمان پر کوئی ایسی بات (چاند دیکھنے میں رکاوٹ) نہ ہوتی تو صحیح کو افطا کرتے۔ اسی طرح ان کے دونوں پیشوں صالح اور عبد اللہؓ نے روزی اور فضل بن زیاد غیرہ سے نقل کیا ہے۔

اس کا جواب کئی طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اقوال و اثمار صحابہؓ میں کوئی ایسا صريح اثر نہیں جس میں وجوب پایا جائے۔ یہاں تک کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف قرار دیا جائے بلکہ ان سے زیادہ سے زیادہ احتیاطی قسم کا روزہ منتقل ہے اور حضرت انسؓ سے تو صراحتاً منتقل ہے کہ انہوں نے امراء (حاکم) کی مخالفت سے کراہت کے سبب روزہ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے امام احمدؓ نے ایک روایت میں فرمایا کہ لوگ روزہ رکھنے اور افظار کرنے کے سلسلہ میں امام (حاکم) کے اتباع ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی نصوص ہم بیان کر جکے ہیں۔ نیزان کا قول جس سے ثابت

ہوتا ہے کہ معلوم عظیم (بادل وائے دن) کاروزہ واجب نہیں اور نہ حرام ہے۔ بلکہ جس نے افطار کیا اس نے جو اس سے فائدہ اٹھایا اور جس نے روزہ رکھا اس نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا دوسرے یہ کہ بعض صحابہؓ اس دن کاروزہ رکھا کرتے تھے اور بعض نہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کاروزہ اس ہدینہ میں واضح اور صریح تھا ہے اب ان عبد البر نے اسے نقل کیا اور طاوسؓ میانی اور احمد بن حنبلؓ کا بھی یہی خیال ہے۔ اور حضرت عائشہؓ و اشنا و جو حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان کا بھی یہی خیال ہے اور انہیں جانتا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی حضرت ابن عمرؓ کے مدیرب کی طرف گیا ہے اور حضرت عمر بن خطاب، علیؓ بن ابی طالب، ابن مسعودؓ، حذیفہؓ، ابن عباسؓ، ابوذرؓ اور انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہم نے مشکوک دن کاروزہ کروہ بتایا گیا ہے۔

شعبان کا آخری نفلی روزہ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی، عمر، عمار، حذیفہ اور ابن مسعود ستری اللہ عنہم سے مردی ہے کہ شعبان کا آخری نفلی روزہ منوع ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمارؓ کا قول ہے کہ جس نے مشکوک دن کاروزہ رکھا اس نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رہا یوم غیر کاروزہ تو یہ احتیاطی طور پر ہے اس لئے کہ اگر یہ رمضان میں سے ہے تو فرض ہے، ورنہ نفلی ہے۔ چنانچہ صحابہؓ کے مردیات کا مطلب اس کا جواز ہے۔ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ بھی ویسا ہی کرتے تھے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہؓ کی روایت موجود ہے کہ جب شعبان کے آخری دن (بادل چھا جانا تو آپ تینیں دن مکمل کرتے، پھر روزہ رکھتے اور ان کی روایت کو ان کے فعل کی وجہ سے روک دیا گیا، اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو وہ اس کی مخالفت نہ کرتیں اور ان کے روزے کو حدیث کے مغلوب ہونے کا سبب قرار دیا جائے۔ کیونکہ (حضرت عائشہؓ) نے واجب سمجھ کر روزہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے تو احتیاطاً رکھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل وامر سے یہ سمجھا کہ روزے صرف مدت (ماہ) کامل ہونے پر واجب ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور ابن عمرؓ نے یہ نہیں سمجھا کہ سرے سے یہ جائز ہی نہیں ہیں یہ بحث اس مسئلہ میں سب

سے زیادہ معتقد ہے اور اسی پر تمام احادیث و آثار صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور عمرؓ کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے جو انہیں ایوب سے انہیں ناقع سے آہلین ابن عمرؓ سے پہنچی کہ شیخ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رمضان کے متعلق فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو تو روزہ رکھو اور جب دیکھو تو افطار کرو اور اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن مکمل کرو اور ابن ابی داؤد نے نافعؓ سے نقل کیا کہ اگر بادل چھا جائیں تو تیس دن کی مدت مکمل کرو اور مالک و عبید اللہ نے نافع سے روایت کیا کہ اس کا اندازہ کرو۔ اس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حدیث کا مطلب تیس دن مکمل کرنے کا درجہ نہیں بلکہ جواز سمجھا۔ اس طرح جب انہوں نے تیسیوں دن کا روزہ رکھا تو گویا دفعہ حائز کاموں میں اختیاراً ایک رجائز (کام) کیا۔

**ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کے خلافیات** اور حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے مجھ ساں شخص پر تعجب ہوتا ہے جو رمضان کے ۳۰ ہفتے کا ایک یادو دن پہلے سے (استقبال) کرتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے ایک یادو دن پہلے روزے نہ رکھو۔ گویا (حضرت عباسؓ) ابن عمرؓ کا انکار کر رہے ہیں اور یہ دونوں صحابہؓ ایسے ہی تھے۔ ایک قدر سے تشدید کی طرف مائل تھے۔ اور دوسرے رخصت کی طرف مائل تھے اور یہی صورت حال دوسرے مسائل میں بھی جاری تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ تشدید کے باعث بعض ایسے امور کے بھی پابند تھے جو صحابہؓ جن کے موافق نہ تھے۔ آپ وضو میں انکھوں کا اندر و فی حصہ بھی دھوتے تھے یہاں تک کہ اس وجہ سے نابینا بھی ہو گئے اور جب آپ سر کا مسح کرتے تو کافوں کے لیے نیا پانی لیتے اور حمام میں جانے سے منع فرماتے اور جب داخل ہوتے تو اس کے بعد غسل کرتے۔ (دوسری طرف) حضرت ابن عباسؓ حمام میں جاتے راوی حضرت ابن عمرؓ دو خرابات سے تمیم کرتے۔ ایک چہرے کے لیے اور ایک کہنیوں تک ہاتھوں کے لیے اور ایک ہی ضرب پر اکتفاء کرتے۔ اول نہ تھیلیوں پر اور حضرت ابن عباسؓ ان کے خلاف کرتے۔ کہا کرتے کہ تمیم میں چہرے اور تھیلیوں کے لیے ایک ہی ضرب ہوگی۔

نیز حضرت ابن عمرؓ عنورت کا بوسہ لینے پر وضو خروجی سمجھتے اور اس کا فتویٰ بھی دیتے اور جب آپ اپنے بچوں کا بوسہ لینتے تو کلی کرتے پھر نماز پڑھتے اور حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں (بیوی) کا بوسہ لیا ہے یا میں نے خوشبو سونگھی ہے (یعنی ان کے نزدیک اس پر وضو نہ کرنا پڑتا) نیز (حضرت ابن عمرؓ) حکم دیا کرتے کہ جسے نماز کے حالت میں یاد آجائے کہ اس پر فوت شدہ نماز کی قضاہی ہے۔ نماز ختم کرے، پھر فوت شدہ نماز ادا کرے، پھر جس نماز میں مشغول تھا اس کا اعادہ کرے۔ یہ مسند البعلی میں مرفوع روایت ہے اور صاف تر بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمرؓ پر موقوف ہے۔ یہیقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ سے مرفوعاً منقول ہے اور صحیح نہیں اور بتایا کہ حضرت ابن عباسؓ سے مرفوع طور پر مروی ہے۔

الغرض حضرت ابن عمرؓ قشد و احتیاط کے طریقہ پر چلا کرتے تھے اور میر نے حضرت ایوب سے انہوں نے نافع سے انہوں نے (ابن عمر) سے روایت کیا کہ جب وہ امام کے ساتھ ایک رکعت پالیتے تو دوسری رکعت اس کے ساتھ اور ملا لیتے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو دو سجدہ سہو کرتے۔ زیریٰ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی اور نسبی بھی یہ کیا اور ایک مسلمان کی شہادت بھی کافی ہے [ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طبیبہ یہ تھی کہ ایک مسلمان کی شہادت پر لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے اور دو مسلمانوں کی گواہی پر روزے سے خروج (افطار) کا حکم فرماتے۔

اور آپ کی عادت طبیبہ یہ تھی کہ جب وقت عید گزرنے کے بعد دو شاہزادے کیتھے کی گواہی دیتے تو آپ افطار کر دیتے اور لوگوں کو بھی افطار کا حکم فرماتے۔ لیکن عید کی نماز اگلے روز اس کے وقت پر ادا فرماتے اور آپ افطار میں جلدی کرتے، اس کی ترغیب دیتے (نیز) سحری کھاتے اور سحری کھانے کی ترغیب بھی دیتے۔ اور آپ (سحری کھانے) کو موخر کرتے، اس میں تاخیر کی ترغیب دیتے اور کھجور سے افطار کرنے پر امداد کرتے۔ اگر کھجور نہ ملتے تو پانی سے۔ یہ امت پر کمال شفقت و نصیحت کے باعث تھا۔ کیونکہ خلوٰۃ

محدثہ میں ملٹھی چیز کو طبیعت زیادہ قبول کرتی ہے اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ خصوصاً بصارت کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور مدینہ کی ملٹھی کمحور ہی ان کے ہاں غذا بھی ہے، خشک اور تر کمحور ان کے ہاں بچل دی کی جیشیت رکھتی ہیں۔

اور پانی کا معاملہ بخوبی ہے کہ روزے کے باعث جگر بیس خشکی ہو جاتی ہے اور جب پانی سے اس کو مطرب کیا جائے گا تو اس کے بعد غذا سے اس کا فائدہ مکمل ہو گا۔ یہی وجہ کہ بھوکے پیاس سے کوچاہیتے کر کھانے سے قبل تھوڑا سا پانی پی لے۔ پھر اس کے بعد کھانا کھائے۔ اس کے علاوہ پانی اور کمحور بیس اصلاح قلب کے لئے کافی مفید ہوتے ہیں۔ جنہیں ماہرین قلب جانتے ہیں۔

افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنی چاہیے [اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز رمذب بپڑھنے سے قبل افطار

کیا کرتے تھے۔ اور اگر تر کمحور بیس مل جاتیں تو ان سے افطار فرماتے اگر نہ ملتیں تو خشک کمحوروں سے افطار کر لیتے۔ اگر وہ بھی نہ ملتیں تو پانی کے چند گھونٹوں سے ہی افطار کر لیا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متقول ہے کہ آپ افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اللهم لا ت صمت و على سرزقك افطرت فتقيل منا نذك انت السميع العليم  
یعنی: ”اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا پس اسے ہماری طرف سے قبول فرمابے شک تو ہی سفنہ والا جانے والا ہے“  
نیز آپ سے یہ دعا بھی مروی ہے کہ آپ پڑھا کرتے: اللهم لا ت صمت و عتلی سرزقك افطرت۔

یعنی ”اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا“ اور ابو داؤد نے حضرت معاذ بن نہرہ سے روایت کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذکر کردہ دعا پڑھا کرتے تھے اور مروی ہے کہ جب آپ افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے ذہب الظما و ابتلاء العروق و ثبت الاجران شاء اللہ تعالیٰ۔

یعنی پایس چلی گئی اور گئیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور حسین بن واقعہ کی حدیث میں حضرت مروان بن سالم مفہوم سے انہوں نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ روزے دار کی ایک دعا افطار کے وقت مسترد نہیں ہوتی (ابن ماجہ)

اور صحیح روایت میں آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رات اس قدر جو جائے اور دن اس قدر چلا جائے تو (گویا) روزے دار کا افطار ہو گیا۔ اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ حکمی طور پر اسی کا افطار ہو گیا۔ اگرچہ اس کی نیت نہ کسے (دوسری تفسیر یہ ہے) کہ وقت افطار ہو گیا جیسا کہ کہتے ہیں۔ سبح ہوئی شام ہوئی وغیرہ۔ اور روزے دار کو آپ گندی باتیں کرنے، سختی برتئے، دشنا م طرازی اور گالیوں کا جواب دینے سے منع فرماتے تھے۔ بلکہ آپ حکم فرماتے کہ جو گالی دے اس سے کہہ دو میں روزے سے ہوں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ بات زبان سے کہے یہ ظاہر حدیث کا مطلب ہے اور ایک قول ہے کہ دل میں کہے اور اپنے کو یاد دلائے کر میں روزہ سے ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ فرض روزہ میں زبان سے کہے اور نقلی روزہ ہو تو دل میں کہے، کیونکہ یہ سوہرت ریا کاری سے دور ہے۔

سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی رخصت | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت سفر کیا تو حالت سفر میں کبھی روزہ

رکھا اور کبھی افطار کیا اور صاحبہ نے بھی دونوں طریقوں کو اختیار فرمایا (نیز) جب دشمن قریب ہوتا تو آپ افطار کا حکم فرماتے تاکہ جنگ کرنے میں انہیں قوت حاصل ہو۔

دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے قوت حاصل کرنے کی خاطر افطار کرنا جائز ہے۔

اس میں دو قول ہیں اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ ابن تیمیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے۔

چنانچہ جب دشمن کے باہر افواج اسلامی کو دشمن سے مقابلہ کرنا پڑتا تو انہوں نے

اس کا فتویٰ دیا تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ مغضن سفر کے لئے افطار کرنے سے یہ افطار اور نی ہے۔ بلکہ سفر کی حالت میں افطار کو مباح قرار دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حالت (جنگ) میں بھی افطار مباح ہے۔ کیونکہ اس حالت میں زیادہ استحقاق جواز ہے۔ کیونکہ سفر میں صرف مسافر سے قوت تھقہ ہے لیکن جنگ میں اس کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے (قوت مطلوب) ہے اور سفر کی تکلیف جہاد کی مشقت زیادہ سخت ہے اور مسافر کے افطار سے مجاہد کا افطار زیادہ مصالح اور فوائد کا حامل ہوتا ہے۔

(نیز) اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

أَعْدَدُ الْهَرَمًا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

یعنی دشمن کے مقابلہ میں جس قدر استطاعت ہو قوت مہیا کرو۔

اور جنگ کے وقت اسباب قوت میں سے افطار ایک عظیم قوت کا باعث ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کو قوت قرار دیا اور یہ مقصد تسب ہی ہو سکتا ہے جب غذا اور افطار کے ذریعہ قوت و تعاون حاصل ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو ایک مرتبہ حکم فرمایا، جب وہ دشمن کے قریب ہو چکے تھے۔

”تم اپنے دشمن کے قریب پہنچ چکے ہو۔ اس لئے افطار کرلو، تمہیں قوت حاصل رہے گی۔“

یہ رخصت تھی، اپھر دوسری جگہ اترے تو فرمایا،

”تم کل بیج دشمن کا مقابلہ کرو گے اور افطار تمہارے لئے قوت کا باعث ہو گا۔ اس لئے افطار کرلو۔“

چونکہ یہ ایک مقام جنگ تھا اس لئے آپ نے دشمن کے قریب ہونے اور قوت کی احتیاج کو سبب قرار دیا۔ جس کے ذریعہ دشمن کا مقابلہ کرنا مقصود ہے۔ سفر اگرچہ ایک سبب تھا لیکن یہ سفر کے علاوہ ایک دوسرا مستقل سبب تھا اور اسی بھروسی کی

یونس کی روایت روشنی ڈالتی ہے جو انہیں نے شعبہ سے انہیوں نے عمرو بن دینا سے روایت کی۔ فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو فرماتے سننا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا کہ آج قتال کا دن ہے۔ اس لئے افطار کرو، سعید بن زبیر نے شعبہ سے روایت کیا ہے کہ قتال کو اس افطار کی حدت قرار دیا۔

اور جب جہاد کے علاوہ بعض سفر ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے جو اس کے مطابق کرے تو اچھا ہے۔ اور جو روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

# ماہِ رمضان میں جہاد و سفر

سفر شروع کرتے ہی مجاہد اور مسافر کے لئے سہولت

غزوہ بدر اور فتح مکہِ رمضان میں | آپ نے ماہِ رمضان میں پرسسلہِ جہاد

سب سے برطانیہ غزوہ بدر، اور غزوہ فتح مکہ تھا۔

حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ، ہمِ رمضان المبارک میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غزووں میں شریک ہوئے۔ یوم بدر اور فتح مکہ میں۔ چنانچہ ہم نے دونوں میں افطار کیا۔ اور بھودار قلنی وغیرہ نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھِ رمضان شریف میں عمرہ کے لئے (حدیث) توبہ ان کے خلاف غلط بیانی ہے اور یہی اصل داقعہ ہے، بیا یہ ہوگا کہ کوئی روایت ان سے مردی ہوگی بعد میں اس میں گزر برطانیہ گئی جس طرح حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں تصرف ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا (تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر حم کرے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور حضور نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا۔

اس طرح آپ کے تمام سفرے ذی قعده میں تھے۔ ماہ رمضان میں آپ نے کبھی سفرہ نہیں کیا۔

**سفر کی حسرت مقرر کرنا چاہئے** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ نہ تھی کہ سفر کی حسرت مقرر کریں جس کے مطابق روزے دار افطار کرے اور نہ آپ سے اس باب میں کچھ صحیح طور پر مروی ہے اور وہی بن خلیفہ کلبی نے تین میل کے سفر پر بھی افطار کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ان سے کہہ کر بد لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر گئے۔

اور صحابہؓ جب سفر اختیار کرتے تو مکانات سے ر مقامی آبادی (گزرے بغیر ہی افطار کر دیتے۔ اور فرماتے کہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عادات طیبہ تھی، جس طرح عبید بن جبیر نے بتایا کہ رمضان کے مہینہ میں قسطنطیبل میں ابو بصرۃ شفقاری کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ایک کشتنی میں سوار ہوا ایسی ہم آبادی سے ہٹے نہ تھے کہ انہوں نے دسترخوان پھادیا اور فرمایا آور کھانا کھاؤ (میں نے عرض کیا کیا آپ آبادی نہیں دیکھتے۔

حضرت ابو بصرۃؓ نے فرمایا، کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے؟ ابو داؤد مسند الحمد)

اور مسند الحمدؓ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں قسطنطیبل سے اسکندریہ جانے کے لئے ابو بصرۃؓ کے ساتھ کشتنی میں سوار ہوا۔ جب ہم لٹکر گاہ ریندر گاہ (کے قریب ہوتے تو انہوں نے دسترخوان پھانے کا حکم دیا۔ میں پاس آیا تو مجھے کھاتے کی دعوت دی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے کہا اے ابو بصرۃ اللہ کی قسم ابھی تو ہم سے ہمارے مکانات بھی او محبل نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگے، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا چاہتا ہے۔

میں نے کہا، نہیں! کہنے لگے، پھر کھاؤ۔

راوی کا قول ہے کہ پھر ہم (منزل) پر پہنچنے تک افطاری کرتے رہے۔ اور مدرس کعب بتاتے ہیں، میں رمضان میں حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ سفر کا ارادہ کر رہے تھے، ان کی سواری چل پڑی تھی اور باری سفر پہنچ کر تھے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا منگایا اور کھایا میں تھے۔ عرض کیا، یہ سفت ہے۔  
کہنے لگے رہا) سذت ہے۔

پھر سوار ہوئے، ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ دارقطنیؓ نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ (کھانا) کھایا اور راس وقت) سُوْرَةِ دُوْبَنَة کے قریب تھا۔ یہ آثار اس مسئلہ میں واضح تر ہیں کہ جو ماہ رمضان میں کسی دن سفر کا ارادہ کرے تو اسے افطار کرنے کی پوری اجازت ہے۔

جنہی کے لئے رعایت و سہولت اور بنی ایلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی

تو فجر الہوش ہو جاتے کے بعد غسل فرماتے، اور روزہ بھی رکھ لیتے، اور رمضان میں پر حالت صوم تقبیل بھی کر لیتے۔ وہی وہ رات جو ابو داؤدؓ نے مصدرع بن یحییٰ سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے، کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسے لیتے اور ان کی زبان چوس لیتے۔

اس حدیث کی سند پر جرح مصدرع کو ضعیف لئے قرار دیا ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ یہ راستہ سے ہٹا ہوا اور کھو ڈاہے۔

لے علمائے حدیث اور ائمہ جرج و تعداد میں نے اس حدیث کو یکسر غلط بتایا ہے۔ اس طرح کی حدیثین ان لوگوں نے وضع کریں جو مسلمانوں کے نام رکھ کر داہی اسلام اور اسلام کے خلاف معروف عمل رہتے تھے۔ (رمیں احمد جعفری)

ایک گروہ نے اسے حسن کہا ہے اور بتایا ہے کہ ثقہ اور صدقہ ہے۔ مسلم<sup>۱</sup> نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس سے روایت قبول کی ہے ریزرا اس کے اسناد میں محمد بن دینار طاجی بھری ہے، اس شخص کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ یہی اسے ضعیف کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے لیں بھی باس کہتے ہیں۔ دوسروں نے اسے صدقہ قرار دیا۔ ابن عدی کہتے ہیں روایت کا پر حضرت کر اپ ان کی زبان پھوس پلتے تھے۔ حرف محمد بن دینار سے ہی مردی ہے۔ نیز اس کے اسناد میں سعد بن اوس مختلف فہرہ راوی سے۔ یہی بھری اسے ضعیف بتاتے ہیں دوسروں نے اسے ثقہ قرار دیا، ابن جبل اسے ثقات میں شمار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں جو سند امام احمد اور ابن ماجہ میں مبہمو نہ فہرست سے مروی ہے جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی تعبیں بتاتی ہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کا بیوسر لیا افادہ دونوں روزے سے کھے، تو اس حالت میں کیا کیا جائے گا؟ اپنے نے فرمایا، دونوں کا افطار ہو گیا (ارزوہ ٹوٹ گیا) لیکن اس کی حصہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت صحیح نہیں۔ اس میں ایوڑ پڑھنی ہے جس نے حضرت مبہمو نہ فہرست سے روایت کی۔ اور پیر مروی سننہ) بنت سعد میں۔ وارقطنی فرماتے ہیں یہ غیر معروف ہے۔ مخارجی فرماتے ہیں کہ میں اس سے روایت نہیں کرتا۔ بہ حدیث منکر ہے۔ اور ایوڑ پیر مجہول ہے اور جوان اور بوڑھے میں اپنے سے کوئی امتیاز صحیح سند سے مروی نہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے بہتر ابو داؤد کی روایت ہے جو انہوں نے نصر بن علی سے انہوں نے احمد ز پیری سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے اعرج سے انہوں نے ایوڑ پیرہ سے روایت کی کہ ایک اوسی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے دار کی میاثر (رسویں دکنار وغیرہ فقط) کے متعلق پوچھا، اپنے اسے باجائز دی، پھر دوسرے نے بلوچھا تو اپنے منح فرمایا، یعنی رخصت دی وہ بولڑھا تھا۔ اور جسے روکا وہ جوان تھا۔ اور اگرچہ مخارجی وسلم اور باقی صحاح ستہ نے اسرائیل

سے استدلال کیا ہے لیکن اس حدیث میں عدت یہ ہے کہ اس کے اور اعزاز کے درمیان ابوالعباس عدوی کوئی ہے، جس کا نام حارث بن عبید ہے اور بہ ساخت عنہ راوی کے بھول چوک سے کھانا پینیا روزے کو قائم رکھتا ہے اور ربنا اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ

یہ تھی کہ بھول کر کھانے پینے والے سے قضاۓ ساقط کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پڑایا ہے اس لئے بخورد نوش اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ وہ افظار کر دے بلکہ وہ اپنے رارادی افعال سے مفطر فرار دیا جائے گا اور یہ نہیں میں خورد نوش کے قائم مقام ہو گا کیونکہ سوتے والے کے افعال پر کوئی موقوفہ نہیں کیا جاتا، اور نہ بھول کر کھانتے والے پر مسواخذہ ہو گا)۔

### حالت حصوم میں آپ کے معمولات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حالت حصوم میں آپ کے معمولات طور پر شاہد ہے کہ روزے کو ہاتھ نہیں رکھتا اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جماع کرنا بھی کھانتے پینے کی طرح مفطر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا اور سرمه لگانے سے متعلق آپ سے کوئی صحیح روایت مروی نہیں، اور صحیح ہے کہ آپ روزے کی حالت میں مسوک کیا کرتے تھے۔ (ام احمد) آپ سے نقل کیا کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے سر پر پانی ڈال کیا کرتے تھے اور کی کرتے ناک میں پانی ڈالتے، حالانکہ آپ کا روزہ ہوتا۔ البتہ روزے دار کوناک میں میان الغیر سے پانی ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ البتہ آپ نے روزہ کی حالت میں پچھنے نہیں لگوانے۔

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ تمجیع مسجد نے بتایا کہ شعبہ سعیدتے کر حکم نے روزوں میں پچھنے لگوانے کی حدیث مقدم سے نہیں سنی، یعنی وہ حدیث پر مسجد سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے مقدم سے، انہوں نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور ارمام کی حالت نہیں پچھنے لگوانے، تو بتایا

کہ بہر روایت صحیح نہیں۔ یعنی بن سعید انصاری نے اسے منکر کہا ہے اور یہ میمون بن مہران کی ابن عباس سے قریباً پندرہ مرویات ہیں اور اثرِ مُکہتے ہیں کہ یہیں نے ابو عبد اللہ سے اس حدیث کا ذکر سننا، لیکن وہ اس کی تفصیل فرمایا کرتے تھے۔ اور ذکرِ یا بن الحنف سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر و بن دنیار سے انہوں نے عطا عاصم طاؤس سے انہوں نے ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتِ احرام میں پچھنے لگوائے۔ اور ابن عباسؓ کے بیان اصحاب اس کا ذکر نہیں کرتے کہ آپ روزے سے تھے اور جنبلؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو عبد اللہ نے انہیں وکیح نے انہیں یا سبین زیارت نے انہیں ایک آدمی نے انہیں حضرت انسؓ نے بتایا کہ بنی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یہ فرماتے کے بعد پچھنے لگوائے کہ پچھنے لگانے والا اور پچھنے لگوائے والا دونوں کا روزہ اٹوٹ گیا۔

ابو عبد اللہ کہتے ہیں وہ آدمی میرا جمال ہے کہ اب ان بن ایں عباش تھے، جن سے استدلال ٹھیک نہیں اور اثرِ مُکہتے ہیں، میں نے ابو جبید اللہ سے کہا۔ حمد بن معاویہ نہشنا پوری نے ابو عواتہ سے انہوں نے سوی سے انہوں نے حضرت انسؓ سے روایت کیا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، تو رابو عبد اللہ نے اس کا انکار کیا اور الحنفؓ کہتے ہیں کہ بہر روایت بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پائیج وجوہ سے ثابت ہے۔ الغرض بہ صحیح طور پر ثابت نہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے اور نہ صحیح طور پر بہ ثابت کی بہترین فضائل ہی سے مسوک ہے را بن ماجہ منہ حدیث مجالی لیکن اس میں ضعف ہے۔ اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے روزے میں سرمه لگایا، نیز آپ سے مروی ہے آپ رصحابؓ کے پاس تشریف

لائے اور آپ کی دونوں انکھیں احمد رسمہ کی قسم سے بھری تھیں، لیکن بہرداشت صحیح نہیں ہے اور آپ سے احمد کے متعلق مروی ہے کہ روزے فاراس سے پرہیز رکھے، بہرداشت صحیح نہیں ہے۔

ابوداؤدؓ فرماتے ہیں کہ صحیح تیجی بن معین نے بتایا کہ بہرداشت منظر ہے۔  
**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ روزوں میں رکھتے تو کہا جاتا کہ اب افطار**

نہ کریں گے اور کبھی افطار کرتے تو کہا جاتا کہ اب روزے نہ رکھیں گے اور رمضان کے علاوہ آپ نے کبھی بھی مکمل ہفتے کے روزے نہیں رکھے اور شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی ماہ ہیں روزے نہیں رکھتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا روایہ ہے۔ اور رجب ہیں آپ بالکل روزے نہیں رکھتے تھے اور نہ اس کے روزے مستحب صحیح تھے، بلکہ آپ سے اس ماہ کے روزوں کی تہی رحمانگوت منقول ہے۔

(راہنماجہ)

آپ پیر اور معمرات کو روزہ رکھنے کی زیادہ تر کوشش کرتے اور حضرت این عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر ہیں ایام بیض کے روزے افطار نہ کرتے (نسائی)

اور آپ ان روزوں کی ترغیب دیا کرتے۔ حضرت این مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے تین سفید دنوں (ایام بیض) کے روزے رکھا کرتے تھے (ابوداؤد بنیانی)

اور حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں کہ حضور اس کی پرواہ نہ کرتے کہ کس ماہ کے روزے رکھے (مسلم)

ان آثار میں کوئی تناقض نہیں۔ رہے ذا الجھر کے دس روزے تو اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اپنے کو ان میں دس دنوں میں کبھی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ (مسلم)

اور حضرت حفظہ اللہ فرماتی ہیں، چار بیکروں کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ترک  
نہ فرماتے (۱) یوم عاشورہ (۲)، دس دن (۳)، اور ہر راہ کے تین دنوں کے روزے  
۴ - اور فجر کی دو کعیتیں (مسند امام احمد)

اور امام احمد نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے روایت کیا کہ اپ  
ذی الحجه کے نوروزے، عاشورہ اور مبینہ کے تین دنوں کے روزے یا ہمینہ میں  
دو اونٹ جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ ایک بیس آیا ہے دو جمعراتوں کے روزے رکھا  
کرتے، یہ روایت گریج ہوتا بھی مشیدت نافی پر مقدم ہوتا ہے۔

رہے شوال کے چھوڑوڑے تو اپ سے صحیح روایت میں مردی ہے کہ اپ نے  
فرمایا، رمضان کے فوراً بعد یہ روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔  
مرا عاشورہ کا روزہ، تو اپ تمام ایام میں سے اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔

# عاشورا کارونزہ

## صوم عاشورا کے متعلق آپ کا فرمان

صحابہؓ کو عاشورا کارونزہ رکھنے کا حکم | جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود اس دن کی عظمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے خدا ہیں، چنانچہ آپ نے رعنہ رکھا اور صاحبؓ کو روزہ رکھنے کا سکم دیا۔  
یہ واقعہ رمضان کے فرض ہونے سے قبل کا ہے، اس لئے جب رمضان فرض ہوا تو آپ نے فرمایا، جس کا جی چاہے روندہ (عاشورا کا) رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ بعض لوگوں کو اس میں اشکال ہو گیا ہے۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے ماہ ربیع الاول تشریف لائے، اس لئے ابن عباسؓ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا وہ یوم عاشورا کارونزہ رکھتے ہیں۔

(۲) اس سلسلہ کا دوسرा اعتراض یہ ہے کہ جو صحیحین میں مردی ہے کہ اشعت بن قیس سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے وہ کھانا کھا رہے تھے تو انھوں نے کہا ابو محمد اور کھانا کھالو۔ انھوں نے کہا کیا آج یوم عاشورا نہیں ہے؟ انھوں نے دریافت کیا تو جانتے ہو کر یوم عاشورا کیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا، کیا ہوتا ہے بتائیے؟

فرمایا، رمضان کے فرض ہونے سے قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن

رفدہ رکھا کرتے تھے اور جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو آپ نے اسے ترک کر دیا اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورا کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا، تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول اس دن کی بیہود نظری بہت عزت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاء اللہ تو تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آیا تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ رکھنا اور اس کا حکم دینا وفات سے ایک برس پسلے کا واقعہ ہے۔

عاشورا کا روزہ فرض نہیں ہے | اور سابق حدیث میں یہ تھا کہ یہ واقعہ آپ کی حضرت ابن مسعودؓ نے بتایا۔ رمضان کے باعث یوم عاشورا کا روزہ متروک ہوا میر ابن عباسؓ کی مذکورہ روایت کے خلاف ہے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ آپ نے اس کی فرضیت نزک کر دی۔ کیونکہ صحیحین میں حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض نہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سننا۔ یہ عاشورا کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، البتہ میں روزہ سے ہوں، جس کا جو چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا بھی چاہے افطار کرے، لیکن ظاہر ہے کہ امیر معاویہؓ نے اسے فتح کر کے بعد ہی سننا ہو گا، کیونکہ فتح کے بعد ہی وہ ایمان لائے تھے۔

ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بیہود و نصاری اس دن کا بہت احترام کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو تو تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا، لیکن اگلا سال جب آیا تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔

نیز صحیح مسلم میں حکم بن المرج سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا وہ نزم کے پاس اپنی چادر کا تکبیر بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

میں نے عرض کیا جسے یوم عاشورا کے روزہ سے متعلق بتائیے۔

اپ نے فرمایا کہ اگر تم حرم کا چاند دیکھو تو نوتار تاریخ تک شمار کرو، اور نوتار تاریخ کی صحیح کارروزہ رکھ لو۔

میں نے پوچھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ (۵) ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ اگر اسلام کی ابتداء میں یہ روزہ واجب اور فرض ہوتا تو آپ اس کی قضاہا کا حکم کیوں نہ دیتے جو رات کو بغیر نیت کئے سو گیا ہو؟ اور اگر فرض نہیں تھا تو آپ نے ان لوگوں کو روزہ رکھ لینے کا حکم کیوں دیا جو کھانا کھا چکے تھے؟ جیسا کہ مسند احمد بن مسلم میں کئی وجہ سے منقول ہے کہ جس نے کھانا کھایا ہے آپ نے اسے حکم دیا کہ باقی دن کا (روزہ) بھی مکمل کر لے۔ یہ صورت تو واجب میں ہی ہوا کرتی ہے۔ لہذا ابن مسعودؓ کا قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو آپ نے عاشوراء کارروزہ ترک کر دیا۔ حالانکہ اس کا استحباب تو متروک نہیں ہو سکتا ایک اور اشکال بھی ہے وہ یہ کہ حضرت ابن عباسؓ نے نوتار تاریخ کو یوم عاشوراء قرار دیا تو بتایا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور انہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ "یوم عاشوراء کارروزہ رکھو اور ہر ہودیوں کی مخالفت کرو" (اس طرح) کہ ایک روز اسی سے پہلے اور ایک روز اس کے بعد بھی روزہ رکھو (مسند احمدؓ) اور انہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ عاشوراء کارروزہ دس تاریخ کا ہے (ترمذی) اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت سے ان اشکالات کا جواب یہ ہے۔

پہلے اشکال کا جواب پہلا اشکال کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو بدکو یوم عاشوراء کارروزہ رکھتے ہوئے پایا تو اس میں یہ ذکر نہیں کہ جس دن آپ تشریف لائے اُسی دن وہ روز سے سے تھے، کیوں کہ آپ زیج الاول کے دوسرے عشرہ میں دو شنبہ کے روز تشریف لائے اور دوسرے روز جب یہ واقعہ پیش آیا تب آپ کو پہلی بار علم ہوا، اور قیام مکہ کے زمانہ میں آپ کو اس کا علم نہ تھا، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اہل کتاب قمری تاریخوں سے روزوں کا حساب رکھتے ہوں، لیکن اگر شمشی تاریخوں سے حساب کرتے ہوں تو پھر سرے سے اشکال ہی اٹھ جاتا ہے اور جس دن موسیٰ علیہ السلام

نے نجات پانی وہ محرم کی ابتداء میں یوم عاشورا کا دن ہو گا۔ اہل کتاب نے شمسی حساب سے اسے منضبط کیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزِ الاول میں مدینہ تشریف لائے تو یہی موقع تھا کیونکہ اہل کتاب کے روزے شمسی حساب سے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے روزے قمری حساب، اسی طرح جج کا معاملہ ہے مودہ ہر ماہ جس میں کوئی واجب یا مستحب ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مولیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ خدوار ہیں۔ اس طرح اس دن کی عظمت و تقدیم میں اولیت کا حکم عیاں ہو گیا اور (یہود) نے شمسی سالوں کے باعث اس کی تعیین میں غلطی کی، جیسے کہ نصاریٰ نے اپنے روزوں کے متعلق غلطی کی کہ انھیں سال کے ایک موسم میں مختص کر دیا، جس میں مختلف مہینے آتے ہیں۔

دوسرے اشکال کا جواب (۲) اشکال ثانی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی ماسٹلہ کاروزہ رکھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے، تو یقیناً قریش بھی اس دن کا احترام کرتے تھے اور اسی دن کعبہ مشرفہ پر غلاف چڑھاہا کرتے اور یہ روزہ اس کی عظمت کا اکمال تھا، لیکن قریش قمری حساب سے رکھتے تھے اور اس کے لئے انہوں نے دسویں تاریخ متعین کر رکھی تھی، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو (یہود) کو دیکھا وہ بھی اس دن کی عظمت مانتے ہیں اور تقریر عظمت کے باعث اس دن کاروزہ رکھتے ہیں، چنانچہ فرمایا آپ خود اس کام کے مولیٰ کے یہود نے زیادہ خددار ہیں۔ اور جب مولیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کاروزہ رکھا تھا، تو ہم یہود سے زیادہ ان کی اقتداء کے مستحق ہیں، اور خصوصاً اس لئے بھی کہ ہم کہا کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے کی شرائی ہماری ہیں، بشمرطیکہ ہماری مخالفت نہ کروں۔

اگر کوئی اعتراض کرے تمہیں کہاں سے علم ہوا کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (یہود) سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا

اس نے موسنی علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا اور ہم بھی (اقتباع) میں روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسنی علیہ السلام کے حقدار ہیں اور آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور (صحابہؓ) کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، پس ثابت ہوا کہ آپ نے ان کی اس بات کی تصدیق فرمادی اور تکذیب نہیں فرمائی۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ موسنی علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے (اس دن کا) روزہ رکھا۔ اس قدر تعلیم کو ما قبل ہجرت کے واقعات سے ملا دیا جائے تو تاکید زیادہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ( مختلف ) شہروں میں منڈی بھیجا، جو عاشورہ کے روزے کی منادی کرتا تھا اور ( کہتا تھا ) کہ جو کھا چکا وہ اب شام تک رک جاتے ( یعنی روزہ مکمل کرے ) اور ظاہر کلام سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے اس کی تاکید کی اور واجب قرار دیا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

تیسرا اشکال کا جواب | (۲) اشکال ثالث یہ ہے کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جب رمضان فرض ہوا تو آپ نے ترک فرمادیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسے بالکل محصور دیا۔ بلکہ یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ فرضیتِ رمضان سے قبل فرض تھا اور اس کا وحرب متروک ہو گیا۔ لیکن استحباب متروک نہیں ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک سال قبل ایک موقع پر جب عرض کیا گیا کہ یہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے برس تک زندہ رہتا تو عاشورہ اسکے علاوہ تو تاریخ کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا اور فرمایا، یہود کے طریقہ کی تناقض کرو، اور اس سے ایک دن قبل اور ایک دن بعد یعنی اس کے ساتھ ملاکر ( دس تاریخ کا ) روزہ رکھو۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ یہ آخر زمانہ کی بات ہے ورنہ شروع شروع میں تو جن معاملات میں کوئی حکم خدا کی طرف سے نہ ملتا آپ اہل کتاب سے توافق کو پسند فرمایا کرتے، پس معلوم ہوا کہ اس کا استحباب متروک نہیں، اور جو لوگ اس روزے کو غیر واجب سمجھتے ہیں۔ ان کے قول سے دو باتوں میں ایک لازم آتی ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ اس کا استحباب

متروک ہے اور اب یہ ستحب نہیں رہا یا کہا جائے کہ یہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذاتی رائے ہے اور ان پر اس کا استحباب مخفی رہا۔ اور یہ بعید از عقل بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہؓ) کو اس کی ترغیب دی اور فرمایا، کہ عاشورہ کا روزہ گذشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور صحابہؓ آپؐ کی وفات تک بیر روزہ رکھتے رہے اور آپؐ سے اس روزے کے متعلق کراہت یا نہی کا ایک حرف بھی منقول نہیں، الہذا ثابت ہوا کہ اس روزے کا صرف وجوب متروک ہے، استحباب متروک نہیں۔

**چوتھا اشکال اور اس کا جواب** | (۲۳) چوتھا اشکال یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو ضرور نوتاریخ کا روزہ رکھوں گا (یہیں)، آپ آئندہ سال فوت ہو گئے اور اب نے عباسؓ کا ارشاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوتاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ دونوں روایتیں ابن عباسؓ کی ہیں یہ بھی، اور وہ بھی اور ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نوتاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اگلے سال تک زندہ رہے تو یہ بھی روزہ رکھیں گے۔ یا حضرت ابن عباسؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر اور آئندہ عزم پر اعتقاد کرتے ہوئے بتایا اور مقید طور پر آپ سے یہ روایت درست بھی ہے۔ یعنی اگر زندہ رہے تو ایسا ہی کریں گے۔ اس طرح ہر ایک میں دونوں روایتوں میں کوئی تناقض نہیں۔

اشکالِ خامس، اس کا جواب جو گذر چکا ہے وہ کافی ہے۔

اشکالِ سادس، قولِ ابن عباس ہے کہ "نوتاریخ تک شمار کرو اور نو کی صبح کو روزہ رکھو، اور جو شخص ابن عباس کے مجموعہ مرویات کا بہ انصاف نظر مطالیبہ کرے گا، اس کے لئے یہ اشکال بے معنی ہو جائے گا اور وہ ان کی وسعت علم کا قائل ہو جائے گا، کیونکہ انھوں نے نوتاریخ کو یوم عاشورہ کو قرار نہیں دیا، بلکہ مسائل کو بتایا کہ "نوتاریخ کا روزہ رکھو" اور مسائل کے سابقہ علم کو کافی سمجھا کر یوم عاشورہ اور دس تاریخ سے جیسا کہ تمام لوگوں کے سمجھتے ہیں، نیز مسائل کو ساتھ نوتاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

اب دوسری صورتیں ہیں یا تو آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا، پھر تو کوئی سوال ہی نہیں اور یا پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل میں عزم و ارادہ کی بنادرے سے آپ کا فعل قرآن دیا ہوگا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم حاشور کو یعنی دس تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ تمام آثار آپ سے منقول ہیں، جو ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتے ہیں،  
سوم حاشور اور کے تین مرتب ہیں،

۱۔ سب سے کامل ترین صورت یہ ہے کہ اس سے قبل اور اس کے بعد بھی ایک ایک دن روزہ رکھے۔

۲۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تو اول دس تاریخ کا روزہ رکھے اکثر احادیث اس پر شاہد ہیں۔  
۳۔ اور اس کے بعد صرف تنہا دس تاریخ کا روزہ آتا ہے۔ رہا، صرف نو تاریخ کا روزہ، تو یہ احادیث فہمی کی کی، ان کے الفاظ اور فرق کے عدم تفیع کا نتیجہ ہے۔ اول یہ لغت شرع سے بعید ہے اور اللہ ہی صاحب راہ کی توفیق دینے والا ہے۔

عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ | اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ طیبہ یہ تھی کہ عرفات میں یوم عرفہ کو افطار کرتے، یہ صحابین سے ثابت ہے۔  
نیز آپ سے مروی ہے کہ آپ نے عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اسے اہل سنت نے روایت کیا ہے۔

نیز آپ سے صحیح روایت میں ثابت ہے کہ اس دن کا روزہ سال ماضیہ و باقیہ کا غالباً ہوتا ہے۔ (مسلم)

اور عرفہ کے دن افطار کرنے کے کئی اسہاب نقل کئے، ایک تو ہے کہ اس طرح دعا کرنے میں قوت رہتی ہے۔ نیز فرضی روزوں کی صورت میں بھی سفر میں افضل ہے۔ چونچنانچہ نقلی روزے ہوں۔ نیز یہ جمعہ کا دن تھا۔ اور آپ نے تنہا اس دن روزہ رکھنے کو منوع فرمایا چنانچہ آپ نے چاہا کہ اس دن لوگوں کو اپنا افطار کرنا دکھا دیں، تاکہ مخصوص طور پر اس دن

کے روزہ کی نبی موکد ہو جائے۔ اگرچہ آپ کا روزہ جمعہ کی بجائے محسن یوم عرفہ کا ہوتا۔ اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ کا مسلک دوسرا تھا، جو یہ ہے کہ یہ دن عید کے اجتماع کی طرح اہل عرفہ کے لئے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ دنیا کے علاوہ صرف اہل عرفہ کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے جسے اہل سنت نے روایت کیا ہے کہ ”یوم عرفہ“ یوم حمرہ اور ایام متین ہم اہل اسلام کے لئے یہ عید کا دن ہوتا ہے۔

**آنحضرت کن دنوں میں زیادہ روزے رکھتے تھے؟** امر وحی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ کثرت سے رکھتے تھے۔ اور اس سے یہود و نصاریٰ کے طریقہ کی مخالفت مقصود ہوئی تھی جیسا کہ مسند اور سنن نسائی نے کریب مولیٰ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباسؓ نے اور کچھ صحابہؓ نے حضرت اُم سلمہؓ کے پاس بیجا، تاکہ میں ان سے معلوم کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کن ایام میں روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہفتے اور اتوار کے دن (روزے رکھا کرتے تھے) اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنوں دن مشترکین کے لئے عید کے دن ہیں، اور میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں۔

لیکن یہ حدیث مشکوک ہے، کیونکہ یہ محمد بن حمربن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے ہے اور ان کے بعض احادیث کا انکار کیا گیا ہے۔ عبد الحق نے احکام میں ابن جریرؓ کی حدیث کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے چچا نفضل سعدؓ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے علاقہ میں حضرت عباسؓ سے ملاقات کی لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن قطان کہتے ہیں کہ یہ حسب نقل ضعیف ہے اور محمد بن عکھتہ ہیں۔ مجہول ہے۔ اور اس نے ہفتہ اتوار کے دن روزہ نہ رکھنے کے متعلق حضرت اہل کتبؓ سے روایت کی ہے اور بتایا کہ عبد الحق نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے اور یہ محمد بن عمر غیر معروف ہے اور ان کا لڑکا عبد اللہ بن محمد بن علیؓ

سے روایت کرتا ہے اور اس کا حال بھی معروف نہیں۔

ویسے اس حدیث کے متعلق میرا خیال ہے کہ یہ حسن ہے۔

اور امام احمدؓ اور ابو داؤدؓ نے عبد اللہ بن بشر سلمی سے انہوں نے اپنی ہمشیر و حافظؓ سے روایت کیا کہ بنی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کا روزہ نہ رکھو، ہاں اگر تم پر فرض ہو اور تمہیں رکھانے کے لئے، پچھوڑنے ملے تو انگور کا ایک دانہ کھالو یا درخت کی ایک شاخ ہی چاپ لو۔

لوگ ان احادیث کے بارے میں مختلف الراءے ہو گئے ہیں، اکٹھ فرماتے ہیں کہ یہ جمروٹ ہے۔ ان کا مطلب عبد اللہ بن بشر کی حدیث سے ہے (ابو داؤد ترمذی) فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ نسانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔

اہدابل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس حدیث اور امام سلمہؓ کی روایت میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ روزے سے ممانعت کا مطلب انفراد ہے۔ ابو داؤدؓ نے بھی یہی شرح کی ہے، اور بتایا ہے کہ نبھی عرض ہفتے کے روزہ کے ساتھ مختص ہے۔ اور روزہ رکھنے کی حدیث کا مطلب انوار سمیت روزے سے ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ آپؐ نے تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی، اگر اس سے قبل یا بعد میں بھی رکھو لیا جائے تو کوئی مخالفت نہیں۔ اس سے وہ اشکال بھی زائل ہو جاتا ہے کہ آپؐ کا روزہ اس دن کی تعظیم کے لئے تھا۔ اور یوں احترام کے معاملہ میں میں اہل کتاب سے توافق ہو گیا۔ اگرچہ روزے کی صورت مخالفت کی متفضمن ہے (حالانکہ) یہ اس وقت ہوتا چہ آپ عرض مفرد طور پر (صرف دسویں تاریخ کا) روزہ رکھتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے افراد کا حکم نہیں دیا، اور جب دوسرے دن کے ساتھ بھی درجیع کر کے، روزہ رکھا گیا تو یہ اس دن کی تعظیم نہ ہوگی۔

**صوم وصال کی ممانعت** بنی ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ نہیں تھی کہ آپؐ مسلسل روزے رکھتے ہوں۔ بلکہ آپؐ نے فرمایا، جس

نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔  
اور آپ کا مطلب یہ نہ تھا کہ جس نے ایامِ حرمات کا روزہ رکھا، کیونکہ یہ سوال اس  
کے جواب میں فرمایا، کہ جس نے صیام و ہر رکھا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ اور نہ فعلِ حرم  
کے جواب میں آپ نے فرمایا، کہ ”نہ ایسے شخص نے روزہ رکھا، نہ افطار کیا“ کیونکہ اس  
(صیام الدھر) میں افطار و صیام برابر ہیں۔ جس پر نہ ثواب ہے اور نہ لذت ہے اور نہ اس  
کے جواب میں فرمایا ”جس پر اللہ تعالیٰ روزے حرام کر دے تو یہ مطلقاً جواب نہیں  
نیز جس نے صوم و ہر کو پسند کیا اس نے گویا مستحب اور حرام کا رتکاب کیا یعنی ایامِ حرم  
میں اس نے مستحب روزے رکھے اور ایامِ حرم میں اس نے فعل حرام کا رتکاب  
کیا، تو ان دونوں صورتوں میں یہ نہیں کھا جائے گا لہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا  
لہذا اس پر فرمان نبی کے اخلاق کا غلط ہونا ظاہر ہے۔

نیز ایامِ حرم شریعت میں مستثنی نہیں لہذا شرعاً یہ دن روزے کے قابل ہی نہیں  
ہیں اس لئے صحابہؓ ان ایام کے متعلق تودہ یافت ہی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ جان چکے  
تھے کہ ان ایام میں روزے کی قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اور اگر صحابہؓ نہ جانتے ہوتے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے اس ارشاد نہ  
اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا“ سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ کیونکہ اس میں حرم کا  
کوئی بیان، ہی نہیں ہے۔ اس لئے الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ستنت طبیۃ جس میں  
کوئی مشک نہیں یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا صیام الدھر سے فضل  
اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور مسلسل صیام الدھر کرو ہے۔ کیونکہ اگر کروہ نہ ہوتا،  
تو یہ ناممکنات میں ہے ایک بات ضرور ہوتی۔ یہ کہ ایک دن روزے اور ایک دن  
افطار کے عمل سے یہ اللہ کو زیادہ محبوب اور افضل ہوتا، کیونکہ یہ کام بھی زیادہ ہے۔  
حالانکہ حدیث کی رو سے یہ خیال مردود ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام  
کا طریقہ صوم زیادہ محبوب ہے اور اس سے افضل بھی کوئی نہیں۔  
یا پھر افضلیت میں اس سے مساوی ہوں گے، یہ بھی محال ہے۔

اور یا مباح مساوی الطرفین ہوں گے یعنی نہ مستحب نہ مکروہ، یہ بھی مجال ہے کیونکہ یہ صورت (نہ مستحب نہ مکروہ ہونا) عبادات کی شان نہیں، بلکہ عبادت یا مر جو ح ہوتی ہے یا راجح۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب اگر کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھر و نوے رکھے تو گویا اس نے صوم الدحر رکھا۔ نیز جو ہر ماہ میں تین روزے رکھے اس کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی صوم الدحر کے برابر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صوم الدحر دوسری صورتوں سے افضل ہے۔ اور یہی امر مطلوب ہے اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ آپ نے اس سے تشبیہہ دی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اندازہ کرنے کے لیے تشبیہہ سے اس کا جواز لازم نہیں آتا چہر جائیکہ اسے مستحب سمجھ ریا جائے۔ بلکہ تشبیہہ کا مطلب تو اس قدر ہے کہ اگر (صوم الدحر) مستحب ہوتے تو اس قدر ثواب ملتا، اور نفس حدیث سے اس کی محنت نکلی ہے کہ آپ نے ہر ماہ تین روزے رکھنے کو صوم الدحر کا قائم مقام قرار دیا۔ کیونکہ نیکی کا اجر دس گناہوتا ہے پس جس نے (چھتیس روزے رکھے) اُسے تین سو سالھ دن کا اجر ملے گا اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ صوم الدحر قطعاً حرام ہیں۔ لہذا معلوم ہوا آپ کا مطلب یہ تھا کہ تین سو سالھ دن کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔

اس طرح شوال کے چھر و نوے رمضان سے متصل بعد رکھے جائیں تو سال بھر کا ثواب ملے گا، پھر آپ نے آیت پڑھی۔

من جاءوا بالحسنة فلهم عشرًا مثالها۔

یعنی جو نیکی کرے گا، تو اس کے لئے اس سے دس گناہ اجر ہو گا۔

اس لئے چھتیس روزے تین سو سالھ روزوں کے برابر ہوں گے اور یہ بالاتفاق غیر جائز ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسے مشتبہہ بھی مثال دی جاتی ہے جو کیسہ متنع بلکہ تحیل ہوتا ہے اور یہ تشبیہہ بعض امکانی بنیاد پر ہوتی ہے، مثلاً ایک شخص کے جہاد سے متعلق سوال

کے جواب میں آپ نے فرمایا، جب مجاہد نکل کھڑا ہو، تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ کھڑا رہے اور سُست نہ ہو؟ اور روزہ رکھے رہے اور افطار نہ کرے؟ گویا یہ بات عادتاً حال ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شرعاً تین سو سالہ رونے سے رکھنا منوع اور متحمیل ہے، چنانچہ آپ نے اس عمل کو ایسے اعمال سے تشبیہہ دی کہ خوب اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب قیام حضرت داؤد علیہ السلام کا قیام ہے اور یہ تمام شب کے قیام سے ازدواجی سنت صرف بدھی افضل ہے۔

نیز آپ نے اس ادمی کی مثال دی جو عشاہ اور صحیح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام شب قیام کیا۔

اگر کہا جائے کہ تم حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ کی حدیث کے متعلق کیا کہو گے کہ ”بس نے صوم الدہر رکھا، تو اس پر جہنم اس قدر تنگ ہو گیا“ آپ نے اپنی مٹھی ہند کری (مسنون) جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے معنی میں اختلاف ہے، ایک قول میں کہا گیا ہے کہ جہنم اسے جگڑتے ہوئے تنگ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے آپ پر شدت کی اور غلط بوجھ لادا، نیز اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہرہ سے اعراض کیا اور (مزید براں) اس کا اعتقاد تھا کہ (صوم داؤد) کے علاوہ (صوم الدہر) مفضل ہے۔ دوسرے قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے جہنم تنگ ہو جائے گی، یعنی اس میں کوئی جگہ نہ ہو گی اور اس گروہ نے اس تاویل کو اس لئے ترجیح دی کہ جب فتنے والے اپنے شہوات کی تمام را ہیں مسدود کر دیں، اور رونے سے انہیں ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ تنگ کر دی اس لئے (آگ) میں اس کے لیے کوئی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اس نے (جہنم) کے تمام راستوں کو تنگ کر دیا۔

گھر میں کھانے کو نہ ہوتا تو آپ نفلی روزہ رکھ لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اگر جواب انکار میں ملتا تو فرماتے ”پھر آج میرا فزد ہے“ چنانچہ دن کے وقت نفلی روزے کی نیت کر لیتے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ غلی روزے کی نیت کر دیتے اور بعد میں حضرت عائشہ بتاتیں، کہ فلاں چیزوں کی ہے تو آپ افطار کر دیتے۔ پہلی روایت صحیح مسلم میں ہے دوسری نسائی میں مذکور ہے۔

دھری وہ روایت جو سنن میں حضرت عائشہؓ سے متعلق ہے کہ میں حفصہؓ روزے سے تھیں۔ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہمارا بھی چاہا اور ہم نے اس میں سے کھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت حفصہؓ آپ کے پاس جھوٹ سے پہلے چلی گئیں اور عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ہم دونوں روزے سے تھے ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا ہمارا بھی چاہا تو ہم نے کھانا کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے پدر میں کسی دن قضا کر لینا۔

یہ حدیث معلوم ہے اترندیؓ فرماتے ہیں کہ اسے مالک بن انس اور عمر اور عبد اللہ بن عمر اور زیاد بن سعد وغیرہ حفاظ حدیث نے ذہری سے انھوں نے حضرت عائشہؓ سے مرسل اور روایت کیا ہے اور اس میں عروہ کی سند ذکر نہیں کی اور یہ زیادہ صحیح ہے اور ابو داؤد نسائیؓ نے شریک سے انہوں نے زمیل مولائے عروہؓ سے انھوں نے حضرت عائشہؓ سے موصولاً روایت کیا۔ نسائیؓ فرماتے ہیں کہ زمیل غیر مشہور ہے۔ بخاریؓ فرماتے ہیں کہ عروہ سے زمیل کا اور زمیل سے شریک کا سامع معروف نہیں اور نہ اس سے محبت لی جاسکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے اور کسی قوم کے پاس اترتے تو روزہ کمل فرماتے، اور افطار نہ کرتے، جیسا کہ آپؐ ام سليم کے پاس تشریف لائے انھوں نے کھجور اور کھی پیش کیا۔ آپؐ نے فرمایا، یہی کو اپنے مشکیزے میں ڈال دو، اور کھجوروں کو برتن میں لوٹا دو، کیونکہ میں رفعتے ہوں لیکن ام سليمؓ آپؐ کے ہاں اہل بیت کے درجہ میں تھیں اور صحیح روایت میں آپؐ

لے غلی رفعتے اس طرح توڑا جاسکتا ہے، بلکہ کسی کے پاس خاطر سے بھی توڑا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کی قضا ضروری ہے۔ (رسیں احمد جیفری)

سے ثابت ہے کہ "جب تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دے اور تم روزے سے ہو تو چاہئے کہ کہہ دو میں روزے سے ہوں۔"

اور وہ حدیث جوابن ماجہر، ترمذی اور بیہقی نے حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ "جو کسی قوم کے پاس رہا، اترے اسے چاہئے کہ وہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ ہرگز نہ لے کے" ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی ثقة راوی نے اسے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہو۔

آپ صرف جمعہ کے روزے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبۃ یہ تھی کہ آپ فعلًاً اور قولًا جمعہ کے مفرد روزہ کو مکروہ سمجھتے، چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ ابو ہریرہؓ، جو یہ تین بنت حرش، عبد اللہ بن مسعود اور حضرت جنادة ازدی وغیرہ کی حدیث سے صحیح طور پر اس (جمعہ) کا افراد ممنوع ہے اور جمعہ کے دن آپ نے اس وقت پانی پیا جب آپ منبر پر تشریف فرماتے اور (صحابہؓ) کو دکھارتے تھے کہ آج یعنی جمعہ کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے (مسند امام احمد)

اور روزے کی مانعت کا سبب بیان کیا کہ یہ یوم عید ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی ہے کہ "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے اس لئے اپنے عید کو روزے کا دن بناؤ، ہاں اگر اس سے قبل یا بعد میں بھی روزہ رکھو (تو پھر اجازت ہے)"

اگر کوئی کہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی حدیث کا کیا جواب ہے جس میں بتایا گیا "میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن افطار سے کبھی نہیں دیکھا" اسے اہل سنت نے روایت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ (جمعہ) سے ایک دن قبل یا بعد میں بھی (آپ روزہ رکھتے) اور اگر صحیح نہیں تو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ غائب میں سے ہے، ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔

# آل حضرت ﷺ کی سعی

ابن خزم کی رائے اور اس پر بصر!

ابنے قیم کا حکم | این خرم فراتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سات چھٹے پر سوار ہو کر لگائے، غینہ ہیں آپ دوڑ رہے تھے اور چار بیس چھٹے پر سوار ہو کر لگائے، غینہ ہیں آپ دوڑ رہے تھے اور چار بیس چھٹے، یہ ان کے اوہام کا تیغہ ہے اور بالکل غلط ہے کیونکہ ان کے علاوہ کسی سے بھی ایسا قول مروی نہیں اور نہ کسی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات روایت کی ہے بلکہ یہ خانہ کعبہ کے طواف کا تھا اس نے ابو محمدؐ نے غلطی سے اسے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کی طرف منتقل کر دیا۔ اور اس سلسلہ میں سب سے مجیب بات اس سے استدلال ہے جیسا کہ بخاریؓ میں حضرت ابن عمرؓ کی سند سے روایت کیا کہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو آپ نے طواف کیا اور پہلا کام استلام رکھتے کا کیا۔ پھر تین طواف دوڑ کر گئے اور چار بیس را ہستہ چلے اور جب قبیلہ کا طواف کمکل کر پیا تو مقام ابراہیم پر دور کعتیں ادا کیں۔ پھر سلام پھر اور تشریف لے گئے اور صفا پر پہنچے۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سات چھٹے لگائے۔ اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی ہے (ابن حزم) نے فرمایا کہ ہم صفا اور مروہ

کے درمیان سعی کو متصوّص نہیں پاتے بلکہ پر متفق علیہ ہے۔ یہ ان کے الفاظ میں۔ بیس رابن قبیمؓ کہتا ہوں کہ بلن دادی کے تمام چکروں میں سعی تو متفق علیہ ہے۔ البتہ پہلے تین بھیروں میں رمل دیز و دڑ کے متعلق بہاں تک ہم جانتے ہیں ان کے سوانح کسی نے کہا اور نقل کیا، بیس نے اپنے شیخ رابن تیمیہؓ سے ددیا قلت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ برابن خرمؓ کے اغلاط میں سے ہے انہوں نے بحث نہیں کیا اور بہ العیسیٰ ہی غلطی ہے جیسے کوئی کہے کہ آپ نے چودہ مرتبہ سعی کی، اور آپ کے آنے جانے کو ایک ایک سعی سمجھتا رہا حالانکہ بہ غلط ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نقل نہیں کیا، نہ ائمہ سلف میں سے کسی نے فرمایا، جن کے اقوال ہر جگہ مشہور ہوئے اور اگر متاخرین میں سے کسی نے بہ کہا ہو۔ جو اپنے آپ کو ائمہ سلف کی طرف منسوب کرتا ہے (تو بھی غلط ہے) نیز بہ قول بھی اس نظر پر کو یا طل کرتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر سعی ختم کی۔ اب اگر جانا اور آنا ہر ایک مستقبل سعی ہوتی تو صفا پر ختم ہوتی، حالانکہ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کے پاس پہنچتے تھے تو اس پر جو طریقے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی تبکیر و توجید بیان کی اور جس طرح صفا پر کیا تھا۔ اسی طرح بہاں بھی کیا۔ چنانچہ جب مروہ کے پاس آپ کی سعی مکمل ہو گئی تو ہر اُس ادمی کو جس کے پاس صدی رقبانی کا جانور رتخا ناکید احلال ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ وہ بحث قرائت کر رہا ہو یا مفرد۔ نیز آپ نے ہر اُس ادمی کو بھی حلال ہونے را حرام نہ کا حکم دیا جس نے سورت سے مقاریت کی، خوشبو لکھائی اور سلا ہوا کپڑا پہنسنا۔ اور فرمایا اکر یوم الترویہ نک اسی طرح رہو۔

اور آپ نے خود ہر می کے باعث حرام نہ آنا اور فرمایا کہ اگر میں گذشتہ کو اُنہوں پر الٹھا رکھتا تو میں پردی نہ چلاتا اور اسے عمرہ ہی بناؤتیا۔ اور آپ کے متعلق لکھتے ہے کہ آپ نے حرام آنار دیا۔ حالانکہ بہ بالکل غلط ہے اس کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نہیں پر آپ نے حلن کراتے والوں کے لیے ایک بار دعا ڈیکھش

فرماں اور یہیں پر سرافہ بن ملک بن جشم نے دریافت کیا جب آپ شیخ اور حلال ہوتے کا حکم فرمائچے تھے کہ یہ کیا یہ اسی سال کے لئے ہے یا ابتدک کے لیے؟ آپ نے فرمایا، کہ ابتدک کے لیے، اور ابو بکرؓ میر علیؓؑ اور زبیرؓؑ نے حدی کی وجہ سے احرام نہ آتا رہا۔ نیز آپ کی از واجح مطہراتؓؑ نے احرام آتا رہا یا کیونکہ وہ نجح قرآن ادا کر رہی تھیں، بلکن حضرت عائشہؓؑ نے ایسا ذکر کیا کہ ابام کے شاش ان کے لیے اس پر عمل کرنا تھا۔ حضرت فاطمہؓؑ نے بھی حدی نہ ہوتے کے لیے باعث احرام آتا رہا۔ حضرت علیؓؑ کے پاس حدی تھا اس لیے انہوں نے احرام نہ آتا رہا۔ اور بھونی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح احلاں رتہیلیں کرے وہ احرام یا نہ ہے رکھے۔ اگر اس کے پاس حدی ہے اور اگر پڑی نہیں تو احرام آتا رہے اور جب تک آپ نکلے ہیں اور مکر کے باہر جہاں آپ کا بہاں قیام رہا اور قصر کرتے رہے، اوز محوات کو چاشت کے وقت آپ مسلمانوں کے ہمراہ منی کی طرف تشریف سے گئے۔ چنانچہ ان میں سے جو احرام آتا رہے تھے اور مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے بہاں سے احرام یا نہ ہا، بلکہ بیوں کہئے کہ انہوں نے را بیسی جگہ، احرام یا نہ ہا کہ مکر ان کی پیشہ پر تھا۔ جب آپ منی پر بیخ گئے تو آپ بہاں اترے اور یہیں پر نماز ظہر و عصر پڑھیں اور یہیں رات گزاری، اور بڑہ محمر کی رات تھی۔ جب بیخ ہوئی تو آپ بہاں سے عرفات کی طرف چل پڑے اور اس راستہ پر چلے جو آج کل لوگوں کے راستہ پر داییں جانب ہے اور آپ کے بعض صحابہؓؑ بلکہ کہہ رہے تھے اور بعض تکبیرات تکبیرات کہہ رہے تھے، آپ سن رہے تھے اور آپ نے دونوں میں سے کسی پر بھی تکبیر نہیں کی۔ چنانچہ مقام غرة پر آپ کے ارشاد کے مطابق غیرہ لگانا یا گپا۔ یہ عرفات کے مشرقی حصہ میں ایک بستی ہے اور آج کل حد پیکی ہے۔ آپ بہاں اترے۔ آخر کار جب سورج ڈوبنے لگا تو آپ نے اپنی ساندھی قصوی کو سفر کا حکم دیا۔ وہ چل پڑی بہاں تک مقام عرفہ میں دادی کے وسط میں تشریف نے آئے۔ بہاں آپ نے اس حالت میں کہ ساندھی پر تشریف فرمائے ایک ٹھیم

خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اسلام کے قواعد کو حکم فرمایا، اور شرک و جاہلیت کو مستور مٹا دیئی۔ نیز ان محنت کے حرام ہونے پر زور دیا جس کے حرام ہونے پر اقوام (عالم) کا اتفاق ہے۔ یعنی خون۔ اموال، لوگوں کی ابرود کہ ان میں دست درازی نہ کی جائے اور جاہلیت کے کاموں کو اپنے قدموں تک روشن دیا اور جاہلیت کے تمام سود بطل کر دیئے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور عورتوں کا مردوں پر اور ان کا عورتوں پر حق واضح فرمایا اور بتایا کہ معروف حد تک رزق اور بیاس ان کا حق ہے اور اس کا اندازہ نہیں بتایا، اور خاوندوں کو حق دیا کہ اگر یہ ایسے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں، جنہیں خاوند نامناسب خیال کرتا ہے تو ان کو دھوں لگادیں اور اُمت کو نکاب اللہ سے سختی کے ساتھ دا بستہ رہتے کہ حکم دیا اور بتایا کہ جب تک وہ نکاب اللہ سے تمک قائم رکھیں گے اس وقت تک گمراہ نہ ہوں گے۔

پھر آپ نے بتایا کہ ان سے (صحابہ سے) آپ کے متعلق چوچھا جائے گا اور معلوم کیا کہ وہ کیا جو آپ دیں گے اور کیا گواہی دیں گے؟ (صحابہ) نے عرض کیا، پھر تم گواہی دیں گے کہ یہ شک آپ نے تبلیغ کی آپ نے نصیحت فرمائی را حکام اسلام ہم تک پہنچا دیئے، اس پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور بقیہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اسے اللہ گواہ رہنا تین بار فرمایا)

اور آپ نے حکم دیا کہ جو موجودہ نہیں وہ غیر موجود تک آج کی بات پہنچا دیں ابن خرم فرماتے ہیں کرام فضل نبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی والدہ ہیں آپ کی خدمت میں دو دھکا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے سے نوش کیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو حضرت بلالؓ کو اذان دینے کا حکم فرمایا پھر نہ نہاد کی افامت ہوتی۔

لیکن ریہ موفر حصہ، ابن حزمؓ کے وہم کا نتیجہ ہے کیونکہ دو دھنپیٹے کا واقعہ اس کے بعد کا ہے جب آپ عرفات کی طرف پہنچے اور وہاں وقوف کیا۔ صحیحین میں

مراحتاً حضرت میمون رضی کی روایت سے منقول ہے کہ لوگوں نے یوم عرفہ کے موقع پر بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق زنگلیف کی شکایت کی چنانچہ رام فضل نہ نے (دودھ) کا ایک پیالہ بھیجا، اپ موقوف بین کھڑے تھے لوگ دیکھ رہے تھے اور آپ نے (دودھ) پیا۔ ایک لفظ یہ ہے کہ آپ عرفات کے دیدان، بین کھڑے تھے اور مقام خلیفہ موقوف نہ تھا، کیونکہ آپ نے عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا، جو جائے وقوف نہیں ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کے مقام پر اور عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا۔ پھر عرفات بین وقوف فرمایا اور آپ نے ایک بی خطبہ فرمایا۔ ایسا نہ تھا کہ آپ نے دو خطبے دیئے ہوں اور ان کے درمیان میٹھے ہوں۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے حضرت بلالؑ کو اذان دینے کا حکم دیا اور نماز قائم کی چنانچہ آپ نے نماز ظہر کی دور کعیتیں ادا کیں اور ان بین تلاوت آہستہ دستی اسے کی پھونکہ یہ جمعہ کا دن تھا اس لیے فرمایا کہ مسافر پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز عصر بھی دور کعیتیں ادا فرمائیں اپ کے ہمراہ اہل مکہ بھی تھے انہوں نے بھی قصر اور جمع کر کے نماز ادا کی۔ اور انہیں مکمل نماز ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور نہ ترک جمع کا حکم دیا اور جس نے یہ کہا کہ آپ نے فرمایا اپنی نمازیں مکمل کر کیونکہ بین مسافر ہوں، اس نے واضح طور پر عذر کیا اور بدترین سمت وہم کا منظاہرہ کیا۔ بہہات تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمائی تھی جب راہلؑ اپنے گھروں میں مقیم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام کے صحیح فتویٰ کے مطابق اہل مکہ عرفات بین قصر اور جمع کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔

**سفر کے قصہ میں مسافت یا ایام کی تعداد** اب اس بات کی بھی دعاحدت ہو گئی کہ سفر قصر بین مسافت کی یا ایام کی تعداد متعدد نہیں اور نہ نماز قصر بین نسک موثر ہے، بلکہ تاثر وہی ہے جسے اللہ نے سیدیب بنیا اور وہ سفر ہے۔ سنت کا مقتضی بھی ہے اور جس طرف ملحدین

گئے ہیں اس کا بہاں کوئی مقام نہیں۔

اور جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو سوار ہوئے اور موقف میں تشریف لائے چنانچہ آپ نے پتھروں کے پاس پہاڑ کے دامن میں وقوف فرمایا، قبیلہ رخ ہو گئے آپ اس وقت اونٹ پر تھے اور جمل مشاہ آپ کے سامنے تھا، پھر غروبِ آفتاب تک دعا، تضرع اور عاجزی کرنے میں مشغول ہو گئے اور لوگوں کو بلن عرفہ سے الٹھ جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عرفہ کا بھی مقام وقوف کے لیے مختص نہیں اور فرمایا کہ میں نے بہاں وقوف کیا رہیں (عرفہ پورا کا پورا جائے وقوف ہے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے مشاعر میں مٹھرے رہیں اور وہیں وقوف کریں کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔

نیز بہاں اہل بند کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے صحیح کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ صحیح کادن ہے اس لیے جس نے مسیح کی نماز سے قبل بہاں وقوف کر لیا تو اس نے صحیح کو پایا۔ ایام تشریق میں دن میں یہیں جو دو دن کا تقدم یا تاخیر ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔

اور دعا کرتے وقت آپ نے سینہ تک دونوں ہاتھوں حصار کئے تھے دستی ملک بڑھاتے وقت فرمایا کہ یوم عرفہ کی دعائیم دعاؤں سے بہتر ہوتی ہے اور جائے وقوف میں شیعی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ مبارکہ میں سے یہ دعا منقول ہے:

اللهم لاك الحمد كالذى فقول وخيراً مما فقول - اللهم لاك  
صلوة ونسكى ومحياى وماتى ولائك هابي ولائك ربى تراشي اللهم اذ  
اعوذ بك من عذاب القبر وسوءة الصدروشتات الا مر الامر  
انى اعوذ بك من شرها بمحى بده سريح - (ترمذی)

یعنی اے اللہ تو ہی سزاوار حمد ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں اور ہمارے نقطہ نظر کام سے بہتر، لے کے اللہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرتبا ترے ہی یہ

ہے، اور بیری طرف ہی مجھے لوٹنا ہے اور اسے میرے پروردگار تو ہی میرا داشت ہے، اسے اللہ میں عذایب قبر، ول کے وسوسوں اور پرالگنگی، امور سے بیری پناہ چاہتا ہوں، اسے اللہ میں اس سر سے جو آندھی لے کر اُنھی تیری پناہ چاہتا ہوں؟“

میرا پ کی دعاوں میں یہ بھی منقول ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْكُثُ تَسْمِعَ كَلَامِي وَتَقْوِيَ مَكَانِي وَتَعْلَمُ سُرِّي وَعَلَدَ تَلِيقِي وَلَا يَخْفِي عَلَيَّ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي إِنَّا لِهَا أُسْسٌ إِنَّ الْفَقِيرَ إِلَّا مُسْتَغْدِلٌ إِنَّ الْمُسْتَجِيرَ إِلَّا رَجُلٌ إِنَّ الْمُشْفَقَ إِلَّا مُعْتَرٌ  
يَذَانُونِي إِنَّ الْمُسَأَّلَةَ إِلَّا مُسْكِينٌ وَإِنَّ بَتْهَالَ إِلَّا يَلِكٌ إِنَّ الْمَذَابَ إِلَّا لِلَّهِ لِي وَإِنَّ عُوكَ  
دُعَاءَ الْخَائِفَ إِلَّا ضَرِيرٌ مِّنْ خَضْعَتْ لِكَ رِقْبَتِهِ، وَفَاضَتْ لِكَ عِيَّنَاهَا وَذَلِكَ  
جَسَدٌ لَا وَرْسَ غَرَانِقَةٌ لِكَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بَيْنَ عَيْنَيْكَ رَبُّ شَقِّيَا وَكُنْ بِي  
سَرْقَفَاسِ حِيَمَا يَا خَيْرَ الْمَسْؤُلِينَ دِيَا خِيرَ الْمَعْطَيِينَ (طبرانی)

وہ یعنی اسے اللہ تو میرا کام سنتا ہے اور بیری بچھوڑتا ہے، اور بیری پوشیدہ و ظاہر کو جانتا ہے اور تجوہ سے بیری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے میں تنگ دست محتاج فریادی پناہ کا جو یا خوفزدہ ہر اسال ہوں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرنے والا ہوں۔ میں تجوہ سے مسکینت کی طرح ناگتنا ہوں، اور ایک بے نایگناہ کار کی طرح تجوہ سے عاجزی نہ زنا ہوں، اور میں سرپاالم خوفزدہ کی پکار کی طرح تجوہ سے پکارتا ہوں، جس کی گروت تیر سامنے نہ ہے اور جس کی آنکھوں تیر سے یہی آب گوں میں، اس کا جسم نکھا ہو گیا اور تیر سے یہی اس کی ناک خاک آؤ د ہوئی، اسے اللہ اسے پروردگار مجھے دعا کے (قبول نہ کرنے کے باعث) یہ بخشنے نہ بنانا اور میرے یہی سے مہربان رحم کرنے والا بن جانا اسے بہتر بنے وہ فات جس سے مانگا جائے اور بہتر بنے عطا کرنے والے۔

اور امام احمدؓ نے حضرت عمر و بن شعیبؓ کی حدیث سے نقی کیا جو انہوں

نے اپنے والد سے اور رانہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ عرف کے دن بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر دعایہ ہوتی تھی:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

یعنی خدا نے یکتا کے سوا کوئی معیود و کار ساز نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے۔ اسی کے ساتھ میں بجلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟

اور نبی مسیح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوم عرف بری اور زیادہ تر انبیاء و ملائکہ السلام کی دعایہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعُلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَ فِي صَدَرِي نُورًا وَ فِي سَعْيِي نُورًا وَ فِي بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرِحْ لِي صَدَرِي وَ سِيرَتِي أَمْرِي وَ اعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُوءِ الصَّدَرِ وَ شَتَّاتِ الْأَمْرِ وَ فَتْنَةِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ افِي اعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلْعَبُ فِي الَّيلِ وَ شَرِّ مَا يَلْعَبُ فِي النَّهَارِ وَ شَرِّ مَا تَهْبِطُ بِهِ الْمُرْيَاحُ وَ شَرِّ يَوْمَ الْقِدْرِ۔

”یعنی اللہ کے سوا کوئی معیود و کار ساز نہیں وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ میرے دن میں نورِ داال دے۔ میرے سینہ میں نور، میرے کافوں میں نور، میری آنکھوں میں نور بخوبی اے اللہ میرا سینہ کھوں دے اور میرا کامائن فرمادے اور قلب کے وسوسوں اور پر لیشان امری، اور قبر کی آذماں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے جو رات کے وقت داخل ہوتی ہے اور جو دن کے وقت داخل ہوتی ہے، تیری پناہ چاہتا ہوں اور

جو ہواؤں کے ساتھ چلتی ہے اور زمانہ کے جملکات کے شر سے رتیری پناہ چاہتا ہو۔ ان ادیبیہ کی استاد مکر و مر میں۔

اور اسی موقع پر بہ آبیت نازل ہوئی الیومِ الکم دینکم و اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم لا سلام دینا۔

یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتِ راسلام اپنودی کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔

اور ہمیں پر ایک مسلمان اپنی سواری سے گر پڑا، اور وہ حالتِ احرام میں تھا اگر نے سے وہ فوت ہو گیا تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رسمی اس کے دونوں پکڑوں راحرام کی چادروں کا ہی کفن دیا جائے اور اسے خوشبو نہ لکھائی جائے اور اس کو پانی اور بیری کے پتوں کا غسل دیا جائے رنیز، اس کا سرا در پھر و نہ چھپایا جائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے گا کہ یہ تبلیغ (لبیک) کہہ رہا ہو گا۔

اس واقعہ سے ہارہ احکام مستبط ہوتے ہیں۔

- ۱۔ ایک یہ کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باعث میت کا غسل واجب ہے۔
- ۲۔ دوسرا ہے یہ کہ مرتے سے رہنسان، ناپاک نہیں ہوتا، اگر مرتے سے ناپاک ہو جاتا تو غسل سے اس کی نجاست میں اضافہ ہی ہوتا، کیونکہ جیوان کی موت کی نجاست ملینی ہوتی ہے۔ اب اگر جس نیانے والوں نے کوشش کی کہ اسے غسل سے پاک کیا جائے تو یہ کلید باطل ہو جائے گا کہ "موت سے انسان نجس ہو جاتا ہے" اور اگر کہیں کہ یہ پاک نہ ہو گا تو پھر غسل، اس کے کفن کو، پکڑوں کو اور شیخ دینے والے کو مزید نجس کر دے گا۔

- ۳۔ تکمیل حکم میتت کے متعلق مشرع یہ ہے کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا صرف پانی سے نہیں۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی موقع پر میتت

کے لیے بیری کے پتوں سے غسل کا حکم دیا، ایک تو بھی موقع ہے، دوسرے اپنے صاحزادی کے لیے الیسا ہی حکم صادر فرمایا، تبیرے اس عورت کے لیے جو ایام سے ہو، بیری کے پتوں سے غسل کے وجوہ میں امام احمد کے دو قول ہیں۔

۷۔ پھونخا حکم یہ ہے کہ پاک کرنے سے پانی کی قوت طہوریت زائل نہیں ہوتی جیسا کہ جہوڑ کا ذہب ہے احمدؓ کی دونوں مرویات میں سے یہ زیادہ منسوم ہے اگرچہ راجحؓ کے متاخرین اصحاب نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

۸۔ پانچواں حکم حرم کے لیے غسل کا جواز، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، مسروینؓ مخزمهؓ کے درمیان اس مسئلہ میں مبارحت بھی ہوا۔ اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ نے فیصلہ کیا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں غسل دیا اور اس امر پر اتفاق ہے کہ آپؐ نبیت کے باعث غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔ امام مالکؓ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس کا سر پانی میں غائب ہو، کیونکہ یہ بھی ستر کی ایک نوع ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس میں کوئی ہر زح نہیں کیونکہ حضرت عمرؓ خطاب اور حضرت ابن عباسؓ نے الیسا کیا ہے۔

۹۔ پھٹا حکم یہ کہ حرم کو پانی اور بیری کے استعمال کی ممانعت نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد نے بھی اپنی دور و ایتوں میں سے انہر روایت کے مطابق اس سے منع فرمایا۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے غسل کے ذریعہ میں پھٹی دوڑ کرنے اور جو میں قتل کرنے سے نہیں روکا اور بیری خوشبویات میں سے بھی نہیں۔

۱۰۔ ساتواں حکم یہ ہے کہ میراث اور قرض دونوں سے کفن مقدم ہے کیونکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسے دونوں پڑوں کا کفن دیا جائے لیکن میراث اور قرض کے متعلق کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ اگر بات دوسری ہوتی تو آپؐ فرور معلوم فرماتے، جس طرح زندگی میں قرض پر بہاس مقدم ہے اسی طرح مرنس کے بعد (کفنت مقدم ہے) یہ جہوڑ کا کلام ہے۔

۸۔ آٹھواں حکم، کفن بیس دوپڑوں پر جوازِ انتصار، اور بیر دوپڑے تہہ بند اور چادر ہوئی چاہیے جہاں کا بھی قول ہے اور فاضی الیوالی فرماتے ہیں کہ استنطاعت ہوتے ہوئے تین پڑوں سے کم کرنا جائز نہیں۔ اگر دوپڑوں میں ہوتا تو جس میت کے مقام پر مجھے رہ جانتے ہیں ان کو تین پڑوں کا کفن ناجائز ہوتا لیکن صحیح حدیث اس کے خلاف ہے۔

۹۔ نواس حکم، حرم کو خوشبو استعمال کرنا منوع ہے کیونکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے (میت کو) خوشبو سے قریب کرنے کو منع فرمایا اور شہادت دی کہ راستے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اور حرم کو خوشبو کی مانعوت کے سلسلہ میں یہی اصل مدار ہے رہا محض خوشبو کا سونگھر لینا تو جس نے اسے حرام قرار دیا اس نے حرف قیاس حرام قرار دیا ہے ورنہ نبھی کے الفاظ صراحت کے ساتھ اس پر حادی نہیں اور اس باپ میں اجماع ثابت ہے جس کا اتباع لازم ہے، یا ان اس کی حرمت وسائل کی حرمت کے طبقہ پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خوشبو کا سونگھنا، پدن اور دوپڑوں پر اسے لگایتے کا داعی بن جانا ہے۔ جیسے اجنبی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے کیونکہ بیر دوسرے حرمت کا ذریعہ ہونا ہے لیکن جو خوشبو بغیر کسی قصد و ارادہ ہو سکے تو اس صورت میں منوع نہیں اور حرم پر ناک بند کر ڈالنے کے ناک تک چلی آئے یا اس بیسے قصد اسونگھی، ناک خریدتے وقت اس کی عمدگی کا اندازہ ہو سکے تو اس صورت میں منوع نہیں اور حرم پر ناک بند کر ڈالنا واجب نہ ہو گا۔ پہلی صورت تو اچانک نظر پر جاتے کے تمام مقام ہے۔ اور دوسری صورت بخوبی منگلتی کرتے والے کے لیے رکھ اگر منگلتی کرتے وقت ایک نظر عورت پر ڈال لے تو گناہ نہیں، اور جن لوگوں نے خوشبو سونگھنے کو مباح قرار دیا ہے انہوں نے حرم کو اجاز دی ہے کہ احرام سے قبل خوشبو کو دوامی حیثیت سے لگائے۔

امحاب ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی صراحت کی ہے چنانچہ انہوں نے جو اجمع الفقہ لالی یوسفؐ میں فرمایا ہے کہ "اس میں کوئی ہر زح نہیں کر حرم اس خوشبو کو سونگھ

لے جو اس نے احرام سے قبل لگا رکھی ہے۔ مصنف المغینہ نے فرمایا ہے کہ خوشبو  
نگتے کے بعد اس کی ذیل میں آجاتی ہے تاکہ احرام باندھ رہیش کے بعد اس سے  
تحکماوٹ کی تکالیف دور کر دے تو گویا برد مردم کے حق) میں ولیمی ہے جیسے دوز  
دار کے لیے سحری (کا کھانا) ہوتا ہے جس سے وہ روزے کی حالت میں بھوک اور  
پیاس کی تکلیف پر قابو پاسکتا ہے۔ بخلاف پڑتے (کی خوشبو) کے وہ اس سے  
 جدا ہے، فقیراً میں اس کے متعدد اختلاف ہے کہ کیا اس کے اثرات (کو ودام بخشا  
منوع ہے جیسا کہ یہ ابتدار ہی میں منوع ہے یا اس کے اثرات) کو فائم رکھنا  
جاائز ہے۔

اس سلسلے میں دونوں میں، چنانچہ جمہور علماء اجماع سنت کے باہم  
اسے قائم رکھنے کو جائز سمجھتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں بنی اسرائیل علیہ وسلم  
کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ احرام باندھتے سے قبل خوشبو لگایا کرتے تھے۔  
پھر آپ کے سر جمارک اور ڈاڑھی پر بھی خوشبو کے اثرات دیکھ جاتے اور ایک لفظ  
میں ہے ”آپ تبلیغ کہہ رہے ہوتے“ اور بہ تمام الفاظ اس غلط تاویل کو باطل  
کر دیتے ہیں کہ ”بیر خوشبو لگانا“ احرام سے قبل تھا لیکن جب آپ نے غسل فرمایا تو  
اس کا اثر چلا گیا“ روایت کا ایک لفظ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام  
باندھتے کارادہ فرماتے تو سیدب سے بہترین خوشبو لگاتے جو میباہو سکتی، بعض  
کے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، لیکن اتفاقاً میں کی  
کوئی دلیل بھی تو ہوتی چاہئے، علاوہ ازیں ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے۔  
کہ ہم احرام کی حالت میں مشک ملتے۔

۱۰۔ دسوال حکم، حرم کو اپنا سرچھپانے کی مخالفت ہے اور اس میں تینی  
درجات ہیں۔ بعض بالاتفاق منوع ہیں اور بعض بالاتفاق جائز ہیں اور بعض  
مختلف فیہ۔

بہمی صورت یہ ہے کہ ہر س کرنے والی اور بد ن سے متصل پیغمبر اور پیغمبری

قیح، طاقیہ وغیرہ۔ اور دوسرے مثلاً جبکہ، مکان اور درخت وغیرہ اور بینی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ثابت ہے کہ فرمدیں آپ کے لئے غیر نصیب کیا گیا حادثہ آپ فرماتے۔

البتہ امام مالکؓ نے حرم کو اس بات کی ممانعت کی ہے کہ وہ درخت پر کپڑا لٹکا کر اس کا سایہ حاصل کرے۔ لیکن اکثر ائمہؐ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور امام مالکؓ کے اصحاب نے حرم کو اس بات سے منع کیا کہ وہ محل کے سایہ میں چلے اور تیر سے محل را نہ ٹک کی ٹانگ یا مودج تو اس بارے میں جواز کے تین اقوال میں، شافعیؓ اور ابو حیینؓ اس طرف رجواز کی طرف ہیں۔ دوسرے قول ممانعت کا ہے اور اگر رساہی حاصل کیا تو اس پر فحیر دے، یہ امام مالکؓ کا ذہب ہے۔ تیر قول یہ ہے کہ اگر رساہی حاصل کیا تو اس پر فدیر نہیں۔ یہ تینوں روایات امام احمدؓ سے منقول ہیں۔

۱۱۔ گیارہواں حکم: حرم کو چھڑے چھپانا منوع ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے شافعی رحمۃ اللہ اسے مباح کہتے ہیں۔ امام احمدؓ بھی ایک روایت میں اسے مباح سمجھتے ہیں اور مالکؓ و ابو حیینؓ وہ سے ممنوع فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام احمدؓ بھی اسے منوع بتاتے ہیں اور جن پھر صحابہؐ نے اسے مباح بتایا ہے، ان کے نام حسب ذیل، میں، حضرت عثمانؓ، عبد الرحمنؓ، بن عوف زیدؓ بن ثابت، زیرؓ محمد بن ابی وقاص اور جابرؓ۔

۱۲۔ بارہواں حکم موت کے بعد بھی احرام کو باقی رہتے درینا کیونکہ موت سے احرام منقطع نہیں ہوتا۔ یہ حضرت عثمانؓ، علیؓ، ابن عباس رضی اللہ عنہم کا ذہب ہے۔ اور امام احمد۔ شافعیؓ اسحق نے اسی کی تائید کی ہے۔ البتہ ابو حیینؓ، مالکؓ اور اوزاعیؓ فرماتے ہیں کہ موت سے احرام منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو حلال (غیر حرم) کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو تینی باتوں کے سوا اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور ان ائمہؐ نے فرمایا ہے کہ اس سے واقعہ کے

حدیثِ دصل کے منقطع نہ ہونے کی، میں کوئی دلیل نہیں، لیکن کہ یہ آپ کے ساتھ خاص تھا، جسے یہ آنکہ کلامِ نجاشی کی غائبانہ نمازِ جنازہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ مختص تھی۔

مہبوب علما نے کلام فرماتے ہیں کہ دسوائے تخصیصیں خلافِ اصل ہے، اس لیے یہ قبول نہ ہوگا۔ اور حدیث میں آپ کا یہ فرمان کہ یہ تبلیغہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا ”در حقیقت عدت ہی کی طرف اشارہ ہے یہ حکم اگر آپ کے ساتھ خاص سے ہوتا تو آپ اس عدت کی طرف اشارہ فرماتے۔

اور اگر کہا جائے کہ ناقص عدت سے تعليق درست نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہید ائمہ احمد انہیں قیامت کے دن خون کے رنگ اور مشک کی خوشبو کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

لہذا یہ آپ کے ساتھ مختص نہیں ہے۔

یہی مثال یہاں ہے کہ اسے اس کے دونوں پکڑوں میں دفن کر دو، لیکن نکر قیامت کے روز یہ تبلیغہ کہنا پوا اٹھے گا۔ اور تمہنے یہ تو نہیں کہا کہ وہ شہید ائمہ احمد کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ اس حکم کو تمام شہید ائمہ کی طرف متعددی کر دیا ہے۔ حالانکہ یہاں بھی تخصیصیں کی وجہ مذکورہ امکان تھیں۔

## عواد الى المقصود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج

عرفات کے طرف کوچھ جب افتاب غروب ہو گیا اور زردی بھی ختم ہو گئی اور غروب افتاب میں کوئی شبہ نہیں رہتا تو آپ صرفات سے چل پڑے اور حضرت اسامہ بن زیدؓ کو واپس پے پیچھے بٹھایا اور خاموشی کے ساتھ پیختے رہے۔ ناقہ کی لکام اپنی طرف کھینچ لی۔ یہاں تک کہ اس کا سر کپاوسے کے قریب آگئا۔ آپ فرماتے ہاتے تھے۔

وہ اے لوگوں! اٹمنیاں سے رپلو، کیونکہ ایضاً یعنی سرعت نیکی نہیں ہے۔ اور آپ عازِ بین کے راہ سے چلے اور خبیث کے راستہ سے عرفِ بیس واصل ہوئے۔ یہید کے موقع پر بھی بنی اسرائیل علیہ وسلم کی یہی عادت طیبہ تھی کہ آپ راستہ بدال دیا کرتے اور اس کی حکمت کا ذکر، یہید میں آپ کی سنت طیبہ تھے کہ انہوں نے اندھگز رچکا ہے۔ پھر آپ نے وہ چال اختیار کی جسے "سیر عنق" کہتے ہیں، یعنی تربہت اہستہ تربہت تیز، جب آپ کو دیکھ میدان نظر آتا تو ذرا تیز ہو جاتے اور جب کسی میلے پر رہنچھتے تو اوٹھنی کی باگ قدرے طبیعتی چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ وہ پڑھ ساختی۔ آپ سارا راستہ مسلسل طیبہ کہتے رہتے۔

راستے میں بنی سلی اللہ عبیدر و سلم اترے اور پیشایب سے فارغ ہو کر پلاساد تھوڑا

فرمایا۔ حضرت اسحاق میر قیصر میں کہا ”الصلوٰۃ یا رسول اللہ۔“

اپنے نے فرمایا، نماز آگئے ہے۔ پھر آپ چل پڑے، یہاں تک کہ مزادغہ تشریف لائے اور نماز کا وضو فرمایا۔ پھر موزون کو اذان کہتے کا حکم دیا۔ پھر امامت کہہ کر کجاوے تاریخے اور اذانوں کو بٹھانے سے قبل نماز پڑھی۔ چنانچہ جب لوگوں نے کجاوے تاریخے تو نماز شروع ہوئی۔ پھر آپ نے اذان کے بغیر صرف امامت سے ہی عشاگی نماز پڑھی اور اذان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا۔

یہ بھی مرسوم ہے کہ آپ نے دونوں نمازیں دواذانوں اور دو امامتوں کے ساتھ پڑھیں۔

ایک روایت میں اذان کے بغیر دو امامتیں مذکورہ ہیں۔

اور صحیح بہرہ ہے کہ آپ نے دونوں نمازوں میں ایک اذان اور دو امامتوں کے ساتھ ادا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے عرفہ میں کیا تھا، پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ صحیح ہو گئی اور اس رات کو آپ بیدار نہیں ہوتے اور نہ صحیح روایت میں عبدیں کی راتوں میں آپ کی بیداری سے متعلق کچھ منقول ہے۔

اپنے اہل کے ضعف کے پیش نظر انہیں اجازت دی کروه طبوع فخر سے قبل منی کی طرف پڑھ جا بیٹھ، اور بہرہ چاند کے غروب ہوتے کے وقت کا واقعہ ہے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک افتاب طبوع نہ ہو جاتے تب تک رمی، جا رکنکر مازنا، نہ کریں۔

(ترمذی صحیح حدیث)

خلال کہتے ہیں کہ ہمیں علی بن حرب سے انہیں مارون بن عمران سے انہیں سیلہمان بن ابی داؤد سے انہیں ہشام بن عروہ سے انہیں اپنے والد سے روایت ملی کرام سلسلہ نے فرمایا، مزادغہ کی رات جن لوگوں کو بنی ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل میں سے آگئے بھیجا، آپ نے ان میں مجھے مقدم رکھا، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رات کوڑی کی، پھر کہ واپس چلی گئی۔ اور میں نے وہاں صحیح کی نماز پڑھی، پھر منی کی طرف لوٹی۔

**ایک راوی حدیث پر حسرج** [بین کہنا ہوں، سیمان بن ابی داود یہ وہی مشقی خوالانی ہے۔ بعض کہتے ہیں بہ این داؤ دہے۔] ابوزرد عتر نے الحمد سے روایت کی کہ، ہر اہل جزیرہ بین سے ایک آدمی تھا اور کچھ نہ تھا زمکھا اور عثمان بن سعید اس سے ضعیف بتاتے ہیں۔ بین کہنا ہوں میجمدین کی روایت جو فاسد بن محمد سے مردی ہے، بھی اس کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا، فرماتی ہیں کہ حضرت سودہؓ نے مزادغہ کی رات بین صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اپنے سے اور لوگوں کے بھوم سے قبل بیسیح دیں اور یہ کمزور عورت تھیں، فرماتی ہیں کہ آپ نے انہیں اجازت دی تو وہ پیدے ہی چالی گئی۔ اور ہم رک گئے یہاں تک کہ بصیح ہو گئی پھر ہم ان کے ساتھ ہی گئے، لیکن میرا جی چاہا تھا کہ سودہ کی طرح میں بھی اجازت مانگ لوں یہ میرے یہ زیادہ سہولت کا باعث ہوتا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودہؓ کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات آپ کے سامنے تشریف لے گئیں۔ اب اگر کہا جائے کہ دارقطنیؓ وغیرہ نے حضرت عائشہؓ کی جو روایت نقل کی ہے اس کا کیا جواب ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اجتماع کی رات اکٹھی نکلنے اور کنکر مارنے کا حکم دیا، جس سے فارغ ہو کر وہ پھر بصیح کو اپنے گروپ اپس آجائی تھیں اور حضرت عائشہؓ ذمہت تک اسی پر عمل پیرا رہیں؟

جواب یہ ہو گا کہ محمد بن سعید راوی کو ایک سے زیادہ ائمہ کذاب قرار دے کر رد کرے ہیں۔ نیز اسے میجمدین کی روایت بھی رد کرتی ہے نیز خود ان کا قول بھی رد کرتا ہے کہ بین نے چاہا جس طرح حضرت سودہؓ نے اجازت چاہی اسی طرح بین بھی اجازت حاصل کر لیتی اگر کہا جائے کہ چلو اس کا توجہ جواب ہو گیا لیکن بصیح مسلم کی حضرت ام جبیہؓ سے روایت کا کیا جواب دو گے؟ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک گروہ کے ساتھ بھیجا ا�غ، نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ میجمدین سے ثابت ہے کہ بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنے ضعیف اہل کو اگر کہ بصیح دیا۔

اور ابن عباسؓ بھی ان میں سے تھے۔ نیزہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا مولانا کو بھی آگے بھیجا اور بہر بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنی باقی اذواج مطہرات کو رکنیا، اور ان کو، ہمراہ لئے گئے اور امام جیبیہ فرم کی بیمیح مسلم کی روایت اگر حفظ در بیمیح ہے تو وہ بھی جانے والے ضعفاء میں ہوں گی۔ اگر کہا جائے امام احمدؓ کی روایت جوانہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے کی اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غر کے دن اپنے اہل کے ساتھ منی کی طرف بھیجا، چنانچہ انہوں نے فرمے تفضل ہی کنکھ مارے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کی دوسری روایت کو مقدم بھیجیں گے۔ جیسے امام احمدؓ اور ترمذؓ نے نقل کیا ہے اور بیمیح بتایا ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنز و راہل کو آگے بیمیح دیا اور فرمایا تبت نک رہی نہ کرنا، جب تک کہ افتاب طلوع نہ ہو جائے اس لیے کہ انہیں رہی مقدم کرنے میں کوئی عذر نہیں۔ باقی سورتؤں کو آپ نے بھیجا تو انہوں نے لوگوں کی مراجحت و اجتماع عظیم کے خوف سے قبل از طلوع افتاب رہی کردا۔

### چند مسائل فقہیہ کا استنباط حدیث بالا سے

وغیرہ کے باعث طلوع افتاب سے قبل بھی رہی کرنا جائز ہے جب کہ لوگوں کے دبوم کا خطرہ ہو۔ مان تمند رست کے لیے ناجائز ہے۔ اور اس مسئلہ میں تین مذاہب میں۔ ایک مطلقاً نصف رات کے بعد جائز ہونا، خواہ وہ عاجز ہو یا تو نام، یہ شافعیؓ اور احمدؓ کا قول ہے۔ دوسرے صرف طلوع افتاب کے بعد جائز ہے۔ یہ ابو حییفہ کا قول ہے تیرے یہ کہ ذی قدرت کے لیے صرف طلوع افتاب کے بعد جائز ہے جیساہل علم کے ایک گروہ کا جیال ہے اور جس پر حدیث سے بھی روشنی پڑتی ہے اور وہ بہر کے نصف شب کے بعد نہیں بلکہ چاند کے نائب ہونے کے بعد جلدی کرنا ہے اور جنہوں نے نصف شب کی قبیلہ لٹکائی ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔

**عید اور حج اکبر کا دن** | جب فرط طوع ہو گئی تو آپ نے وقت سے پہلے قطعاً نہیں بلکہ ابتدا نے وقت میں فرک کے دن اذان اور اقامت کیا کہ رخاں پڑھی۔ یہی عید اور حج اکبر کا دن ہوتا ہے، نیز یہی دن ہر مشرک سے اللہ و رسول کے اعلان بیزاری کا دن ہے۔

پھر آپ سوارہ ہوئے یہاں تک کہ مشعر حرام کے پاس اپنے موقف میں آئے چنانچہ رہیاں پہنچ کر، آپ قبلہ رخ ہوئے اور دعا و تغیر، سبکیدہ تبلیغ اور ذکرِ الہی) عین مشغول ہو گئے، حتیٰ اکر کافی روشنی ہو گئی اور یہ واقعہ طور پر آقابد کے وقت کا ہے۔ اور اسی مقام پر سروق بن مفرس طافی نے دریافت کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں جبل طی سے حاضر ہوا ہیوں، اور میں نے اپنی سواری کو چلا دیا، اور اپنے آپ کو بھی تحکما دیا۔ اللہ کی قسم میں نے ہر پہاڑ پر وقوف کیا تو کیا میز بھی حج ہو گیا؟ اس پر جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور جس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا ہے جبل پڑھیں را اور آپ اس سے قبل عرفات میں ایک دن یا رات وقوف کر پھکھتے تھے) تو اس کا جمکن مکمل ہو گا، تمذی ف نے اس حدیث کو حسن صحیح بتایا ہے۔

چنانچہ اس حدیث سے جئش نے استدلال کیا ہے کہ عرف کی طرح مزادلفہ میں وقوف اور شب گزارنا بھی رکن ہے۔ یہ دو صحابہؓ اہنسؓ اور ابی شہرؓ زیر فرش کا مدہب ہے اور ابراہیمؓ نجاشیؓ، شعبیؓ علقہؓ، حسن بصریؓ اوزاعیؓ۔ جادین ابی سلیمانؓ، داؤد ظاہریؓ اور ابو عبید القاسمؓ بن سلام کا بھی مدہب ہے۔ محدث بن جریر اور ابی خزییرؓ نے بھی یہی مسلمک اختیار کیا ہے اور شوافعی کے یقین و جوہہ میں سے ایک مدہب ہے۔

**وین میں غلو کرنے سے بچو** | کو آگاہ کیا کہ سالا مزادلفہ موقف ہے۔ پھر آپ مزادلفہ سے فضل بن میاس کو تجھے بٹھا کر پلے اور راستہ بھر تبلیغ کرنے رہے، اور حضرت اسماعیل زید قریش کی جماعت کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اسے

لماستہ میں آپ نے ابن عباس رضی کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لیے سات عروجاء کے لئے  
چنیں اور انہیں اسی رات کو پہاڑ سے اکھار کر الگ نہیں کیا جیسے وہ لوگ کرتے  
ہیں جنہیں کچھ بھی علم نہیں اور نہ کنکر یا ان رات کو چن لی تھیں بلکہ رابن عباس نے  
پتھر کے دھیر سے سات کنکر چن لیے چنانچہ آپ انہیں اپنے پاتھر میں اچھالنے لگے۔  
اور فرمائے گے، اس طرح رحمی کرو اور دین میں غلو کرنے سے پتو، یعنی نکہ تمہرے پیڈے  
جنہیوں نے دین میں غلو کیا وہ پلاک ہوتے۔

اسی راہ میں بنی خشم کی ایک خوبصورت عورت حاضر ہوئی اور اس نے اپنے  
باپ کی طرف سے حج کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ وہ بوڑھا تھا اور سواری پر  
ٹھہرنا سکتا تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تو اس کی طرف سے حج کرے۔ اور فضل دینے  
عباس (اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف تکھتے لگی۔ چنانچہ  
آپ نے اپنا پاتھر (فضل) اسکے پتو کھو دیا اور اس کا رُخ دوسری طرف پھیڑ دیا۔

نیز یہاں ایک اور ادمی نے آپ سے اپنی ماں کے متعلق دریافت کیا کہ وہ بہت بدی  
ضعیف ہے، اگر اسے سوار کیا جائے تو برداشت نہ کر سکے گی، اگر اسے باندھ  
دیا جائے تو خود کشی کرے گی۔

آپ نے فرمایا کہ اگر بتری ماں پر قرض ہونا تو کہا تو اسے ادا کرنا ہے؟ اس  
نے عرض کیا کہ ہاں ضرور آپ نے فرمایا، تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر۔

لہ اس واقعی سے کیا مستبطن ہوتا ہے؟

رسالت مأبیت کی موجودگی میں ایک خوبصورت نوجوان، اور ایک خوبصورت خاتون  
کی آنکھیں چار ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو تکھنے لختے ہیں۔ یہ فعل غلط تھا،  
لیکن اس میں انسانی قدرت بھی کام فرمان تھی آپ نے ان دونوں باتوں کا لحاظ فرمایا اور  
تعاب نہیں فرمایا۔ سڑا نہیں دی، ایک کام رخ بدل دیا، دوسرے کی آنکھ پر دستہ مبارک  
رکھ دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ (رمیس الحمد حضری)

جب آپ وادیِ مصر بیس تشریف لائے تو اونٹنی کو تبیر کر دیا اور جن مقامات میں اللہ نے اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کیا تھا وہاں آپ کی عادتی طبیعت یہ تبیر کر تبیر چلتے اس جگہ رِ وادیِ مصر، اصحابِ فیل پر عذاب نازل ہوا تھا، جس کا واقعہ رَ اللہ نے قرآن میں بتایا اور اس وادی کی وادیِ مصر اس بیس کے ساتھ ہے میں کہ اس وادی میں ہاتھیوں کو حسر بیعنی واپس جانے سے روک کر دیتا ہے کر دیا گیا اور عمرتی اور مزدلفت کے درمیان حد فاصل ہے۔ نہ اس میں پر عذاب اور تصرفات اور حرام کے درمیان ہے۔ اس طرح ہر دو مشاعر کے درمیان ایک حد ہے جو نہ اس میں داخل ہے نہ اس میں منیٰ حرم میں داخل ہے اور مشرب بھی ہے اور حرام میں داخل تو ہے میکن مشعر نہیں اور مزدلفت حرم بھی ہے اور مشرب بھی ہے۔ اور مرفہ محل میں ہے اور مشرب نہیں ہے اور مرفہ محل میں بھی داخل ہے اور مشرب بھی ہے۔

اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے درمیانی راستہ پر پلے جو مجری پر جا لکھنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ منیٰ بیس تشریف لائے اور زهرۃ عقبہ پر پہنچ گئے اور وادی کے پہلی جانب شہر سے ہائیں طرف کعیدہ شریف وائیں طرف منیٰ اور سامنے حرو تھا۔ اور آپ سواری پر تھے۔ چنانچہ آپ طبوعِ افتاب کے بعد اپنی سواری پر سے ایک ایک کر کے کنکار مارے اور پرکلکھ کے ساتھ تکبیر کہتے رہے۔ اس وقت آپ تکبیر ختم کیا اور اس ماستر میں برادر تبیہہ کہتے رہتے۔ یہاں تک کہ آپ نے رسمی کی۔ اور بلال فرا اور اسامہؓ آپ کے ہمراہ تھے۔ ایک نے اونٹنی کی مہار پکڑ دکھی تھی اور دوسرا نے گرمی سے بچاؤ کے لئے آپ پر سایہ کر رکھا تھا۔ اس واقعہ سے حرم کے بیس محل وغیرہ کا سامنا ہے کا جواز نہ لکھتا ہے بشرطیکریاوم الخ کے اس واقعہ میں سایہ کرنا ناجائز ہے جائے اور اگر ایام منیٰ میں اس کے بعد کا واقعہ ہو تو پھر یہ جدت نہیں بن سکتا۔ اور حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں کر پکیب کا واقعہ ہے۔

# خطبہ و داع

منی امیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو پیام

قریبی کے دن کی عظمت پھر آپ متین واپس ہوئے اور ایک فیضیح و بیان خلیل ارشاد فرمایا جس میں لوگوں کو قربانی کے دن کی حوصلت و عظمت اور اللہ کے ہاں اس کی فضیلت سے آگاہ کیا اور نام محاکم پر مکر کی فضیلت بیان فرمائی اور تذکرہ کے مطابق حکمرانی کرنے والوں کی سمع و مقاعدت کا حکم دیا۔ لہ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے مناسک حج سیکھویں، اور فرمایا کہ شاید بہنس اس سال کے بعد حج ذکر سکھوں ٹھے۔ آپ نے مناسک حج سکھائے اور مہاجر پڑھے و انصار کو اپنے اپنے مقامات پر آنا رہا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بعد متبدلاتے کفر نہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے لگیں ہے کہ پھر اپنی طرف سے تبلیغ کا حکم دیا اور

لہ سمع و مقاعدت کی شرط یہ ہے کہ حکومت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کی جائے۔  
تھے: آپ نے حسوس فرمایا تھا کہ رفیقہ الاعلیٰ یعنی خدا گئے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طلبی کا فرمان آچکا ہے اور آپ نے دنیا سے رخت سفر باندھنے دالے ہیں۔  
تھے: باہمی جدال و فتناں گو پاک فراہم پایہ ہے۔ (رئیسہ الحرج عذری)

فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسلم بھینچا جانا تھا، وہ سننے والے سر زیادہ محفوظ (فہم و فراست کے مالک) ہوتے ہیں۔

پیر آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ کوئی اُدمی اپنی جان پر ظلم نہ کرے، اور مہاجر کو قبائل کے دامیں طرف اور انصار کو بائیس طرف آمارا، باقی لوگ ان کے ارد گرد تھے اور اللہ تعالیٰ نے رآپ کے خطبہ کی خاطر لوگوں کی قوت سماعیت کھول دی، بیہاں تک کہ اہل منیٰ نے اپنے اپنے گھروں میں آپ کا خطبہ سننا۔

آپ نے خطبہ میں مزید فرمایا کہ اپنے رب کی جہاد کرو اور پانچوں نمازوں پر ادا کرو، اور جہیتے کے روزے رکھو اور جب نہیں (قرآن و سنت کے مطابق) حکم دیا جائے تو اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کو دعا کیا۔ تو لوگ اکہنے لگے۔ یہ جنت الوداع ہے اور یہیں پر آپ سے پوچھا کہ جو رحی سے قبل حلق کروں یا مری سے قبل ذبح کرے۔ تو آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں لے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بنی ملی اللہ علیہ وسلم کو اس دن دیکھا کہ آپ سے جو بھی پوچھا جانا آپ فرماتے کرلو اور اس میں کوئی حرج نہیں پھر آپ منیٰ میں قربانی کے مقام پر تشریف لے گئے۔ پھر اپنے دیان تریستھ کو اونٹ ذبح کیے۔ آپ کھڑے ہو کر اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر ذبح کر دیتے تھے، اور آپ نے قربانی سامنہ اونٹ ذبح کیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ باقی کو ذبح کر دیں۔ اس کے بعد حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ان جانوروں کا پھر ادا کو شست بنانے کے عوض اس میں سے کھپوتے دیں۔ اب اگر کہا جائے کہ مجھم کی حضرت ابو بکرؓ سے مروی حدیث کا جواب دو گے کہ جوانہوں نے یوم النحر کو منیٰ میں بنی ملی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے متعلق روایت کرتے ہوئے بتایا۔ پھر آپ دونہایت

چنگرے مبنیہ صور کی طرف گئے۔ اور انہیں ذبح فرمایا اور بکریوں کے روپوں کی طرف تشریف دے گئے اور اسے ہم میں تقسیم کیا وسلام؟

تو جواب یہ ہے کہ مبنیہ صور کے ذبح ہونے کا واقعہ مکر میں ہوا اور حضرت انسؓ کی روایت کے مطابق مدینہ میں مبنیہ سے ذبح کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس میں بوگوں کے لیے دو طریقے ہیں، ایک حضرت انسؓ کا قول کہ آپ نے مدینہ میں دو انتہائی خوبصورت دو سینگھوں والے مبنیہ سے ذبح کیے اور نماز عبید ادا فرمائے اور دنبوں کی طرف تشریف دے گئے، پھر انہی حضرت انسؓ نے مکر میں آپ کے اونٹوں کی قربانی کرنے اور مدینہ میں مبنیہ سے قربانی کرنے میں فرق بتا دیا۔ اور وضاحت کروی کہ یہ دونوں مختلف واقعات میں ۱۰۰ اس سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منی میں قربانی کا ذکر کیا ہے۔ بتایا ہے، کہ آپ نے (بہان) اونٹ ذبح کیے اور یہ اونٹ ہری کے طور پر تھے۔ جو آپ نے کرائے تھے، یہ وہاں بکریوں کے ذبح کرنے سے افضل تھے۔

# حج تمتّع یا حج قرآن

## ایک اہم اخلاقی مسئلہ کی تحقیق

آنحضرت جب مقام سرف بیں پہنچنے تو حضرت عائشہ رضیام سے ہو گئی انہوں نے حج کے ساتھ عمرہ کی نیت بھی کر رکھی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں۔

اپنے پوچھا، ”کیوں رو رہی ہو؟ — شاید رضیام آگئے“

پہنچنے لگیں، ”ہاں بھی ہوا ہے،“

اپنے نے فرمایا، ”روئی کیوں ہو؟“ یہ وہ بیزیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا ادم کے لیے بھر دی ہے، وہ سب کچھ کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، بس بیت اللہ کا طواف درکرنا،“

حج تمتّع یا حج افراد کے مابین میں علماء کا اختلاف حضرت عائشہ کے اس واقعہ کے سلسلے میں  
علماء کے مابین اس بات پر منازعت  
ہے کہ آیا ان کا یہ حج تمتّع تھا، یا حج افراد لے

لے حج کی سورتیں:-

۱- حج افراد - اس میں صرف حج کی نیت کرتے ہیں بعد ازاں عمرہ -

۲- حج تمتّع - میقات سے یہ صرف عمرہ کی نیت کرتے ہیں، مکہ اور عمرہ کے امکان افراطی میں اس کے بعد احرام آثار دیتے ہیں، پھر ذی الحجه کو حج کے ارادے سے دوبارہ احرام باندھنے ہیں۔

(۳) حج قرآن - اس میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے اور جب تک حلہ مناسک

حج اداز ہو جائیں، حاجی احرام نہیں آتا سکتا۔ (رسیس احمد جعفری)

اگر حج تختیح تھا تو آیا انہوں نے عمرہ کا ارادہ ترک کر دیا، اور حج افراد کی نیت کر لی؟ اور حج کسے قارن ہو گیئیں۔

اور تیغم سے دوبارہ جس عمرہ کی نیت کر کے چلی تھیں آیا وہ فاجب تھا یا نہیں؟ حضرت عائشہؓ کے اس واقعہ کے پیش نظر چند تلقینات اور ان کا جواب فقہا اس باب میں مختلف ہیں کہ عورت اب عمرہ کا احرام باندھ لے اور آیام سے ہو چائے اور طواف بیت اللہ اس کے لیے قبل از تعریف ممکن نہ ہو، تو آیا وہ عمرہ کا احرام زمانہ دے گی، اور حج افراد پر اتفاق کرے گی، یا حج اور عمرہ دونوں کرے گی، اور قارن ہو چائے گی \_\_\_\_\_؟ پہلا قول فقہاء کو فہر کا ہے، یعنی امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا، دوسرا قول فقہائے مجاز کا ہے، یعنی امام رضا، مالک، واصد و اور ان کے اتباع کا۔

تیغم سے حضرت عائشہؓ کی نیت کر کے جب پھر سے چلیں تو اس باب میں پار مسلک ہیں۔

(۱) تیغم سے عمرہ کی نیت کر کے پھر سے روانہ ہونا، بعض رضا کا راتہ تھا، وہ متین  
و سفر کے وہ سعی و طواف سے سبک دوش ہو چکی تھیں، وہ متین تھیں، پھر سفرہ بھی حج بیس شوال کر دیا۔ اور قارن ہو گیئیں۔

یہ مسلک واضح اقوال و احادیث پر مبنی ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں امام شافعی اور احمد کا مسلک یہی ہے۔

۲ - جب حضرت عائشہؓ ایام سے ہو گیں، تو ان حضرتؓ نے انہیں پذیریت کی کہ سفر چھوڑ دیں، اور حج افراد کی نیت کر لیں، جب حج سے فارغ ہو گیئیں، اور احرام کھولا، تو اپنے حکم دیا کہ فقہائے سفرہ کی نیت کر لیں، اور عمرہ ادا کریں جس کا انہوں نے احرام باندھا تھا،

۳ - جب قارن ہو گیئیں تو سفرہ مفررہ کی فروخت نہیں رہ رکھی، ایک یہ امام احمد کے دو اقوال میں سے ایک ہے۔

(۲۷) حضرت عائشہ نے حج افراد کی نسبت کی تھی، انہیں طواف قدم سے اس پیسے منح کیا گیا تھا کہ ابیام سے تھیں۔  
 یہ مسلک فاضلی اسماعیل بن اسماعیل ابن اسماعل وغیرہ مالکی فقہا کا ہے، اور یہ ضعیف ترین مسلک ہے۔

---

# حج وداع

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج

اب ہم پھر اصل بحوث پر، یعنی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج پر آتے ہیں؟ مقام سرف سے روانہ ہونے کے لیے تکہ بہیں آپ نے صحابہ سے فرمایا جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانورتہ ہوں، وہ حرف عمرہ کہیں۔ اور احرام آثارویں، اور جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانورتہ ہوں، وہ احرام باندھے رہیں۔

آنحضرت سے ایک سوال اور اس کا جواب بائی "آیا یہ حکم حرف اس سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے نئے؟"

آپ نے جواب دیا ہمیں ہمیشہ کے لیے، اب قبامت نک کے لیے عمرہ بچ میں داخل ہو گیا ہے!"

اس حدیث کی روایت پھودہ صحابتے کی ہے، اور یہ ساری روایتیں بالکل صحیح ہیں، جن چودہ بزرگوں نے اس واقعہ کی روایت کی ہے ان کے اسمائے گرامی یہ عین؟"

ام المؤمنین مائشہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت فاطمۃ الزہرا - بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسمااء بنت ابی بکر الصدیق، حضرت جابر بن عبد اللہ،

تے بیان کیا، اور آپ کے ساتھ قرآنی کے جانور سخت، لوگوں نے صحیح افراد کا ارادہ کیا، آپ نے ان سے تمتع کے لیے کہا، انہوں نے عرض کیا۔

”بہم صحیح تمتع کس طرح کر سکتے ہیں جب کہ ہم صحیح رافراد کی بینت کرچکے ہیں؟“  
آپ نے فرمایا، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اگر میرے ساتھ قرآنی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی وہی کرتا جو تم سے کہہ دے رہا ہوں، لیکن اب دیر اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک قرآنی کے جانور اپنے محل پر فوج پہنچ جائیں، تب ہی احرام کھول سکتا ہوں!“  
چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا؛

بیہقی مسلم میں حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج کو سال جتحہ الوداع کے موقع پر حکم دیا کہ احرام دیں۔

حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے سوال کیا۔

”اپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟“

”فرمایا،“ میں قرآنی کے جانور روانہ کرچکا ہوں، اب اس وقت تک احرام نہیں آمار سکتا جب تک قرآنی نہ کروں!“

بیہقی مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کی حدیث ہے کہ ہم لوگ رنج و رائے کے موقع پر احرام یا نذر حکم نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا۔

”جس کے ساتھ قرآنی کے جانور ہوں، وہ احرام بانسھے رکھے، جس کے ساتھ قرآنی کے جانور نہ ہوں وہ آمار دے،!“

چنانچہ میں نے احرام آمار دیا۔

اہل بیت اصحاب بکریم اور کبار تابعین کا مذہب عرض یہ بات اہل بیت اصحاب بکریم اور کبار تابعین کے یہ کثرت مرویات سے بصریت ثابت ہے، اس کے روایوں میں صحابہ کرام اور کبار تابعین میں، یمنقولات شک سے مادر اور موجب لفظیں میں۔ کسی شخص کے لیے بھی ان سے انکار کرنا ممکن

نہیں، یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے جو الامم این عیاس کا اور ان کے اصحاب کا، نیز ابو موسیٰ اشعریؑ کا بھی یہی مذہب ہے امام اہل السنۃ و الحدیث احمد بن حنبل، ان کے تبع، اور اہل حدیث کا مذہب بھی یہی ہے، عبداللہ بن حسن عنبری فاضلی بصری بھی یہی مذہب رکھتے تھے۔

### اہل ظاہر کے عذرات و اعتراضات

کو قبول کرنے میں پیش کرتے ہیں:

(۱) یہ حدیثیں غسوخ ہو چکی ہیں،

(۲) یہ حدیثیں ورق صحابہؓ کرام کے ساتھ مخصوص ہیں، غیر صحابی کے لیے اس حکم میں مشاوکت جائز نہیں۔

(۳) خلاف حکم سے یہ حدیثیں معارض ہیں،

یہ ہیں وہ تمام عذرات اور اعتراضات جو ان احادیث پر وارد کیے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے ان عذرات و اعتراضات کا جواب دیں گے۔

کیا یہ حدیثیں غسوخ ہو چکی ہیں | جو لوگ ان احادیث کو غسوخ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایو داؤ دہتے ہیں کہ محبوسے فارابی نے ان سے ایمان ابن ابی حازم نے ان سے ابو یکبر بن حفص نے، ان سے ابن عمر نے ان سے حضرت عمر بن جب وہ سند خلافت پر مشکن ہوئے بیان کیا کہ:

”وَ اَنْ لَوْكُوا — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدانے لیے متعدد کو جائز قرار دیا تھا، پھر اسے ہم پر حرام کر دیا،“

بزرار کہتے ہیں یہ حدیث سند اور متعدد سے مروم ہے، سند کا جہاں تک تعلق ہے وہ قطعاً ناقابل قبول ہے، رامتن، تو یہاں متعدد سے مراد عورتوں سے متعدد ہے ذکر صحیح نہیں، اور بے شک عورتوں سے متعدد کو پہلے آپ نے حلال کیا تھا، پھر حرام کر دیا تھا،

اور حضرت علی رضیٰ سے بہ روایت صحیح شاہت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ”میں حج کے ساتھ  
تمتع فرو رکرنا ہوں۔“

تمتع یا قران کا صحابہ کے ساتھ اختصاص [اب رہا، حج تمتع یا قران کا صحابہ کے  
ساتھ اختصاص کا معاملہ، اس کے جو

دلائل دستے بھاتے ہیں یہ ہیں!]

عبداللہ بن زید مجیدی، سفیان الطحاوی، بن سعید اور مرفعہ کے واسطہ سے بیان  
کرتے ہیں کہ ابوذر نے کہا۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتح حج ہمارے لیے خاص تھا۔  
وکیح، موسیٰ بن عبدیلہ اور یعقوب بن زید کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں کہ  
ابوذر نے فرمایا،

”ہمارے بعد کسی کے لیے بھی روایتیں کہ حج کو عمرہ کے ساتھ ملائے، پہنچا  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رخصت تھی!

بزارہ یوسف بن موسیٰ، سعد بن فضل، محمد بن اسحاق، عیندار حماں الاسدی، یزید  
بن شریپ کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ابوذرؓ سے پوچھا، ”رسول اللہ  
نے کس طرح حج تمتع کیا تھا آپ تو ساتھ تمتع بنایے؟“

ابوذرؓ نے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا؟، بہ ترو وہ چیز تھی جس میں ہمارے  
لیے رخصت تھی!

صحیح مسلم میں ابوذرؓ کی حدیث ہے کہ ”حج میں تمتع (تمتع) اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
کے لیے خاص تھا،“

اس حدیث کے دوسرے الفاظ ہے ہیں، ”وَكُلُّ مُتَّعٍ كُسْيَ كَمْ يَرِيدُ  
مُتَّعٌ نَسَاءٌ، وَأَرْتَقَتْ حَجَّ،“

اسی طرح کی روایتیں متعدد اور نصائی وغیرہ میں بھی ہیں، غرض یہ ہے  
وہ فہرست روایات جس سے بہ حج قران یا تمتع کے خلاف استدلال کرتے ہیں اور جو

کرنے میں کر ہدف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن پر تمام آثار میراث طور پر باطل میں، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔

ان راویوں میں ایک مرفح ہے، جس سے روایت قبول نہیں کی جاتی، پھر بیانات بھی پیش نظر رکھنی چاہیئے کہ اس کی روایت مخصوص مجموع غیر مرفودہ سے معارض ہے۔ پھر اسے کیونکہ قبول کیا جاسکتا ہے؟ نیز یہ بھی بادر کھنا چاہیئے کہ مدعاں فتح و اختصاص کا دعویٰ، مختلف اسل ہے بغیر برہان و دلیل کے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ پلال بن حارث وابی حدیث بھی بکسر غلط ہے، یہ اس حدیث کو ثقافت اثبات کے روایات پر کس طرح مقدم رکھا جاسکتا ہے؟ ابتدے عباس زندگی بھروس کے خلاف فتویٰ دیتے رہے اور اس کے مخالفوں سے بحث کرتے رہے۔ اور رسول اکرمؐ کے ممتاز اور اجل صحابہ زندگی بھروس کے خلاف عمل کرتے رہے یعنی بحق تمتع کرتے رہے۔ اس کیشہ جماعت صحابہ میں سے کسی نے بھی۔ نہیں کہا یہ تمتع ہمارے لیے خاص ہے، پاہمارے لیے رخصدت ہے، بلکہ اسے عام قرار دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے بتایا، حدیث اختصاص کے ہمارے بین امام احمد کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ابوذر پر رحم کرے، تمتع کی اجازت تواللہ کی کتابتے دی ہے، باقی رہا، حضرت عثمان شاقول، یہ رحیم رضی رخوا کا ہے، علاوہ ازین قول ابوذر و عثمان تین امور پر محتمل ہے، ۱) صحابہ کے لیے جواز کا اختصاص، جو لوگ حرمت نسخ کے قابل ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں۔

۲) صحابہ کے ساتھ و جوب کا اختصاص، ہمارے شیخ ابن تیمیہ بھی رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کے لیے فتح فرضی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، لیکن امت کے لیے یہ بات جواز، اور اس جواب کے درجہ میں ہے۔ اور قیامت تک بھی صورت رہے گی۔ لیکنے ابن عباسؓ اسے قیامت تک ساری امت کے لیے واجب قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر فارغ اور مفرد

حج قرآن یا افراد کی نیت کرنے والا) کے لیے جس کے ساتھ قربانی کے جانور زہر ہوں بیرونی ہے کہ احرام آثار دے۔

(۳) اختصار شاکست یہ ہے کہ صحابہ کے بعد کسی کے لیے بھی روانہ میں ہے کہ بغیر قربانی کے جانوروں کے قارن یا مفرد کی حیثیت سے حج کی اتیذا کرے، لیکن یہ اختصار بھی احادیث شایستہ و صحیح سے تعارض ہے۔ لہذاً ماقبل قبول ہے۔

باقی رہی صحیح مسلم میں ابوذرؓ کی روایت کو حج میں متعدد (متفق) صحابہ کے لیے خاص تھا، یہ بات اگر اصل متعدد کے لیے ہے کہ تمام مسلمان اس پرتفقق ہیں، اور متعدد فتح کے بارے میں ہے تو یہ قول خاسد ہے، اس کی مراجعت عمران بن حصینؓ کی اس رائے سے ہوتی ہے جو عثمانؓ اور ابوذرؓ کی رائے سے زیادہ اہم ہے اور جسے عماری نے روایت کیا ہے، عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ، ہم نے رسول اللہؐ کے ساتھ حج تفتح کیا، اسی اثناء میں قرآن کی آیت نازل ہوئی (اس بارے میں) صحیح مسلم میں تعریف ہے کہ کتاب اللہ میں آیت متعدد نازل ہوئی، یعنی متعدد الحج، رسول اللہؐ نے ہمیں اس کا حکم دیا پھر کوئی الیسی ناسخ آیت نازل نہیں ہوئی، نہ رسول اللہؐ نے ہمیں کسی منع فرمایا، یہاں تک کہ آپؐ کی ذفات ہو گئی، اب اگر کوئی شخص یعنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو جو چلہے کہے۔ (الیعنی حضرت عمرؓ)

ایک سوال کو ابن عمرؓ کا جواب ایک مرتبہ عبد اللہ بن عمرؓ سے اس۔

”وَآپَ كَمَرَنَتْهُ تِوَّاَسَ سَمْحَ كَيَاَهَ؟“

ابن عمرؓ نے جواب میں کہا۔

”وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَرَنَتْهُ تِوَّاَسَ مَسْتَحْقَ كَيَاَهَ؟“

ابن عباس نے ایک شخص سے جواب بارے میں، ابو بکرؓ کے قول سے معارضہ کرنا تھا کہا۔

” مجھے ڈر ہے کہ یہ تم پر اسماں سے پتختہ برستے لگیں، میں کہنا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو، ابو بکرؓ خدا عمرؓ نے یہ کہا ہے“

مخصوص کے قول پر غیر مخصوص کا قول نہیں مانا جاسکتا یہ ہے اب معلم کا جواب اور یہ رسول اللہؐ کے قول و فعل سے تمہارے مقابلہ میں زیادہ واقف نہ ہے۔

ابن عباسؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ کا قول ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ ہمارے مقابلہ میں رسول اللہؐ سے زیادہ واقف نہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعم کے مقابلہ میں صحابہ یا تابعین میں سے ایک شخص بھی اس جواب سے مطلقاً نہیں ہو سکتا مخصوص کے قول پر غیر مخصوص کے قول کو تقدم نہیں حاصل ہو سکتا، اور نعم مخصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ رجح تمعنج قیامت کے یہے ہے، اس کی تائید میں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی ذفاف، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، سید بن الحسین اور حمہ رضا تابعین میں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بعض صحابہؓ کی حفظ رائے تھی، نہ کہ رسول اللہؐ سے حدیث مرقوع، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب تمعنج سے منع کیا، تو ان سے ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا، ”یا امیر المؤمنین کیا آپ تک وحدادت میں ایک نئی بات راجح ہنیں کر رہے ہیں؟“

اور یہ ابو موسیٰؓ برادر عہد خلافت ابو بکرؓ میں، اور صدر خلافت عمرؓ میں برابر، راجح کا فتویٰ دیتے رہے، یہاں تک کہ عمرؓ نے اس سے منع کر دیا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ ان کی رائے میں حضرت عمرؓ نے تک وحدادت میں ایک نئی بات راجح کی، لیکن یہ بھی ثابت اور صحیح ہے کہ بعد میں اپنے اس قول (رنہی) سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا،

احادیث نسخ کے تعارض کا مسئلہ اور رواۃ پر بحث باقی رہا احادیث نسخ میں تعارض کا معاملہ تو

اس سلسلہ میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک حدیث عمرؓ سے ابوالاسود کی ہے، صابن بن مسلم اسے منکو فرار دیتے ہیں، لہذا اس سے روایت کس طرح جائز ہو سکتی ہے، اسی طرح عبد اللہ بن عواد کی حدیث ہے کہ اسماعیل بن ابوجہر صدیقؓ نے کہا کہ میں نے اور میری بھن عائشہؓ نے اور زیرین نے اور فلاں فلاں نے مسح بیت اللہ کے بعد احرام آتا رہیے۔ پھر رات کو حجؓ کی نیت کر کے احرام یاد ہوئے، لیکن یہ حدیث دو وجہ سے باطل ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل تقلیل اس پر، تفقیق میں کہ حضرت عائشہؓ نے مکہ میں پہلی مرتبہ داخلہ کے وقت عمرؓ نہیں کیا تھا، اسی پیسے صحیح کے بعد تبیغم جا کر عمرؓ کی نیت کر کے واپس آئیں اور سخرو کیا، اس کے ردی یہ بہت شرعاً لوگ یعنی، مثلاً ابوالاسود، ابن ابی یلیکه، قاسم بن محمد، عردو، طاؤس، اور جابر و سراسیب بطنان کا یہ ہے کہ مسح بیت کے بعد احلال کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جابر، انس بن مالک، عائشہ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہم، سب کی روایت یہ ہے کہ احلال و خول مکہ کے دن ہوا تھا، اور احلال بچھ بوم تو روزی الحجر، کو ہوا تھا، اور ان دونوں ایام کے مابین تین دن کی مت ہے۔

آنحضرتؐ کے سفر حجؓ کی طرف عودؐ عود کرتے ہیں۔

آنحضرتؐ ذی طویل میں آگر اترے، جو آج کل آباد زہر کے نام سے معروف ہے، یہاں رات گزاری، پھر غازِ صحیح کے بعد عسل کیا، اور مکہ کی طرف سواری روانہ ہوئی، جہاں آپؐ دن چڑھے داخل ہوئے، طبرانی نے بیان کیا ہے کہ آپؐ باب بنی عبد مناف سے جواب باب بنی شیبہ کے نام سے صروف ہے داخل ہوئے۔

طبرانی کا بیان ہے کہ جب آپؐ کی تکریمہارک کعبہ پر پڑی، تو آپؐ نے فرمایا!

یعنی اسے پروردگار اپنے اس گھر کی عزت، حرمت، عظمت، اور زرگ

اور زیادہ بڑھادے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ ماتھرا شماتے

اور مکبیر کہتے تھے، اور فرماتے تھے،

اللهم انت السلام و ملك السلام، حنا سرینا بالسلام اللهم خذ دهن الہیت  
تشریقاً و تعظیماً و تکریماً و مهابیتہ و شر و من حجه و اعتصم بـ تکریماً و تشریقاً و تعظیماً و ظیماً و بـ  
لیعنی رذکورہ بالادعاء کے علاوہ) اے پروردگار، جو اس تیرے گھر کا جر کرے  
یا سکرے کرے، اس کی بھی بزرگی، عزت، برطانی، اور عنظمت میں اور زیادہ  
اضافہ کرو!

جب آپ مسجد میں آئے، تو کعبہ کی طرف بڑھے، یہاں آپ نے تختہ مکہ نہیں  
پڑھی، بلکہ مسجد حرام کی تجہیہ طواف ہے، جب جہرا سود کے سامنے آئے تو اسے چوہا،  
مگر اس کے پیسے ذکری کے مذاہم ہوئے، نہ رکنِ یمانی کا رُخ کیا، نہ را تھرا تھائے، نہ یہ  
فرمایا کہ میں طواف کی نیت کر رہوں۔ نہ طواف کا غاز کی طرح مکبیر سے افتتاح کیا، جیسا  
کہ نما و اقف اور لا علم لوگ کرتے ہیں، کہ یہ بدعت اور منحر ہے، نہ آپ جہرا سود کے  
پورے جسم سے مقابل ہوئے، بلکہ جہرا سود کی طرف پھر رُخ سا کر لیا، داہنی طرف سے  
طواف شروع کیا، کعبہ آپ کے پیسے جانب تھا، ہاب کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کوئی  
دعا نہیں مانگی، نہ مہرباب کے پیچے ایسا کیا، جب آپ رکنیں، لیعنی جہرا سود اور رکن  
یمانی کے درمیان پہنچے تو فرمایا،

سرہنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرۃ حسنة و قناعدنہ اب الناس۔

لیعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائیاں عطا کر، اور دوزخ  
کے عذاب سے بچائے،

آپ نے طواف کس طرح کیا؟ طواف کے پیسے یمن پکروں میں آپ اس طرح چلے کر  
سا تھ، چادر بیوں اور ٹھے تھے کہ اس کا ایک سراغل کے پیچے سے نکال کر، شانشے پر  
ڈال لیا تھا، جب جہرا سود کے سامنے آئے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہا تھوڑی سے  
ایک چھڑی تھی، اسی سے اسے چھوٹے، اور پھر لکڑی کو چھو کر اگے بڑھ جاتے، اسے

چھڑی کا سرا مردا ہوا تھا،

یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے رکنِ یمانی کو چھوڑا، مگر اسے چوتھے نہیں تھے، نہ اسے پھوکر رکن کو پورستھے تھے۔ دارقطنی نے ابن عباسؓ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہؐ رکنِ یمانی (جراسود) کو پورستھے تھے، اور اس پیر اپنا رخصار مبارک رکھ دیتھے، اس روایت کے راویوں میں ایک عبداللہ بن مسلم بن ہرمنز ہے، امام احمد اسے صالح الحدیث کہتے ہیں، لیکن بعض اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس جگہ رکنِ یمانی سے مراد، جراسود ہے، یمانی نے استاد جید کے ساتھ روایت کیا ہے، کہ آپ جب رکنِ یمانی کو چھوٹھے تو فرماتے تھے۔

لیسم اللہ و اللہ اکبر اور جب جراسود کے پاس آتے تو فرماتے اللہ اکبر،

مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ پَرِدَرْدَدٌ۔ [سچے آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، واتخذ دو من مقام ابراہیم]

محبی۔ یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، پردہ درکعت نماز پڑھی، جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی۔ نماز کے بعد جراسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پھر چھوڑا، اس کے بعد صفا کی طرف تشریف رکھئے، جب قریب پہنچے تو فرانہ کی یہ آیت پڑھی، *إِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْدَدَةَ مِنْ شَعَاعِ اللَّهِ*۔

یعنی صفا اور مردہ شعاعِ الہی بیس سے ہیں، (رأیت ختم)، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا،

ابدأً أَبْيَابِنِ أَمْرِ اللَّهِ۔ یعنی خدا نے جس سے ابتداء کی ہے بیس بھی اسی سے ابتداء کرنا ہوں۔

نسائیؓ کی روایت بیس ابداً وَ عَلَى الْأَمْرِ ہے،

پھر آپ صفا پر چھڑ گئے، یہاں تک کہ بہت اللہ نظر کرنے لگا، پھر آپ نے خدا کی وحدت اور سر بریانی، بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحُكْمُ وَلَهُ

الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو رب العالمين لا جزء له في خلقه ولا مثيل له في عباده وحده لا شريك له في سلطنته لا ينفعه أحدٌ غيره  
یعنی خدا اے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شرکت نہیں سب کوئے  
اس کا ہے، وہی ستر وارستائش ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، خدا کے یکتا کے  
سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور تمام مخلوقوں کو تباہ شکت وکی  
پھر آپ نے دعا فرمائی، اور یہ الفاظ تین مرتبہ دو ہرائے، پھر آپ پا پیارا درود  
آئے، اور بطنِ داوی میں پہنچ کر سعی کرتے یاگے۔

میسح مسلم میں ابوالظفیل کی روایت ہے کہ بیان نے ابن عباس سے عرض کیا، ارشاد  
فرما یہ کیا واقعی صفا اور مروہ کے مابین سوار ہو کر طواف کرنا سنت ہے؟ کیونکہ آپ  
کی قوم کے لوگ تو اسے سنت ہی خیال کرتے ہیں، ابن عباس نے کہا، وہ صحیح ہی  
کہتے ہیں اور غلط بھی کہتے ہیں بیان نے کہا صحیح کس طرح اور غلط کس طرح کہتے ہیں؟  
کہنے لیکے، لوگوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ کھوئے سے کھوا پھلانا شروع ہو گیا، اور رسول  
اللہؐ اپنے سامنے سے لوگوں کو ہٹاتے نہیں تھے، چنانچہ جب بحوم بہت بڑھ گیا، تو  
آپ سوار ہو گئے، درست پا پیارا درود چلنا اس موقع پر زیادہ افضل ہے،!

طوافِ قدوم آپ نے سوار ہو کر کیا یا پا پیارا [ طوافِ قدوم کے باسے میں  
بھی اختلاف ہے کہ آیا آپ

اس موقع پر پا پیارا تھے یا سوار؟

میسح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حجتۃ اللہ وادع کے موقع پر بنی صلی اللہ  
علیہ وسلم نے کعبہ کے گرد اونٹ پر بیٹھ کر طواف فرمایا اور اسی طرح رکن کو چھوا، کیونکہ لوگوں  
کو سامنے سے ہٹانا آپ کو پسند نہ تھا، سفن ابو داؤد بیان عباس کی روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ  
وسلم کا مراجح ناساز خطا آپ سواری پر سوار ہے، اور اسی طرح طواف کیا، رکن کے پاس جب پہنچنے تو چھوڑی  
سے اسے چھوا، طواف سے فراغت کے بعد اونٹ کو بٹھایا اور دو کہیں پڑھیں، ابوالظفیل کی روایت  
ہے کہ جس پھری سے آپ نے مجرسون کو چھوا، اسے چھوڑا جھی، اور پہنچنے تے مسلم کے اسناد کے ساتھ  
جو روایت کی ہے اس میں اونٹ کا ذکر نہیں ہے، ملکن ہے یہ طوافِ قدوم کے بجائے طواف  
اقامتہ کا ذائقہ ہو۔

## اعتكاف

### دل کے روگ کا تنهہ اور شافی علاج

**رغبت الی اللہ کا وسیلہ** قلب کی اصلاح و استقامت اللہ کی طرف لے جانے والی راہ، ذات الہی پر اعتماد کلی سے حاصل ہوتی ہے، خدا کی طرف رغبت ہی دل کی بیٹی کلی کو دور کر سکتی ہے، یکونکہ خدا شے بندگ و برتر کے طرف میلان ہی دل کے روگ کا تنهہ اور شافی علاج ہے، اور چونکہ خور و نوش میں زیادتی لوگوں سے بیکار مانا جانا، لغو گوئی، اور زیادہ سونا ایسے افعال ہیں جن سے رقلب کی پریشانی پڑھتی اور تشتہ و افتراق واقع ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے راستے میں آزمبنتی یا اس میں ضعف و کمی پیدا کرتی ہیں، اسی لئے پروردگار عزیزہ و حبیمہ نے بندوں پر اپنی رحمت کے باعث روزہ فرض کر دیا کہ کثرت خور و نوش میں کمی ہو جائے اور قلب سے شہوانی اخلاق طہری جائیں۔ جو اللہ کی طرف رغبت کرنے میں حارج ثابت ہوتے ہیں یہ حبیزین بندے پر خود اسی کی بجلائی، فائدے، اور مصلحت کے لئے فرض کیں، کہ وہ دنیا و آخرت میں ان سے منقطع ہو،

نیز احکاف شروع فرمایا۔ جو اصل مقصد ہے جس سے آدمی کا دل خود بخود خدا کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اور مخلوقات کی مصروفیات سے علیحدہ ہو کر صرف خدا شے عز و جل کی (عبادت میں) مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ قلب گھروارہ

انکار و آلام نہیں رہتا، ذکر و محبت انہی کا نشیمن بن جاتا ہے پھر یا الہی کے سوا کوئی اور کوئی یاد باقی نہیں رہ جاتی، ابس یہی خیال رہتا ہے کہ خدا کی رضا اور قرب حاصل ہو، چنانچہ وہ علائق کی بجائے اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ بھی اسی سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جس دن قبریں وحشت ہوگی۔ اور کوئی انیں نہ ہوگا اور نہ سامان فرحت ہوگا وہاں پر وہ اس کا نیس ہوگا۔

وہاں اعتكاف کا سب سے بڑا مقصود یہی ہے، اور چونکہ یہ مقصد اسی طرح حال ہو سکتا ہے۔ کہ اعتكاف روزے کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اعتكاف کو یہی رمضان کے آخری عشرہ میں شروع کیا گیا جو روزے کے باقی تمام ایام سے افضل ہے۔

بغیر روزے کے اعتكاف بے معنی ہے | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں قول نہیں کہ آپ نے کبھی بھی افطار کے حالت میں اعتكاف کیا ہو۔ بلکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، کہ روزے کے بغیر اعتكاف ہوتا ہی نہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے ساتھ ساتھ ہی اعتكاف کا ذکر فرمایا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ روزے کی حالت ہی میں اعتكاف کیا، اسی لئے جس مسئلہ پر جب ہر سلف قائم وہی ترجیح رکھتا ہے، یعنی "اعتكاف میں روزہ شرط ہے" اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اسی مسلک کو ترجیح دیتے۔

رہا کلام۔ تو امت پر لازم کیا گیا کہ زبان کو ہر اس بات سے روکے جس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں۔

اوہ کثرت قواب کے علاج کے لئے قیام میں شروع ہوا جو بیکار جاگتے رہنے سے افضل ہے۔ اوہ انجمام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ (قیام میں) معتدل قسم کی بیداری ہے جس میں قلب و جسم کو تقویت ملتی ہے۔ اور بندے کے ذاتی مصالح میں رکاوٹ بھی نہیں پیدا ہوتی، پس اور یا اپر ریاضت و سلوک کا مدار بھی یہی ارکان اریعہ ہیں، اس سے بڑھ کر خوش بخت کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مسنوبہ پر کامن ہو۔ اور

غلو کرنے والوں یا از جد کا ہوں اور کمی کرنے والوں کے طریقہ پر درج چلے۔  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے۔ قیام اور کلام کے متعلق ہم عرض کرچکے ہیں اب ہم  
اعتناف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبیبہ بیان کرتے ہیں آپ رمضان کے آخری  
عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک  
بار آپ نے اعتکاف چھوڑ بھی دیا۔ لیکن شوال میں قضا او کر دیا۔ ایک بار آپ پہلے  
عشرہ میں اعتکاف کیا۔ پھر درمیانی عشرہ میں پھر آخری عشرہ میں۔ آپ لیلۃ القدر کی تلاش  
کر رہے تھے۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ آخری عشرہ میں ہے۔ چنانچہ آپ نے راسی عشرہ  
میں اعتکاف پر مدد و مت فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل سے جانتے۔

اعتناف کے لیے آپ خیرگارڈینے کا حکم فرماتے۔ چنانچہ آپ کے لیے مسجد علی خیر  
گارڈیا جاتا۔ جس میں آپ اپنے خداستے رحیم و کریم کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے۔ جب  
آپ اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فخر کی نماز پڑھتے، پھر خیرگارڈ لگانے کا حکم فرماتے، چنانچہ (خیر)  
لگادیا جاتا۔ پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات ش کے لیے حکم فرمایا۔ چنانچہ ان کے خیسے بھی لگا  
 دیے گئے۔ چنانچہ جب آپ نے فخر کی نماز پڑھی اور ان خیسوں کو دیکھا۔ تو اپنے خیسے کے  
متعلق حکم دیا کہ اسے لکھا دیا جائے!

اور ایسا بھی ہوا کہ ماہ رمضان میں آپ نے اعتکاف ترک کر دیا۔ اور شوال کے پہلے  
عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ آپ ہر سال دس دن تک اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ جس  
سال آپ کی رحلت ہوئی، اس سال آپ بیس دن اعتکاف میں بیٹھے۔ اور ہر سال ایک  
بار حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے (دہراتے) لیکن اس  
سال دو مرتبہ دہرا�ا۔ آپ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے اور اس  
سال دو بار سنایا۔

حالات اعتکاف کے معمولات | جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے۔ تو اپنے خیسے  
میں تنہا داخل ہو جاتے اور اعتکاف کی حالات  
میں انسانی ضرورت کے سوا آپ گھر تشریف نہ کر جاتے۔ آپ مسجد سے اپنا حضرت مائشہ

کے جھرو کی طرف باہر نکلتے۔ تو وہ آپ کا سر دھوئیں اور گنگھی کرتیں۔ اور آپ مسجد میں ہی تشریف فرماتے، اور رام (المونین) ایام سے ہوتیں۔ تیز بعض دوسرا ج مطہر است  
آپ کی نیارت کے لئے ماضی ہوتیں اور آپ اعتکاف میں ہی ہوتے۔ جب وہ واپس ہوتیں۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ آپ ان کو الوداع کہتے۔ اور داس وقت رات ہوتی بر حالت اعتکاف آپ کے اپنی ازوای مطہرات میں سے کسی کے ساتھ مباشرت نہ فرماتے۔ نہ تقبیل کرتے۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے۔ تو آپ کا بستر پھاد دیا جاتا۔ اور مختلف میں آپ کا بستر رکھ دیا جاتا، اور جب آپ کسی ضرورت سے باہر تشریف لے جاتے۔ اور کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے اور نہ وہم کرتے۔ ایک مرتبہ آپ ترکی قبر میں معتمک ہوئے۔ اور اس پر چنانی ڈال دی یہ تمام باتیں اس لئے تھیں تاکہ اعتکاف کا اصل مقصد اور روح حاصل ہو، بخلاف ایج کل کے جہلا عکے کہ اپنی جائے اعتکاف دس آذیوں کے برابر و سیع کر لیتے، اور ذاگرین کے لئے مجلس بنایتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ دنیا بھر کی باتیں کر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک الگ رنگ ہے، میکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ایک رنگ رکھتا تھا۔

---

## حج اور عمرہ

### ایک بہت اہم اور تحقیقی بحث

ہجرت کے بعد آپ نے کتنے عمر سے کرے؟ [نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چار عمر سے ادا کئے سب کے سب ذی القعدہ کے ہیئتہ میں تھے۔]

پہلا حدیثیہ کا عمرہ ہے۔ یہ چھ بھری میں ادا کیا چنانچہ مشرکین نے خانہ کعبہ کے پاس قربانی کرنے سے روکا۔ اسی لئے آپ نے اور صحابہؓ نے حلق کروایا (سر منڈوایا اور احرام اتارا وہ واپس مدینہ میں تشریف لے آئے۔

دوسرہ عمرہ قضیبیہ یہ اگلے سال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تین مذہب قیام فرمایا۔ پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ عمرہ سال گذشتہ کے عمرہ کی قضا تھی جبکہ آپ کو روک دیا گیا تھا؟ یا یہ نیا عمرہ تھا؟

علمائے کرام کے اس سلسلہ میں دو قوم ہیں، اور احمد بن حنبل سے دو روایات ہیں ایک یہ کہ یہ قضا کا عمرہ تھا۔ ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے اور دوسرے کہتے ہیں یہ قضا نہیں تھا۔ یہ ماذک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

جو قضا کے قائل ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس کا نام عمرۃ قضا تھا۔ اور یہ نام اپنے حکم تابع ہے۔ دوسرگروہ کہتا ہے کہ یہاں قضا و مقاضاۃ کے ہم معنی

ہے، کیونکہ اس عمر میں اہل مکہ کے خلاف فیصلہ ہو گیا تھا۔ نہ کہ یہ قضیٰ قضائی قضاۓ سے ہے کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کا نام عمرہ قضیہ ہے مروی ہے کہ جن لوگوں کو کعبہ تک نہ جائے دیا گیا، ان کی تعداد چودہ سو تھی۔ اور عہد قضیہ میں یہ تمام صحابہؓ تشریف نہیں لائے۔ اگر قضاۓ کا عمرہ ہوتا۔ تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ یہی زیادہ صحیح مذہب ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ آنے والے صحابہؓ کو اس کی قضاۓ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تیسرا عمرہ وہ تھا جو آپ نے حج کے ساتھ ہی درج قرآنؐ کی صورت میں ادا فرمایا، یعنی سے زیادہ دلائل کی بناء پر قرآن کا تھا، جنہیں ہم انشاء اللہ آئندہ فکر کریں گے۔ چوتھا جوانہ سے چل کر عمرہ ادا فرمایا! جب آپ حنین کے لیے تشریف لے گئے پھر وہاں سے بوٹ کر مکہ تشریف لائے۔ تو جرانہ سے عمرہ ادا فرمایا۔

صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف کیے یہ تمام عمرے آپ نے ذی قعده میں ادا فرمائے۔ سوا اس کے جو حج سے تعاون تھا حدیثیہ کا عمرہ یا زمانہ حدیثیہ کا عمرہ۔ اگلے سیال ذی قعده کا عمرہ۔ جعلان سے عمرہ جب آپ نے وہاں حنین کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اور حج کے ساتھ عمرہ اور حضرت عبد اللہ بن مسیح کا قول ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے۔ ایک رجب میں کیا تھیں یہ ان کا وہی ہے، حضرت عائشہؓ کو جب اس کی خبر ہوئی۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر حمد فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا۔ یہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اور حضورؐ نے رجب میں قطعاً عمرہ نہیں کیا۔ اور وادقطنیؓ نے حضرت عائشہؓ نے جو روایت کی ہے کہ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کے لیے گئی۔ تو آپ نے افطار کیا اور میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے قصر کیا۔ اور میں نے مکمل نماز ادا کی۔ پھر میں نے عرض کیا، آپ پھر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ نے افطار کیا اور میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے قصر کیا اور میں نے مکمل نماز ادا کی۔

آپ نے فرمایا اے عائشہؓ تم نے اچھا کیا یا۔  
اُل حضرتؐ نے رمضان میں کبھی عمرہ نہیں کیا یہ حدیث غلط ہے۔ کیونکہ نبیؐ

صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قطعاً عمرہ نہیں کیا۔ اور آپ کی عمر کا شمار بھی متغیر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ام المؤمنین پر رحم فرمائے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بالکل عمرہ نہیں کیا اور حضرت عائشہؓ نے بھی فرمایا ہے کہ بنی ایلہ اللہ علیہ وسلم نے صرف ذی قعده میں عمرہ کیا (ابن ماجہ) وغیرہ۔

اور اس میں اختلاف بھی نہیں کہ آپ کے عمر سے زیادہ نہ تھے۔ اگر آپ نے رجب میں بھی عمرہ کیا ہوتا تو پانچ ہوتے۔ اور اگر رمضان میں بھی عمرہ کیا ہوتا تو پچھہ ہوتے۔ ہاں اگر یہ صورت ہو کہ بعض کہیں کہ آپ نے رجب میں عمرہ کیا۔ اور بعض کہیں کہ آپ نے ذی قعده میں عمرہ ادا کیا۔ تو یہ بھی خلاف واقع ہے۔ بلکہ آپ کے جملہ عمر سے تو ذی قعده میں ہوئے جیسا کہ حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ سے مردی ہے۔

اور سنن ابو داؤدؓ میں حضرت عائشہؓ سے مردی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں عمرہ کیا، یہ اگر دوست ہو تو جرانہ کے عمرہ میں ہو سکتا ہے۔ جب آپ شوال کے ہبہینہ میں تشریف لے گئے (حقیقت یہ ہے) کہ آپ نے وہاں ذی قعده میں احرام باندھا تھا۔!

مکہ کے باہر آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا آپ نے زندگی مجرایک عمرہ بھی مکہ سے باہر جا کر نہیں کیا جیسا آج کل عام طور پر لوگ کرتے ہیں، آپ نے تمام عمرے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کئے، نزول وی کے بعد آپ ۱۳ سال تک مکہ میں مقیم رہے، مگر کوئی روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ مکہ سے باہر جا کر آپ نے اس ساری مدت میں عمرہ کیا ہو۔ آپ نے جو عمرہ کیا ہے اور جو مشرع ہے وہ داخل مکہ کا عمرہ ہے یہ نہیں کہ حرم سے باہر چلے جائیں، اور عمر کی نیت کر کے پھر واپس آجائیں گے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ہمیشہ اسی طرح عمرہ کرتے رہے۔

**حج کے مہینہ میں عمرہ کرنا افضل ہے** | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مکہ میں پانچ مرتبہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ حدیبیہ تک پہنچے لیکن داخل ہونے سے روک دیئے گئے باقی چار مرتبہ میقات سے احرام باندھ لیا، حدیبیہ کے موقع پر ذال الحیفہ سے احرام باندھا تھا، دوسری مرتبہ آپ نے عمرہ ادا کیا تین دن قیام کیا پھر واپس تشریف لے آئے، تیسرا مرتبہ فتح کے ساتھ ماہ رمضان میں بغیر احرام کے داخل ہوئے، پھر عنین والپس آگئے، اُس کے بعد عمرہ کی نیت کر کے جرانہ سے مکہ میں داخل ہوئے، یہ عمرہ آپ نے رات کو کیا، اور رات ہی کو واپس آگئے۔ مکہ سے نکل کر جرانہ تک عمرہ کے لئے نہیں گئے جیسا کہ اپنے مکہ آج کل کرتے ہیں، آپ نے مکہ میں داخل ہوتے وقت احرام باندھا اور رات کو جب عمرہ کر دیا تو فوراً جرانہ واپس آگئے، اور رات وہیں گزاری جب صحیح ہوئی تو سرف کی گھانی سے نکل کر شارع عالم پر آگئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس عمرہ سے ناواقف ہیں۔

آپ کے تمام عمرے حج کے مہینہ میں ہوئے بر عکس مشرکین کے کروہ اشہر حج میں عمرہ کو مکروہ سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ بڑی گناہ کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا افضل ہے۔ آپ نے سال میں صرف ایک عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

(باقیر حاشیہ) (۱) کعبہ شریف کا طواف کرنا۔

(۲) صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنا۔

(۳) صمنڈانا، یا بالوں کو زیادہ سے زیادہ چھوٹا کر دینا۔

ان اركان کے بعد عمرہ کرنے والا، حج کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور بغیر کسی پابندی کے ایک علم باشدہ کی طرح مکہ میں رہ سکتا ہے۔

سال میں ایک ہی عمرہ کیا ایک سال میں دو مرتبہ نہیں کیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے سال میں دو مرتبہ بھی عمرہ کیا ہے دلیل میں وہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہیش کرتے ہیں جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، کہ آپ نے دو عمرے کئے ایک ذی قعده میں دوسرا شوال میں گویا ایک ہی سال میں دو عمرے کئے لیکن یہ حدیث وہ پر مبنی ہے، کیونکہ ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔

لیکن یہ سُنّہ بہر حال اختلافی ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک سال میں ایک سے زائد عمرہ نیزی نظر میں مکروہ ہے، لیکن اصحاب مالک میں سے مطرف اور ابن الجوزی کا قول ہے کہ ایک سال میں ایک سے زائد عمرہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، ابن الموز کا قول ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ایک ہی ہدیۃ میں دو عمرے کئے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ طاعات کی صورت میں اگر کوئی شخص رضائے الہی اور تقرب خداوند کا جو یا ہوتا سے کیوں روکا جائے؟ اور اس کی مانع ہتھ میں کوئی نفس بھی وارد نہیں ہوئی ہے۔ جہاں کا قول ہے کہ البیۃ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پانچ دن مستحب کرتے ہیں جن میں عمرہ نہیں کیا جاسکتا،

- (۱) یوم عرفہ کو عمرہ نار وابے،
- (۲) یوم نحر (قریبی) کے موقع پر بھی نہیں کیا جاسکتا،
- (۳) اور ایام تشریق میں بھی نہیں،

امام ابو یوسف کے نزدیک یوم نحر اور ایام تشریق میں عمرہ نار وابے۔ شافعیہ کے نزدیک متی میں رمی کے لئے رات گزارنے والے کو ایام تشریق میں عمرہ نہیں کرنا چاہئے۔

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ عمرہ کیا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ

ایک عمرہ سے دو سرے عمرہ تک یعنی اس در میانی وقفہ کا کفارہ ہے،! جو کس سال فرض ہوا، اس اس موڑ کو دی اضافاً ف نہیں کہ، بھرت کے بعد

مدینہ سے ماجھ وداع کے سوار آپ نے کوئی حج نہیں کیا، اور یہ بات بھی متفضہ ہے کہ یہ واقعہ شدید کا ہے۔

ترمذی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اسے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حج کئے، دو حج ہجرت سے پہلے اور تیسرا ہجرت کے بعد حج عمرہ کے، ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث سفیان کے پیش نظر یہ حدیث غریب ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے دریافت کیا، انہوں نے کہا ہیں اس سے واقع نہیں، ایک اور روایت کے مطابق وہ اس حدیث کو محفوظ نہیں خیل کرتے،

جب فرضیت حج نازل ہوئی، تو بغیر کسی تاخیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے چل کھڑے ہوئے، حج شہر یا شہر میں فرض ہوا، باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ وَالْوَالْحِجَّةِ وَالْعُمْرَةِ اللَّهُ تَوَيِّدُ آیت شہر میں حدیثیہ کے سال نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے فرضیت حج نہیں ثابت ہوتی، اس میں حرف اتحام حج اور اتمام عمرہ کا حکم ہے، اور یہ مفہوم وجوب کا مقتضی نہیں ہے۔

حج کے لئے آل حضرت کی مدینہ سے روانگی | جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا عزم فرمایا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ حج کو تشریف لئے جا رہے ہیں تو سب نے تیاریاں شروع کر دیں، تاکہ آپ کا شرف محیت حاصل کریں، حوال مدنیہ کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی گروہ درگروہ اسی مقصد سے آنا شروع ہو گئے راستے میں بھی، لوگوں کی جماعتیں، جو حدشمار سے خارج تھیں ساتھ ہوتی گئیں، آگے پیچے داہنسے بائیں حد نظر تک خلقت نظر آ رہی تھی۔

مدینہ سے آپ ظہر کے بعد روانہ ہوئے، یہ ذی قعدہ کا ہمینہ تھا، ظہر کی چار رکعتیں پڑھ کر آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اور انہیں احرام اور اس کے واجبات و سنن کی تعلیم دی، ابن حزم کہتے ہیں یہ جمعرات کا دن تھا، لیکن یہ

بات صحیح نہیں آپ سنی پھر کے دن حج کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے۔  
حرام کے لئے الگ سے دور کعتوں کی سند نہیں [غرض آپ نے مدینہ منورہ میں ظہر کی چار رکعت نماز ادا کی۔ پھر تیل ڈالا، یاس بدل، چادر اور ٹھی، اور ظہر و عصر کے مابین روانہ ہو گئے، مقام "ذر الحلیفہ" میں پڑا و کیا، یہاں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔ شب میں گزاری، یہاں آپ نے پوری پانچ نمازوں پڑھیں، عصر، مغرب، عشا، دوسرے دن کی فجر اور ظہر ازدواج مطہرات ہمراہ تھیں، ایک ایک کر کے آپ سب کے ہاتھ تشریف لے گئے جب احرام باندھنے کا رادہ کیا، تو غسل جنابت کے علاوہ تھا، ابن حزم نے غسل جنابت کے علاوہ کسی دوسرے غسل کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ ترک ذکر یا تو سہوا ہے یا عدم ثبوت کی بنابر، ظہر کی دور کعتیں (قصر) پڑھنے کے بعد مصلت پر بیٹھے بیٹھے آپ نے تمیل کی۔ اور آپ سے منقول نہیں کہ احرام کے لئے الگ سے دور کعتیں پڑھی ہوں، دسویں فرض ظہر کے)

آنحضرت کا یہ حج، حج قرآن تھا! [ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کا حج، دراصل حج قرآن تھا، اور اس دعوے کے ثبوت میں میں سے زیادہ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔

منجملہ ان کے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو قتبیہ نے لیٹ سے۔ انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عمرہ کے ساتھ ملا لیا، اور حج و عمرہ کے لئے ایک ہی طواف کیا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں عمران بن حصین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سلہ یعنی پوری نماز پڑھی، قصر نہیں کیا۔ (جعفری)

سلہ یعنی پوری نماز نہیں پڑھی، قصر کیا۔ (جعفری)

نے حج اور عمرہ جمع کیا، اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ آپ کا آخری حج ہے۔  
**حضرت علیؑ اور حضرت عثمانؓ میں اختلاف ہے** | تمشق یا حج اور عمرہ کا جمع کرنا، مسیحین  
 ہے، سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ مقام عسقان میں علیؑ اور عثمانؓ کا اجتماع ہوا،  
 عثمان نے تمشق سے یعنی حج اور عمرہ کو جمع کرنے سے منع کیا۔

**علیؑ نے کہا، ”جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے قمر و کس طرح رہے ہو؟“**

**عثمانؓ نے کہا، ”ابنی یہ باتیں رہنے دو“!**

**علیؑ نے جواب دیا۔ میں تمہیں کس طرح ایسی بات کرنے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا،**  
 پرانا نچہ جب عثمان نے علیؑ کو اپنی رائے پر مصروف کیا تو حج اور عمرہ کو جمع کر لیا۔

یہ تو مسلم کے الفاظ تھے، بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ علیؑ اور عثمانؓ میں اختلاف ہائے  
 پیدا ہو جیب کر یہ دونوں مقام عسقان میں تھے، یہ اختلاف تھا جمع تمشق کے بارے  
 میں، علیؑ نے کہا،

”تمہارے اس فعل کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے لوگوں کو روکو، ا!  
 پھر جب گفتگو بڑھی تو عثمان نے بات مان لی۔

بخاری ہی میں مروان بن حکم کی حدیث ہے کہ جب عثمانؓ نے تمشق، یعنی حج اور عمرہ  
 کو جمع کرنے سے روکا، تو میں نے دیکھا کہ علیؑ نے دونوں کو جمع کر لیا، اور یہ اواز بلند کیا۔

”بلیک بلجیر و ملرہ، ا!  
 پھر فرمایا ”و کسی شخص کے کہنے سے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک  
 نہیں کر سکتا، ا!  
 بخاری کی اس روایت سے جن امور پر روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہیں؛

— ۰ حج اور عمرہ کے ملانے (قرآن) کو، یعنی جمع کرنے کو یہ اصحاب ”تمشق“ کے نام سے

بھی یاد کرتے تھے۔

- ۰ آں حضرتؐ سے قرآن یا تمتع ثابت ہے،

- ۰ حضرت عثمانؓ کو بھی یہ فعل رسولؐ تسلیم تھا، ورنہ جب حضرت علیؓ نے انہیں ٹوکا تھا کہ آپ اس کام سے کیسے روک سکتے ہیں جو رسول اللہؐ سے ثابت ہے تو حضرت عثمانؓ کو اگر اس واقعہ کی واقعیت سے انکار ہوتا تو صاف صاف انکار کر دیتے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے تردید نہیں کی بلکہ سنتِ نبوی کی اقتدا کی یعنی حج و عمرہ کو جمع کیا،

- ۰ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ کی یہ سنت مسوخ نہیں ہوئی تھی۔

اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے، آخرہ سی عمرہ وہ تھا جس کے ساتھ آپؐ نے حج بھی جمع کر لیا تھا یہ حج وداع کا واقعہ ہے،

تمتع سے مراد قرآن یعنی حج اور عمرہ ملانا ہے، اس باب میں احادیث تقویماً متفق علیہ ہیں اور کچھ اختلاف

ہے تو بہت معمولی سا، صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا۔ اور یہ حضرات (صحابہ) تمتع سے مراد قرآن (یعنی حج و عمرہ کا ملانا) یا کرتے تھے۔

عمران بن حصین کی روایت، قارن اور تمتع ایک ہیں بخاری و مسلم میں مطرف

کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو جمع کیا اور اس کام سے کہی نہیں روکا، یہاں تک کہ آپؐ کی وفات ہو گئی، اور قرآن میں بھی ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے اس کا عدم جواز ثابت ہوتا ہو۔

ایک اور روایت انہی عمران بن حصین کی ہے کہ رسول اللہ نے حج تمتع کیا۔ اور ہم نے بھی آپؐ کے ساتھ دونوں کو ملا یا۔

اور یہ عمران اجل سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں، یہ خبر دیتے ہیں کہ آپ نے تمتنع کیا۔ آپ نے حج اور عمرہ کو جمع کیا، صحابہ کی زبان میں قارن، ممتنع کو کہتے تھے۔ اسی طرح جملہ خلافگئے راشدین یہ بات مانتے تھے، عمران نے اسی اسانید کے ساتھ روایت کی ہے کہ آنحضرت نے حج و عمرہ کا قرآن کیا، جسے دوسرے الفاظ میں وہ تمتنع کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اسی طرح انس صحابی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج و عمرہ کا ساتھ ساتھ تلبیہ کرتے دیکھا،

**آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ** غماز ظہر کے بعد آپ نے بہ آواز بلند تر کیا، جو یہ تھا۔

یعنی؛ اے پروردگار میں حاضر ہوں، اے پروردگار، تیرا کوئی ساجھی نہیں، میںے حاضر ہوں، بے شک ہر طرح کی حمد، اور نعمت کا توہی سزاوار ہے، حکومت اور فرمان روائی بھی تیری ہی ہے، کوئی تیرا ساجھی نہیں۔

یہ تلبیہ آپ نے بہ آواز بلند کیا۔ یہاں تک کہ تمام صحابہ نے اسے سن لیا۔ آپ نے حسب فرمان خداوندی انہیں یہ حکم دیا کہ وہ بھی زور زور سے تلبیہ کہیں۔

**کیا حرم، محل یا ہودج کا استعمال کر سکتا ہے؟** یہ سفر حج آپ نے سواری پر کیا، نہ محل استعمال کیا،

نہ ہودج، نہ عماری،

اس بارے میں کہ حرم (احرام باندھنے والے) کو آیا، محل، ہودج، یا عماری پر بیکھتا چاہیئے یا نہیں؟ اختلاف ہے، ایک قول جواز کا ہے، یہ امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، دوسرا قول ممانعت کا ہے یہ امام مالک کا مذہب ہے۔



# حج سے متعلق بعض اسلام فقہی مسائل

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے استنباط مسائل

اسی سفر حج کے مابین مقام ذوالحلیفہ میں حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عبیس کے ہاں زیگی ہوئی، یہ نومولود، محمد بن ابو بکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کو حکم دیا کہ وہ غسل کر لیں، سفر جاری ہیں اور احرام باندھ لیں،

اس واقعہ سے تین سنتیں ثابت ہوئیں:

- ۱۔ حرم کے لئے غسل جائز ہے،
- ۲۔ حرم ہونے کے باوجود وہ عورت غسل کر سکتی ہے جو ایام سے ہو،
- ۳۔ جو عورت ایام سے ہو، اس کے لئے احرام باندھنا جائز ہے،

حرم صید حلال کا گوشت کھا سکتا ہے | اس کے بعد تلبیر کے ساتھ پھر سفر جاری ہو تو گیا، مقام روحاء میں جب یہ قافلہ پہنچا تو

ایک گور خر نظر آیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا،

”اے چھوڑ دو، ممکن ہے اس کا ماں آجائے؟“

انتہے میں ماں آگیا، اور اس نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ اس گور خر کو قبول فرمائیجئے؟“  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انھوں نے سب  
میں تقسیم کر دیا۔

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ:

— محرم صید حلال کا گوشت کھا سکتا ہے، جو غیر محرم نے پیش کیا ہو بشرطیکہ وہ خاص  
اس کے لئے شکار نہ کیا گیا ہو۔

— کسی چیز کا ہبہ کرنا صرف مخصوص الفاظ ہی کے ذریعہ نہیں ہوتا مثلاً ”میں نے  
یہ چیز کو ہبہ کی“ بلکہ ایسے الفاظ سے بھی جائز ہے جن سے یہ مطلب نکلتا ہو۔

— ایسا گوشت جس میں ہڈیاں بھی ہوں، اندازے سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

— صید کی ملکیت اثبات اور ازالہ امتناع سے ثابت ہوتی ہے۔

— گور خر کا گوشت حلال ہے۔

— تقسیم کا کام انجام دینے کے لئے توکیل کسی کو اپنا توکیل بنانا، جائز ہے،

# قرآنی اور متعلقہ مسائل

**اونٹ اور گائے کا مسئلہ** اس باب میں اختلاف ہے کہ ایک گائے اور اونٹ لکھنے افراد کی جانب سے درست ہوگی۔ ایک قول میں سات آدمیوں کی طرف سے درست ہے۔ یہ شافعی اور احمدؓ کا قول ہے۔ ایک قول دس کا بھی ہے یہ اسحاق کا قول ہے۔ اور ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مقام تقسم کئے تو اونٹوں کو دس کے برابر بتایا۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے طرف سے ایک گائے ذبح کی اور (ازواج مطہرات) کی تعداد نو تھی اور حضرت سفیانؓ نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت چابرؓ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جج میں دس آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کیا یہ حدیث مسلمؓ کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے اس کی تحریک نہیں کی بلکہ انہوں نے اس روایت کی تحریک کی ہے کہ ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جج میں تمہیل کہہ رہے تھے۔ ہمارے ہمراہ عورتیں اور بچتے بھی تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم نے کعبہ مکرہ کا طواف کیا اور صفا اور مرود کے درمیان سعی کی، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو جائیں۔ اور ہم میں سے ہر سات آدمیوں کی جانب سے ایک اونٹ کافی ہوگا“

اور سند میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، فرمایا کہ ہم سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قربانی کا موقع آیا۔ تو ایک گائے میں ہم سات آدمی اور ایک اونٹ میں دس آدمی شرکیں ہوئے (نسائی۔ ترمذی۔ حسن غریب) اور صحیحین میں ائمہ سے مروی ہے، کہ حدیثیہ کے سال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ سات آدمیوں اور ایک گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لئے ذبح کی، اور حضرت حدیثہ فرماتے ہیں، "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر ایک گائے میں سات آدمیوں کو شرکیں فرمایا۔ رسد احمد، ان احادیث کی تخریج تین وجوہ سے ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ سات کی احادیث بکثرت اور زیادہ صحیح ہیں۔ اور بلیہ کہا جائے گا، کہ غنائم کے سلسلہ میں اونٹ دس بکریوں کے برابر ہو گا۔ تاکہ تقسیم برابر رہے، لیکن قربانی کے معاలہ میں جیکہ اندازہ شرعی مطلوب ہو، تو سات کی طرف سے درست ہو گا۔ اور یہ کہا جائے گا، کہ یہ (اندازے) اختلاف ازمنہ اور اختلاف اوطان کے سبب مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعض مواقع پر اونٹ دس کے برابر تھا۔ تو آپ نے دس کی طرف سے فرمادیا۔ اور بعض اوقات سات کے برابر تھا۔ تو سات کی طرف سے درست بتایا۔

اور ابو محمدؒ فرماتے ہیں۔ کہ آپ نے اپنی ازواج مطہراتؓ کی جانب سے ہدی کے طور پر ایک گائے ذبح فرمائی۔ اور قربانی کے طور پر ایک گائے ذبح فرمائی۔ اور اپنی جانب سے دو دنبے (بھیڑیں فر)، قربانی کے اور اپنی جانب سے تریستھے ہدی ذبح کیے۔

**رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں نحر کیا** اور انہیں بتایا کہ منی تمام کا تمام نحر (جلائے قربانی) ہے

اور مکہ کا میدان راستہ بھی ہے اور منحر بھی ہے " یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ نحر صرف منی سے مختص نہیں۔ بلکہ مکہ کے میدان

میں جہاں بھی خرد قربانی، کرداری جائز ہے، جیسے آپ نے عرفہ میں وقوف کیا۔ تو فوایا میں نے یہاں وقوف کیا (لیکن) ہمارا عرفات جائے وقوف ہے۔ اور آپ نے مزدلفہ میں وقوف کیا تو فرمایا۔ کہ میں نے یہاں وقوف کیا۔ (لیکن) مزدلفہ سب کا سب جائے وقوف ہے۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا۔ کہ کیا منی میں آپ کے لئے کوئی بناء (غیرہ وغیرہ) بنایا جائے؟ تاکہ گرمی سے حفاظت ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا۔

”نہیں م یعنی ہر اس آدمی کے لئے جائے وقوف ہے جو وہاں پہلے چھپج جائے“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ (منی) میں تمام مسلمانوں کا اشتراک ہے اور جو بھی کسی جگہ پہلے چھپج جائے، وہ وہاں کا نیادہ حقدار ہے۔ یہاں تک کہ وہاں سے کوچ کر جائے البتہ اس (جگہ) کا وہ مالک نہیں بن سکتا۔

قربانی کے بعد حلق | جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خر سے فارغ ہوئے تو حجاج کو بلا یا۔ اور سر کا حلق کا حلق کروایا۔ اور حمام معمر بن عبد اللہ استرا آپ کے سر پر کھڑے تھے، اس کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا: اے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنی کپیشیوں پر اختیار دیا ہے۔ حالانکہ تیر را تھامیں استڑا ہے معمر نے عرض کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول۔ بے شک یہ محمد بھر اللہ کی نعمت ہے۔

آپ نے فرمایا: هاں! ربِ شک،

امام احمد بن نیز بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری میں اسے روایت کیا ہے: اور بعض کا خیال یہ ہے، کہ حجاج جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق راس کیا وہ معمر بن عبد اللہ بن حنظلة بن عوف ہیں۔

پھر آپ نے حجاج سے فرمایا اے (مونڈ) اور اپنی دائیں جانب کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب وہ فارغ ہوا۔ تو آپ نے اپنے والوں پر وہ بال تقسیم فرمادیے۔ پھر

حلق رجام کو اشارہ کیا۔ تو اسی نے بائیں طرف کا حلق کیا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ ابو طلحہؓ یہاں ہے؟ چنانچہ موئے مبارک ان کو عطا فرمادیے۔ اسی طرح صحیح مسلمؓ میں ہے۔ اور صحیح بخاریؓ میں حضرت ابن سییرینؓ نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تو ابو طلحہؓ نے سب سے پہلے موئے مبارک حاصل کئے۔ اور یہ روایت مسلمؓ کی ہدایت کے مناقض نہیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ابو طلحہؓ کو بھی دوسروں کی طرح دائیں طرف سے حاصل ہوئے، اور بائیں طرف سے مخصوص طور پر حاصل ہوئے۔ لیکن امام مسلمؓ نے حضرت انسؓ سے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ پوری کیا، اور قربانی کے جانور کو نحر کیا۔ اور حلق کیا تو حلق رجام کی طرف دائیں جانب (سر سے) بڑھائی، اُس نے حلق کیا پھر آپؐ نے ابو طلحہؓ انصاری کو بلایا۔ اور یہ (حصہ) انہیں عطا فرمایا۔ پھر آپؐ نے بائیں جانب اس کی طرف بڑھائی، اور فرمایا کہ حلق کرو۔ (موندو) اس نے حلق کیا۔ تو آپؐ نے ابو طلحہؓ کو موئے مبارک عطا کر کے فرمایا، اسے لوگوں میں تقسیم کر دو۔

اس روایت میں جیسا کہ آپؐ دیکھ رہے ہیں ابو طلحہؓ کے حصہ میں دائیں طرف کے موئے مبارک آتے اور وہلی روایت میں بایاں حصہ مذکور تھا۔ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن عبد الواحد مقدس بتاتے ہیں۔ مسلمؓ نے حفص بن غیاث اور عبد الاعلی بن عبد الاعلی سے انہوں نے ہشام بن حسان سے انہوں نے محمد بن سییرین سے انہوں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپؐ نے ابو طلحہؓ کو بائیں طرف کا حصہ عطا فرمایا۔ نیز انہوں نے سفیان عینی سے انہوں نے ہشام بن حسان سے روایت کیا کہ آپؐ نے ابو طلحہؓ کو دائیں جانب کے بال عطا فرمائے۔ اور ابن عونؓ کی وہ روایت جو انہوں نے ابن سییرینؓ سے نقل کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سفیانؓ کی روایت کو قویٰ کرتی ہے۔

میں کہتا ہوں، کہ ابن عون کی روایت سے ان کا مطلب یہ ہے جو ہم نے ابن سییرینؓ

سے بخاری کے طریق پر نقل کیا۔ اور بتایا کہ ابو طلحۃؓ نے اس میں سبقت حاصل کی وہاں سے مخصوص تھا۔ اور جس کا یہ خیال ہو کہ ابو طلحۃؓ کے لئے جو حصہ مخصوص ہوا وہ بایاں تھا (واقعہ یہ ہے) کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا عام تھی۔ پھر تخصیص فرمادی، اور عطا کرنے میں بھی آپ کی عادت طبیبہ تھی۔ اکثر روایات کا یہی مطلب ہے۔ امام احمدؓ نے محمد بن زید کی حدیث نقل کی۔ انہیں ان کے والد نے بتایا۔ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائے تھریں موجود تھے۔ آپ قربانیاں تقسیم فرمادے ہے تھے تو قرش کے ایک آدمی کو کچوڑہ ملا۔ اور نہ اس کے ساتھی کو (کچہڑہ ملا) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچڑا سامنے رکھ کر سر کا حلق کروایا۔ اور اسے موئے مبارک عطا فرمائے۔ اس نے ان میں سے کچوڑہ لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے ناخن کتر و اسے۔ اور اس آدمی کے ساتھی کو دے دیے، اس نے بتایا۔ کہ آپ کے بال ہمارے پاس مہندی اور کسم میں رنگے ہوئے موجود ہیں۔ اور حلق کروانے والوں کے لئے تین بار بخشش کی دعا فرمائی۔ اور قصر کرانے والوں کے لئے ایک بار دعا فرمائی۔ نیز زیادہ تر بکہت ہی کثرت کے ساتھ صحابہؓ نے حلق کروایا۔ اور بعض نے قصر بھی کروایا۔ یہ وہی قول رپورا ہو رہا ہے کہ لدت خلق المسجد للحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین سو سکر و مقصرين۔

یعنی بلاشبہ تم مزور مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اگر اللہ نے چاہا امن سے حلق کرواتے ہوئے اپنے سروں کا اور قصر کرواتے ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول۔ کہ ”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کے لئے احرام سے قبل اور حلال ہونے سے قبل خوشبو لگائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حلق نسک میں سے ہے اور مطلقاً منوع نہیں۔“

**آل حضرت کا طواف افاضہ** [پھر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل سوار پر سرکملہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اور طواف افاضہ کیا۔ یہی آپ کا طواف زیارت بھی تھا۔ یہی ابتدائی طواف تھا اور اس کے علاوہ

آپ نے کوئی طواف نہیں کیا۔

اس مسئلہ میں تین گروہوں کا اختلاف ہے۔

ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے دو طواف قدم اور دوسرا طواف افاضہ۔

دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ چونکہ آپ قارن تھے اس لئے آپ نے اس طواف کے ساتھ ساتھ سعی بھی کی۔

تیسرا گروہ کا خیال ہے کہ آپ نے اس دن طواف نہیں کیا بلکہ طواف نے یاد کورات تک منور کر دیا۔

اس اشکال میں ہم صائب رائے پیش کرنے ہیں، اور ہم غلط فہمی کا سبب بھی واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

اہم فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے دریافت کیا کہ جب ممتنع واپس ہو تو کتنے طواف اور سعی کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ حجج کے لئے طواف اور سعی کرے اور پھر زیارت کے لئے طواف کرے۔

(شیخ زمانی) میں فرماتے ہیں کہ جب قارن اور مفرود یوم الخر سے قبل مکہ نہ پہنچ سکیں اور مذہبوں نے طواف قدم کیا ہو۔ تو اس صورت میں دونوں کامیابی حکم ہے کیونکہ وہ دونوں طواف زیارت سے طواف قدم سے ابتداء کر رہے ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس پر نص بتائی ہے۔ اور حضرت عائشہؓؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ اور صفا و مروہ کے عمرہ کا ارادہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے طواف کیا۔ پھر حرام آتا۔ پھر منی سے واپس آ کر حج کے لئے دوسرا طواف کیا اور جنہوں نے حج و عمرہ اکٹھا ادا کیا۔ تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اس لئے احمدؓؓ نے حضرت عائشہؓؓ کے قول سے یہ سمجھا کہ ان کا طواف حج کے لئے تھا۔ اور طواف قدم تھا۔ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ طواف قدم شروع ہے۔ اس لئے طواف زیارت اسے ساقط نہیں کرتا۔ جیسے مسجد میں

داخل ہوتے وقت فرض نماز پڑھنے سے قبل تحریۃ المسجد کی حیثیت ہے۔ خرقی رونے مختصر میں لکھا ہے۔ کہ اگر ممتنع ہو تو اسے چاہیے کہ کعبہ مشریف کا سات چکر سے طواف کرے۔ جس طرح اس نے عمرہ کے لیے کیا تھا۔ پھر لوٹ آئے اور خانہ کعبہ کا زیارت کی نیت سے طواف کرے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَيَطْوُفُوا بِالْبَيْتِ الْمُتَّقِ، یعنی اور انہیں چاہیے کہ وہ بیت علیق (قبلہ مکرہ) کا طواف کریں۔

(اس سابقہ عبارت میں اشکال ہے) اور اس اشکال کا سبب یہ ہے کہم المُؤْمِنُونَ (عائشہؓ) نے ممتنع اور قارن میں فرق کیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ جو قرآن والوں نے منی سے واپس ہونے کے بعد ایک طواف کیا اور جن لوگوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے منی سے واپسی کے بعد جو کے ارادہ سے دوسرا طواف کیا؟ اس لیے یہ یقیناً طواف زیارت کے علاوہ کوئی اور طواف ہے۔ کیونکہ (طواف زیارت) میں قارن اور ممتنع دونوں شریک نہیں۔ اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ شیخ ابو محمدؓ نے (حضرت عائشہؓ) کا قول متعتین میں یہ دیکھا کہ انہوں نے منی سے واپسی کے بعد ایک اور طواف کیا۔ (شیخؓ) نے فرمایا، اس میں کوئی ایسی عبارت نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو۔ کہ انہوں نے دو طواف کیئے۔ (اس مقام پر) شیخؓ کا اعتراض درست ہے۔ لیکن اشکال پھر بھی رفع نہیں ہو سکتا ایک گروہ تو یہ کہتا ہے، کہ یہاں عروہ یا ان کے لڑکے ہشام کی طرف سے اضافہ کلام ہے جو الفاظ حدیث میں داخل ہو گیا۔ اور اب الگ ہو کر معلوم نہیں ہوتا۔

”اگر یہ (رواہ بت درست ہو) تو زیادہ سے زیادہ پہ ہو گا۔ کہ یہ مرسل ہے اور اس طرح بھی اشکال دور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صائب رائے یہی ہے کہ جس طواف کے متعلق حضرت عائشہؓ نے بتایا اور ممتنع و قارن کے درمیان فرق کیا، اسے صفا اور مروہ کے درمیان کا طواف (سعي) سمجھا جائے۔ نہ کہ کعبہ مشرفہ کا طواف۔

اس طریقہ پر تمام اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنینؑ نے قرآن والوں کے متعلق بتایا کہ انہوں نے (صفا و مروہ) کے درمیان ایک ہی طواف پر اکتفاء کیا۔ اور یوم آخر کو دوسرا طواف ان کی طرف فسوب نہیں ہوا۔ یہی حق ہے۔ اور متنعین کے متعلق فرمایا، کہ انہوں نے (صفا و مروہ) کے درمیان منی سے واپسی کے بعد رجع کے لئے دوسرا طواف کیا۔ یہ پہلا عمرہ کے لیے تھا۔ جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ اور حدیث کا یہ مطلب ان کی طرف سے دوسری مردی حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا۔

”تجھے تیرے رجع اور عمرہ کے لئے خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان (سعی) کافی ہے۔“

اور (حضرت عائشہؓ) قارن تھیں۔ نیز یہ تاویل جمہور علماء کے مطابق بھی ہے۔ لیکن یہاں حضرت جابرؓ کی روایت سے اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو صحیح مسلم میں مروی ہے، کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے صفا و مروہ کے درمیان ایک ہی طواف کیا“ اب جو یہ کہتا ہے۔ کہ متنع کو ایک ہی سعی کافی ہے یہ روایت اس کے مطابق ہے۔ ایک روایت امام احمدؓ سے بھی (اسی کی حمایت میں) منقول ہے۔ اس پر ان کے بیٹے عبداللہ وغیرہ کی نص مذکور ہے۔ اس بنابر کہا جائے گا کہ حضرت عائشہؓ نے ثابت کیا اور حضرت جابرؓ نے نفی کی۔ اور ثابت کرنے والا نقی کرنے والے سے مقدم ہوتا ہے؛ یا یوں کہا جائے گا کہ حضرت جابرؓ کا مطلب تھا۔ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رجع قرآن کیا اور ابو بکرؓ عمرؓ علی رضی اللہ عنہم کی طرح بدی لے گئے۔ اور با میں جانب چلے تو انہوں نے ایک ہی سعی کیا۔ اور اس سے عام صحابہؓ مراد نہیں ہو سکتے۔ یا حضرت عائشہؓ کی حدیث معلوم سمجھی جائے گی۔ یعنی اس میں قول ہشام داخل ہے (ام المؤمنینؑ) کی روایت میں علمائے کرام کے یہ تین طرق ہیں۔

فقہا اور اکابر کے اقوال [اور جس کا خیال یہ ہے کہ متنع رجع کا حرام باندھنے کے بعد

اور منی کی طرف نکلنے سے قبل طواف کرے اور قدوم کی سعی کرے۔ یہ اصحاب شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ منسوس ہے یا نہیں۔ ابو محمدؒ فرماتے ہیں مکہ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور کسی صحابیؓ نے کیا۔ نہ آپ نے اس کا حکم فرمایا اور نہ کسی نے نقل کیا ہے۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو مزروعی نہیں سمجھتا۔ کہ اہل مکہ حج کا احرام باندھ لینے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں یا طواف کریں یہاں تک کہ منی سے واپس آجائیں۔ منی سے واپس ہونے کے بعد یہ لازم ہیں ہادہ ابن عباسؓ کے قول پر جھوڑ علماء مالکؒ، احمد، ابو حنیفؓ اور اسحاق وغیرہ کا فتوی ہے اور جنہوں نے اس مذہب کو پسند کیا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جب (اہل مکہ) حج کا احرام باندھ لے۔ تو وہ آنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسے چاہئیے کہ وہ طواف کرے اور قدوم کے لیے سعی کرے۔ ان کا کہنا ہے، کہ طواف اول گزو کی طریقے تھا۔ اب طواف قدوم ہاتھ رہ گیا۔ جو اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ اس لیے احرام حج کے بعد اس کے لیے یہ مستحب ہے۔

یہ دونوں روایتیں ضعیف اور کمزور نہیں۔ یہونکہ آپ نے جب عمرہ کا طواف کیا تو آپ تارن تھے۔ گویا آپ کے طواف نے طوافِ قدوم سے مستغفی کرو یا جیسے کوئی مسجد میں داخل ہو۔ اور جماعت کھڑی دیکھے۔ اب اس کے داخل ہونے پر وہ (جماعت) ہی تحریک المسجد کے فائم مقام ہو گی۔ اور اس سے مستغفی کر دے گی۔ نیز صحابہؓ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا احرام باندھا۔ تو انہوں نے اس کے بعد طواف نہیں۔ حالانکہ ان میں سے زیادہ تر متین تھے۔

اور حسن نے امام ابو حنیفؓ سے روایت کیا ہے۔ کہ اگر وہ زوال سے قبل تزویہ کے دن احرام باندھتے طواف کرتے اور سعی قدوم کر لیتے اور اگر زوال کے بعد احرام باندھتے تو طواف نہ کرتے۔ اور انہوں نے دونوں اوقات میں فرق کیا۔ اس طرح کرو زوال کہ فوراً بعد منی کی طرف نکل گئے۔ چنانچہ خروج کے باعث وہ کسی دوسری طرف مشغول

نہ ہوئے (لیکن) اگر زوال سے قبل ہوتا تو نہ نکلتے۔ بلکہ طواف کرتے۔ ابن عباسؓ اور جمہور کا قول ہی صحیح اور صاحبہنگ کے عمل کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق ہے آپؐ نے دن میں طواف کیا امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ان روایات میں صحیح تر نافعؓ کی حدیث ہے۔ جوانہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی اور نیز حضرت جابرؓ کی حدیث اور حضرت ابی سلمہؓ کی حدیث جوانہوں نے حضرت عائشہؓ سے نقل کی ہے، یعنی آپؐ نے دن کو طواف کیا۔

میں کہتا ہوں کہ طواف کے قسمیہ (نام رکھنے) سے غلطی پیدا ہو گئی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف و داع و رات تک مخفر کر دیا۔ جیسا کہ صحیحین میں سے حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ اس طرح حضرت عائشہؓ نے حدیث ذکر کی حتیٰ کہ بتایا۔ ”ہم محب میں اترے تو آپؐ نے عبدالرحمان بن ابو بکرؓ کو بلایا۔ اور فرمایا۔

حرم سے اپنی ہمشیر کے ہمراہ نکلو۔ پھر طواف سے فارغ ہو جاؤ۔ اس کے بعد میرے پاس یہاں محب میں واپس پہنچ جاؤ۔

فرماتی ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمہ پورا کر دیا۔ اور ہم نصف شب کے وقت طواف سے فارغ ہوئے۔ پھر ہم آپؐ کے پاس محب آگئے۔

آپؐ نے دریافت فرمایا، تم دونوں فارغ ہو گئے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ تو آپؐ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے۔ اور اس کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد آپؐ نے مدینہ کی طرف رخ مبارک کر کے سفر شروع کر دیا۔ اس طرح یہ وہ طواف ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شب تک مخفر کر دیا تھا۔ اور الجوز بیریا جس نے اسے روایت کیا اس نے غلطی کی۔ اور بتایا کہ یہ طواف نذیارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طواف میں اور نہ طواف وداع میں رمل کیا۔ بلکہ آپؐ نے طواف قدم کیا۔

## تمکیم طواف کے بعد مزموم پر تشریف اوری

اود (لوگ) پانی پی رہے تھے۔ آپ نے اگر لوگ تم پر غالب نہ آ جاتے تو میں اُترتا۔ اور تمہارے ساتھ پتیا۔ پھر انہوں نے آپ کو ڈول دیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت اس عمل رسول سے مسوخ ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں: ” بلکہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ نہیٰ اختیاری ہے۔ اور ترک اولیٰ بعض کے نزدیک فعل مژو رہتا تھا۔ اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔

کیا آپ اس طواف میں سوار تھے یا پیا وہ؟ تو صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبتو الوداع میں اپنی سواری پر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور آپ اپنے عصائے مبارک سے مجرماً سود استلام (چھونا) کر رہے تھے۔ تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں۔ اور لوگ آپ سے (مسائل) دریافت کر سکیں۔ کیونکہ انہوں نے آپ کو گھیر کھا تھا۔ اور صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے فرمایا: کہ جبتو الوداع میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ہی پر طواف کیا۔ اور آپ عصائے مبارک سے استلام (چھونا) کر رہے تھے۔ اور یہ طواف وداع نہ تھا کیونکہ یہ رات کا وقت تھا۔ اور وہ سب سے طواف قدم بھی نہ تھا۔ ایک توجیہ کہ طواف قدم میں صحیح روایت سے رمل ثابت ہے اور یہ بھی کسی نے نہیں کہا۔ کہ سواری نے آپ کو لے کر رمل کیا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود رمل کیا۔ دوسرے قول عمر بن شرید ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ طواف کیا۔ تو آپ کے قدم مبارک زمین پر ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ ایک گروہ کے پاس تشریف کے آئے۔ اس کاظماً ہر مطلب یہ ہے کہ جب صحابہؓ نے آپ کے ہمراہ طواف کیا۔ تو وہ اپنی تک آپ کے قدم مبارک زمین سے نہ لگے۔ اس سے طواف کی دور کعنیوں کی نفی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ان کی حالت معلوم ہی ہے۔

## آپ کی منیٰ کی طرف تشریف اوری

صیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر (قریبی) کے دن تشریف لے گئے۔ پھر واپس ہوئے۔ اور منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ بالکل اسی طرح حضرت عائشہؓ کی روایت ہے ان دونوں میں سے ایک کو دوسرا بے ترجیح دینے میں اختلاف ہے۔

ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ اور جابرؓ کا قول اولی ہے اور ایک جماعت نے ان کا اتباع کیا ہے۔ اس قول کو کئی طرح سے ترجیح دی گئی۔ ایک یہ کہ پہ دو (راویوں) کی روایت ہے۔ اور یہ صورت ایک سے بہتر ہے۔ دوسرے حضرت عائشہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں سے اخض ہیں۔ اور انہیں وہ قرب و خنسیں حاصل ہے۔ جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ تیسرا مج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابرؓ کی سیاق حدیث اقل سے آخر تک مجب سے زیادہ مکمل ہے اور انہوں نے اس واقعہ کو اس اہتمام سے حفظ و ضبط کیا ہے، کہ اس کی جزئیات بلکہ دو امور تک جو مناسکِ رحیم سے غیر متعلق ہیں نہیں بھی یاد رکھا ہے، یعنی راستہ میں اجتماع کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اور پھر وادی میں آپ کی فضائی حاجت اور خفیف سا وضو، اب جس نے اس قدر یاد رکھا ہے۔ اس نے یقیناً یوم النحر کو مقام نماز زیادہ اہتمام سے یاد رکھا ہوگا دوسرے گروہ نے بعض امور کی بنا پر حضرت ابن عمرؓ کے قول کو ترجیح دیے ہے۔ مثلاً یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ تو صحابہؓ نے بھی ایکی یا چھوٹی چھوٹی گروہوں کی صورت میں منیٰ میں نماز نہیں پڑھی۔ انہیں تو ایسے امام کے پیچے نماز پڑھنا واجب تھا۔ جو آپ کی طرف سے نائب ہو۔ اور یہ بات کسی نے نقل نہیں کی۔ اور نہ کسی نے یہ کہا ہے۔ کہ آپ نے (فلان) کو نائب مقرر کیا۔ جو انہیں نماز پڑھائے۔ دوسرے اگر آپ نے کہہ میں نماز پڑھی ہوتی۔ تو آپ کے پیچے اہل کہہ میں سے کچھ مقیم لوگ بھی ضرور ہوں گے۔

اور آپ نے انہیں اپنی اپنی نمازیں مکمل کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ لیکن یہ منقول نہیں۔ کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سلام کے بعد اپنی اپنی نمازیں مکمل کیں۔ جب یہ منقول نہیں بلکہ اس کی مکمل نفی معلوم ہے۔ تو پتہ چلا۔ کہ آپ نے کہہ میں اس وقت نماز (ظہر) نہیں پڑھی۔ تیسرا ہے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث متفق علیہ ہے۔ اور حضرت جابرؓ کی روایت مسلم کے افراد میں سے ہے۔ اس لئے حضرت ابن عمرؓ کی روایت زیادہ صحیح ہے اور چونکہ اس کے راوی زیادہ ثقہ و احفظ ہیں۔ اس لئے حاتم بن اسماعیل کی حفظ عبید اللہ کے مقابلہ میں اور جعفر کی نافع کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے؟ چوتھے حضرت عائشہؓ کی حدیث وقت طواف سے متعلق مضطرب ہیں۔ کیونکہ ان سے یہ روایت تین طرق سے مردی ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے دن کو طواف کیا۔ دوسرا ہے آپ نے رات تک طواف مؤخر کر دیا۔ تیسرا ہے یہ کہ آپ دن کے آخری حصہ میں چلے۔ چنانچہ اس میں وقت افاضہ اور جائے نماز ٹھیک طور پر متعین نہیں، بخلاف ابن عمرؓ کے (کہ وہاں ہربات متعین ہے) پانچویں حضرت عائشہؓ کی روایت واضح نہیں۔ کہ آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آخر میں چل پڑے اور آپ ظہر کی نماز پڑھ کچکے تھے“ اپھر آپ منی کی طرف تشریف لائے۔ اور وہاں ایام تشریق کی راتوں میں ٹھہرے رہے۔ یہاں تک کہ جب سورج نائل ہو جاتا تو آپ ہر جمعہ کو سات کنکر مارتے۔ اس لئے دروایت حضرت عائشہؓ میں اس بات کی صراحت نہیں کہ آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ بخلاف حضرت عمرؓ کی روایت کے کہ یہ واضح طور پر اس مفہوم پر دلالت کرتی ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر کے دن حلے۔“ پھر آپ نے واپس آتے ہوئے منی میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس یہے جس حدیث پیر محمد بنی نے متفق ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اس حدیث کی کیا حیثیت ہے جس سے استدلال میں ان کا اختلاف ہے؟

اور اسی دن حضرت عائشہؓ نے ایک طواف اور ایک سعی کی۔ اور یہ ایک طواف اور ایک سعی، ہی نے ان کے حج و عمرہ کے لئے کفایت کیا۔ نیز حضرت صفیہؓ نے طواف کیا تو اس کے بعد وہ آیام سے ہو گئیں۔ تو انہیں طواف وداع کے لئے یہ طواف کافی ہو گیا۔ چنانچہ وداع کا (طواف) نہیں کیا۔ اس طرح عورت کے متعلق بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ستست مقرر ہو گئی۔ کہ اگر حج قرآن میں عورت طواف (وداع) سے قبل ایام سے ہو جائے، تو اسے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ اور اگر طواف اضافہ کے بعد ایام سے ہو، تو طواف وداع کی جانب سے یہ کافی ہے۔

**بنی صلی اللہ علیہ کی اسی دن منی میں تشریف آوری** | یہاں رات گزر اری زوال آفتاب تک انتظار کیا۔ جب (آفتاب) مصلی گیا۔ تو آپ جارہ کی طرف پاپا وہ چل پڑے۔ اور سوارہ ہوئے۔ اور جھروادی سے ابتداء کی جو مسجد خیفت سے متصل واقع ہے۔ آپ نے اسے ایک ایک کر کے سات کنکریاں ماریں۔ اور ہر کنکری پر آپ اللہ اکبر کہتے جاتے پھر جھروادی سے بڑھ کر اس کے سامنے آگئے اور قبلہ رخ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر سورہ بقرہ کے برابر طویل دعا مانگی۔ اس کے بعد وسطی جھروادی کی طرف تشریف لائے اس پر دیسے ہی کنکریاں ماریں۔ پھر وادی کے متصل بائیں طرف اترے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر پہلے کی طرح طویل دعا مانگی۔ اس کے بعد آپ تیسرا سے جھروادی کی طرف تشریف لائے۔ یہ جھروادی عقوہ کہلاتا ہے۔ آپ وادی کے درمیان میں اور جھروادی کے بالکل مقابل آگئے۔ اس طرح کہ کعبہ کو بائیں طرف منی کو دائیں طرف کیا۔ اور (جھروادی) کو سات کنکریاں ماریں۔ اور جہلدار کے فعل کی طرح اور پر کے حستہ پر نہیں ماریں اور نہ اسے دائیں جانب کیا۔ اور رحی کے وقت آپ نے قبلہ کی طرف رخ کئے رکھا۔ جیسا کئی فقہا سے مروی ہے۔ جب آپ نے رحی مکمل کر لی۔ تو فوراً واپس تشریف

لائے اور وہاں ظہر سے نہ رہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ پہنچ کے پاس جگہ کی تقدیت کے باعث رند ظہر سے) اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی دعا اس رسم سے فارغ ہونے سے قبل عبادت میں داخل تھی۔ چنانچہ جب آپ نے ججو کاغذ کی رمی کری۔ تو فراغت سے قبل عبادت کے اندر ہی رہی اور دعا دونوں چیزوں میں مکمل ہو گئیں۔ اور عبادت کے اندر کی دعا عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا فضل ہوتی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی یہی سنت طیہ تھی۔ کہ آپ نماز کے اندر ہی دعا کیا کرتے۔ اور بعد میں آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ دعا کرنے کے (مسلسل) محتاج ہوں۔ اور جس نے آپ سے (دعا بعد نماز) روایت کی۔ اس نے غلط کہا اور یہ بھی غیر صحیح روایت ہے کہ آپ سلام کے بعد حارضی سی دعا کرنے۔ اس کی صحت میں مشکوک ہے۔ الفرض اسیں کوئی شک نہیں آپ کی اکثر دعائیں اور جو آپ نے حضرت صدیقؓ کو تعلیم دی تھی۔ وہ بھی نماز کے اندر ہی تھی۔ اور حضرت معاذ بن جبل کی حدیث کہ "ہر نماز کے آخر میں اسے نہ بھلانا،

اللهم اعنی على ذكرك وشكراك وحسن عبادتك، يعني! اے اللہ اپنے ذکر کرنے شکر کرنے اور اپنی حسن عبادت کرنے میں میری نصرت فرماء!

اس لئے دبیر الصلوٰۃ سے مراد نماز کا آخری حصہ ہے۔ جیسا وہ براطیران کا لفظ ہے اور کبھی سلام کے بعد بھی مراد ہوتا ہے۔ جیسا آپ کا یہ ارشاد کہ ہر نماز کے بعد تسبیح کہو (حدیث)

رمی نماز ظہر سے پہلے یا بعد؟ میرے دل میں ہمیشہ اس بات کا کھڑکا رہا کہ آپ آپ نماز سے قبل ہی رہی کرتے تھے۔ پھر واپس اگر نماز ادا کرتے۔ کیونکہ جاگر وغیرہ نے بتایا ہے، جب سورج ڈھن جاتا تب آپ رہی کرتے۔ نیز ایام منی میں رمی کرنے کا وقت ایسا ہی ہے جیسا انحر کے دن طلوع آفتاب کا معاملہ ہے اور یوہ آخر

کو جب رمی کا وقت آ جاتا۔ تو آپ اس دن اس سے زیادہ کسی چیز کو عبادات پر قدم نہ رکھتے۔ کیونکہ ترمذیؓ اور ماجرؓ نے اپنی سفن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ کہ جب سورج ڈھل جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمی چمار فرماتے۔ ابن ماجرؓ نے اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ کہ جب آپ رمی سے فارغ ہو جاتے۔ تو ظہر کی نماز ادا فرماتے، ترمذیؓ نے اسے حسن بتایا ہے لیکن ترمذیؓ کے اسناد میں حج بن ار طaque ہے اور ابن ماجرؓ کے اسناد میں ابراءیم بن عثمان بن شیبہ ہے، جن سے استدلال نہیں ہوتا۔ لیکن اس مسلکہ میں اس کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں امام احمدؓ نے نقل کیا ہے۔ کہ آپ نحر کے موقع پر سوار ہو کر رمح کرتے اور ایام منیؓ میں جانا اور آنا پیدل ہوتا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں دعائے وقفات تھے | وقفہ اول صفا پر وقفہ  
دو مروہ پر سوم ہجۃ  
میں چہارم مزادغہ میں۔ پنجم مجرہ اولی کے قریب۔ اور ششم عمرہ ثانیہ کے قریب۔

# منی میں

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ

اپنی وفات کی پیش گوئی نمرکے دن کا خطبہ گذر چکا ہے اور دوسرا نام تشریق کے وسط میں ارشاد فرمایا، ایک روایت یہ نمرکا دوسرا دن تھا جو وسطی دن ہوتا ہے اور جو اسی کا قائل ہے۔ اس نے سراء بنت بنهان کی روایت سے استدلال کیا ہے۔

فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا "کیا تم جانتے ہو آج کو نسادون ہے؟

فرماتی ہیں کہ وہ دن تمہارے قول کے مطابق یوم الرؤس تھا۔

صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا یہ امام تشریق کا وسطی دن ہے۔

پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کو نساد (شہر) ہے؟

صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ مشعر حرام ہے، پھر فرمایا کہ شاید اب دو بارہ میں تم سے نہ مل سکوں، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری ابرو، تم پر اسی طرح حرام ہیں۔ جیسے تمہارے اس شہر میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ پھر وہ تم

سے تمہارے اعمال کے متعلق پرسشنگ کرے۔ خبردار تمہارا قریب دور والے کو (یہ بات) پہنچا دے۔ خبردار، کیا میں نے پہنچا دیا۔

اور جب ہم مدینہ واپس آئے تو کچھ ہی مدت گذری کر بنی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے۔ (ابوداؤد)

یوم الرؤس سے مراد بالاتفاق خبر کا دوسرا دن ہے۔

سورہ "فتح" کا نزول | اور امام بیہقیؒ نے موسیٰ بن عبیدہ ریذی سے حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے صدقہ بن یسار سے انہوں نے حضرت ابن عزیز سے نقل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریف کے وسط میں سورہ اذا جاء نصر اللہ وَالْفَتحُ نازل ہوئی اور معلوم ہو گیا۔ کہ یہ وداع (کاج) ہے)۔

چنانچہ آپ نے اپنی ساند فی تصوی کو کوچ کا حکم دیا۔ وہ چل پڑی اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو! انہم پھر خطبہ روایت کیا۔ یہیں آپ نے عباس بن عبدالمطلب کے تعاتب حجاج کی اجازت طلب کی جو رحمت فرمادی۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن میں جلدی نہیں فرمائی۔ بلکہ دیر کی اور ایام تشریف میں نبی کے تین دن پورے کئے اور بدھ کو ظہر کی نماز پڑھ کر آپ مصعب کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ ایک ریگستانی میدان ہے۔ خیف بنی کنانہ کے قریب۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ ابو رافعؓ نے آپ کا خیمه نصب کر دیا ہے۔ اگرچہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے انہیں یہ توفیق ہوئی تھی۔ آپ نے یہاں ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی اور کچھ دیر سو گئے۔ پھر آپ مکہ تشریف لائے اور رات کو سحری کے وقت طواف وداع کیا۔ اور اس طواف میں آپ نے رمل نہیں کیا۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مصعب کی طرف واپس نہیں ہوئے۔

تحقیب (مصعب میں اترنے) کے متعلق سلف میں اختلاف ہے کہ آیا یہ سنت ہے یا اتفاقاً منزلاً بن گئی؟ اس مسئلہ میں دو قول ملتے ہیں

ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ رجع کے سمن میں سے ہے کیونکہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منی سے جانے کا ارادہ کیا تو فرمایا۔ ہم کل ان شاعر اش خیف بنی کنانہ میں اتر دیں گے۔ جہاں رکفار نے کفر پر قسم کھائی تھی۔ یعنی اسی مخصوص بیں۔

پر واقعہ اس طرح ہوا کہ قریش اور بنی کنانہ نے بنو باشم اور بنو مطلب کے خلاف قسم کھائی، اکر زان سے نکاح کر دیں گے اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے۔ جب تک کہ وہ آپؐ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ شعائرِ اسلام کے اظہار کا ارادہ فرمایا، جہاں رکفار ہنے کفر و شرک اللہ اور اس کے رسول کے خلاف و شمنی کا اظہار کیا تھا۔

اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر عادت طیبہ تھی کہ کفر و شرک کے مقامات پر شعائر توحیدِ قائم فرمائے، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات و عزیز کے مقامات پر مسجد طائف بنائی جائے۔

اول صحیح مسلم میں ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمرؓ مجی یہاں اترتے تھے اور مسلمؓ کی روایت میں ان سے مروی ہے کہ یہ تحسیب کو سنت سمجھتے تھے۔ امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ (حضرت ابن عمرؓ) یہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور سوچاتے تھے اور پھر فرمایا کرتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجی اسی طرح کیا تھا۔

دوسرے اکابر ابن عباسؓ، عائشہؓ کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ اتفاقاً منزل بن گئی۔

**تین قابل بحث مسائل** | ایک یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجع کے موقع پر کعبہ کے اندر داخل ہوئے یا نہیں؟

دوسرے کیا آپؐ نے (طواف) وداع کے بعد ملزم میں وقوف کیا؟  
تیسرا یہ کہ کیا آپؐ نے وداع کی شب کو صحیح کی نماز مکر میں پڑھی یا اس سے باہر پڑھی؟

پہلے مسئلہ کے متعلق بیشتر فقیہوں کا خیال یہ ہے کہ آپؐ حج کے موقع پر کعبہ میں داخل ہوئے اور زیادہ تر لوگ دخولِ کعبہ کو اقتدار نے نبی صلی اللہ علیہ کی بناء پر سننِ حج میں شمار کرتے ہیں سالانکہ جہاں تک حدیث سے واضح ہوتا ہے بات یہ ہے کہ نزدِ حج ز عمرہ کے موقع پر آپؐ کعبہ میں داخل ہوئے۔ بلکہ فتحِ مکہ کے سال کعبہ مشرفہ میں داخل ہوئے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے، فرمایا کہ فتحِ مکہ کے سال نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسماۃؓ کی اونٹی پر داخل ہوئے اور کعبہ کے صحن میں اونٹی کو بٹھایا۔ پھر آپؐ نے عثمان بن طلحہ کو چاہی لانے کا حکم دیا۔ وہ نے کہ حاضر ہوا اور دروازہ کھولا۔ پھر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماۃؓ۔ بلاںؓ اور عثمان بن طلحہ اندرونی داخل ہوئے، اور ان پر دیر تک دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر جب کھولا تو عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سبقت کی اور حضرت بلاںؓ کو دروازے پر دیکھا میں نے دریافت کیا۔ چنان ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟

انھوں نے بتایا: دو مقدم ستونوں کے درمیان۔ راوی کہتے ہیں کہ میں یہ معلوم کرنا بھول گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔

دوسرامسئلہ، ملائم میں وقوف [مروی ہے کہ آپؐ نے یہ فتح کے دن کیا سنن ابی واؤد میں عبد الرحمن بن ابی سفوان سے منقول ہے، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو میں چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو کعبہ سے باہر دیکھا اور وہ باب سے لے کر طیبیم تک استلام رکن کر رہے تھے۔ انھوں نے کعبہ پر اپنے رخصادر کھ دیئے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے۔

اور ابو داؤد نے عمرو بن شعیب سے انھوں نے اپنے والد سے انھوں نے داد سے روایت کرتے ہوئے فرمایا:

کہ میں نے حضرت عبد اللہؓ کے ہمراہ طواف کیا۔ جب ہم کعبہ کے پھلپی جاپے پہنچے تو میں نے کہا کیا آپؐ تو عذ نہ کروں گے؟

انھوں نے کہا، نعوذ باللہ من النار۔ ” ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اگر سے یعنی تغور کیا، پھر وہ چل پڑے، حتیٰ کہ مجراسود کا استلام کیا۔ پھر باب اور رکن کے درمیان کھڑے ہو گئے اور اپنے سینہ، پیشائی، بازوؤں اور ہتھیلیوں کو اس طرح رکھ دیا اور انھیں خوب پھیلا دیا۔ (یعنی دیوار سے چپک گئے) اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا۔

اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے وداع کے وقت کیا ہو۔ یا کسی دوسرے وقت میں یہ واقعہ ہوا ہو۔ لیکن مجہدؒ اور شافعیؒ فرماتے ہیں کہ منتخب یہ ہے کہ طواف وداع کے بعد ملتزم میں کھڑا ہو۔ اور دعا کرے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ رکن اور باب کے درمیان التزام کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کرتے کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی التزام کر کے اللہ تعالیٰ سے پکھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہی پکھ رہی دے گا۔

### تیسرا مسئلہ، شب وداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحیح کی جگہ حجیل میں

حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے تکفیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچے سے سوار ہو کر طواف کرلو۔

فرماتی ہیں کہ میں نے طواف کیا اور جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاتمة کعبہ کے ایک حصہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آپ والطور و کتاب مسطور کی تلاوت فرمادے تھے۔

اس کے متعلق یہ بھی احتمال ہے کہ یہ صحیح کی نماز یا کوئی دوسری نماز ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ طوافِ وداع یا کسی دوسرے موقع پر ہو۔ ہم نے اس پر غور کیا تو صحیح بخاریؒ میں یہ واقعہ مروی ہے کہ جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا اور ام سلمہؓ نے ابھی تک کعبہ مشرفہ

کا طواف نہ کیا تھا۔ اب رام مسلم (ؑ) نے جانے کارادہ کیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب کہ صبح کی نماز قائم ہو گئی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو تم اپنے آونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لو۔ چنانچہ انہوں نے (طواف) کیا اور نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ وہ بھی چل پڑیں یہ

یہ بالکل ناممکن ہے اس لئے کہ اگر یہ یوم النحر تھا تو بلاشبہ یہ طواف و داع ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت نے اس دن صبح کی نماز کعبہ کے پاس پڑھی اور امام مسلم نے سنائے آپ "الطور" کی تلاوت فرمادے ہے تھے۔

---

# حج و دلاع کے بعد

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف کوچ

کیا بچھے کا حج ہو سکتا ہے ؟ جب آپ روحاء کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار ملا، اس نے سلام کیا اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں ؟

بتایا گیا کہ مسلمان ہیں۔

چھر پوچھا کہ یہ کون ہیں ؟  
بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اس پر ایک عورت پنکھوڑے سے اپنے بچے کو اٹھالائی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے ؟

آپ نے فرمایا، ہاں اور بچے اجر ملے گا۔ جب آپ ذوالحیفہ پہنچے تو ہاں رات گزاری، اور جب آپ نے مدینہ کو دیکھا تو تین بار تکبیر کی۔ اولہ یہ الفاظ کہے  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّوبُنَ قَاسِيُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرِبِّنَا حَمْدُوْنَ صَدِيقُ اللَّهِ  
وَعَدَ لَهُ وَفَصَرِّعَ عَبْدَهُ وَحَرَثَ الْأَحْزَابَ وَحَدَّهُ۔

”یعنی اللہ کے سوا کوئی معمود اور کار ساز نہیں وہ کہتا ہے اس کا کوئی“

مشریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر  
قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت  
کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے پروردگار کی حمد کرنے  
والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پڑھ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد  
فرمائی اور تنہا تمام گروہوں کو شکست دی۔“

پھر آپ دن کے وقت مدرس کی راہ سے مدینہ میں داخل ہوئے۔  
جب آپ تشریف لے گئے تھے تو شجرہ درختوں کے راستہ گئے تھے۔

**مجھہ الوداع کے سلسلہ میں محمد ابن حزم کی غلط فہمی** [ادہ کہتے ہیں]  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مسلم نے تشریف لے جاتے وقت لوگوں کو بتایا کہ رمضان میں عمرہ کہنا حج کے برابر  
ہے، یہ سراسر وہم قبیح ہے کیونکہ آپ نے حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ  
واپس آکر یہ الفاظ فرمائے تھے۔ آپ نے ام سنان انصار یہ سے فرمایا کہ تجھے  
ہمارے ہمراہ حج کرنے میں کیا رکاوٹ تھی؟

اس نے عرض کیا ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے چنانچہ میرے لڑکے کے  
والد اور میرے بیٹے نے ایک اونٹ پسح کیا اور ہمارے لئے ایک اونٹ  
چھوڑ دیا، ہم اس پر پانی ڈھوتے ہیں (یعنی سواری نہ تھی)۔

آپ نے فرمایا، کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا  
تیرے لئے حج سے کفایت کرے گا۔ (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے  
کے برابر اجر ملے گا (صحیح مسلم))

اسی طرح آپ نے مدینہ واپس تشریف لانے کے بعد ام معقل سے فرمایا،  
جیسا کہ ابو داؤد نے یوسف بن سلام سے انہوں نے ام معقل سے روایت کیا،  
وہ بتاچی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھہ الوداع کیا، تو ہمارے  
پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل نے اللہ کے راستہ میں آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہمارے

ہاں بیماری آئی اور ابو معلن فوت ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔  
 جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ  
 (حج کے لئے) نکلنے میں تمہیں کون سی رکاوٹ پیش کر گئی تھی؟  
 انسوں نے عرض کیا ہم نے پختہ ارادہ کر دیا تھا لیکن ابو معلن فوت ہو گئے۔  
 ہمارے پاس سفر حج کے لئے ایک ہی اونٹ تھا۔ اور ابو معلن نے اس کے لیے  
 اللہ کے راستہ میں وصیت کر دی۔  
 آپ نے فرمایا، تم اس اونٹ پر کیوں نہ چلی آئیں؟ کیونکہ حج بھی اللہ کے راستہ  
 میں عبادت ہے اب جب کہ ہمارے ساتھ تمہارا یہ حج فوت ہو گیا تو رمضان  
 میں عمرہ کر لینا کیونکہ وہ بھی یقیناً حج ہے۔

---

# ہدایا، ضایا اور عقیقہ

## سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

سورة النعام کی آیت | یہ سورہ انعام کے ازواج مقام پرست گانہ سے مختص ہیں  
ان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام  
رضی اللہ عنہم سے کسی قسم کا ہدایہ۔ قربانی یا عقیقہ مروی نہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی چار آیا  
سے مأخوذه ہے۔

ایک آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ احلت لحمر بھیمة الانعام -  
دوسری آیت، وین کرو اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما زقہ من  
بھیمة الونعام -

اور تیسرا اللہ تعالیٰ کافرمان و من لا نعام حمولة و فرشا کلو امہا  
رزقکم اللہ ولا تتعوا خطوات الشیطون انہ لھم عدو مبین -

اور چوتھے خدا نے رحمٰن کا فرمان کہ ہدایا بالغ الکعبہ  
اس سے معلوم ہوا کہ جو ہدایا کعبہ مشرفہ میں پہنچتے ہیں۔ وہ ان آٹھ اقسام میں  
سے ہوتے ہیں۔ اور یہ علی ہن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا استنباط ہے۔

یہ ذیائع اللہ کے تقرب کا ذریعہ اور اس کی عبادت ہیں۔ اور ان کی تین اقسام ہیں  
ہدایا، ضایا، عقیقہ -

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری اور اونٹ کا ہدی پیش کیا اور از واج مطہرہ کی جانب سے گائے کی ہدی (قریبی) پیش کی، نیز آپ نے اپنے مقام، عمر، رجیع میں ہدی (قریبی) پیش کی۔

اور آپ کی سنت طیبیہ یہ تھی کہ بکری کے تلاوہ ڈالنے اسے اشعار نہ کرتے جب آپ ہدی بھیجتے۔

جب آپ مقیم ہوتے تو کسی حلال چیز کو حرام نہ کرتے، اور جب آپ اونٹ بطور ہدی کے جاتے تو اسے تلاوہ بھی ڈالنے، اسے اشعار بھی کرتے، داعی بھی لگاتے، چنانچہ آپ اس کے کوہان کے دامیں جانب سے فراساشک فرائیں بہاں تک کر خون بہنے لگتا۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اشعار دامیں جانب، ہی ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا اور ہدی نے جانے والے کو اجازت دی کہ جب تک اسے دوسری سواری نہ ملے تب تک معتدال سے اس پر سواری کرے۔ اگر اسے اس بات کی ضرورت لاحق ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دودھ جانور کے بچے رہے اسے پینے کی اجازت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبیہ یہ تھی کہ آپ اونٹوں کے بامیں پاؤں کو باندھ کر تین پاؤں پر کھڑا کر کے انھیں خمر کرتے اور خمر کرتے وقت پرسم اللہ اللہ اکبر کہتے۔

اور آپ قربی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے۔

بس اوقات آپ یہ کام کسی دوسرے کے سپرد بھی کر دیتے، جیسا کہ آپ نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سویں سے بقايا اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔

اور جب آپ بکری کو ذبح کرتے تو اپنا پاؤں چہرے پر رکھتے۔ بچر پر سم اللہ اللہ اک کہتے اور ذبح کرتے۔

اول گذر چکا ہے کہ آپ نے منی میں خر کیا اور فرمایا کہ مکہ کا تمام میدان ہی خر ہے این عباسؓ فرماتے ہیں، اونٹوں کا منہر مکہ میں ہے لیکن اسے خونریزی سے پاک فرمایا گیا اور منی بھی (حدود) مکہ میں سے ہے اور اب عباسؓ مکہ میں خر کرتے تھے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایا اور قربانی میں سے کافی اجازت دی اور تحفہ (زاد) کی بھی اجازت دی اور تین دن سے زیادہ جمع رکھنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ اس سال لوگوں پر تکلیف تھی۔ چنانچہ آپؐ کا خیال تھا کہ انہیں وسعت حاصل ہو جائے۔

اور ابو داؤد نے جبڑیں فغیر سے انہوں نے ثوبانؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، پھر آپؐ نے فرمایا۔  
اے ثوبانؓ ہمارے لئے اس بکری کو ٹھیک کرو۔ (یعنی پکا دو وغیرہ)  
تو میں مدینہ آنے تک آپؐ کو اسی بکری میں سے کھلاتا رہا۔

مسلمؓ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جمعة الوداع کے موقعہ پر فرمایا؛ "اس گوشت کو ٹھیک کر دو"  
 بتاتے ہیں کہ میں نے اسے ٹھیک کیا۔ آپؐ مدینہ پہنچنے تک اس میں سکلتے رہے بسا اوقات آپؐ نے ہدی کا گوشت تقسیم فرمایا، اور بسا اوقات یوں بھی فرمایا جو چاہے ایسا کرے اور جو چاہے دیسا کرے اور بیاد وغیرہ میں (پیسے وغیرہ) بکھیرنے کی مانع تھی جواز بھی اس سے ثابت کرتے ہیں اور دونوں کا فرق غیر واقع ہے طلوع آفتاب اور رمی کے بعد قربانی بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی عمر کے ہدی کو مردہ کے پاس اور قرآن کے ہدی کو منی میں ذبح کرتے۔

حضرت ابن عمرؓ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے سے قبل ہدی ذبح نہیں کی اول نہ خر کے دن سے پہلے ذبح فرمائی اور نہ کسی صحابیؓ سے ایسا فعل ثابت ہے۔

نیز آپ ہمیشہ طلوع آفتاب اور رمی کے بعد ہی خمر کرتے۔

خمر کے دن یہ چار امور مرتب تھے۔ پہلا رمی پھر خمر پھر حلق پھر طواف۔

آپ نے اسی ترتیب سے انہیں ادا فرمایا۔ طلوع آفتاب سے قبل خمر کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور آفتاب سے قبل خمر کرنا، یقیناً آپ کی سنت ہدی کے خلاف ہے، اس کا حکم ضمیر جیسا ہوگا، جب کہ وہ آفتاب کے طلوع ہونے سے قبل ذبح کر لی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحی قربانی کا نامہ نہ فرماتے آپ دو مینڈھوں کی قربانی دیتے۔ آپ نماز عید کے

بعد ان کو خمر کرتے۔

فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا اس کی کچھ صحی قربانی نہیں، بلکہ وہ ایک قسم کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو مہیا کیا۔ آپ کی سنت طیبہ کا یہی مطلب ہے اور بعض وقت نماز و خطبہ کا کچھ اعتبار نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں ادا کیا جائے اور ہم اللہ کے اسی دین کے حامل ہیں۔

اور آپ نے حکم فرمایا کہ بھیڑوں میں سے بالکل نوجوان ذبح کرو۔ نیزو وہ دوسال کا ہو، یعنی جو منستہ ہوتا ہے۔

اوہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تشریق کے تمام ایام میں ذبح جائز ہے، لیکن یہ حدیث منقطع ہے۔ اس کا دل ثابت نہیں۔

قربانی کے گوشت کا ذخیرہ اور تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو جمع نہ کرنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایام ذبح تین ہی میں، کیونکہ

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کے لیے ذبح کے دن سے لے کر تین دن سے زیادہ تک گوشت جمع رکھنا جائز نہیں۔ اگر اس نے تیسرا سے دن تک ذبح رکھنا مؤخر کر دیا تو اسے اجازت ہے کہ ذبح کے وقت سے لے کر تین دن تک گوشت کا ذخیرہ کرے۔

اور جن نوگوں نے تین دن تک محدود رکھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ قربانی کے تین دنوں میں پہلے دن سے شروع ہو کر تیسرے دن کا ریحکم ہے) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام خرموم اٹھی (عید کا دن) اور اس کے بعد بھی تین دن ہیں۔

اہل بصرہ کے امام حسنؑ اور اہل کمر کے امام عطاء بن ابی رباح اور اہل شام کے امام اوزاعیؓ اور فقہائے اہل حدیث کے امام شافعیؓ کا یہی مذہب ہے اور ابن منذورؓ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ اور جو نکہ یہ تینوں ایام، ایام متی، ایام مری، ایام تشریق ہونے کے باعث مخصوص ہیں۔ ان میں روزہ حکمتا حرام ہے اس لئے یہ بھی ان احکام میں شریک ہیں۔ اب نص و اجماع کے بغیر ان میں جواز ذبح الگ کیا جاسکتا ہے؟ نیز دو مختلف روایات جو ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں۔ مروی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تمام متی جائے خر ہے اور تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔

جبیر بن مطعم کی روایت میں انقطاع ہے۔ اسامہ بن زید نے عطاء سے انہوں نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید اہل مدینہ نے ہاں ثقہ اور مامون ہیں۔

مسئلہ ہذا سے متعلق اقوال اربعہ [اس مسئلہ میں چار اقوال ہیں، ایک تو وہ ہے (جو گذر چکا ہے)، دوسرا یہ کہ ذبح کا وقت یوم خر اور دو دن بعد میں ہے یہ امام احمدؓ، ابو حنیفہؓ کا مسلک ہے۔ احمدؓ فرماتے ہیں کہ حباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کئی کا یہی قول ہے۔ اثر حمؓ نے ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ سے یہی نقل کیا ہے۔]

تیسرا، یہ کہ خر کا وقت ایک ہی دن ہے۔ یہ ابن سیرینؓ کا قول ہے کیونکہ یہ اسی نام (انجیل) (یوم اضھی) سے مخصوص ہے۔ اس لئے اس کے حکم کا اختصار بھی اس دن سے ہو گا پس یہ ایک دن ہی ہو گا، جیسے کہتے ہیں، عید الفطر۔

چوتھا، سعید بن جبیر اور جابر بن زید کا قول ہے کہ یہ دوسرے مقامات میں ایک دن مانا جاتا ہے اور سنی میں تین دن، کیونکہ یہاں، رجی، طواف اور حلق وغیرہ مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیئے دیگر امصار کے مقابلہ میں یہاں تین روز ہونے چاہیں  
**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت طبیبہ آپ کی سنت تھی کہ جس نے قربانی کا الادہ کیا ہوا اور دسویں تاریخ آجائے**

تو وہ اپنے بال وغیرہ نہ ترشو ائے۔

صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں مانعہت ثابت ہے قلنی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ روایت امر سلمہ پر موقوف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبیبہ تھی کہ قربانی کا جانور بہترین خوبصورت اور تمام عیوب سے پاک ہو۔

اور آپ نے کان کھے اور نصف سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ ابو داؤد نے اس سے زیادہ نقل نہیں کیا۔

آپ نے حکم دیا کہ آنکھوں اور کانوں کو دیکھ دیا جائے، یعنی یہ تند رسالت ہوں، اور کافی، مقابلہ مذابحہ اور شر قاء و خرقاء کی قربانی نزدی جائے۔

مقابلہ وہ ہوتی ہے، جس کے کانوں کا الگاحضرتہ کٹا ہو۔ اور مذابحہ جس کے کانوں کا پچلا حصہ کٹا ہو۔ شر قاء وہ ہے جس کے کان چڑ گئے ہوں اور خرقاء جس کے کانوں میں سوراخ کیا گیا ہو۔ (ابو داؤد)

نیز آپ سے منقول ہے کہ چار قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ کافی، جس کا عیب واضح ہو، بیمار جس کا مرض نمایاں ہو، لفکڑا جس کا لفکڑا اپن واضح ہو۔ ٹوٹا ہوا جس میں مفرغ نہ رہا ہو۔ اور کمزور، جس میں شدت ضعف سے گودا بھی نہ رہا ہو۔

نیز نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفرہ، مستاصلہ، بختقاء، مشیعہ اور کسری کی قربانی سے بھی منع فرمایا۔

المصفرہ وہ ہے جس کا کان اس قدر معدوم ہو کہ کان کا سوراخ ظاہر ہو جائے اور

وہ ہے جس کا سینگ جڑ کے قریب یعنی نہ ہوف کے برابر ہو۔ بخفاہ وہ ہے جس کی آنکھ بدترین حد تک کافی ہو چکی ہو۔ مشیعہ وہ ہے جو کمزوری کے باعث ریوڑ کے پیچھے نہ چل سکے اور کسری جس کے (اعضاء) ٹوٹے ہوئے ہوں۔

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، عید گاہ میں قربانی** [ابوداؤد میں حضرت جابر بن سے مروی ہے]

کہ وہ عید گاہ میں عید الاصحی کے دن آپ کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا تو منبر سے اتم آئے اور ایک منیڈھالا یا گیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اکبر پڑھا، اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کے ہر اس ادمی کی جانب سے ہے جس نے ذبح نہیں کیا۔ اور صحیحین میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں نحر اور ذبح کیا کرتے ابوداؤد نے نقل کیا ہے کہ آپ نے قربانی کے دن دوسینگوں والے خوبصورت دو منیڈھے ذبح کئے۔ جب آپ نے انہیں لٹایا تو پڑھا:

وَجْهَتْ وِجْهِي لِلَّذِي فَطَرَتْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا نَامَ  
الْمُشْرِكِينَ إِنْ صَلَّتْ وَنَسَكَى وَمَحِيَّا وَمَمَاتَ بِاللَّهِ سَبَبَ الْعَالَمِينَ  
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِنَ لَكَ أَمْرَتْ وَإِنَّا أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ  
وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآمِتَهِ بِسْمِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمَ

”یعنی میں نے اس ذات کی طرف رخ کر لیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ایک طرف ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بشک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا منا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے (جو) تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں پہلے مسلمان ہوں۔ اے اللہ (یہ مال) تیری طرف سے تھا اور تیر سے لئے ہی (حاضر) ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے، اللہ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔“

پھر ذبح کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ جب ذبح کریں تو اچھی طرح ذبح کریں۔ اور جب قتل کریں تو اچھے انداز سے قتل کرے (یعنی چھری تیز ہو اور جلدی سے ذبح کریں)۔

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم کیا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبیبہ یہ تھی کہ ایک بکری ایک آدمی اور اس کے گھروں کی طرف سے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو، کافی ہو جاتی جیسا کہ حضرت عطاء بن یسائی نے فرمایا کہ میں نے ابوالیوب انصاری سے پوچھا تھی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟

تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آدمی اپنی جانب سے اور اپنے گھروں کی طرف سے بکری کی قربانی دے تو وہ کھائیں اور کھلائیں (ترمذی حسن صحیح)

(کتابت: منور حسین محلہ کشمیر گر حافظ آباد)

ناللہ عاد

فی

هدی خیر العباد

حصہ دوم

## زاد المعاو حصہ دوم

# خصوصیات و فضائل پر اک طرز نزگاہ

زاد المعاو کا حصہ دو تم اب آپ کے پیش نظر ہے۔

پہلے حصہ میں نقد و نظر کا فرضہ انجام دے چکا ہوں۔ ضروری ہے کہ دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مقاصد و مطالب اور مسائل و مباحث بیہمی ایک سرسری نظر ڈال لی جائے تاکہ قارئین کرام اس کی اہمیت و عظمت کا قرار واقعی حس اکر سکیں۔

جیسا کہ میں پہلے حصہ کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں، سیرت نبوی پر عوی میں اور دوسری زبانوں میں بہت سی کتابیں پوری شانِ تحقیق و تدوین کے ساتھ لکھی جا چکی ہیں لیکن زاد المعاو کی کیتنا فی آج تک قائم ہے اور شاید ہمیشہ قائم رہے گی۔

اس کا سبب کیا ہے؟

بات یہ ہیں ہے کہ زاد المعاو کوئی ایسی کتاب ہے جس کا ہر حرف، حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو رائے ظاہر کی گئی ہے، جس تیجہ پر ہنپا گیا ہے، جن تاثرات کا انہیں کیا گیا ہے، جن انکھار و خیالات کو پیش کیا گیا ہے، اختلاف اور نزاعی مسائل میں جس ترجیح و توفیق سے کام لیا گیا ہے، تفسیف و توثیق کے سلسلہ میں خواہ وہ روایات سے متعلق ہو۔ یا اسناد سے یار و اہم سے یار۔ جو ملک اختیار کیا گیا ہے دوسرے فقہی مذاہب کے

ہنہاں پر مدح و قدح کا جوانہ از احتیار کیا گیا ہے وہ ہر لغزش سے پاک ہے۔ اس کے پارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں وہ وجہ القلم، کام صداقت ہے۔  
یہ بات تو قرآن کریم کے سوا کسی کتاب کے لئے نہیں کہی جا سکتی۔

خدا کی بات تو دوسری ہے ورنہ انسان کتنی ہی نیک نبیتی، خلوص، جہان کا ہی اور تحقیق و محنت سے کوئی ختمی، فکری، یا علمی کارنامہ انجام دے۔ اس کے بعض پہلوؤں پر ہر حال بحث و گفتگو ہو سکتی ہے۔ مدح و قدح کا سلسلہ قائم کیا جا سکتا ہے، دلائل و براہین بنیاد پر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ زاد العاد بھی اس اصول سے مستثنی نہیں ہے، وہ بھی ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور آدمی کتنا ہی اونچا، کتنا ہی بڑا، کتنا ہی باعظمت ہو، اس سے پھوک بھی ہو سکتی ہے، لغزش فکر و خیال بھی، اس کے دلائل کہیں کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے نکالے ہوئے نتائج محلِ نظر بھی نظر قرار دیئے جا سکتے ہیں، اور اس کے فیصلوں کو تنقید کی کسوٹی پر کسا بھی جا سکتا ہے۔ ہمذاد اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ کتاب ازاول تا آخر ایک ایسا صحیفہ ہے جس میں نہ کہیں لغزش ہے، نہ کوتا ہی نہ خط، تو یہ مبالغہ ہو گا، یہ ایک دلپسپِ دعوئے نو سورہ ہو گا لیکن علم کی بارگاہ میں اس کی پذیرائی مشکل ہی سے ہو سکے گی۔ لیکن اس کے باوجود بشری کمزوریوں، اور لغزشوں کے باوجود، یہ کتاب، اپنی عظمت اہمیت اور افادت کے اعتبار سے بیکھا اور بے ہمتا ہے۔

لیکن اس کے سیکھی کا سبب؟

سبب یہ ہے کہ یہ پہلی اور آخری کتاب ہے جس میں پوری جامیعت کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ اور پوری ڈرف نگاہی کے ساتھ خبر العباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال، آپ کی گفتار درکردار، اور آپ کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کے تمام گوشوں کی جزوی استقصاء کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی یہ وہ خصوصیت ہے جو اس پر نہ ہوئی پر لکھی ہوئی کسی دوسری کتاب میں ہرگز نہیں ملتی۔

اُردو زبان میں مولانا شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی مغفور نے سیرت النبی کے نام سے جو بلند پایہ اور ضمیم مجلدات تالیف کئے ہیں بلاشبہ وہ ملے مثال ہے۔ خود ام الالئ

بھی اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، پھر بھی جزئیات تک کی وہ تفصیل، حیث  
نبویؐ کے ایک ایک پہلو سے متعلق ازولادت تاوفات و دبامع معلومات آپؐ سے متعلقہ  
تمام عنوانات پر وہ سیر عاصل بحث و گفتگو جو اس کتاب میں ہے قطعاً کسی دوسری کتاب  
میں نہیں مل سکتی۔

اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ نہیں ہے، یہ سوانح عمری  
نہیں ہے اس لئے کہ اس میں وہ تراش خراش اور ترتیب و تبویب نہیں ہے جو اس  
طرح کی کتابوں کے لئے ضروری سمجھی جاتی ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا  
کہ عہد نبویؐ کی تاریخ اور سیرۃ النبیؐ کا مانند اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر جامع و مانع، افر  
عاقل و دل کوئی اور نہیں مل سکتا، اس موضوع جمیل پر جب بھی خامہ فرمائی کی جائے  
گی، اس وادی میں جب بھی قدم رکھا جائے گا، تو ممکن نہیں کہ اس کتاب سے استفادہ  
نہ کیا جائے۔ متعدد مواقع پر اس کا حوالہ نہ دیا جائے۔ اس سے دامن بچا کر، اور اسے  
نظر انداز کر کے اس موضوع پر کوئی متندا اور قابل مطالعہ کتاب لکھی ہی نہیں جا سکتی  
اس کتاب کی بھی وہ خصوصیات ہے جس نے اسے زیر بحث موضوع سے متعلق تمام  
کتابوں کا سرستاج بنادیا ہے، اور اس میں عظمت کے آگے ہر زمانہ اور ہر دور کے لوگ  
ادب سے سرو چھکاتے رہے ہیں۔ اور ہمیشہ چھکاتے رہیں گے۔

کاروان شوقے را او منزل است

ماہمے یک مشت خاکیم او دل است

## مسائل و مباحث کتاب

# حدہ و حکم کے مسائل و مباحث کا اجمالی جائزہ

اب مختصر طور پر اس حصہ کے مسائل و مباحث پر میں گفتگو کروں گا۔  
اس حصہ کے مسائل و مباحث کا اگر جائزہ لیا جائے تو چار قسموں پر انہیں منقسم کیا جائے سکتا ہے۔

۱۔ تفہی مسائل از قبیل عقیقہ وغیرہ۔

۲۔ مجاہدات و غزوات۔

۳۔ اذکار و ادعیہ ماثورہ۔

۴۔ تاریخی واقعات اور ان کی ضروری تفصیل۔

اب ہم ان میں سے ہر ایک پر لگ لگ احوالی طور پر گفتگو کریں گے۔

۱) تفہی مسائل میں جن امور پر مصنف علام نے گفتگو کی ہے ان میں رسم عقیقہ کا ذکر ہے تو مولود کے کان میں اذان کہنے کا سند ہے، کھانا کھانے کے سند میں آپ کے عادات طیہہ اور اس سے متفرع مسائل ہیں۔ سلام کرنا، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اہانت طلب کرنا، چھینک کا جواب دینا، اکاپ سفر، فال، خواب، درجہ، اذان و جہاد کی شرعیت۔ بیعت و جہاد کے آداب، اسیلان جنگ کے ساتھ سلوک، جاسوسوں کے ساتھ برداشت،

غلاموں کے ساتھ طرزِ محل، دشمن کے ساتھ صلح و امان کا مسئلہ، جزیرہ، اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ معاملہ جزیرہ یعنی میں آنحضرت کا معمول اور اصول، نماز خوف، نیڑل آکر تتمم، توکل اور توسل، نکاح متعدد کی اجازت اور ممانعت، مسئلہ حضانت۔ وغیرہ وغیرہ۔ گو فقہی مسائل و مباحثت سے متعلق زیادہ تر گفتگو حصہ اول میں کی گئی ہے، لیکن اس دوسرے حصہ میں بھی جو فقہی مباحثت و مسائل آگئے ہیں وہ غیر معمولی طور پر اہم ہیں، اور مسلمانوں کی الفرادی و اجتماعی زندگی سے گھرے طور پر مرتبط ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن سے واقفیت ہر مسلمان کے لئے ضروری اور لابدی ہے۔ ان مسائل پر صفت علام نے تحقیق و تدقیق کیے ہیں۔

(۱) مجاہدات و غزوہات نبی مصلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی اس حصہ میں کافی مواد موجود ہے اگرچہ اس میں جملہ غزوہات کا ذکر نہیں آیا ہے، کچھ کا اس میں ہے، کچھ کا بعد کے حصے میں لیکن جو کچھ ہے وہ تاریخ ہجاد کی ایک نہایت اہم اور ذاتی طور پر فرموش کر دی ہے۔  
اس حصہ میں جس غزوہات اور سربلات کا ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں:

### (۱) غزوہ بدر، اور ضروری مسائل

### (۲) غزوہ احمد اور اس کے اہم واقعات

### (۳) غزوہ ذات الرقاب

(۴) غزوہ دوستہ الجندل والمرسیح،

(۵) غزوہ خندق اور اس کی تاریخی عتلت، واهیت۔

(۶) غزوہ نبی لیبان،

(۷) سریتہ بیجنگ

(۸) غزوہ چینیہ

(۹) سریتہ زید بن شعبان

(۱۰) قصرہ صدیبیہ اور متعلقہ احکام

(۱۱) غزوہ نیپرہ اور متعلقہ احکام

(۱۲) غزوہ مorte،

(۱۳) غزوہ ذات السلاسل

(۱۴) سریۃ خبط، اور متعلقہ احکام

(۱۵) فتح مکہ معظمه کہ یہ تاریخ اسلام کا اہم ترین باب ہے۔

(۱۶) سریۃ خالد

(۱۷) فتح مکہ سے متعلق احکام و مسائل

(۱۸) غزوہ حنین۔

(۱۹) غزوہ طائف اور متعلقہ احکام

(۲۰) ۹ ہو کے بعوٹ و سرایا۔ وغیرہ وغیرہ۔

غزوات و سرایا کے سلسلہ میں مصنف علام نے فکر انگیز گفتگو کی ہے اور اپنی طرف سے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، کوئی گوشہ اور کوئی بہلو بھی تشدیز نہیں بھجوڑا ہے۔ گویا بعض مقامات نتائج و تاثرات کے اعتبار سے محل گفتگو ضرور ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو مواد پیش کیا ہے وہ حد درجہ بصیرت افروز اور روح پروردہ ہے اور کسی اہل قلم کے لیے بھی اس سے استفادہ کئے بغیر قلم فرسائی ملکن نہیں۔

(۲۱) اس حصہ میں بھی پہلے حصہ کی اذکار و ادعیہ ما ثورہ پوری تفصیل اور بامصیت کے ساتھ موجود ہیں۔

پہلے مصنف نے آپ کے اذکار کا اصول اور طریق بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جن اذکار پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:

اذکار و شو، ذکر و اجابت۔ اذکار سفر، اذکار نکاح وغیرہ

یہ وہ اذکار تا دعیہ ہیں جو اُنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ما ثور اور منقول ہیں اس لیے ان کی اثر آفرینی، اور ان کی دینی عظمت و اہمیت شکر دشہ سے بالاتر ہے۔ ان پر عمل کرنا اور انہیں اپنا مسول بنانا ہر مسلمان کے لئے ناگزیر ہے۔

ان اذکار کی تحقیق میں مصنف علام نے کوئی دقیقہ فروگزراشت نہیں کیا ہے اور جبکا

کہیں سے بھی مستند طور پر جو چیز مل گئی ہے اسے لے لیا ہے اور اگر ضرورت کم جی ہے تو جرح و تعذیل سے کام لیا ہے۔

(۲) اس حصہ کے مباحث میں تاریخی واقعات بھی زیر گفتگو آئے ہیں۔ یہ واقعات تاریخ اسلام میں غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے واقعات ہیں جو دوسرے مکتب خیال کے مورخین کے ہان عرسہ سے نزاع و اختلاف کا مرکز بنے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی جن پر منتشر ترین فرنگ نے جولاٹی طبع کا مظاہر کیا ہے۔ یہ تاریخی واقعات اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہمہ پہلو ہیں، یعنی ان کے ذکر کے سلسلہ میں فقہ، حدیث، قرآن، تاریخ کلام، نقد و جرح سب ہی سے مصنف کو کام لینا پڑتا ہے، اور حق یہ ہے کہ انہوں نے واقعات کے استقصا اور ان پر بے لگ محاکمہ میں پوری دیانت فکر سے کام لیا ہے۔

جن تاریخی واقعات کا ذکر اجمالیًّا تفصیلًا اس حصہ میں ملتا ہے وہ یہ ہیں:

و جن لوگوں نے قبول اسلام میں پیش تحری کی اور سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی، ان کا ذکر بھی اس حصہ میں ملے گا۔

و جہشہ کی طرف جو بہلی رجحت ہوئی تھی وہ تاریخ اسلام کا نہایت اخراجی نور ق ہے۔ اور یہ پوری جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔

و معراج نبوی، صحابی تام سفر وی، افادہ ہم تفصیلات اور حیرتیات کے۔

و مدینہ کی طرف بہلی رجحت کی داستان،

و مکہ مکرمہ میں بہلے بہلی انصار کی ایک مختصر سی جماعت کے قبول اسلام کا واقعہ۔

و داد العروہ میں مشرکین مکہ کا اس غرض سے اجتباع کر آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ دعوت و تبلیغ اسلام کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اس بحث پر مصنف نے کافی مواد پیش کیا ہے۔

و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف رجحت اور تشریف آدمی،

اور اس مسئلہ میں ضروری تاثر کی معلومات ۔

و مسجد نبوی کی تاسیس و تعمیر کا مرحلہ، ایک نئے شہر میں خدا کا یہ ہلا گھر۔

و تحويل قبلہ کا مسئلہ بھی بڑا ہنگامہ خیز اور تاثر کی ہے یہ درحقیقت کفر و اسلام کی کسوٹی تھا۔ جن کے دل کھر سے آشنا تھے وہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو قبلہ بنتا دیکھ کر بھڑک اٹھتے، جو مومن صادق تھے انہوں نے بے ہون و چرا یہ حکم قبول کر لیا، اور بورے انشراح قلب کے ساتھ تحول قبلہ کے فرمان پر عمل داداً مدد شروع کر دیا۔

تاثر کی کتابوں میں اس مسئلہ پر کافی مباحثہ موجود ہیں، لیکن مصنف نے جسی خوبی سے اس مسئلہ کو پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔

و تاثر کا ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ، جو شروع سے اب تک نزاگی اور اختلاف پلا آ رہا ہے یہ ہے کہ آیا، کہ بزرگ قوت فتح ہوا یا ازروے صلح؟ بعض پہلی صورت کے تاکلی ہیں، بعض دوسری کے، وہ لوں کے پاس دلائل ہیں اور کافی وزنی ہیں۔ اس نہایت اہم مسئلہ پر واقعات و حقائق دلائل و شواہد، اور دلائل و برائین کی روشنی میں مصنف نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ ان کی قوت نکر و نظر کا نتھاں تردید شہوت ہے۔ انہوں نے ہر دو نقطہ نظر کے مایوسوں کے ساتھ دیانت برتری ہے۔ دو لوں کے افکار و دلائل پیش کئے ہیں لیکن حاکمہ کرتے وقت یکسر غالی النہجت ہو کر بحث کے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اسے قبول کئے بغیر چارہ نہیں۔

و تاثر کا اسلام کا ایک اور بہت اہم واقعہ واقعہ افک ہے، یعنی حضرت عائشہ سدیقہ پر بعض لوگوں کی تہمت!

اس مسئلہ پر بھی مصنف نے بڑی سے تحقیق کے ساتھ بحث کی ہے اور منافقین کا چھڑہ بے نقاب کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی نشان دہی کی ہے جو بر بنائے غلط فہمی تہمت کے اس حادث میں شریک تھے، لیکن پھر بھی حد

تذکر سے نزدیک سکے۔

فَكَعْبٌ بُنْتُ نَبِيْرٍ أَوْدَ قَصِيْدَه بَاشْتَ سَعَادَ کِی حَکَايَتَ بَھِی مَصْنُفَتْ نَے ...  
مُؤْرِخَانَه کاوش، اور دیدِ ریاضی کے ساتھ اپنے تاریخین کے سامنے پیش کی ہے۔  
غرضِ جمیعی چیثیت سے یہ حصہ اپنے مباحث وسائل کے اعتبار سے حصہ  
اول کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اہم اور معکرہ آرا ہے۔

(سید) سُر ٹیس (احمد جعفری) (ندی)



# نحو عقیقہ اور اس کی مذہبی و نبی حیثیت

مؤطہ امام مالک کی روایت علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں عقوق رنا فرمائی، پسند نہیں کرتا۔

گویا آپ نے "عقوق" کے (لفظ) کو نافرمان فرمایا، اسے زید بن مسلم نے بنی صخرہ کے ایک آدمی سے اور اس نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، ابن عبد البر کا ارشاد ہے کہ اس میں بہترین سند وہ ہے جسے مجدد الرذاق نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں داؤ دبن تیس نے بتایا کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں عقوق رنا فرمائی، کو پسند نہیں کرتا گویا آپ نے اس نام کو ناپسہ فرمایا۔

صحابہؓ تھے عزم کیا اسے اللہ کے رسول ہم میں سے ایک اپنے لڑکے کی طرف سے قربانی، (عقیقہ)، کرنا چاہتا ہے تو؟۔

آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا تو اسے پتا ہیے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کرے اور حضرت عائشہؓ کی صحیح روایت سے لڑکے کی جاہب سے دو بکریاں اور لڑکی کی جانب سے ایک بکری ثابت ہے۔

آپ نے فرمایا کہ ہر لڑکا اپنے عقیقہ کے رہن میں ہوتا ہے اس کی جانب سے ساتویں دن (بکری)، قربانی کی جائے۔ اس کا سرمنڈا یا جائے اور اس کا نام رکھو دیا

امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت سے رکا ہوتا ہے اور لخت میں دہن رک جانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

عقل نفس بنا کیست رہینہ یعنی ہر جان اپنے کامے ہوئے (اعمال)، کی مر ہونے ہے اور ظاہر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے متعلق مر ہوں (رکا، ہوتا ہے۔ ہر جلانی سے خروم ہوتا ہے۔

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عاقبت میں اس کی وجہ سے اس پر عتاب ناول ہوگا۔ بلکہ شبِ عقیقہ کے باعث اس کے والدین کو فوائد حاصل نہ ہو سکے گا، اور گاہے گاہے لڑکا بھی اپنے والدین کی افراط و تغیریط کے باعث ایک جلانی کھو دیتھتا ہے اگر کہا جائے کہ ہمامؓ کی قتدادہ سے اس روایت کا آپ جواب دیں گے کہ "وہ خون لگایا کرتے تھے ہمامؓ فرماتے ہیں کہ حضرت قتدادؓ سے معلوم کیا گیا کہ وہ اور خون لگایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے یعنی خون سے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب عقیقہ کا جانور ذبح کیا جاتا اس میں سے ترکریتے پھر اسے بچے کے تالو (سرکلا چھوٹی کا حصہ) پر رکھا جاتا، پھر وہ اس کے سر پر بہ پڑتا۔ اس کے بعد اس کا سرد صویا جاتا اور موٹھ دیا جاتا، کہتے ہیں یہ مختلف فیہ مسئلہ ہے، بعض کا قول ہے یہ روایت جس نے سرقہ سے نقل کی ہے۔ حالانکہ ان کا سماع ثابت نہیں۔ بعض کہتے ہیں حدیث عقیقہ میں حسن کا سمرة سے سماع ثابت ہے اور ترمذ کی گئے اسے صحیح بتایا ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ قدریہ (خون بہانا) سنت ہے، یہ حضرت حسن اور قتدادؓ سے مردی ہے اور جنحولات نے ہدایہ کو منع فرمایا ہے، جسے الکر، شافعی، احمد اور اسحاقؓ فرماتے ہیں کہ وہ اور آپ ترمذ کرتے تھے" پر روایت قطعاً غلط ہے بلکہ آپ نام رکھا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے تھا جسے اسلام نے ابو داؤد کی روایت کے مطابق جو بریدہ ہمیہ سے مردی ہے باطل کر دیا فرمایا کہ دور جاہلیت میں اگر ہمارے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکری ذبح کرتے اور اس کے سر پر خون مل دیتے، مگر جب اسلام آیا تو ہم بکر ذبح کرتے اور بچہ کا سر موڑ ڈالتے اور زعفران اس پر مل دیتے، کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے استاد

میں حسین بن ماقد ہے، جس سے استند لال نہیں کیا جاتا، لیکن اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ملا جائے تو اس کی صحت تعمیی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”اس (بچے) ہے (اذی) تکلیف دہ چیز دو د کر دو“ اور خون تکلیف دہ ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اذی (تکلیف دہ) یتھر نے کا حکم دیتے؟ فراتے ہیں کہ یہ تومعلوم ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسینؑ کی جانب سے ایک ایک مینڈھے کی قربانی کی اور ان پر خون نہیں لگایا۔ اور نہ یہ فعل آپ کی اور آپ کے صحابہؓ کی سنت ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولود کے سر کو ناپاک کرنا آپ کی سنت ہوتی۔ سنن میں اس کی نظری اور شہادت ہی کہاں ہے؟ بلکہ یہ تو جہلا کا کازنامہ ہو سکتا ہے۔

**امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا عقیقہ** اگر کہا جائے کہ حسن و حسینؑ ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سنت طبیہ ایک بچے پر ایک ہی جانور تھا۔ اور عبد الحق نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ سے صحیح روایت میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنؑ کی طرف سے ایک مینڈھا اور حسینؑ کے طرف سے ایک مینڈھے سے عقیقہ کیا اور حضرت حسنؑ کی ولادت احمد کے سال اور اس کے ایک سال بعد حضرت حسینؑ کی ولادت ہوتی اور تمدنی نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کی روایت نقل کی ہے۔ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کی روایت میں ایک بھری سے عقیقہ کیا۔ اور فرمایا فاطمہؓ اس کا سر منڈوا دو۔ اور اس کے بالوں کے اسی وزن پر اندری خیرات کرو۔ جتنا بچہ ہم نے ان کا وزن کیا جو ایک درہم یا اس سے کچھ کم تھا۔

اگرچہ یہ روایت متصل اللسان نہیں ہے لیکن حضرت انسؓ اور ابن عباسؓ کی روایتیں اس دکی تقویت کے لیے کافی نہیں، فلاتے ہیں کہ یونہ کریمہؓ نے کم میں سے ہے اس لیے یہ ایک سر (بچے) پر قربانی (ضمیر)، اور دم تمشیع کے

بابر ہی واجب ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے دو بکیاں اور لڑکی کی جانب سے ایک بکری کی روایات کئی دجوہ کی بناء پر زیادہ قابلِ عمل ہیں۔ ایک سبب تو کثرتِ رواۃ ہے کیونکہ انہا وہیوں میں سے حضرت عائشہؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، ام کرزک عبیدیہؓ اور اسماعیلؓ ہیں اور ابو داؤدؓ نے کرڈے رواۃ کیا، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سننا کہ لڑکے کی جانب سے دو بکیاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔

ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو فرماتے سننا کہ "مکافیت ان" رکافی ہا کامطلب بلا بریا مساوی ہے۔

دوسرے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور دو بکیاں کے متعلق آپؐ کا قول ہے، قولِ امام ہوتا ہے اور فعل میں اختصار میں کامکان بھی ہوتا ہے۔ تیسرا یہ روایت زدیاتی (نیکی) کی متنضم ہے۔ اس نے اس پر عمل کرنا اولیٰ ہے پھر تھے فعل کا مطلب جوازِ محض، کا ہو سکتا ہے۔ اور قول استحباب پر دلالت کرتا ہے۔ اب پونکہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اس نے ایک ترک کر دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

پانچویں حضرت عثیں و حسینؑ کی جانب سے فرمائی گزنا اور اس کے بعد ولی علیہ کا واقعہ ہے۔

چھٹے الشتعالی نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی، جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا،  
و لیس الذاکر کا لاثنا، یعنی اور شادہ کی طرح نہیں، اس انتیاز کا تقاضا یہ  
ہے کہ احکام میں بھی ایسا ہی انتیاز عطا کیا ہے۔ اسی طرح عقیقہ کو انہی احکام کے  
ساتھ مسلک کر دیا گیا۔

ساتویں عقیقہ مولود کے حق سے مشاہد ہے کیونکہ رمولو، عقیقہ سے مر ہوں  
ہوتا ہے اور اس کا دا کرنا ہجی اس کو توزیتا اور مولود کے حق را زادی کا سبب بنتا  
ہے اس نے اولیٰ یہ ہے کہ لڑکے کا دو بکریوں اور لڑکی کا ایک بکری سے عقیقہ

کیا جائے۔ جس طرح دو عورتوں کا عشق کا ہم مرد کے ملٹق کا ہم مرتبا ہونا ہے۔

جامع ترمذ <sup>صحیح</sup> وغیرہ میں حضرت ابو امام <sup>رض</sup> سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجہ مسلمان ایک مسلمان مرد کو آزاد کرے تو زہ آگ سے اس کو نجات دلانے کا سبب ہو گا۔ اس کا ہر عضو ہر عضو کے بدلہ میں ہو گا۔ اور جو مسلمان عورتوں کو آزاد کرے۔ وہ دونوں اس کے آگ سے نجات کا سبب ہوں گی راس طرح کو ان ہر دو کا عضواں کے حصہ بدن کے بدلہ میں ہو گا، اور جو مسلمان عورت کو آزاد کرے گی وہ اس کے آگ سے نجات کا سبب بنے گی۔ اس کا ہر عضواں کے ہر عضو کے بدلہ میں ہو گا۔

ابوداؤد <sup>صحیح</sup> مرا میل میں جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیقہ کے متعلق جو حضرت فالمیر <sup>رض</sup> نے حضرت حسن <sup>رض</sup> و حسین <sup>رض</sup> کا کیا تھا فرمایا کہ دائی کے گھر میں ایک ٹانگ بسیج دو۔ اور خود کھاؤ رددوں کو، اعلاء اور اس سے ایک ہڈی نہ توڑو۔

آپ نے خود اپنی طرف سے بھی عقیقہ کیا | این ایک نے حضرت انس <sup>رض</sup> سے روایت تقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عقیقہ فرمایا جب آپ کو ثبوت عطا ہوئی تھی ہے۔ ابوداؤد نے مسائل میں اس حدیث کے متعلق کہا ہے کہ میں نے امام احمد <sup>رض</sup> سے سنا ہیشتم بن مجیل سے انہوں نے عبد اللہ بن شٹی سے انہوں نے شما میر <sup>رض</sup> سے انہوں نے حضرت انس <sup>رض</sup> سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے عقیقہ فرمایا۔ احمد فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن محزز نے قتاڈہ <sup>رض</sup> سے انہوں نے حضرت انس <sup>رض</sup> سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف سے عقیقہ کیا۔ احمد فرماتے ہیں کہ یہ منکر روایت ہے اور انہوں نے عبد اللہ بن محزز کو ضعیف قرار دیا۔

## حسین رضی اللہ عنہما کے کان میں آپ نے اذان دیے ابو داؤدؓ نے حضرت

ابورانجؓ سے روایت کیا فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت فاطمہؓ کے گھر میں حسن بن علی پیدا ہوتے تو آپ نے نماز کی طرح ان کے کان میں اذان دی۔

## بچہ کا نام ساتویں دن عقیقہ کر کے رکھ دیا جائے افتادہ کی حدیث میں عقیقہ کے متعلق حضرت

گذر جکا ہے جو انہوں نے حسن سے اٹھوں نے سمرہؓ سے روایت کی کہ ساتویں دن قربانی کی جائے اور نام رکھ دیا جائے ؟ ابو عبد اللہ نے تمیں بتایا "حضرت انسؓ سے مردی ہے کہ تیسرا (دن) اس کا نام رکھا جائے ؛ البتہ سمرہ فرماتے ہیں، ساتویں دن نام رکھا جائے گا"

اور ختنہ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ آپ کے کافتنہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ سمجھ دار نہ ہو بات میتوں فرماتے ہیں کہ میں نے احمدؓ کو فرماتا تھا کہ حضرت حسن ناپسند کرتے تھے کہ بچے ساتویں دن ختنہ بٹھایا جائے ۔ اور سبلؓ فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ اگر ساتویں دن ختنہ بٹھایا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ حضرت حسن نے اسے بہود کی مشابہت کے باعث تکروہ سمجھا ہے جالانکہ اس میں ایسی کچھ بات نہیں۔

کھولؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لپٹے بیٹے حضرت اسحق علیہ السلام کا ساتویں دن ختنہ کیا اور اسما میں علیہ السلام کا تیرھوں سال ختنہ کیا۔ اسے خلالؓ نے ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ فرماتے ہیں کہ اسحق علیہ السلام کا ختنہ بچپن میں ہوا اور حضرت اسما عبیل علیہ السلام کا ختنہ بھی بچپن میں ہوا اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احتلان

گذر پہکا کہ آپ کافتنہ کب ہوا؟

(اسما، اور کنہتوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذلیل اس ادی

کا نام ہے جو اپنا نام ملک الامالک نکلتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے سوا کوئی ملک ریاستا نہیں۔

اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں اور سب سے زیادہ سچے حاصلت ہمام اور سب سے بڑے نام حرب۔ سرہ میں۔

نیز آپ سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے لئے کے کا نام یسار۔ رب اجْمَعِ الْمُلْكِ افْلَحَ نَهْ رکھو۔ کیونکہ آپ کہیں گے کیا وہ مصلح ہے اور وہ ایسا نہ ہو گا تو جواب ہو گا کہ نہیں۔ نیز آپ نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور جمیلہ رکھا پہلے حضرت جوینبؓ کا نام بڑہ تھا مددوں کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جو یہ پڑھ کر دیا۔ حضرت زینب ام سلمہؓ فرماتے ہیں کہ بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نام لکھنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت جتا تو۔ اللہ تعالیٰ ہی تم میں سے نیکوں کو خوب جانتا ہے۔ نیز احمدؓ کو بدل نہ رکھ۔ ابی حکم کو بدل کر ابی شتر صحیح۔ سعیدؓ کے دادا حمزہ نے بدل کر سہل رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ سہل کو لاڑا جاتا ہے اور اس سے خدمت لی جاتی ہے۔

ابوداؤدؓ فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصی۔ عزیز۔ عیله۔ شیطان۔ حکم غراب۔ جناب اور شہاب کا نام بدل دیا اور ان کا نام ہشام رکھا۔ نیز آپ نے حرب کا نام مسلم رکھا۔ مفتبلجح کا مفععٹ۔ ارض عفرہ کا نام حضرو۔ شعبہ حملانہ کا شعبہ بدی۔ بنوزینہ کا بنور شدہ اور بنی سعادیہ کا نام بنی مشیہ رکھا۔

### اسماں معانی کے قابل ہوتے ہیں اور ان پر رشنی ادا کرنے والے ہیں۔

معانی کے درمیان ایک خاص ربط اور نسبت ہوا اور دونوں میں اجنبیت نہ ہو کر وہ ایک دوسرے سے بکھر غیر متعلق ہوں، کیونکہ حکیم کی حکمت اس کو روانہ ہیں سمجھتی، بلکہ واضح یہ ہے کہ نام کا، مسمی کی شخصیت پر ایک مخصوص اثر ہوتا ہے۔ انسان اپنے ناموں کے حسن۔ توجہ۔ ذلت و عزت، لطفات و کثافت سے ضرور متأثر ہوتا ہے۔

کر کسی شاعرنے کہا ہے:

وَقَلَ أَنِ ابْصُرْتَ عَيْنَائِكَ ذَالْقَبْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپھے نام کو پسند فرماتے تھے، آپ نے حکم دیا کہ  
ہب کوئی قاصد آپ کی طرف سمجھا جائے تو بھیل ہو اور اپھے نام والا ہو۔ اور آپ نے پسند  
اور بیداری میں ناموں سے معافی لیتے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ اور صاحابہ عقیہ  
بن راشح کے گھر میں ہیں اور این طاب کی ترکھجوروں سے محجور میں حاضر کی گئیں۔ آپ  
نے اس کی بیہتا و بیہتا گی کہ ان کے لیے دنیا میں عاقبت رخیز اور آخرت میں رفت  
ملے گی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا وہ تر ہو گئے اور طاب (خوش) ہو گئے۔

اور حدیث پیر کے دن سہیل بن عمر کے آنے سے آپ نے اس کام کو سہیل سمجھنے کی تاویل  
فرمائی۔ اور ایک گروہ نے بکری دوہنسے کا ارادہ کیا چنانچہ ایک آدمی دوہنسے کے لئے اٹھا  
آپ نے دریافت فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟  
اس نے عرض کیا مردہ (تلخ)

آپ نے فرمایا، بیٹھ جا۔

دوسرا اٹھا، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں، میرا خجال ہے کہ  
اس نے کہا میرا نام حرب ہے۔

آپ نے فرمایا، بیٹھ جا، لیک اور اٹھا، آپ شہر پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟

اس نے عرض کیا یعیش (جیتا رہے گا)، آپ نے دو دھو دوہنسے کا حکم فرمایا۔

نیز آپ بر سے ناموں والی جگہوں کو بھی ناپسند فرماتے اور وہاں سے گذرنے میں بھی  
کراہت محسوس کرتے تھے۔

اپھے اپھے نام رکھنے کا حکم ایک بار کسی غزوہ میں دو بہادروں کے  
درمیان گنڈ رہتے تھے۔ آپ نے ان  
کا نام دیا فرست فرمایا۔ عرض کیا گیا کہ ان کے نام تا ضع ذلیل کرنے والا، اور مخفی (کھوا

کرنے والا) ہیں۔

آپ نے ان سے اعراض کر لیا اور ان کے درمیان سے نہ گزرے، چونکہ اسماں اور مسمیات میں اس طرح تناسب و ارتبا طہوتا ہے، جس طرح ارواح و اجسام اور حقائق و توالب اشیاء کے درمیان اس لیے عقل ان سے بڑھ کر دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے جیسے ایسا بن معادیر وغیرہ کسی آدمی کو دیکھتے تو فرماتے کہ اس کا نام ایسا ایسا ہونا پڑتا ہے تھا تو وہ اس معاملہ میں غلطی پر نہ تھے۔ اس کی مثال حضرت عمر بن خطاب سے ملتی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے اس کا نام دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا ہرہ (انگارہ)

آپ نے پوچھا، تیرے والد کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا، شہاب آپ نے پوچھا، تیری منزل کہاں ہے؟ کہنے لگا حربہ النادر راگ کی گرمی میں آپ نے دریافت فرمایا کہ تیرا مسکن کہاں ہے؟ کہنے لگا ذات لطی (شعلوں والی) میں۔ آپ فرمایا، اچھا جا، تیرا مسکن جل گیا۔

وہ گی تو واقعی ایسا ہی پایا، یعنی حضرت عمر بن الفاظہ سے ان کے معافی وارد اور کامطلب اخذ کیا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیرہ کے دن سہیل کے نام سے سہولت کامطلب لیا اور واقعی معاملہ سہولت سے طے پا گیا۔

نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی امت کو اچھے اچھے نام رکھنے حکم دیا اور بتایا کہ انہیں تقیاس کے دن انہی ناموں کے ساتھ بلا یا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ اچھے اعمال اچھے اسما سے نسبت حاصل کر لیں۔ اچھے اور مناسب اسما و اوصاف سے وہ بلا یا ایک شہزادت بن جائے۔

آپ غریب ہے کہ جبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد اور محمد کے دو ناموں سے ان کے اوصاف کا کس انداز سے رعلائی اشتھقاق کیا محمد کے لفظ میں صفات محمودہ کی کثرت اور احمد کے لفظ میں دوسروں کی صفات سے افضیلت مراد ہے۔ تو اسیم اپنے مسی سے اس طرح مرتبط ہو گیا جسے روح اور بدن کا تعلق ہونا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کا بحکم بن ہشام کے لئے ابو جہل کنیت فرماتے۔ اس کی اسلام ہے جہالت کے باعث، بالکل اوس افتراضی کے مطابق تھا، نیز اللہ تعالیٰ نے عبد العزیز کو ابو ہبیب کی کنیت عطا کی، کیونکہ شعبد خیز آگ میں بلند کے باعث وہ اس کنیت کا زیادہ مستحق تھا اور یہ کنیت اس سے زیادہ مطابقت و ملاحت رکھتی تھی۔

نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عرب قبائل سے فرمایا، اے نبی عبد اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور آبا اور اجداد کے اپنے نام لکھے۔

آپ دیکھئے کہ آپ نے ان کو ان کے والدین کے اپنے (عبد اللہ) سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی دعوت، اور یہ حونکہ اس کے مسمی کا مقتضی بکہ اس میں موثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ناموں کو پسند فرمایا، جیسے عبد اللہ اور عبد الرحمن، اپنی اضافت کے اعتبار سے دوسرے ناموں عبد القادر اور عبد القادر سے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، چنانچہ عبد الرحمن عبد القادر سے زیادہ پسندیدہ اور عبد اللہ عبد رب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان مخصوص عبودیت کا تعلق ہے۔ لیکن بندے اور رحمٰن کے درمیان مخصوص رحمت کے سہماں کا تعلق ہے اس کی رحمت سے اس کا وجود قائم ہے۔ اسی کے باعث اسے پیدا کیا۔ اس وجہ سے بندہ صرف اس ذات یکتا کو محبت، خوف، امید، تعظیم اور اجلال کے باعث اپنا اللہ مانتا ہے اور عبد اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کے لفظ کے جو معنی ہیں ان کا غیر اللہ پر اخلاق ناممکن ہے اور یہ حونکہ اس کی رحمت اس کے غصب پر غائب ہے اس لئے وہ رحمت کو اپنے غصب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، پس عبد الرحمن کا نام عبد القادر سے زیادہ پسندیدہ ہوا۔

**انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو** [انبیاء علیہم السلام جملہ نبی آدم کے سردار ہیں کیونکہ ان کے

اخلاق تمام لوگوں کے اخلاق سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے اعمال تمام لوگوں کے

امال سے زیادہ قابل شرف ہوتے ہیں ان کے اسماء بھی تمام دوسرے اسماء سے زیادہ قابل عظمت ہوتے ہیں۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پی امت کو رانبیاء کے اسماء نے مبارکہ پر نام رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ سنن ابی داؤد اورنسانی نے روایت کیا۔ انبیاء رضی اللہ عنہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھو اگر ان میں دیگر مصالح نہ بھی ہوں پھر بھی ان کے اسماء سے ان سے تعلق قائم رہتا ہے دیگر یہ کہ انبیاء رضی اللہ عنہم السلام سے اسمائے مبارکہ کی خواہی ہوتی ہے ان کا تذکرہ جاری رہتا ہے۔ اور انھیں طاقت نہیں کی زینت نہیں بنایا جا سکتا۔ اور ان کے اسماء کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف و حالات کا بھی تذکرہ جاری رہتا ہے۔ لڑکے کا نام یسار، افلح، بخیع، رباح رکھنے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ مسمی کا اعتقاد اور ظن لیسے ہی ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ اور پر عظمت و ذی رفتہ جتنے میں ہی لگا رہتا ہے اسی وجہ سے ثبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بره (نیک) نام رکھنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ "اپنے آپ کو پاکیزہ مت جتنا و اللہ تعالیٰ ہی تم میں سے نیک (کام کرنے والوں) کو خوب جانتا ہے۔ اسی لیے تقی مطیع، طائع، راضی، محسن، مخلص، غیر، رشید اور سدید جیسے نام رکھنا مکروہ ہے۔ اور کفار کو تو ایسے نام رکھنے کی قطعاً اجازت نہ دیتی چاہیے۔ انہیں ان تاملوں سے بلانیا ان ناموں سے تذکرہ کرنا بھی منفور ہے اور کفار کے لیے نام رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا غصب بھڑک اٹھتا ہے۔

---

# کنیت رکھنے کے آداب

آنحضرتؐ کی کنیت کو اختیار کرنے کا مسئلہ

آنحضرت کی عطا کروہ میں کنیت رکھنا دراصل ایک طرح مکتبی کی تنظیم و تحریم ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کرتا ہے

اکینہ حین انادیہ لا کرمہ ولاد القبہ والسواعدا اللقب  
یعنی جب میں اسے بلاتا ہوں تو اس کے اکرام کے باعث اس کی کنیت کا ذکر کرتا ہوں اور میں اس کا القب ذکر نہیں کرنا اور القب سے یاد کرنا برا ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیبؓ کو ابو تعبی اور علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب اور الجان کی کنیت مرحمت فرمائی اور یہ آپؓ کی سب سے محبوب کنیت تھی۔ اور حضرت انس بن مالک کے صحافی جب کہ ابھی چھوٹے تھے انہیں ابو عمر کی کنیت عطا کی۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادست طیبہ یہ تھی کہ آپ صاحب اولاد اور میے اولاد سب کو کنیت عطا کرتے۔ اور ابو القاسمؓ سوا آپؓ سے ثابت نہیں کہ آئی نے کسی کنیت سے منع فرمایا ہو۔

آپؓ کی کنیت پر کنیت نہیں رکھی جا سکتی صحیح روایت میں آپؓ سے منقول ہے کہ فرمایا میر سے نام پر نام رکھو، لیکن میر کی کنیت اختیار رکھو کرو، وہ چنانچہ اس مسئلہ میں علمائے

کرام کے چهار اقوال ملتے ہیں۔

ایک یہ کہ آپ کی کنیت اختیار کرنا مطلقاً ناجائز ہے۔ چاہئے آپ کے نام سے متصل کمی جائے یا انہزادی طور پر یا آپ کی حیات تطیبہ میں ہو یا دنات کے بعد۔ انہوں نے اس صحیح حدیث کو عام سمجھا ہے اور زہقیؒ نے امام شافعی سے اسے مطلق نقل کیا ہے۔ اور منقول ہے کہ یہ کنیت اور نام بہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شخص تھے۔ آپ نے اس طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ ”اللہ کی قسم میں نہ کسی کو حکم دو گا اور نہ روکوں چاہ، بلکہ میں تو قسم تقسیم کرنے والا، ہوں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہاں رکھتا ہوں۔“

اور یہ تعلموم ہی ہے کہ یہ صفت و مخصوصہ کامل حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کہیں بھی نہیں ملتی۔

دوسراؤل یہ ہے کہ آپ کا نام و کنیت اجتماعی صورت میں منسوب ہے۔ اگر دونوں میں سے صرف ایک اختیار کر لیا جائے تو اس میں کچھ ہرج نہیں۔

ابوداؤدؓ نے باب من اسمیؑ لا یجمع بینہما میں اسے ذکر کیا ہے۔ اور ابو زبیر کی حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا نام رکھا وہ میری کنیت اختیار نہ کرے۔ اور جو میری کنیت اختیار کرے وہ میرا نام نہ رکھے۔ ترمذیؓ نے بھی اسے روایت کیا ہے نیز ترمذیؓ نے محمد بن عجلان سے نقل کی۔ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو زبیرؓ سے روایت کیا اور ترمذیؓ نے اسے صحیح بتایا۔ الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام اور کنیت کو جمع کرنے یعنی محمد ابو القاسم نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں جمع کرنا جائز ہے۔ یہ مالکؓ سے منقول ہے۔ انہوں نے ابو داؤدؓ اور ترمذیؓ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو محمد بن حنبلؓ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ فرمایا کہ میں نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول اگر آپ کے بعد میرے گھر میں کوئی لڑکا ہوا تو میں آپ کا نام رکھوں گا اور اسے آپ

کی کنیت دوں گا۔

آپ نے فرمایا، ہاں اتر میں نے اس صحیح بتایا ہے اور سنن ابو داؤد<sup>ؓ</sup> میں حضرت عائشہؓ سے مردی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، اسے اللہ کے رسول میرے ہاں لڑکا تولد ہوا میں نے اس نام محمد رکھا اور اسے آپ کا کنیت ابوالقاسم دی پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اسے ناپسند فرلتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ کس نے میرا نام جائز کیا اور کنیت حرام کر دی؟ یا (فرمایا) کہ کس نے میری کنیت حرام کر دی اور نام حلال (جائز) کر دیا (یہ علماء) فرماتے کہ ممانعت کی آحاد ان دور و ایتوں سے مشوخ ہو چکی ہیں۔

جو تھا نقول یہ ہے کہ آپ کی جیات طیبہ میں ابوالقاسم کی کنیت اختیار کرنا ہونا تھا، اور وفات کے بعد جائز ہے، کہتے ہیں کہ ممانعت کا سبب آپ کی جیات سے مخصوص تھا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے حضرت انسؓ سے مردی ہے کہ ایک آدمی نے بقیع میں "اے ابوالقاسم" آواز دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہوئے۔

اس نے عرض کیا، اسے اللہ کے رسول میرا مطلب آپ نہ تھے، بلکہ میں تھلاں کو بدلایا تھا۔

آپ نے فرمایا، میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو اور (ملک مج کرام) فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کا مطلب یہ ہے، کہ انہوں نے اس بچہ کے بارے میں بوچا تھا جو آپ کے بعد پیدا ہوا، اس کے بارے میں نہیں جو آپ کی زندگی میں پیدا ہوا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا "یہ صرف میرے لیے رخصت تھی"۔

اور صحیح مسئلک یہ ہے کہ آپ کا نام رکھنا جائز ہے اور آپ کی کنیت اختیار کرنا منوع ہے اور زندگی میں آپ کی کنیت اختیار کرنے کی ممانعت زیادہ شدید تھی۔

کیا ابو علیسی کنیت اختیار کی جا سکتی ہے؟ نیز سلف و خلف کی ایک جماعت نے ابو علیسی کی کنیت کو مکروہ بتایا ہے۔ دوسروں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔

ابوداؤد میں زید بن اسلم سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے ایک بیٹے کو مارا، جو کہ ابو علیسی کنیت رکھتا تھا، نیز حضرت مغیرہؓ بن شبیہ نے ابو علیسی کی کنیت اختیار کی۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کیا تم چھے اتنا کافی نہیں کہ تو ابو عبد اللہؑ کی کنیت اختیار کر لے؟

انھوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت رکھی ہے۔ انھوں نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام الگے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے اور ہم اپنی حرکات میں ہیں۔ پھر وفات تک، ہمیشہ ابو عبد اللہؑ ہی اپنے آپ کو کہہ رہا تھا رہے۔ حضرت عائشہؓ کو امام عبد اللہ کی کنیت دے رکھی تھی اور بعض ازواج مطہرات کو جیسے ام جبیہ اور ام سلمہ کی کنیت عطا فرمائی تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو "کرم" کہنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے، یونکہ لفظ (کرم) کثرت خیر و برکت پر دلالت کرتا ہے، لہذا ایسے امور خیر کا ذیادہ مشقی مومن کا قلب ہی ہو سکتا ہے، نہ کہ انگور کا درخت۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعراب کے نام تہمہاری نمازوں مثلاً عشاء پر غالب نہ آ جائیں (کیونکہ اعراب) اس نماز کو عتمہ کہتے ہیں اور صحیح حدیث میں آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر انھیں معلم ہونا کہ عتمہ روشنہ اور صحیح میں کس قدر اجر ہے تو یہ پیٹ کے بل رینگ کر بھی حاضر ہوتے۔

ایک قوم میں یہ ہے کہ اس روایت کی بناء پر مخالفت منسوخ ہے۔ بعض اس کا عکس بتاتے ہیں۔ اور صحیح ہے کہ (روایات) کی تاریخ کا صحت سے تعین کرنے مشکل ہے، اور احادیث میں تعارض بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ آپ نے عشاء کو عتمہ کہتے کی قطعی مخالفت نہیں فرمائی، جبکہ مراد یہ تھی کہ عشاء کا نام متبروک نہ

ہونے پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس نماز کو اسی نام سے یاد کیا ہے اور اس پر عتمتہ کا غلبہ نہ ہونے دیا جائے۔ اب اگر اسے عشراء ہی کہا جائے اور کبھی کبھار عتمتہ کا نام بھی بول دیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

اور یہ فرمان محض اسی لئے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رچاہتے تھے) کہ عبادات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرو وہ اسلام کی حفاظت کی جائے، وہ متروک نہ ہونے پائیں اور ان پر دوسرے اسلام غالب کر دیئے جائیں۔ جیسے متاخر بن نے جدید اصطلاحات والالفاظ پر جپاں کر دیئے اور جس کی وجہ ہے اس قدر عظیم فساد و انشتا پیدا ہوا کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔



# افراد امرت سے آپ کا تناطہ

**سر اپا شفقت و رحمت** آپ امرت کو خطاب فرمانے کے لیے خوبصورت اور لطیف ترین الفاظ استعمال کرتے جو درشت و تند مزاج لوگوں سے بسید ہوں۔ چنانچہ آپ نہ فخش یا درست کلام فرماتے نہ تند گوئی اور تیزی سے کام لیتے۔

آپ ناہل ادمی کے حق میں پر عصمت اور قابلِ تکریم الفاظ اور (شریف) کے حق میں پر مذمت الفاظ کہنے کو ناپسند فرماتے۔

پہلی مثال مثلاً منافق کو کہنا اسے میرے سردار، فرمایا جو اللہ کے ہاں سردار نہیں تو تم نے اسے سردار کہ کر اپنے پردگار عز و جل کو ناراض کیا۔

نیز آپ نے ان گھوڑ کو کرم کہنے اور ابو جہل کو حکم کہنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ نے ایک صحابی ابو حکم کا نام بدمل کرائی شنزخ ڈر کھدیا اور فرمایا کہ حکم تو اللہ تک و تعالیٰ ہی ہے اور اسی کی طرف حکم واپس جاتا ہے۔

اسی طرح آپ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ غلام عباس آقا کو ربی (پرورگار) کہے یا آقا اپنے غلام کو میرا بندہ کہے اور فرمایا بلکہ یوں کہو "میرے بچے۔ میرے بھی" ایسے ہی طبیب ہوتے کے مدعا کو آپ نے رفیق فرمایا اور بتایا کہ طبیب تو خالتے ہے اور جہلدار کافر کو بھی حکم کہتے ہیں جسے چند طبیعتی باتوں کا علم ہو حالانکہ رکافر، تمام اور الفاظ میں ذیر دست کے لئے کتنی رحمت اور شفقت ہے اور آقا کے پندر کے ویکسی موعظت حنزخ

مخالفات سے زیادہ اچھن ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک خطیب سے، جسے  
نے کہا تھا:

”جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ خوش بخت ہوا اور حوان  
دوخون کی نافرمانی کرے وہ سرکش و مگراہ ہوا۔“

آپ نے فرمایا کہ تو بدترین خطیب ہے۔ اسی طرح آپ کا فرمان،  
”کہ پیر مت کہو کہ جس طرح اللہ اور فلاں (یعنی، چاہے ملیے ہو گا بنا کہ کہو جس  
طرح اللہ چاہے پھر جو اللہ کی مرضی سے، فلاں چاہے۔“ ایک آدمی نے عرض کیا،  
جس طرح اللہ اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شرک بنا دیا؟  
یلکر کہو جیسی صرف اللہ کی مرضی ہو۔ لہ

اور دوسری نوع یہ ہے کہ غیر مستحق پر الفاظِ مذمت استعمال کئے جائیں۔ اسے  
کی مثال یہ ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

زمانے دوہر کو گالی مت دو،

اور فرمایا، کہ:

زمانہ ہی خدا ہے۔

دوسری روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز وجل فرماتا

ہے کہ:

ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں، ہی  
زمانہ ہوں، اور سارا امر میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ میں ہی دن رات بدلتا ہوں،  
ایک اور روایت میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے، اسے زمانے کی نا مرگی۔  
اس میں تین بڑے بڑے مفاسد ہیں۔

---

لہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کس طرح آپ سماںوں کے قلوب میں راسخ کر دینا چاہتے  
تھے۔ یہ ارشادِ نبوی ان لوگوں کے لئے غور طلب ہے جو خدا کو چھوڑ کر، یا اس کے ساتھ پیروں  
افریدگوں کو بھی حاجت ردا کھستے ہیں۔ (رئیس احمد جعفری)

ایک یہ کہ ایک غیر مستحق کو گالی دی، کیونکہ دہر بھی اللہ کی سخت مخلوق ہیں سے ایک مخلوق ہے۔ اس کے حکم کا تابع ہے اس کے امر کے ساتھ بے بس ہے اس لئے گالی دینے والا نہ متکہ زیادہ مستحق ہے۔

دوسرے اس کا گالی دینا شرک کا تضمن ہے کیونکہ اس نے فائدہ رسائی اور ضرر رسائی سمجھ کر گالی دی ہے۔

تمیسرے گالی دینے والے کے دو حالات میں، یا تو اس نے اللہ کو گال دی کہے یا شرک کیا ہے کیونکہ اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ زنا نہ بھی فاعل ہے تو وہ مشرک ہو گیا اور اگر اس کا یہ اعتقاد کہ تنہ الہ اُللہ ہی اس کا فاعل ہے، تو اس نے گوپا اللہ کو گالی دی۔

اسی طرح آپ کا یہ فرمان کہ تم میں سے یہ کوئی نہ کہے کہ شیطان ہلاک ہو کیونکہ وہ موٹا ہو جانا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی قوت سے پچھاڑ دیا، بلکہ یہاں کہا کرے، بسم اللہ اس سے وہ مکھی کی طرح جھوٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ بندہ جب شیطان پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تو ایک طبع میں لعنت کر رہا ہے، نیز اللہ شیطان کو رسوا کرے، اللہ شیطان کا منہ کالا کرے۔ وغیرہ جملے بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ بنی آدم کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اسے اپنی قوت سے نقصان پہنچایا ہے، یہ جملے اسے زیادہ سرکش بناتے ہیں اور ذرا بھی فائدہ بخش نہیں ہوتے چنانچہ بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر شیطان کا اثر ہو۔ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ اس کا نام لے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پیشاد پڑا ہے۔ یہ بات اس کے لئے فائدہ دینے والی اور شیطان کے غصہ کو سمجھ رکانے والی ہے۔

سچر اور کسل کے مظاہرہ سے پھو | کسی کام کے ہو جانے کے بعد اسے قول کی میافیت کر کاش میں یوں نہ کرتا، میوں کرتا، فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے بلکہ ارشاد فرمایا کہ

اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے:  
جو کچھ اللہ کی تقدیر تھی اور جو اللہ نے چاہا ہو گیا۔

اور عجز (بھی غلط ہے) کیونکہ یہ بھی شیطان کو دخل اندر لے کا موقع دریتا ہے گویا  
یہ فائدہ مند اعمال سے عاجز ہیگی اور باطل امیدوں کے انتظار بند بیٹھ گیا۔ یہ کہتے ہوئے  
کہ کاش اس طرح ہوتا، کاش میں ملوں کرتا۔ اس سے شیطان کو دخل دینے کا موقع  
لتا ہے کیونکہ یہ عجز اور کسل دستی ہاں تیجہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں  
سے بناہ مانگی ہے کیونکہ یہ دونوں ہر کو خیز ہیں۔ اور انہی سے غم، اندوہ، بخل، قرض ادا  
نہ کر سکتا اور لوگوں سے مغلوب ہو جانا (یعنی حالات اپیدا ہوتے ہیں چنانچہ)  
کام کرنا اور مصدر عجز اور کسل ہی ہیں، چنانچہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب  
شیطان کا کسی پراثر شروع ہو جائے تو وہ تنائیں کرنے والا تمام لوگوں سے زیادہ عاجز  
اور مفلس بن کر رہ جاتا ہے کیونکہ تنائیں کرتے رہنا مخلسین کا راس المال ہوتا ہے  
اور عجز ہر شر کی کنجی ہوتی ہے بلکہ ہر گناہ کی جڑ عجز ہے۔ جب بندہ نیک کام کرنے  
اور برائی سے بچنے سے عاجز ہیگیا تو ہر حال معا�ی ہی میں ڈوب جائے گا۔

ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریع اصول و فروع اور اس کے متعلق  
غایات سے بناہ مانگنا۔ آٹھ خصال پر مشتمل ہے۔ ہر دو خصال آپس میں قرین ہیں۔ آپ  
نے دعا پڑھی

دونوں قرین ہوئے۔ اس کے بعد عجز اور کسل دونوں ایک دوسرے کے قرین ہیں۔ اگر  
بندہ بندگی اور اصلاح میں عاجز رہ گیا ہو، اگر علم قدرت کے باعث ایسا ہوا تو  
عاجز ہے اور اگر قصداً ایسا کیا تو یہ کسل (کامی ہے) ان دو صفات سے ہر خیر  
کھو جاتا ہے اور ہر شر آسمو بود ہوتا ہے۔

جس ہر کے باعث وہ اپنے بدن سے فتح حاصل نہیں کر سکتا اسے جیں کہتے  
ہیں۔ اگر ماں سے فائدہ حاصل نہ کر سکے پھر یہ بخل ہو گا۔ چنانچہ اس کے باعث دو  
طرح کی مغلوبیت مسلط ہو جائے گی۔ ایک کسی کے حق کا غلیہ دین کہتے ہیں۔ دوسرے

باطل کے باعث مغلوبیت اسے غلبہ رجائی کہتے ہیں۔ یہ تمام مفاسد عجز اور کسل کا نتیجہ ہیں۔

عجز اور کسل - حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق حکم ہے  
کہ ایک آدمی کے خلاف فیصلہ ہوا وہ کہنے لگا۔ حسبي اللہ ونعم الوھیل (مجھے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کار سانہ ہے۔

آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عجز پر ملامت کرتا ہے بلکہ تمہیں شعور سے کام لینا چاہیئے پھر جی اگر کوئی امر تم پر غالب آ جائے تو کہو حسبي اللہ ونعم الوھیل۔ حالانکہ اگر یہ اسباب کو ہوشمندی سے کام میں لاتا اور پھر جی مغلوب ہو جاتا۔ اس صورت میں یہ بحکم واقعیت پسند مقام پر درست ہوتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تمام مامور یہ اسباب کو فتیار کی کسی کو ترک نہیں کیا اور نہ عجز کا انطباع کیا۔ پھر بھی جب دشمن غالب آگئے اور انہیں لگ میں ڈال دیا تو انہوں نے اسی حالت میں حسبي اللہ ونعم الوھیل کہا۔ چنان پتھر یہ کلمہ جب اپنے مقام پر پڑھات تو فرا اثر ہوا اور اس کا مقتضی ظاہر ہو گیا۔

اسی طرح احمد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ سے جب کہا گیا کہ لوگ تمہارے یہے جمع ہیں، اس لیے ان سے ڈر و دلو (صحابہ و رسول اللہ) نے تیاری کی اور دشمن کے مقابلہ کے لئے نکلے اور خوب شعور سے کام لیا۔ پھر کہنے لگے حسبي اللہ ونعم الوھیل۔ تو اس کلمہ نے اثر کیا اور اس کا ایک نتیجہ نکلا۔  
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ يَتَقَبَّلْ لِهِ مُخْرِجًا وَمَا زَقْدَ مَنْ حَدَّيْتْ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ۔

یعنی، اور جو اللہ سے ڈر سے اللہ اس کے لئے نکلنے کی راہ بنادے گا اور اس کو ایسی بگد سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ نہ ہو سرسر کرے تو وہ اس کو کافی ہے ۲۷

اوہ و سری جگہ فرمایا:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی، اور اللہ سے ڈرو، مونوں کو بجا ہیئے کہ اللہ پر توکل کریں۔

اور اس باب دنیا اختیار کیسے بغیر توکل کرنا اور اللہ کو کافی سمجھنا یہ محض عجز ہے، اگرچہ اس پر قدر سے توکل چھایا لنظر آتا ہے۔ لیکن یہ توکل عجز ہے اور بندے کو یہ مناسب نہیں کہ اپنے توکل کو عجز بنادے یا عجز کو توکل کا جامدہ بہنا شے۔ بلکہ توکل کو بھی اس باب ماموروہ سمجھ کر اسے اختیار کرتے جس کے بغیر کوئی کام سرانجام نہیں ہو سکتا۔  
دو جماعتوں نے اس مسئلہ میں دھوکا کھایا ہے۔

ایک گروہ نے سمجھا کہ حصول مراد کے لیے تنہا توکل ہی کافی اور مستقل حیثیت میں موڑ سبب ہے متنا نچہ انہوں نے تمام اسباب کو معطل کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مقتنعی تھے سبب تک پہنچنے کا ذریعہ تھے، جتنا نچہ یہ گروہ ضعف توکل اور ترک اسباب کے باعث ہجرا در تفریط میں گرد گیا۔

دوسرے گروہ نے اسباب پر اعتقاد رکھا اور شرعاً اور ظاہراً ہر طرح مسبب میں سبب کی کار فرمائی و سمجھی اور توکل سے بالکل ہی اعراض کر لیا۔ اگرچہ اس گروہ نے اسباب کے ذریعہ پھر نہ پھر حاصل کر لیا، لیکن اس کی قوت اصحاب توکل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور نہ اسے اللہ کی نصرت حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے تحفظ و دفاع حاصل ہے بلکہ یہ توکل کے رائل ہونے کے وجہ سے ذیلیں وغایجن ہے۔ کیونکہ قوت تو صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے میں پہنچا ہے جیسا کہ بعض سلف نے فرمایا ہے۔

جو یہ چلا ہے کہ تمام لوگوں سے قوی ہو جائے تو وہ اللہ پر توکل کسے۔

# ذکر الٰہی

آپ ہمہ وقت ذکر میں مشغول رہتے

ذکر الٰہی کی وسعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں تمام مخلوقتے سے  
زیادہ کامل تھے بلکہ آپ کا ہر کلام اللہ کے ذکر یا اسے  
کے متعلق پر مشتمل تھا۔ آپ کا امت کو فرمانا، حکم فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء  
مبارک، صفات اس کے احکام افعال وعدے و عید، سب اس کا ذکر ہی تھے اور  
اس کی تھتوں پر شنا، حمد، تسبیح و مجید، سچی قلبی طور پر ذکر الٰہی کی شخصیں تھیں۔ گویا آپ  
ہر آن ہر حالت میں ذاکر تھے اور ذکر الٰہی آپ کے تنفس کی طرح، اُختتے بیٹھتے چلتے  
سوار ہوتے۔ سفر و حضر صلح و حجج ہر جگہ آپ سے متصل تھا۔ جب آپ یہاں  
ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

الحمد لله الذي أحياناً تاجد ما ألمتنا به واليئه النشور۔

یعنی، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور  
اٹھ کر اسی کی طرف ہمارا دھنرا نشر ہو گا۔

حضرت علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب آپ رات کو جانستے تو دس بار اللہ اکبر کہتے۔  
دس بار الحمد لله کہتے اور بتایا کہ دس بار سبحان اللہ و بحمد اللہ اور دس بار  
سبحان الملائکۃ القدوس اور دس بار استغفار اللہ اور دس بار لواۃ اللہ  
الواۃ اللہ کہتے پھر دس بار یہ دعا پڑھتے اللهم انا نعوذ بالله من ضيق الدنيا

وضيق یوہ القیامہ اس کے بعد تہجد شروع کرتے نیز فرماتی ہیں، کہ جب آپ  
کسی وقت رات کو جاگتے تو یہ الفاظ بڑھتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبِّحَانَكَ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَاسْأَلُكَ رَحْمَةً  
اللَّهُمَّ إِنِّي سَمَّاً لَوْ تَزَغَ قَلْبِي بَعْدَ مَا ذَهَدَ يَتَنَزَّلُ وَهَبْ لِي مِنْ لِدْنَكَ رَحْمَةً  
إِنْتَ أَنْتَ الْوَهَابُ - (ایواد اؤد)

”یعنی تیرے سوا کوئی معبود اور کار ساز نہیں، اے اللہ تو پاک ہے۔ میں پسند  
گناہ کی تجوہ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ  
میرا علم زیادہ کر دے اور مجھے جب تو نے ہدایت دے دی تو اب میرے  
قلب کو کھوٹانہ بنانا اور مجھے اپنی ہناب سے رحمت عطا فرمائے شک تو  
ہی عطا کرنے والا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ جو ادمی رات کو بیدار ہو اور یہ جملے کہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَلْقَ  
کلْ شَيْءٍ قَدْ يَرَى الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَبِّحَانَ اللَّهَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ أَكْبَرُ  
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اس کے بعد کہے اللهم اغفر لی۔  
یعنی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی دوسرا دھاقبول ہوگی، اور اگر اس نے  
وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز قبول ہوگی (بخاری)

حضرت عباسؓ نے جو رات انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری اس  
کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اسمان کی ملن  
سر اٹھایا اور سورۃ آل عمران کی آخری دس آیات  
سے لے کر آخر سورت تک تلاوت کیں۔ پھر یہ دعا پڑھی دے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْحَمْدُ لَكَ إِنَّتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ  
الْحَمْدُ إِنَّتَ قِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ إِنَّكَ الْحَقُّ وَفِيْكَ  
الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ الْحَقُّ وَإِلَحْتَهُ الْحَقُّ وَالنَّاسُ الْحَقُّ وَالنَّبِيُّونَ الْحَقُّ وَ

مَحْمَدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَاكَ اسْلَمْتُ وَبِكَ امْنَتُ وَعَلَيْكَ تَرَكَتُ  
وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ عَلَيْكَ خَاصَّتُ وَإِلَيْكَ حَالَتْ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدِمْتُ وَمَا  
أَخْرَتْ وَمَا أَسْرَرْتْ وَمَا أَعْلَدْتْ أَنْتَ اللَّهُ لَوْا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَوْلَا حُولَ  
وَلَوْقُولَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -

یعنی، "اے اللہ تو سزاوار حمد ہے، تو انسانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے  
ان سب کا نور ہے بس تیری ہی حمد ہے تو ہری آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ  
ان میں ہے سب کا تھامنے والا ہے۔ بس تیری ہی حمد ہے۔ تو حق ہے تیرا  
 وعدہ حق اور تیرا قول حق ہے۔ اور تیرا دیدار حق ہے، جنت حق ہے اور اگر  
(دوڑخ) حق ہے اور انبیاء علیہم السلام حق ہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حق  
ہیں اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ میں تیرے لئے اسلام لایا تجھ پر ایمان لایا۔  
تجھ پر توکل کیا تیری طرف رجوع کیا اور تبریز مرد سے نزاع کیا اور تجھ ہی سے داد  
خواہ ہوا۔ پس میرے سابقہ اور ما بعد گناہ بخشش دے اور جو گناہ میں نے چھپ  
کر کیے اور جو میں نے علائیہ کیے وہ بھی بخشش دے، تو ہی میرا معبد ہے تیرے  
سو اکوئی معبود نہیں اور بزرگی و عظمت وابے خدا کے سوانح کوئی قدرت ہے اور  
نہ قوت ہے" ۔

نیز حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے  
اَللَّهُمَّ رَبُّ جَبَرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ فاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمِ  
الْغَيْبِ وَلِشَهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَعْلَمَ هَذَا نَوْافِيْهُ يُخْتَلِفُونَ إِهْدَافُ  
لَهُمَا اخْتَلَعَتْ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ يَا ذَلِكَ أَنْكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى  
صِرَاطِ مَسْتَقِيمٍ -

"یعنی اے اللہ جبرايل و میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے پروردگار آسمانوں  
اور زمین کو پیدا کرنے والے بغیب اور حاضر کو جاننے والے تو اپنے بندوں کا فیصلہ  
کرتا ہے جس میں اختلاف کرتے تھے یہ شک تو جسے چاہتا ہے سید صاحب استہ

دکھاتا ہے

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ بسا اوقات آپ نماز شروع کر دیتے۔ جب آپ و تربیث میں تو وتروں سے فارغ ہونے کے بعد تین بار سچان ملک اور مدرس کہتے، اور تیسرا بار آواز بلند کرتے۔

اور جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ بسم اللہ  
تو مکتُّ علی‌اللہِ التھمَّ اعوذ بک ان اضل او اوضل اور اسمل اور اازل او  
ا ظلمٰ ا و اظلمٰ ا و اجهل ا و اجهل علی (صحیح حدیث)

یعنی، اللہ کے نام سے، میں نے اللہ پر توکل کیا۔ اسے اللہ میں اس امر سے تیری پینا، چاہتا ہوں کہ کسی کو گراہ کروں یا مجھے گراہ کیا جائے یا میں پھسلاؤں یا مجھے پھسلا یا جائے یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ میں جہالت (رسے پیش) آؤں یا مجھ سے جہالت کا رتاؤ کیا جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر سے بنتکتے وقت یہ دعا

پڑھوئے

بِسْمِ اللَّهِ تُوكِلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَسَّعَ سے کہا جاتا ہے  
کہ تمھے ہدایت دی گئی، تمھے کفایت ہو گئی اور تمھے پھالیا گیا۔ اور شیطان اس سے  
الگ ہو رہا تھا (حدیث حسن)

حضرت ابن عباسؓ نے جو رات آپؐ کے پاس گزاری اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز کے لئے یہ دعا پڑھتے ہوئے باہر تشریف لاگے۔

اللهم اجعل في قلبي نوراً واجعل في لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً واجعل  
في بصرى نوراً واجعل في خلفي نوراً ومن امامى نوراً واجعل من فوقى نوراً واجعل  
من تحقق نوراً اللهم اعظمه في نوراً -

یعنی، اسے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اور میری زبان کو نور عطا فرما، اور میری سماحت کو نور عطا فرماء، اور میری بصارت کو نور عطا کر، اور میرے

سلمان نے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے، اے اللہ میرے لیے نور بڑھا ہے۔<sup>۲۷</sup>

اور فضل بن مرزوقؓ حضرت عطیہ عویزؓ سے وہ حضرت ابوسعید خدراشؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور وہ یہ دعا پڑھے:

اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايِّ هَذَا إِلَيْكَ فَالْيَكْ فَالنَّرْ  
أَخْرُجْ بَطْرَأْ وَلَا أَشْرَأْ وَلَا رِيَاعْ وَلَا سَمْعَةْ وَلَا مَخْرِجَتْ أَتْقَاعْ سَخْطَكْ وَلَا بَغَاءْ  
مَرْضَاتَكْ أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَإِنْ تَخْفِرْنِي ذَقْوَبِي فَاتَّهْ لَوْ يَغْفِلُنِي  
أَلَا أَنْتَ -

یعنی "اے اللہ میں تجوہ سے سائلین کے حق کے طفیل اور تیری طرف چلنے کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میں بکبر درعونت سے نکلا ہوں اور نہ ریا کاری اور دکھاوے کی خاطر بلکہ تمہری ناراٹھی سے بچتے ہوئے اور تیری رضاہا ہستے ہوئے نکلا ہوں۔ میں تجوہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آگ سے بچا دے اور میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیری سے سوا کوئی بخشش والانہیں<sup>۲۸</sup> استکہنے سے اللہ تعالیٰ سترہزار فرشتے مقرر فرمادے گا جو اس کے لیے بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور نماز ختم ہوتے تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف رہتا کی توجہ فرمائے گا۔

اور ابو داؤدؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

أَعُوذُ بِإِلَهِ الْعَظِيمِ وَبِوْجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيرِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الترجيم -

یعنی وہ عظمت والے اللہ تعالیٰ اور اس کرائم کے رخ اور اس قدوس کے قدرت کی میں پناہ پیدا کر شہزاد میں مدد میں۔ جب اس نے یہ

دعا پڑھ لی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہو گیا۔

نیز حناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو پھر صلوٰۃ وسلام پڑھو اور پھر یہ کہو،

اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ بِعِنْدِ مَسْجِدٍ مِّنْ دَرْوازَةِ كَحُولٍ دَسَّ.

اور جب باہر آؤ، تو یہ کہو، اللّٰهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، یعنی اسے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

نیز مردی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو درود وسلام پڑھتے اور یہ دعا کرتے،

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ بِعِنْدِ مَسْجِدٍ مِّنْ دَرْوازَةِ كَحُولٍ دَسَّ

جب آپ صحیح کی نماز پڑھتے تو طلوعِ آفتاب نک جائے نماز پر بیٹھے رہتے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے۔

نیز آپ صحیح کو یہ دعا پڑھا کرتے، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْحَّلُ أَوْبَكَ نَحْيَا  
وَبَكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ۔

یعنی و“ اسے اللہ ہم نے تیری توفیق، سے صحیح کی اسی طرح شام کی اولادی طرح ہم جیتے اور تیر سے نام پر مرتے ہیں اور بلاشبہ تیری ہی طرف جا پڑ رہنا ہے اور جب صحیح ہوتی تو آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے،

اَصْبَحْنَا وَاصْبِحْ اَمْلَاكَ رَبِّهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  
لَهُ لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْ اَسَالَكُ خَيْرَ  
مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَ شَرِّ  
مَا بَعْدَهُ اَسُبْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَكْسِلٍ وَسُوْرٍ اَكْبَرٍ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ

یعنی ہم نے صبح کی اور اللہ کے نک نے بھی صبح کی اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کوئی معبود و کار ساز نہیں۔ وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لئے بادشاہی ہے، اس کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اسے پروردگار میں تمہارے اس دن کی بھلائی اور اس کے بعد کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں اس دن کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے پروردگار میں کا، ملی اور سکبتر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے پروردگار میں جہنم میں ہونے والے عذاب اور قبریں ہونے والے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اور حب شام ہوئی تو آپ نے اسی دعا کو امینا و امسی الملک اللہ الخ کے مذکورہ طور پر بڑھی (مسلم)  
 حضرت ابو بکر صداق رضی اللہ عنہ نے ایک فتح عرض کیا کہ لیے کلمات بتائیے جو صبح و شام میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ دعا پڑھا کرو:  
 اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشهادۃ رب كل شی و ملکه و مالکم ما شهد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شر کہ و ان اقترف على نفسی سوءاً و اجرة الى مسلم

یعنی ہم سے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور ظاهر کے جاننے والے ہر چیز کے پروردگار اس کے بادشاہ اور اس کے مالک، میں گواہی دینتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود و کار ساز نہیں۔ میں اپنے نفس کی اور شیطان کی شرارت سے تیرکھ پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے شرک سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں را اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں، کہ میں اپنے آپ پر کوئی برائی لا دوں یا اسے کسی مسلمان کی طرف مسوب کر دوں۔ آپ نے فرمایا، حب صبح یا شام کرے تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یا حب بستر پر جاؤ رتب

بھی یہ دعا پڑھ لیا کرو (حدیث صحیح)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوصلان بھی ہر رجع و شام یہ دعائیں بار بڑھ لے لے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا يَضُرُّ مَنْ هُوَ أَسْمَاءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
یعنی وَاللّٰهُ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی ضرر نہیں دیتی اور  
وَهُوَ سَمِيعُ وَالاَوْدُجَانَسَنَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اقد جو آدمی جیب یا شام یہ دعائیں تین بار بڑھ لشکر یہ حق ہے کہ وہ اس کو راضی کر سکے دعا یہ  
بے:

سَمِيعٌ وَاللّٰهُ سَرِيْبٌ وَبِأَمْلَأِ دِنَارٍ يَحْمِدُنِي بِحُسْنِي، میں اللہ کے پروردگار ہونے، اسلام کے دین  
ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا اور جس نصیح یا شام کو یہ دعا پڑھی،  
اللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مَا شَهَدَكَ وَمَا شَهَدَ حَمْلَةُ عَرْشَكَ وَمَا لَكَتَكَ وَجَمِيعُ  
خَلْقَكَ أَنْتَ أَنْتَ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا نَمَّا مُحَمَّداً أَعْبُدُكَ وَرَسُولَكَ  
یعنی وَاللّٰہ میں نے بھی کی، میں تجویح کر رہا تیرے عرش کے حاملین تیرے سوا اور تپری تمام  
خلائق کو دشاد بنا کر گواہی دیتا ہوں بے شک تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معیود و کار ساز  
نہیں۔ اقد یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بنے اور تیرے رسول ہیں۔

جو اسے ایک بار پڑھے گا اللہ اس کلی جو تھا آگ سے آزاد کر دے گا اور اگر دوبارہ پڑھے گا تو  
اللہ اس کا نصف آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور اگر چار بار پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے  
بالکل آزاد کر دے گا (حسن)

نیز آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے صحیح کو یہ دعا پڑھی اس نے اس دن کا حق اجا کر دو  
”اللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْ نَعْمَتِهِ وَبِأَحْدَنَ مِنْ خَلْقِكَ فَمَنْتَكَ وَمَنْعَلَكَ لَا شَرِيكَ

لک لک الحمد ولک الشکر، یعنی اے اللہ میں نے یا تیری مخلوق میں سے جس نے بھی تیری نعمت کے ساتھ صبح کی، وہ نعمت بس صرف تیری ہی جاہب سے ہے، تیرا کوئی شرکر نہیں۔ تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے اور جو شام کو دعا ہے مذکورہ پڑھے اس نے رات کا شکر ادا کر دیا (حدیث حسن) نیز آپ صبح و شام یہ دعائیں بھی پڑھا کرتے:

اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني وفي دنياي وأهلي وما لي اللهم استر عوداتي وآمن رواعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقني اعوذ بعظمتك  
ان اعتال من تحتي (حاکم)

یعنی "اے اللہ میں تجوہ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال ہوں، اے اللہ میں تجوہ سے اپنے دین و دنیا، گھر اور مال کے عفو اور عافیت کا سوال کرنا ہوں، اے اللہ میری مخفی ذمہ دار ہوں، پر پردہ ڈال دے اور مجھے پرہیزان حال سے ما مون فرم۔ اے اللہ میرے سامنے سے اور مجھے سے اور دائیں سے اور پائیں اور اپنے حفاظت فرم، میں تیری عظمت کے طفیل اس بات سے تیری پیشہ مالگتا ہوں کہ مجھے ٹھکے پھیپے دھوکہ دیا جائے"

اور آپ نے فرمایا کہ تم کو چلہنے صبح کے وقت یہ دعا پڑھے:

اصبحوا واصبحوا الملک لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ انِّي اسألك خير هذه الیوم  
فتحه ونصره وغور لا وبرکته وهدى آیتہ واعوذ بک من شر ما فيه وشر ما بعده،

پھر جب شام ہو تو بھی یہی دعا پڑھو (حدیث حسن)

ابوداؤد<sup>رض</sup> نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ایک لوگی سے فرمایا، کہ جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، کیونکہ اس کا صبح کے وقت پڑھنا شام تک محفوظ رکھے گا اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رکھے گا۔ دعا یہ ہے

سیحان اللہ و محمد لا و لا مول و لا قوتا الا بیان اللہ العلی العظیم ما شاء اللہ کان  
و ما لریش اکرم میکن اعلم ان اللہ علی کل شی قدر یروان اللہ قد احاط بكل شی علما  
یعنی "اللہ پاک" ہے اور اسی کی حمد ہے اور خدا نے بزرگ و عظیت کے  
سوانہ کوئی توفیق ہے اور نہ قوت ہے جو کچھ اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے اور  
جونہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ میں جاننا ہوں کہبے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر  
 قادر ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو محیط  
ہے"

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک النصاری سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی  
دعائے بتاؤں کہ جب تم اسے یہ صوتوا اللہ تعالیٰ تمہارا غم دور کر دے اور تمہارا قرض  
چکا دے؟

میں نے عرض کی، ہاں! اسے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا صبح یا شام کے وقت  
یہ کلمات کہلایا کر۔

اللهم إني أخوذ بك من الهم والحزن وأخوذ بك من العجز والكسل وأعوذ  
بك من الحين والخجل وأخوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔

یعنی "وے اللہ میں غم و اندرونہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں عجز و سستی سے تیری پنا  
مانگتا ہوں اور میں بزدیلی اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں قرض کے غلبہ اور  
آدمیوں کے قہر سے تحریکی پناہ مانگتا ہوں" یہ

راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم دور کر دیا اور قرض ادا  
کر دیا، نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ صبح کو یہ دعا پڑھا کرتے:

اللهم إني أسلك علما نافعا و سر قاطينا و عملا متقبلا۔

یعنی "اے اللہ میں تجوہ سے نفع دینے والے علم اور پاک رزق اور مقبول عمل کا  
سوال کرتا ہوں" یہ

اور آپ سے منقول ہے کہ جو صبح کو اور شام کو یہ کلمات کہے تو اللہ یہ حسن

ہے کہ اس کی ہر التجا مکمل طور پر قبول فرمائے، کلمات یہ ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسَتِرْفَاتِّمْ عَلَى نِعْمَتِكَ عَافِيَتِكَ  
وَسَتِرْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يعنی اے اللہ تعالیٰ نے تجوہ سے تیری گی حمد  
و عافیت اور پردہ پوشی پر ہی صبح کی پس مجھ پر اپنی تعبد و عافیت اور پردہ پوشی  
دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر فرا۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ جو آدمی صبح و شام سات سات مرتبہ یہ کلمات  
کہے:

حسبي اللہ لا إله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظيم ،  
یعنی ”وجہے میر اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر  
توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے“

نحو دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ اسے ہر غم میں کافی ہو گا۔ نیز آپ سے  
منقول ہے کہ جو شخص دن کی ابتداء میں یہ کلمات کہے وہ شام تک کسی محیبت سے  
دو چار نہ ہو گا اور بجودن کے آخری حصہ میں کہے گا اسے صبح تک کچھ رنج نہ پہنچے  
گا۔ کلمات یہ ہیں :

اللَّهُمَّ إِنِّي لِوَاللَّهِ الْأَكْبَرِ عَلَيْكَ تَوْكِيدٌ وَإِنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا  
شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَيْكَ لَوْحُولٌ وَلَوْقُوتٌ لَا بِأَنْتَ لَوْلَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَعْلَمُ  
لَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا اللَّهُ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا لَدَهُ رَأْنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ  
شُرْفَقْسِي وَشُرْكَلَدَابَةٍ إِنِّي أَخْذَا بِنَاهِيَتِهَا إِنِّي رَبِّي عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔

یعنی، ”ایے اللہ تو ہر اپروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود و کار ساز نہیں۔ میں نے  
مجھ پر توکل کیا، اور تو ہی عرش عظیم کا مالک نہیں ہے۔ جو اللہ چاہے فہ ہو جاتا ہے اور  
جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ بزرگ و برتر کے سوانح کہیں سے توفیق ہے  
اور نہ کوئی قوت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور  
بے شک اللہ تعالیٰ حکم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیسے ہو گئے ہے۔ اب ہے

اللہ میں اپنے نفس کے شر سے اور ہر جاندار کے شر سے جس کی پیشائی تیر سے قبضہ میں ہے نیزی پناہ مانگتا ہوں بے شک میرا پروار و گار سیدھے راستہ پر ہے۔

حضرت ابو الدربؑ سے کسی نے کہا کہ آپ کا گھر جل گیا۔ انہوں نے جواب دیا ”نہیں جلا“ اور اللہ تعالیٰ ان کلمات کے باعث ایسا نہیں ہونے دے گا، جو میں نے جتنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنبھالیں گے۔

نیز آپ نے فرمایا، کہ تمام استغفاروں کا سردار رسم الاستغفار، یہ کلمات ہیں:

اللهم انت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهديك و  
وعدك ما استطعت أعود بكم من شر ما صنعت أبو حمزة اللهم بنعمتك على  
وابوء بذنبي فاغفر لي إنك لا يغفر الذنوب إلا أنت۔

یعنی، ”اے اللہ تو ہی میرا پروار گاہ ہے، تیر سے سوا کوئی معبد نہیں تو نے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیر سے ہبہ دو و عذر پر قائم ہوں، جتنی بھر بھجے استطاعت ہے میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو بھجے حاصل ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ پس مجھے بخش دے کیوں کہ تیر سے سوا کوئی نہیں بخش سکتے۔“

جو صحیح کو یقین کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، اسی دن مر جائے وہ جنت میں داخل ہو گا اور جو خدا کو یقین کرتے ہوئے یہ کلمات کہے اور اسی رات فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو گا اور فرمایا کہ جو صحیح و شام سبحان اللہ و حمد پھر بار کہے تو قیامتِ الہیں سے زیادہ پڑھے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو دس بار صحیح کے وقت یہ کلمات کہے، لا إله إلا الله وحده لا شريك له لة  
الملائكة ولهم الصمد وهو على كل شئٍ قدير۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا اور اس سے دس برائیاں مٹاہیے گا اور غلام آناد کرنے کے برابر اسے ثواب حاصل ہو گا اور اللہ تعالیٰ اس دن شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ اور جب شام ہم کسی کا اجر و ثواب نہ ہو گا، بجز اس صورت کے کہ اگر کوئی ایسا ہی ورد کرے یا اس سے زیادہ

ہو تو پھر اسی طرح کہے تو صحیح تک تو صحیح تک بہتی نذکورہ فوائد حاصل ہوں گے اور آپ نے فرمایا کہ جو صحیح کرے اور اس دن سو بار یہ کلمات کہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے زمامہ اعمال، میں سونیکیاں  
لکھی جائیں گی اور اس کی سو برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اور یہ دن اس کے لئے شیطان  
سے حفاظت کا سبب ہو گا، یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور اس سے زیادہ کسی  
کا ثواب نہ ہو گا، ہاں وہ آدمی جو اس سے زیادہ عمل کرے اور مندرجہ میں سے  
کہ شیعی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضیت اللہ عنہ کو بہ کلمات سکھائے  
اور حکم دیا کہ اپنے گھر میں ہر صحیح یہ کلمات کہنے کی تاکید کریں۔ کلمات یہ ہیں :

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ وَسَعْدِ يَكَ وَالْخَيْرِ فِي يَدِ يَكَ  
وَمَنْكَ وَلَيْكَ اللَّهُمَّ مَا قلتَ مِنْ قَوْلٍ وَخَلَقْتَ مِنْ خَلْقٍ أَوْ نَدَرْتَ  
مِنْ نَدْرَ فِي مِيقَاتِكَ بَيْنَ يَدَيِ ذَلِكَ كَلْهَ مَا شَئْتَ كَانَ وَمَا لَرْتَ شَالِحِينَ  
وَلَمْ حُولَ وَلَمْ قُوَّةَ لَا يَكَ اَنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَا صَلَيْتَ  
مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَىٰ مِنْ صَلَيْتَ وَمَا لَعْنَتَ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَىٰ مِنْ لَعْنَتَ  
أَنْتَ رَبِّنَا وَالآخِرَةِ تَوْفِقَنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّي، يَا الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ  
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذُو الْجَلَلِ وَالْكِرَامِ  
فَأَنِّي أَعْهُدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِشْهَدُكَ وَكْفِي بِكَ شَهِيدًا  
بِأَنِّي أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَ  
الْكَفَافُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَعْبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَشْهُدُ  
أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ آتِيَتَ لَوْسَيْبَ فِيهَا وَإِنَّكَ  
تَبَعَثُ مِنْ فِي الْقَبُوْرِ وَإِنَّكَ أَنْ تَكْلِمَنِي إِلَى نَفْسِي  
وَمَوْرِي تَذَوَّنِبُ وَخَطِيئَتِهِ وَلَنِي لَا أُثْقِلُ لَا بِرِحْمَتِكَ فَأَغْفِرُ لِي ذَنْبِي كَلْهَا إِنَّكَ  
لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ لَا أَنْتَ وَتَبَعَ عَلَىٰ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ -

یعنی "میں حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، بھلائی تیر سے ہاتھوں میں ہے، وہ تجوہ سے اور تحری طرف سے ہے اے اللہ میں نے جوبات کی یا کوئی قسم کھائی، یا کوئی نذر مانی، پس یہ تمام تیری مشکلت میرے سامنے ہے جو تو نے پڑا ہا ہو گیا اور جو تو نے نہیں پڑا نہ ہوا۔ اوندھ تیر سے سوانح کسی سے توفیق ہے اور نہ کوئی قوت ہے۔ بے شک تو ہی ہر چیز بدر قادر ہے۔ اے اللہ تو نے جس پر کچھ رحم کیا تو وہ اسی پر ہے۔ جس پر تو نے رحم کیا اور جس پر تو نے پھٹکار کی وہ اسی پر ہے۔ جس پر تو نے پھٹکار کی تو دنیا و آخرت میں میرا کار ساز ہے۔ مجھے پر حال اسلام موت دنیا اور نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے غیب و حاضر کے جاننے والے بزرگی و اکرام والے میں اس حیات دنیا میں تجوہ سے عہد کرتا ہوں اوندھے گواہ بنانا ہوں، اور تیری گواہی کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیر سے سوا کوئی معبدود نہیں، تو یکتا ہے۔ تیر کوئی شریک نہیں تیری ہی بادشاہی ہے اوندھ تیری ہی جسد ہے اور تو ہر چیز بقدر رکھنے والا ہے اوندھ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیر سے بندے اور تیر سے رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیر وعدہ پڑھا ہے۔ تیری ملاقات حق ہے۔ قیامت حق ہے آئے والی ہے اس میں کچھ شبہ نہیں، اور جو قبروں میں میں تو نہیں پھر سے اٹھائے گا۔ اگر تو (کام) میرے سپرد کر دے تو ضعف، ناتوال بہ گناہ و خطاو کے سپرد کیے اوندھ میں صرف تیری رحمت پر اعتماد رکھتا ہوں، پس میرے تمام گناہ بخش دے کیونکہ تیر سے سوا گناہ ہوں کا بخشش والا کوئی نہیں اور میں صرف تیری رحمت پر اعتماد رکھتا ہوں۔ پس میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیر سے سوا گناہ ہوں کا بخشش والا کوئی نہیں، اور میری توبہ قبول فرمائے شک تیر سے سوا کوئی توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والا نہیں۔

# لباس پہننے وقت

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہننے تو اس کا نام لیتے جیسے عامہ یا قمیص یا  
چادر، پھر یہ دعا پڑھتے، اللهم لك الحمد انت کسوتنیہ اسکلک خیر ما صنع  
لہ و اعوذ باللہ من شر ما و شر ما صنع لہ (حدیث صحیح)  
یعنی مسے اللہ تیری لاکھ لاکھ حمد کہ تو نے مجھے یہ پہنا یا، میں تجھ سے اس کی جملائی  
اور جس کے لیے بنایا گیا اس کی جملائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شراور جس کے  
لئے بنایا گیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔  
نیز منقول ہے کہ جب آپ نیا کپڑا پہننے تو یہ دعا کرتے:

الحمد لله كسانی ما ادا وی بہ عودتی واتحیل به فی حیات - یعنی تمام  
تعزیفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے (لباس) پہنا یا جس سے میں اپنی  
عزیانی چھپاتا ہوں اور زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔

اور جو کپڑا کہتہ ہو گیا ہوا سے صدقہ کر دے تو وہ زندگی اور موت میں اللہ  
کی حفاظت و نگرانی میں ہو گا اور زندہ یا مردہ حالت میں اللہ کے راستہ میں  
ہو گا۔ نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ نے ام خالدؑ سے انہیں نیا لباس مرحمت  
کرتے وقت فرمایا: "اے بو سیدہ کرو، اے پرانا کرو، پھر بو سیدہ کرو اور

پڑانا کرو یہ دوبارہ فرمایا۔

اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بنی اللہ عنہ کے بدن پر نیا لباس دیکھا تو فتنہ فرمایا، کیا یہ بیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ نیا ہے آپ نے فرمایا نیا لباس، خوب پہنو۔ قابل تعریف طور پر جسوا اور شہید ہو کر مرد۔

---

## آدابِ خانہ

گھر میں داخل ہوتے وقت اور خانگی مصروفیات کے سلسلے  
میں آپ پریس و سلم کا عمل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنائک گھر میں کبھی تشریف نہ لاتے کہ گھروالوں کو پریشان نہ  
کر دیں، بلکہ اس طرح تشریف لاتے کہ (گھروالوں) کو پہلے سے آپ کی تشریفیناً اوری  
کا علم ہوتا۔ پھر آپ سلام کرتے جب آپ اندر تشریف لاتے تو کچھ نہ کچھ دریافت  
فرما پا کرتے۔ بسا اوقات پوچھتے کہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ اور بسا اوقات خاموش رہتے  
یہاں تک کہ ما حضر پیش کر دیا جاتا۔

نیز آپ سے منقول ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے۔  
 الحمد لله الذي كفاف و آوانی والحمد لله الذي اطعمنى و سقاني والمد  
 لله الذي من على اسئلتك ان تغيرني من مث اللئار يعني تمام تعریفی اللہ  
 کے لئے ہیں جو سیرے لئے کافی ہے۔ اسی نے مجھے پناہ دی اور تم امام تعریفیں اللہ  
 کے لئے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس  
 نے مجھ پر احسان فرمایا، اسے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دونوں  
 سے سچا۔

نیز ثابت ہے کہ آپ نے حضرت انسؓ سے فرمایا کہ جب تم ...

لہیں گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو۔ یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہو گا۔ ترمذیؓ نے اسے صحیح حسن کہا ہے۔ سُنَّة میں روایت ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے؛ اللہمَّ انِّی اسَّالُكَ خَيْرَ الْمَوْلَیْحِ وَخَيْرَ الْمُخْرَجِ بِسْمِ رَبِّنَا وَلِبَنَا وَعَلَیْ  
اللَّهِ سَرِّبَنَا تَوْکِلْنَا،

یعنی اے اللہ میں تجھ سے بہترین مدخل اور بہترین خروج کا سوال کرنا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اپنے ربِ اللہ پر ہم نے توکل کیا ہے پھر پسند گھر والوں کو سلام کرے، اور صحیح روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتے، اس وقت شیطان کہتا ہے کہ رائے شیاطین تمہارے لئے یہاں نہ رات گذانے کی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے۔ اور جب داخل ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں رات گذانے کی جگہ مل گئی اور جب کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو کہتا ہے کہ تمہیں رات کی رہائش اور کھانا دونوں مل گئے۔ مسلم صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ انِّی اعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبَثِ وَالْخَبَاثِ۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ بیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کا جواب نہ دیا اور (بعد میں) بتایا کہ ایسے وقت ہاتھ کرنے سے اللہ تعالیٰ نار ارض ہوتا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ دو آدمی اس طرح حواجح ضروریہ سے فراغت نہ کریں کہ (قریب بیٹھیے) شنگے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ربی سے می کی باتوں سے خفا ہوتا ہے، نیز یہ گزرا چکا ہے کہ آپ حواجح ضروریہ کے وقت

قبد کی طرف نہ رخ کرتے نہ بیٹھو کرتے۔

حضرت ابوالیوبؓ، سلامان فارسیؓ، ابوہریراؓ، معقل بن ابی معقل - عبد اللہ بن حرش بنے زبیدیؓ، جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت سے مذکورہ حدیث ثابت ہے اور یہ تمام احادیث صحیح و حسن ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے کہ آپ نے صرف صحرا میں الیسا کرنے سے منع فرمایا یہ آپ سے مختص ہے یہ نبی کی توجہ ان نہیں بن سکتی۔ نیز یہ ابوالیوبؓ کی روایت گھر سے ماقض بھی ہے۔ اور جب آپ بیت الخلاس سے باہر تشریف لائے تو کہتے۔ نیز آپ سے یہ دعائی متفق ہے،  
 ﴿الحمد لله الذي أذهب عنى الازى و عافاني﴾،  
 یعنی سب تعریضیں اللہ بری کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دو کر دی اور مجھے بچالیا۔



## اذکار و صو

آپ سے ثابت ہے کہ پانی کے بھر سے ہوئے برتن میں ایک دفعہ آپ نے ہاتھو ڈالا، پھر صحابہ سے فرمایا، الشکا حام لے کرو ضو کرو۔

اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ خوب کے لئے آواز دو، چنانچہ پانی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے جابر سے حوار مجھ پر اسم اللہ کہہ کر ڈالو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر پانی بھایا اور اسم اللہ کہہ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کے انگلیوں میں سے پانی کا فولاد بہتھے ہوئے دیکھا۔

امام الحدیث ابو ہریرہؓ سید بن زید ابوسید حدیثیؓ کی حدیث سے روایت کیا کہ حس خود میں بسم اللہ نہ پڑھی جاتے وہ وہ خوبی نہیں اس کی سند کمزور ہے۔

صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو وضو مکمل کر لے اور بعد میں یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسوله تو اس کے لئے جنت کے انکھوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔

مسلم،

ترمذیؓ نے یہ دعا مزید لکھی ہے کہ مندرجہ بالا دعا کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھی سے  
الله راجحنى: من التوابين واجحنى من المتطهرين

یعنی اسے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں کہتے اور مجھے پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں شامل کر دیتے۔

امام احمدؓ نے لکھا ہے کہ پھر آئیت نے آسمان کی طرف سراٹھایا۔ امین ماجھنے اور امام احمدؓ نے تین بار کے لفظ کا اضافہ کیا ہے اور تلقیٰ میں خلد نے مند میں حضرت ابوسعید خدراویؓ کی حدیث سے مرفوہا لکھا ہے کہ (پھر آپؐ وضو سے فارغ ہوئے تو یہ دعہ بڑھی)  
 سبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ  
 وَأَتُوْلِيهِكَ مَصْنَعِي أَسْأَلُكَ اللَّهَ تَوْبَكَ هَذِهِ الْمُذَمِّنَاتِ  
 وَأَتُوْلِيهِكَ مَعْبُودِي هَذِهِ الْمُذَمِّنَاتِ میں گواہی دیتا ہوں کہ  
 تمہرے سوا کوئی معبد نہیں۔ میں تمہرے بخشش چاہتا ہوں اور تمہری طرف (توبہ  
 کرتے ہوئے) ٹوٹتا ہوں یہ

اس دعا پر مہر لگادی جاتی ہے پھر اسے الشاکر عرش کے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے  
 اور قیامت تک یہ خالق نہیں ہوتی رہاتی،

اور حضرت ابو موسیٰ الشعراویؓ سے صحیح رہایت میں آیا ہے کہ فرمایا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے موقع پر حاضر ہوا آپؐ سے وضو  
 کرتے وقت میں نے سنا کہ آپؐ دعا کر رہے تھے،

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنبِي وَوَسِعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي سَرَّهَا.

یعنی وہ اسے اللہ میرے گناہ بخشنے سے اور میرے لیے گھر میں وسعت عطا فرم۔ اور میرے لیے رزق میں برکت عطا کریں میں نے عرض کیا اسے اللہ کے نبی آپؐ اسی طرح دعا کر رہے تھے؟ آپؐ نے فرمایا کیا میں نے کچھ بھی باقی رہنے دیا؟



## اذکارِ اذان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ترجیح اور بلا ترجیح ہر طرح ثابت ہے اور اقامت، ایک ایک اور دو (کی صوت) میں مشروع ہے۔ لیکن قدماً میں مسلسلہ کا کلمہ آپ سے دو ہی مرتبہ کہنا ثابت ہے۔ اس کا افراد قطعاً آپ سے ثابت نہیں۔ اس طرح اذان کی اہتمامیں آپ سے سے چار مرتبہ تک کلمہ تکمیر کی تحریر ثابت ہے اور دوبار پر اس کا ختم کرنا ناشایستہ نہیں۔

اور حضرت ابن حجر (ر) نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اذان کے کلمات دو دو بار تھے اور اقامت کے ایک ایک بار کہے جاتے البتہ متن قلمبندی میں لفظ دوبار کہا جاتا۔

اور حضرت ابو محمد وردۃ کی روایت میں کلمات اذان کے ساتھ ساتھ مکمل اقامت کا دوبار کہنا بھی مروی ہے اور یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ ان میں سے کسی ایک محدث میں بھی کراہت نہیں۔ اگرچہ بعض بعض سے افضل ہیں۔ پہنچیدہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلالؓ کی اذان واقامت اختیار کی۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلالؓ کی اذان اور حضرت ابو محمد وردۃ کی اقامت اختیار کی اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کا عمل دیکھا کر وہ اذان میں دو تکمیریں کہتے، اور کلمہ اقامت ایک بار کہتے ہیں اخضون نے اسے اختیار کر لیا۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ سب نے سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا ہے۔ اذان اور اس کے بعد ذکر سے متعلق امت

کے نئے پانچ صورتیں مشروع ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ سنتے والا مذون کے کلمات والفاظ دوہرائیا جائے سولئے ہی  
علیٰ الصلوٰۃ اور حسی علیٰ الفلاح کے اس وقت لا حول ولا قوٰۃ الا باللہ  
کہنا چاہیے۔ ان دونوں کو جمع کرنا مروی ہے۔ بلکہ آپ کی سنت یہ ہے کہ اس  
موقع پر لا حول ولا قوٰۃ الا باللہ کہا جائے، اور یہ صورت مذون اور سنتے  
والے کی طبعی مقتضائے حال کے مطابق ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ رضیت باللہ رب العالمین و محبوب نبیا کہے  
یعنی میں اللہ کے رب ہونے۔ اسلام کے دن ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا اسکے گناہ بخشنے کرنے۔  
۳۔ تیسرا مذون کی اذان کا جواب دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
پر درود شریف پڑھنا۔

۴۔ پھر تھے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہ رب ہند لا الہ عوٰۃ التامة  
والصلوٰۃ القائمة ات محمدٌ الوسیلة والفضیلۃ وابعثه مقاماً محموداً فی الدنی و عینہ  
النک لَا تختلف المیعاد — یعنی اس مکمل پکار اور فائم ہونے  
والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلہ عطا فرماء اور انہیں  
مقام محمود عطا فرماء جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے شک تو وعدہ کے خلاف  
نہیں کرتا۔

۵۔ پانچویں یہ کہ اس کے بعد اپنے نیے دعا کرے اور اللہ کے فضل کا طلبگار  
ہو کیونکہ اس کی دعاقبول ہو گی جیسے کہ سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے  
ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس طرح مذون کہے اسی طرح تم بھی کہو، جب خشم  
کرو تو اللہ سے دعا کرو قبول ہو گی۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ جب اذان دیتے والا اذان دے اس وقت یہ دعا کرے۔  
اللہ رب ہند لا الہ عوٰۃ التامة والصلوٰۃ القائمة صلی علی محمد وآلہ

عنی سر پناہ لے سخت بعده یعنی اے اللہ اس کامل پکار اور فائدہ دینے والی خانہ کے پروردگار محمد رضی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرماء اور مجھ سے اس طرح کی مخشنودی سے راضی ہو جا کہ جس کے بعد کوئی ناراٹگی نہ ہو۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھا کرو۔

اللهم ان هذن اقبال نيلك و اد پار خمارك و اصوات دعائتك فالمغفرة۔  
یعنی اے اللہ یے شک یہ تیری رات کی آمد تیرے دن کا رجوع اور تجدی کو پکارنے کا وقت ہے پس مجھے بخش دے (ترمذی)

اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو امامہؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جب آپؐ اذان سنتے تو یہ دعا پڑھتے: اللهم رب هذن الدعوة التامة المستجابۃ و المستجاب لھا دعوة الحق و کلمۃ التقوی توفیقی علیہا واحینی علیہا واجعلنی من صالح اهله عمل و یوم القيامتہ نیز آپؐ سے منقول ہے کہ آپ اقامت کے لئے (قد قامت) الصلوٰۃ کے موقع پر اقامہا اللہ وادا مہا کہتے، اور سنن میں مردی ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دعا ستر دہیں ہوتی۔

عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ہم کیا دعا کریں؟  
آپؐ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عاقیت مانگو۔

اور دوسری صحیح روایت میں لکھا ہے کہ اس میں دو ساعتیں ہیں۔ جن میں احسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اذان کے وقت اور اللہ کے راستے میں دیداں جنگ کی صفت بندی کے موقع پر دعا کرنے والے کی دعا شاذ ہی ردد کئے جاتی ہے۔

# عشرہ ذی الحجه میں

## کثرت تکبیر و تحمید و تہلیل کی تاکید

ذالحجہ کے عشروں میں آپ بمحشرت دعا کرتے، اور کثرت تکبیر و تحمید و تہلیل کی تاکید فرماتے آپ یوم عرفة کی نماز فحرے لے کر آخری یوم تشریق کی عصر تک تکبیریں کہا کرتے۔  
چنانچہ آپ پڑھا کرتے، اللہ احیہ اللہ احیہ لا الہ الا اللہ و اللہ احیہ  
اللہ احیہ و اللہ الحمد، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، وہی سزاوار حمد ہے۔



# رویت ہلال کے موقع پر سنت نبوی

آپ سے ایسے موقع پر اس دعا کا پڑھنا منقول ہے:-

اللَّهُمَّ أَهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَلَا وَيْمَانَ وَلَا سَلَامَةَ وَلَا سَلَامٌ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ  
(ترمذی) یعنی: اے اللہ! ہم ہر یہ چاند امن، یمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کرے  
میرا پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے (حدیث حسن)

نیز آپ سے چاند و یکستے وقت یہ دعا بھی مروی ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَلَا وَيْمَانَ وَلَا سَلَامَةَ وَلَا سَلَامٌ  
فَالْتَّوْفِيقُ لِهَا تَحْبَبُ وَتَرْضَى رِبِّنَا وَرَبِّكَ اللَّهُ (دار میح)

یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ لے التہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے  
ساتھ اور جس پر تو راضی ہے اور یہند کرتا ہے ان باتوں کے ساتھ طلوع ہلال کر۔ ہمارا  
پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔

# قبل و بعد از طعام از کارنبوئی

جب آپ کھانا شروع کرتے تو بسم اللہ کہتے اور کھانے والے کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اسے چاہئیے کہ اللہ کا نام ہے۔ اگر ابتداء میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو پھر اس طرح کہے بس اللہ فی اولہ و آخرہ اور صحیح نہیں ہے کہ کھاتے وقت بسم اللہ کہنا واجب ہے۔

اصحابِ احمد کا ایک قول یہ ہے۔ اور احادیث امر (وجوب) صریحاً صحیح ہیں ان کا کوئی معارض نہیں اور نہ اس کے خلاف اجماعی سروی ہے اور (بسم اللہ) کو چھوڑ دینے والا کھانے اور پینے میں شیطان کا شریک ( حصہ دار) ہے۔

**ایک فکر انگلی میر مسلمہ** ایک قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ جب کھانے والے ایک جماعت کی صورت میں ہوں۔ اور ایک آدمی بسم اللہ پڑھ لے تو باقی لوگوں سے یہ وجوب ہٹ جائے گا؟ اور شیطان کی مشارکت ختم ہو جائے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا بسم اللہ کہہ لینا باقی کھانے والوں کی جانب سے بھی اسے ادا کر دے گا اور اصحاب شافعیؓ نے اسے سلام کا جواب دیتے اور چھینک کا جواب دینے پر محمول کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھے پیغمبر شیطان کی مشارکت ختم نہ ہوگی۔ اور دوسرے آدمی کی بسم اللہ کسی اور کفایت نہ کر سے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی حدیث میں ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانے میں حاضر ہوئے ہا پھانک ایک رٹکی آئی اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی آیا۔ آپ

نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ شیطان اپنے لئے کھانے کو حلال کر چاہتا ہے۔ اس صورت میں کہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ پہلے وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا تاکہ اس کے ذریعہ کھانے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بھر اعرابی کے ساتھ آیا تاکہ اس کے ذریعہ کھانا کھائے میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری بجائے ہے۔ (شیطان) کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ہاتھوں کے ہمراہ ہی ہے ہاتھوں (گرفتار) ہے۔ چھراں ہوں نے بسم اللہ پڑھی اور کھانے میں شریک ہوئے۔ اب اگر ایک آدمی کی بسم اللہ ہی کافی ہوتی تو شیطان کھانے میں ہاتھ کیوں ڈالتا؟ اور حضرت جابرؓ سے مقبول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے پر بسم اللہ کہنا بھول جائے اسے چاہیے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد قل ہو اللہ احمد پڑھ لے یہ روایت مشکوک ہے۔

اور جب آپ کے سامنے سے دستِ خوانِ الْمُحَايَا جاتا تو اس وقت یہ دعا پڑھتے  
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَحْمٰنُ رَحِيمٌ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَّا نَيْهِ غَيْرُ مَكْفُى وَلَا مُوْدَعٌ وَلَا مُسْتَغْنَى  
عَنْهُ سِبْنَا عَزَّوَجَلَ (بخاری)

یعنی سب تعریفین اللہ کے لئے ہیں، بہت ہی تعریفین پاکیزہ، برکت والی نہ  
لبسی حربے پرواکر دیں یا اٹک کر دیں اور حنے سے استغنا ہوا سے ہمارے بندگوں  
برتر پروردہ گا۔

بس اوقات آپ یہ دعا بھی پڑھتے، الحمد لله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا  
مسلمین، یعنی سب تعریفین اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلا یا اور جسیں  
مسلمان بنایا۔

نیز یہ دعا بھی پڑھتے، الحمد لله الذی اطعمنا و سقانا و جعل لہ مخیعا۔  
امام ترمذیؓ نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھائے اور اسے  
کے بعد یہ دعا پڑھے اس کے تمام سابقہ گناہ اختش دیئے جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے:  
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الذِّي اطعْمَنِي هذَا مِنْ غَيْرِ حُولٍ مَنِي وَلَا قُوَّتِي۔ یعنی سب تعریفین

اُس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا جبکہ نہ مجھے توفیق تھی اور نہ قوت۔

امام بخاریؓ نے یہ دعا بھی نقل کی ہے کہ آپ پڑھا کرتے، الحمد لله (الذی کفانا و آفانا) یعنی سب تعریفیں اس ذات کے لئے جو وہیں کافی ہے اور جس نے ہمیں پناہ دی آپ سے منقول ہے کہ جب کھانا پیش کیا جاتا تو آپ بسم اللہ پڑھتے اور جب کھانے سے فارغ ہو جلتے تو یہ دعا پڑھتے اللهم اطعیت و سقیت و افہمیت و اقتیت و حمدیت و احديت فلہ الحمد علی ما اعطيت۔

یعنی، اے اللہ تو نے کھلایا تو نے پلا یا اور تو نے تراث عطا کی اور تو نے غنائم عطا کیا اور تو نے ہدایت دی اور تو نے زندہ کیا۔ پس تیری عطا پر تیری ہی مدد ہے۔ اور سنن میں منقول ہے کہ جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمد لله (الذی من علینا و هداانا و الذی اشبعنا و اسرانا و كل الاعسان) اتنا یعنی سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ہدایت دی اور جس نے ہمیں سیر کیا اور سیراب کیا اور ہم پر جو قسم کا احسان فرمایا۔

نیز سنن میں آہتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھلانے کھائے تو یہ دعا پڑھتے ہے اللهم بارک لئے اے اللہ اس میں ہمارے لئے برکت فرم اور ہم کو اس سے بہتر کھلا۔

اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دو دھیلے، وہ کہے، اللهم بارک لنا فیہ و شردا ممّن یعنی "اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت فرم اور ہمیں اس رسم کا طعام (زیادہ عطا کر)"

اور آخر جب برلن سے پانی بیٹتے تو تین بار سائنس لیتے اور سرانس پر الحمد لله کہتے اور آخر میں الحمد لله و الشکر لله بھی کہتے۔

آک حضرت کا دستورخانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تو معلوم فرماتے کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ نے کبھی بھی کھانے میں عیوب ہمیں کھلا، بلکہ اگر اشتہرا ہوئی تو تناول فرمائیتے

ورنہ ہاتھ کھینچ لیتے اور خاموش رہتے۔ گاہے گاہے فرماتے کہ مجھے اشتہان نہیں۔ کبھی کبھی آپ کھانے کی تعریف بھی فرماتے ایک مرتبہ آپ نے سالن کے متعلق دریافت فرمایا تو عرض کیا گیا صرف سرکر ہے تو آپ نے وہی کھانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے: سرکر تو بہترین سالن ہے۔

اور جب آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے اور آپ روزے سے ہوتے تو فرماتے کہ ببر اروزہ ہے" اور حکم دیتے کہ اگر روزے دار کو کھانا پیش کیا جائے تو کھانا پیش کرنے والے کو دعا دو۔ اور اگر روزے سے نہ ہوتے تو تناول فرماتے اور جب آپ کو کھانے پر مدعا کیا جاتا اور کوئی دوسرا بھی آپ کے ہمراہ ہو جاتا تو آپ دعوت دینے والے کو مطلع کرتے اور فرماتے کہ یہ بھی ہمارے ہمراہ ہے۔ اب اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو۔ ورنہ والبیں پہلا جائے۔

اور حدیثِ خل میں آبیا ہے کہ آپ کھانا کھاتے وقت باہم بھی کر لیتے تھے بلکہ آپ نے ایک خادم سے جو کھانا کھلارہاتھا فرمایا کہ بسم اللہ کہوا اور سامنے سے کھاؤ اور بالوقات آپ مہماں کو کھانے کی کمی بار پیشکش فرماتے جیسے دو دھپینے کا واقعہ حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے بار بار فرمایا پیو اور پیو پیو آپ فرماتے رہے۔ آخر ابو ہریرہؓ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچانی بنانے کر معمور فرمایا۔ اب تو کوئی راہ (خالی) نہیں رہی۔

اور جب آپ کسی جماعت کے ہاں کھانا کھاتے، تو دعا دیے بغیر تشریف نہ لے جاتے چنانچہ آپ نے حضرت عبد اللہ بن بسر کے گھر میں بہر دعا کی: اللهم بارک لہم فیما زقہم واغفر لہم وارحمہم ربعتی اے اللہ تو نے جوان کو زرق دیا ہے اس میں برکت عطا فرم اور ان کو خشن دے اور ان پر رحم فرماد (مسلم)

اور حضرت سعد بن عبادہؓ کے گھر میں بہر دعا کی:

افطر عنك سر الصاعون واصل - لعامك من لا ورار وصلت عليك من الملاونکة،

یعنی تمہارے ہاں روزے داروں نے روزہ کھولا اور نیکوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لئے دعائے رحمت کی۔

اور آپ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانے سے نفرت نہ کرتے چاہے وہ چھوٹا یا بڑا ہوتا چاہے آزاد یا غلام، اعرابی یا مہاجر یہاں تک کہ اہل ستون نے آپ سے روایت کیا کہ آپ نے ایک جذامی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیارے میں ڈال دیا اور فرمایا

کھاؤ؛ بسم اللہ ثقة با اللہ و توکل و علیہ۔

اور آپ دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم فرماتے اور دائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرماتے اور فرمایا کرتے کہ شیطان دائیں ہاتھ سے کھاتا اور دائیں ہاتھ سے ہیچلے ہے اور اس ہاتھ سے کھانے کی مانعت بھی اسی وجہ سے ہے اور یہ بھی درست کہ کھانے والا یا شیطان ہو گایا اس کے مشابہ۔

اور صحیح روایت میں ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی نے کھانا کھایا اور دائیں ہاتھ سے کھایا، آپ نے فرمایا کہ دائیں سے کھا دیا اس نے جواب دیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا خدا کرے تمھے نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کا ہاتھ اوپر نہ اٹھ سکا (خشک) ہو گیا، اس لئے اگر یہ جائز ہوتا تو آپ بد دعائے دیتے اگر اس نے تکبیر کے باعث آپ کے فرمان کی مخالفت کی۔ تو یہ بد دعاء کے استحقاق اور نافرمان کا زیادہ مصدقان ہو گا اور بعض لوگوں نے درخواست کی کہ ہم سیر نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اکٹھے مل کر کھانا کھاؤ اور علیحدہ علیحدہ مت (کھاؤ) نیز بسم اللہ و ملک کر کھاؤ اس سے برکت بھوگی۔

سلام کرنے اور اذن چاہنے سے متعلق اپنی سہرت طبیبہ امرودی ہے سیمجھیں میں

کہ بہترین اور اعلیٰ اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھائے اور جانتے والے اور نہ جانئے والے سب کو سلام کرسے۔

نیز سیمجھیں میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا

فرما کر انہیں حکم دیا کہ فرستتوں کی جماعت کے پاس بجاو اور انہیں سلام کرو اور سنو کرو وہ تمہیں کس طرح سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب سلام یہی ہوگا۔ چنانچہ (حضرت آدم علیہ السلام) نے ان سے کہا: سلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا۔ اسلام علیک و سلامہ اللہ انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ کا انتفاع کر دیا۔ نیز آپ نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ جب وہ سلام کو عام کر دیں گے تو ان کو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور راصول یہ ہے کہ وہ تب تک جدت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں اور جب تک ان کی آپس میں محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ !

---

# آدابِ لام

آپ کی عورتوں پھوٹ اور غریبوں پر سلام میں پیش قدمی

مجھ بخاری میں ہے کہ تین باتیں جس نے جمع کر لیں اس نے ایمان کو حاصل کر لیا۔  
 جستا، اپنے آپ سے انصاف کرنا۔  
 (۲) سلام کرنا۔

(۳)، اور تنگی کے وقت خرچ کرنا۔

اور سلام کرنے کا مطلب تواضع و انکساری ہے۔ ایسا آدمی کسی کے سامنے تکبر نہیں کرتا۔ بلکہ ہر چھوٹے بڑے امیر و غریب جانتے والے اور نہ جانتے والے کو سلام کرتا ہے اور مذکوری حالت اس کے بر عکس ہوتی ہے کہونکہ وہ اس شخص کے سلام کا جواب بھی تکبر کے باعث نہیں دینا چاہی خود اس سلام کرے اس صورت میں وہ خود کیسے کسی کو سلام کرے گا؟

آپ پھوٹ کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا (مسلم)  
 اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ ایک دن عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارہ سے سلام کیا۔

ابوداؤدؓ نے حضرت اسماءؓ بنت یزید سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو سلام کیا۔ ترمذیؓ کی بھی یہی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی ہے اور آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے سلام کیا تھا۔

اور بخاریؓ نے روایت کیا کہ صحابہؓ ایک مرتبہ جمعرہ کے دن واپسی پر عورتوں کے پاس سے

گزنسے تو انہیں سلام کیا، انہوں نے جو اور ستو پیش کیے۔

اندھوں کو سلام کرنے کا مسئلہ صحیح یہ ہے کہ حرم (جن سے پردہ نہیں ہے) اور بڑھیا وہ سے کو سلام کیا جا سکتا ہے اور دوسرا عورتوں کو منوع ہے۔

سلام میں پیش قدمی کسے کرنا چاہیے؟ اگر چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور سوار چلنے والے کو اور تھوڑے را فراد ایجادہ کو سلام کروں۔

اور جامع ترمذی میں آپ سے مردی ہے کہ چلنے والا کھڑے کو سلام کرسے اور مند نماز میں آپ سے مردی ہے کہ سوار چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرسے اور دو چلنے والوں میں سے جو ہل کرسے وہ افضل ہے۔

اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ جو سلام میں ابتداء کرسے وہ اللہ کے ہاں تمام لوگوں سے بہتر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ کسی جماعت کے پاس سے گزتے تو واپس ہوتے وقت سلام کرتے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیٹھے تو سلام کرسے اور جب کھڑا ہو تو سلام کرسے اور ہللا دوسرا سے زیادہ تقدار نہیں۔

اور ابو داؤد نے آپ سے روایت کیا کہ جب تم میں سے کوئی لپنے رفیق سے ملے تو سلام کرسے اور اگر (ریلتے ہلکتے) کوئی درخت یا دیوار حائل ہو جائے۔ اس کے بعد پھر میں دوبارہ سلام کرسے نیز حضرت انسؓ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ پڑا کرتے۔ تو اگر راہ میں کوئی درخت یا پتھر آ جاتا تو راہ میں بائیں ہٹ جاتے اور جب دوبارہ ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ مسجد میں آئنے والا سب سے پہلے تنجیہ المسجد کے ونقل پڑھے، اس کے بعد حاضرین کو سلام کرتے تاکہ تنجیۃ المسجد تنجیۃ القوام سے مقدم ہو جائے۔ کیونکہ یہ الشکاحت ہے اور سلام کرنا قوم کا حق تھا۔ اس قسم کے حقوق میں الشکاح مقتض ہوتا ہے۔ بخلاف مالی حقوق کے تو ان میں کافی نراع پایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہؓ کا یہی سمول تھا کہ کوئی صحابیؓ مسجد میں آتا تو سب سے پہلے دو کعبیں ادا کرتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا۔ اس پیغمبر مسجد میں آئنے والے کے لیے تین باتیں ترتیب دار

منزدِ رحمی ہیں۔ جبکہ مسجد میں کوئی جماعت بھی نیمچی ہوئی ہو۔ ۱۱۱ ایک یہ کہ داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے بسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ، پھر تجویہ المسجد کے ونفل ادا کرے رسم اس کے بعد لوگوں کو سلام کرے۔ اور جب آپ رات کو پہنچرہ میں داخل ہوتے تو آپ اس طرح سلام کرتے کہ جا گئے والا سن لے اور جو سویا ہو وہ نہ جلا گے (مسلم)

امام ترمذیؒ نے کلام سے قبل ہی آپ کے سلام کرنے کا ذکر کیا ہے۔ روایت کے درستے الفاظ یہ ہیں کہ کسی کو دعوت طعام دینے سے قبل سلام کرو۔ اس کا اسناد اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس پر عمل ہے اور ابو حمزةؓ نے عبد العزیز بن ابی واڑ کی حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عثیر سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

سوال سے قبل ہی سلام ہونا رچا ہیئے اس لئے جو سلام سے پہلے سوال کرے اس کا جواب میستدو اور آپ سے منقول ہے کہ آپ اس کو اجازت نہ دیتے جو سلام د کرتا اور آپ سے منقول ہے کہ جو سلام سے ابتداء نہ کرے اسے اجازت مت دو۔ اس سلسلہ میں سب سے عمدہ ترمذیؒ کی نسخت ہے جو انہوں نے کلاۃ بن حبیلی سے نقل کی کہ سعوان بن امیرہ نے انہیں دو وہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ شیعی صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں اونچی جگہ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں وہاں داخل ہوا نہ میں نے سلام کیا اور نہ اجازت چاہی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور کہو اسلام علیکم (ادخل) یعنی اسلام علیکم کیا مجھے اندر آتے کی اجازت ہے؟

اور جب آپ کسی کے دروازے پر تشریف لاتے تو دیوارے کے مقابل کھڑے نہ ہوتے بلکہ وہیں یا پائیں جانب کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم اسلام علیکم۔

جواب کے سامنے آتا آپ خود اس کو سلام کرتے اور جو چاہتا کہ غائب کو سلام کی (ذمہ داری) اٹھایتے اور اگر کسی نے سلام کیا ہوتا تو وہ سلام پہنچا دیتے جیسا کہ ام المؤمنین، صدیقہ النساء، حضرت خدیجہؓ پشت خویلہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچایا، جبکہ حضرت جیزہؓ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت خدیجہؓ آپ کے پاس کھانا کے کرائی ہیں۔ انہیں ان کے پروردگار کا

سلام پہنچا دیجئے اور جنت میں انہیں مکان کی خوشخبری دے دیجئے اور جب آپ نے صدیقہ ثانیہ ام المومنین حضرت عائشہؓ نے ابو بکر صدوق رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ یہ جبریل ہیں اور انہیں سلام کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ علیہ السلام ورحمة اللہ و برکاتہ آپ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ الامنسانی نے نقل کیا کہ ایک آدمی حاضر ہوا اس نے کہا اسلام علیک۔ آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمادیں زیکیاں۔

پھر دوسرا آیا اور اس نے کہا اسلام علیکم ورحمة اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا میں اور دو ہی مددگار ہیں۔

یہ ایک اور حاضر ہوا اس نے کہا اسلام علیکم ورحمة اللہ و برکاتہ۔ آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا انہیں زیکیاں، رنسائی (ترمذی)

آپ جس سے ملتے رہتے پہلے سلام کرنے اور جب آپ کو سلام کیا جاتا۔ آپ فرآہی اس جیسا یا اس سے ہر جو اس سے ہوتے ہیں۔

آنہ میں مشغول ہوتے یا اپنے کے نازک کے حاجت کر رہے ہوتے (تو یہ نہ ہو جاتی) اور صحابہ آپ کا جواب سن لیتے۔

آپ ہاتھوں سرطاں کی اشارہ سے جواب نہ دیتے۔ سولتے نماز کے، کیونکہ اگر نماز کی (حالت میں) سلام کیا جاتا تو آپ اشارہ سے جواب دیتے تھے۔ یہ کوئی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کی کوئی صحیح روایت معاذ من نہیں۔ ابو عطیان کی حدیث رحمان کی معافی بنائی جاتی ہے، ایک مجہول آدمی کی روایت ہے جس نے ابو ہرثیا رضی اللہ عنہ کو نہیں کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ جس نے نماز میں ایسا اشارہ کیا جس سے (کچھ مطلب)، سمجھا جائے تو اسے نمازوٹانی پہاڑیہ یا

دارقطنیؓ نے فرمایا کہ ہمیں ابو داؤدؓ نے بتایا کہ ابو عطیان ایک مجہول آدمی ہے اور صحیح یہ ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت انسؓ اور حضرت جابرؓ وغیرہ نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت کیا ہے۔

سلام کی ابتداء کے وقت آپ کی سنت طیبۃ رحمی کا اس طرح سلام کرتے اسلام علیکم ورحمة اللہ او ما پسند اس طرح کہتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا علیک اسلام

ابو بھریؓ بھینی کہتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا علیک اسلام

یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ علیک السلام مت کبویر یہ مزدروں کا سلام ہے۔

اور صحابین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ ہمی تیرا اور تیری اولاد کا تجھیہ رسولام کا جواب ہو گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: السلام علیکم انہوں نے جواب دیا: السلام علیک و رحمۃ اللہ یعنی انہوں نے رحمۃ اللہ اذ انہ کہا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تجھیہ رسولام کا جواب ہے۔

### اہل کتاب کو سلام کرنے سے متعلق تبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبیبہ

ثابت ہے آپ نے فرمایا: اہل کتاب کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو۔ جب تم راستہ میں ان سے ملوتو انہیں تنگ راہ کی طرف بجبو کر دو لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص موقع کا واقعہ ہے۔ جب آپ تبی قریظہ کی طرف گئے تو فرمایا، انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اب بات یہ ہے کہ یہ حکم اہل ذمہ کے لیے عام ہے یا اس بھی قوم کے لئے ان حالات سے مخصوص ہے۔ یہ قابل تظریب ہے۔

پھونکہ صحیح سلمہ میں بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اگر انہیں کسی راستہ میں ملوتو انہیں تنگ راہ کی طرف جائے پہ جبکہ کرو یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم عام ہے اور سلف و خلف میں اس منشاء کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اکثریت اسی طرف ہے کہ ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے۔

اور ان کے سلام کا جواب دینے کے وجوہ کے متعلق بھی اختلاف ہے: محسوبہ اسے واجب سمجھتے ہیں اور یہی درست بھی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان کا جواب دینا واجب نہیں، جیسے بدعتی کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، جیسے بدعتی کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا بلکہ غیر اولی ہے۔ اور اہلی صورت زیادہ درست ہے۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہمیں اہل بدعت سے قطع تعلق کا حکم ہے تاکہ اس سے انہیں تعزیر و رنج کی جائے، خلاف اہل ذمہ کے لئے ان کی حالت دوسری ہے؟

آپ ایک جماعت کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرکین، بُخت پرست اور یہودی تھے۔ آپ

نے انہیں سلام کیا (یہاں آپ کے خطاب سے مراد صرف مسلمان سے بھی ہو سکتا ہے) اور صحیح روایت میں ثابت ہے کہ آپ نے ہر قل و غیرہ کو نامہ مبارک لکھا تو یہ سلام لکھا: (یعنی جو سید صاحبی را چلے اس پر سلامتی ہوئے)

اجازت چاہئے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذن چاہنا تین بار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ لوٹ جاؤ۔ اور صحیح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذن چاہنا بعض دیکھنے کے لیے ہے۔

نیز آپ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جس نے آپکے جو موں میں سے ایک جوہ میں بھی دیکھنے کی دلکشی کی اس کی آنکھ نکال دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ اجازت چاہئے کا طریقہ اسی لیے ہے (تاکہ آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہ رہے) اور صحیح روایت میں آپ سے منقول ہے فرمایا، اگر اجازت کے بغیر کسی آدکے نے تیر سے (گھر میں، نظر ڈالی اور تو نہیں کئے) لکھ رہا تو کوئی دست کے لئے تجویز پر کچھ گناہ نہیں۔ نیز آپ سے منقول ہے کہ فرمایا، جو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر تانک جھاک کرے تو گھر والوں کو جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو کوئی دست یا قصاص نہ ہوگا اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اذن چلھنے سے قبل سلام کرنے پر چاہیے۔

جب دریافت کیا جائے کہ تم کون ہو؟ جواب دیا جائے فلاں بن فلاں! یا اپنے کنیت

یا القب نظاہر کرے اور یہ نہ کہے کہ ”میں“ بلکہ یہیے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں سے جب درطہ کھونے کو کہا تو انہوں نے پوچھا، کہ کون؟

لئے اہل کتاب سے متعلق سلام کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت یہ ہے کہ انہیں اگر سلام کیا جائے تو ”السلام من اتبع الهدى“ کہے۔ باقی رہا سے تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کر دینا یہ بات آنحضرت کی اسناد کے طبع کے بالکل خلاف ہے جو آپ نے مشکوں تک کے لیے اختیار کر کی تھی اور اُسیں احتیزازی

انہوں نے جواب دیا کہ ”جہر میں تمام انسانوں پر تکمیل (رسال و جواب) ہوتا رہا۔

اسی طرح صحیحین میں منقول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوتے تھے جنور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ آپ نے دریافت کیا، کون و عرض کیا، ابو بکر۔

پھر عمر اور عثمانؓ حاضر ہوئے اور صحیحین میں حضرت ہمارؓ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور دروازہ ٹھکنگا ہیلیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟  
میں نے کہا: ”میں“۔ آپ نے فرمایا،

میں میں گویا کہ آپ نے ناپسند فرمایا۔ اور جب ام بانی شہنشاہ نے اجازت چاہی۔ تو آپ نے دریافت فرمایا  
یہ کون ہے؟

انہوں نے عرض کیا، ام بانی شہنشاہ نے کہیت کے ذکر کو مکروہ نہیں سمجھا۔ اس طرح جب آپ نے  
ابو ذرؓ سے دریافت کیا کہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابو ذرؓ ابیسے ہی اوقتناڈہ سے دریافت  
فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابو قناڈہؓ

رسی وہ اجازت جو کر اللہ تعالیٰ غلاموں کو اور ان بچوں کو حکم دی ہے جو ابھی رشد و بلوغت کو نہیں  
پہنچے اس کے تین موافق ہیں۔ ایک فجر سے قبل، دوسرے وقت اور سوتے وقت۔ چنانچہ حضرت اہل  
عباسؓ اس کا حکم فرمایا کرتے اور کہا کرتے کہ لوگوں نے اس پر عمل ترک کر رکھا ہے۔ ایک  
گروہ کا خیال ہے کہ یہ آیت مفسوخ ہے۔

## چھینک کے آداب

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماعتی کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو سننے والے مسلمان پر حق (واجب) ہے کہ حواب میں یرحمل اللہ کہے۔ رہی جماعتی تو یہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو جماعتی آئے تو چاہیئے کہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب تم میں سے کوئی جماعتی یافت ہے تو شیطان ہنستا ہے (بخاری)

اور صحیح روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیئے کہ وہ الحمد للہ کہے اور اس کے بھائی یا فیق کو چاہیئے کہ حواب میں یرحمک اللہ کہے اور جب وہ یرحمک اللہ کرچکے تو پہلے شخص کو چاہیئے کہے یہ دیکرم اللہ وصلح بالکمر (اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کر دے)

اور چھینک کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبۃ ابو داؤدؓ نے حضرت ابوہریرہؓ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آئی تو اپنے اپنا ہاتھ یا کپڑا چھڑہ انور پر رکھ لیتے یا دسر، نیچا کرتے یا آواز پست فرمائیتے رتم مذہبیؓ

نیز اپنے سے منقول ہے کہ بڑی جماعتی اور تیز چھینک شیطان کی جانب سے ہے۔

نیز منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعتی لینے اور چھینک کے وقت اُوانس کے بلند کرنے کو ناپسند کرتا ہے اور صحیح روایت میں ہر دو ہی ہے کہ ایک آدمی کو اپنے کی مجلس میں چھینک آئی۔ اپنے نے یرحمک اللہ فرمایا پھر دوبارہ اسے چھینک آئی تو اپنے فرمایا اس آدمی کو زکام ہے۔ یہ سلم کے الفاظ میں ذکر اسے دوسری

لہ اس لیے کہ چھینک ایک حد تک صحت کی علامت ہے اور جماعتی یک سکالی اورستی کی۔ (رسیس احمد بن عذری)

مرتبہ فرمایا، لیکن ترمذی نے اس سلسلہ کو سلمت گئے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پھینک آئی اور میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر حکم اللہ پھر اسے دوبارہ پھینک آئی، پھر سر بارہ (ایسا ہوا) تیسرا بار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس آدمی کو زکام ہے۔ ترمذی اسے حسن صحیح بتاتے ہیں۔

اور ابو داؤد نے حضرت سید بن ابی سعید سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے موقع فائق نقل کیا ہے کہ تیر سے بھائی کو اگر تین بار پھینک آئی تو وہ واقعی پھینک تھی اور جو اس سے زیادہ پھینک کا وہ زکام ہے اور پھینک میں سلت وہی ہے جو تین بار ہو۔ یہی نعمت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے احمد بن کے ہاتھا ہو جاتے اور خراب قسم کے بخارات کے خارج ہو جانے کی علامت ہے اور جو تین بار (اوپر جو جائے تو یہاں ہے) اس لیے ایسے آدمی کے لیے عافیت کی دعا کرنے کے متعلق اشارہ ہے کیونکہ زکام ایک مرض ہے اور اس صورت میں اس آدمی کے لیے یہ محتقول عندر ہے۔ جس نے تین بار کے بعد شفیت (دواکن زنا، چھوڑ ویہ، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس مرض کے دفعینہ کے لیے جلدی کی جائے دیر نہ کی جائے ورنہ علاج مشکل ہو جائے گا۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ کلام حکمت، علم اور بدایت پر مشتمل تھے۔

**دو اختلافی مسائل** | دو مسائل ایسے ہیں جن میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ پھینکنے والے نے جب الحمد للہ کہا تو بعض حاضرین نے سنا اور بعض نہیں سنا تو جنہوں نے نہیں سنایا کیا انہیں بھی اس کا جواب دینا اللزم ہے؟

اس باب میں دو قول ہیں اور ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تین ہو گیا کہ اس نے حمد کی تو پھر اس کا جواب ضروری ہے۔ اس میں جواب دینے کے لئے حمد کے الفاظ کا سامنے شرط نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد تو حمد کرنا ہے جب حمد ہو گئی تو پھر اس کا جواب دینا خود مخدوشی لازم ہو گیا جیسے کوئی گونگا ہو۔ اور حمد کے لئے اس کے ہونٹ ہلتے لظر آ جائیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی حمد کرے تو اس کا جواب دو، یہی صائب رائے ہے۔

دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ اگر حمد ترک کر دے تو حاضرین کے لیے مستحب ہے کہ اسے حمد کرنا یا دکرنا ہے؟

ابن عربیؒ کہتے ہیں کہ یاد نہ کرائے کیونکہ (ترک حمد) کرنے والے کی یہ جاہلیت کا نتیجہ ہے۔

اور تو دیگر فرماتے ہیں کہ جس کا یہ خیال ہے اس نے غلطی کی پڑھائی کے اسے یاد کرادے۔

ابراهیم نبیؐ سے بھی یہی (یاد کرنا) منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ کام تو نصیحت، امر بالمعروف، نیکی کو تقویٰ سے تعاون پر مبنی ہے۔ البتہ غالباً ہر حدیث ابن عربیؒ کے قول کو قوت دیتی ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ کا کرم میں اہل سعید و سلم نے اس آدمی کے لیے دعا دیر حمد اللہ نہیں کی جس نے چینک کر حمد نہیں کی تھی۔ اور نہ اسے یاد دلایا تھا۔ یہ اس کی تعزیہ مرسکے لیے ہے۔ نیز اس لیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو حمد کی برکت سے محروم کر دیا تو وہ دعا کی برکت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کے تکوہ اور زبانیں اس کو جواب دیئے اور اس کے لیے دعا کرنے سے بھیر دیں اول اگر تند کی سرنوں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے ہاں کی تعلیم دیئے اور اس کا فوجیہ سے تعاون کرنے کے لیے زیادہ اہل تھے

# سفر کے اذکار و آداب

## سفر پر جاتے وقت اور سفر سے واپسی کے وقت کی دعائیں

**دو رکعت نفل سے آغاز** | جب تم میں سے کوئی کسی کام کو ارادہ کرے تو اسے چاہیئے کہ فرائض کے علاوہ دو رکعت (نفل) پڑھے۔ پھر یہ دعا کرے: اللهم إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ بَعْدَ أَنْ تَقْدِيرَكَ  
بِقَدْرِ تَكَوْفِي وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ۔ فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِرُ وَ  
تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَإِنِّي أَنْتَ عَلَمُ الْغَيْوَبِ۔ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي  
هُذَا الْأَمْرُ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاجِلٌ أُمْرٌ وَمَاجِلٌ فَاقْدِرْلَمِي وَيُسْرٌ لِّي  
وَيَأْلَمُ فِيهِ وَإِنِّي كُنْتُ تَعْلَمَ شَرًّا لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاجِلٌ أُمْرٌ  
وَمَاجِلٌ فَاصْرَفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْلَمِي الْخَيْرِ حِدَثَ كَانَ  
شَرًّا ضَنْبِي بِهِ۔

یعنی: اے اللہ میں تجھ سے بڑے علم کے ذریعہ طلب خیر کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ  
قوت چاہتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، بکونکہ تو قدرت والا ہے اور میں قدرت  
نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو یہی تمام عیسائیوں کا جانتے والا ہے۔ اے  
اللہ اگر تو سمجھتا ہے تو تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے  
قریب یا دوسرے معاملہ میں ہتھ رہے۔ پھر اسے میرے لئے مقدر کر دے اور میرے لئے آسان فرم  
دے اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرم اور تیرے علم میں اس کے اندر میرے لیے، میرے دین  
اور میرے معاش اور میرے قریب یا دوسرے معاملہ میں برائی (تکلیف) ہے تو اسے تجھ سے ہٹا

لے اور مجھے اس سے ہٹا دے اور خیر جہاں بھی ہے اسے میرے لیے مقدمہ میں کروے اور پھر مجھے اس پر اضافی کروے۔

اور یہ دعا پڑھنے کے بعد آخر میں اپنی حاجت پیش کرے (بخاری)

پھر ان پنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامیت کے غلط اوہام کی بجائے یہ طریقہ پیش فرمایا جبکہ جامیت کے مشکون یا استقصام ہا لام کے ذریعہ فال رکاوی جاتی تھی جس کی نظیری آج کل تردد کی صورت میں اصل نہاد کے مشکون اور ان کے رفقاء نکلتے ہیں۔ جس کے ذریعہ وہ دیکھتے ہیں کہ عالم غمیب میں ان کے لیے کیا کچھ قدر ہو چکا ہے؟ (اور جامیت کے طریقہ کار) کو استقصام یعنی یا ب استعمال سے بتایا گیا جس میں طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس (غلط رسم) کے عومن یہ دعا مرحمت فرمائی، جس میں توحید، اللہ تعالیٰ کی بندگ، احتیاج اور اس پر توکل ہے اور اس ذات سے سوال ہے جس کے ماتھیں تمام خیر اور بخلائی ہے۔ اس کے سوا کہ کسی سے بخلائی ہی پسکتی ہے اور نہ اس کے سوا کوئی دکھوں کو دور کر سکتا ہے جب وہ اپنے بندے پر رحمت کا دروازہ کھوتا ہے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا اور جب بند کرتا ہے تو شکون علم بخوبی یا مطابع دیکھنے سے کوئی اسے کھوں نہیں سکتا۔ اسے لیے یہ دعا اہل سعادت اور اہل توفیق کے لیے نشانِ سعادت و برکت ہے جو اللہ تعالیٰ سے نیکی حاصل کرنے میں سبقت رکھے۔ اور ایسے بدخت مشرکین کے لیے اس پر کچھ حصہ نہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور دون کو بھی حسوس و بناتے ہیں وہ عنقریب بجان بیں گے۔

اور مسنداً حمدُہ بیں حضرت سعد بن ابی و قاصہؓ سے مروی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپؓ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کی قضا پر راضی ہو جانا۔ بنی آدم کی سعادت کی علامت ہے اور استخارہ کو ترک کر دینا اور اللہ کے فیصلہ پر ناراضی ہونا۔ بنی آدم کی بد نعمتی کی علامت ہے مقصود یہ ہے کہ استخارہ حقیقت میں اللہ پر توکل کرنا (تحامِ سورہ) اسی کو تفویض کرنے سے اور اس کی قدرت، علم اور انتخاب سے تقیم چاہنے کا نام ہے اور یہ صفات اپنے پروردگار کے فیصلہ پر راضی ہونے کے لوازمات میں سے ہیں اور جو ایسا نہیں وہ اسلام کا لذت شناس نہیں اور داگران صفات کے حصول کے بعد وہ اللہ کے فیصلہ پر راضی ہو گیا تو یہ اس کی سعادت کی علامت ہے۔

اور زیہقیؓ وغیرہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی

سفر کا ارادہ فرمایا تو یہ دعائیں پڑھ کر اٹھتے وقت ضرور کی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَنَاحَيْنِ وَأَنَا مُعْتَصِمٌ بِكَ تَوَكِّلْتُ عَلَيْكَ  
إِنَّكَ أَنْتَ نَقْدِي وَلَنْتَ سَرْجَانِي إِنَّ اللَّهَمَّ إِنِّي مَا هَمْتُ بِمَا لِي وَمَا لَتَ  
أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي عَزْجَارِكَ وَجْلَ شَنَاعِكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ إِنَّ اللَّهَمَّ إِنِّي  
أَغْفِرُ لِذَنْبِي وَوَحْيَهُنِي لِمَا تَغْيِيرُ إِنِّي مَا تَوَجَّهُتْ -

یعنی ”اسے اللہ میں تیرے ہی سہارے اٹھا ہوں اور تیری ہی طرف رُخ کیا ہے اور تیرے ہی (اہم)  
سے واپس ہوں اور تجھی پر توکل کیا ہے۔ اسے اللہ تو ہی میراً اعتماد ہے۔ اور تو ہی میری امید ہے اسے اللہ  
جس کام کا میں اہتمام کرتا ہوں اور جس کا تمیں کرتا ان میں مجھے کفایت فرماؤ جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا  
ہے تیرا ہی پر گوئی عزت والا ہوا اور تیری شنا بہت زیادہ ہے اور تیرے سو اکوئی معبود ہمیں۔ اسے اللہ مجھے  
پر ہیزگاری کا تو شہ عطا فرم۔ اور میرے گناہ بخش دے اور جو ہر چیز رُخ کروں میرا رُخ بحلانی کی طرف پھیر دے گے  
یہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ (سفر پر) تشریف لے جاتے۔

سوار ہوتے وقت کی دعا۔ اور جب آپ سعلوی پر سوار ہوتے تو تین بار اللہ اکبر کہتے۔ پھر یہ

سَبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَنَّا لَهُ مُقْرَنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ  
پھر پڑھتے، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفْرِي هَذِهِ الْبَرَوْنَاقَوْنَى وَمِنْ الْعُلُمَ مَا تَضَىءُ  
اللَّهُمَّ هُوَ عَلَيْنَا سَفِرٌ وَاطْوَلُنَا الْبَعْدُ اللَّهُمَّ انتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ  
الخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْبِحْنَا فِي سَفَرِنَا وَأَخْلِفْنَا فِي هَلْلَنَا۔

یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے سخرا دیا۔ حالانکہ ہم اس کی طلاق  
نہ کھوئے تھے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسے اللہ میں اس سفر پر نیکی اور  
تقویٰ کا سوال کرتا ہوں۔ نیز ایسا عمل جس سے تو راضی ہو۔ اسے اللہ ہم پر سفر آسان فرمادے اور  
ہمارے لیے اس کے بعد کو پیہیٹ دے۔ اسے اللہ تو ہی سفر میں ساتھی ہے اور گھر میں نائب  
ہے۔ اسے اللہ ہمارے سفر میں ہمارا ساتھی بن جاؤ اور ہمارے گھر میں ہمارا نائب ہو جا۔

اور جب سفر سے واپس ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

آئیوں تا سبون ان شام اللہ عابدوں لربنا حامدوں، یعنی والپسے  
آنے والے تو بکرنے والے اگر اللہ نے چاہا بحادث کرنے والے اور اپنے پردہ گار کی حمد کرنے والے ہیں۔  
اور امام الحنفی آپ سے یہ حاصل کی ہے کہ آپ پڑھا کرتے: انت الصاحب فی السفر  
والمخیفۃ فی الوھل اللهم انی اعوذ بک مِنْ اللَّهُمَّ فِي السَّفَرِ وَالْكَابِۃِ فِي  
الْمُنْقَلِبِ اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوْنَ عَلَيْنَا السَّفَرُ  
او جب وہیں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: تا سبون عابدوں لربنا حامدوں۔  
اور جب شہر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: تو ما قو بالربنا او بالله يغادر علينا حورا۔  
سیمیں مسلم ہی یہ دعا منقول ہے کہ جب آپ فرستے تو یہ کہتے: اللهم انت الصاحب فی السفر  
والمخیفۃ فی الوھل اللهم اصحابنا فی سفرنا وَاخْلَفْنَا فی اهْلَنَا اللَّهُمَّ انِّی  
اعوذ بک مِنْ رِعْتَلَهِ السَّفَرِ وَكَابِۃِ الْمُنْقَلِبِ وَمِنْ الْحُوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ  
دُعْوَۃِ الْمُظْلُومِ وَمِنْ سُوْرَۃِ الْمُنْظَرِ فِی الْمَالِ وَالْوَھلِ۔

یعنی: اے اللہ تو ہی سفر میں ہیرافیق ہے اور گھر میں نائب (محافظ) ہے، اے اللہ ہمارے سفر  
میں ہمارے رفاقت اور ہمارے گھر میں حفاظت فرم۔ اے اللہ میں سفر کی ڈسواریاں، واپسی کی جگہ  
کے دکھا اور رسفر کے بیٹھنے کے بعد کے تحریر اور نظلوم کی بد دعا اور مال اور گھر میں خرابیات  
دریکھنے سے تیری ہینا مانگتا ہوں۔

آپ رکاب میں پاؤں رکھتے وقت اسم اللہ کہتے تھے اور رکاب میں پاؤں رکھتے تو اسم اللہ کہتے  
اور جب اس کی پیشت پرسوار ہو جاتے تو ہم باراً الحمد اللہ اور تین بار اللہ اکبر کہتے۔ پھر یہ دعا پڑھتے:  
سبحان اللہ الذی سخّر لنا هذہ و مَا کنَا مقرنین و ادعا الی سر بنا المنشیون  
پھر پڑھتے: سبحان اللہ تین بار، اس کے بعد لا اله الا انت سبحانك انتی  
کنت من الظالمین سبحانك انتی ظلمت نفسی فاغفر لی انت لا يغفر الذنوب  
الا انت۔ یعنی، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے سخّر دیا۔ حالانکہ اس کی  
طاقت نہ رکھتے تھے اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں "اللہ پاک ہے" تیرے سوا کوئی معبد

نہیں۔ تو پاک ہے۔ بے شک میں خالموں میں سے ہوں تو پاک ہے۔ بے شک میں نے اپنی جان پر خلک کی مجھے بخش دے کر یونکہ تیرے سو آگنا ہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔

اور جب آپ سفر کے لیے جانے والے کسی صحابی کو الوداع کرتے تو یہ دعا کرتے:

استودع اللہ دینک و امامتک و خواصیم عمالک یعنی میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا انعام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

ایک شخص خدمتِ بھائی میں حاضر ہوا اور عرض کیا اسے اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے داؤ (راہ) دیجیے۔

آپ نے فرمایا اللہ تمہیں پر نیز گاری کا تو شہ عطا کرے۔

اس نے عرض کیا، مزید (دعا فرمائیے) آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخشنے۔

اس نے عرض کیا مزید عنایت ہو۔ آپ نے فرمایا اور جہاں بھی تم ہو۔ اللہ تمہارے لیے جلالی آسان کر دے۔

نیز ایک آدمی نے عرض کیا میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور ہر بندی پر تکبیر کرنے کی ویست کرنا ہوں۔ چنانچہ جب وہ واپس چلا تو آپ نے دعا کی۔ اللہ ہرازو لہ ال وطن و هو ن علیہ السفت سختی اے اللہ اس کے لیے زمین سکیڑ دے اور اس پر سزا آسان کر دے۔ نیز بھی ملک اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کرتے۔ اور جب مصلوان جگہ اترتے تو تسبیح کرتے۔ اس بے نازمی اس طرح دفع کر دی گئی۔ حضرت انس نے فرمایا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کی اوپنی اور بلند جگہ پر چڑھتے تو یہ کرتے۔

اَللَّهُمَّ لِكَ الْشَّرُفُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ وَلِكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَمْدٍ يَعْنِي اے اللہ ہر بندی پر تجھے ہی بندی حاصل ہے اور ہر حالت میں تیر کی ہی گدد ہے۔

اور سفر مجھ میں آپ کا یہ دستور تھا کہ جب کھلائیں ان آہماً تو آپ نبھا تیر چلتے اور فرماتے تھے کہ فرشتے۔ یہ (قافلہ) کے ساتھو شریک نہیں ہوتے جس میں کتیا گئٹی ہو اور آپ اس بات کو ناپسند فرماتے کہ سافر تنہارات کو سفر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ تنہاسفر میں کس قدر (خطرو) ہے تو وہ رات کو تنہارا نہ چلیں اور آپ نے فرمایا کہ ایک (مسافر) شیطان ہے اور دو (مسافر) دو مشیطان ہیں

اور تین صحیح طور پر (مسافر) سو ایں، اور فرمایا کرتے تھے۔ کہ جب تم میں کوئی کسی مقام پر اترتے تو یہ دعا پڑھے ۱۴ عوذ بکلمات اللہ الناتمات من شر ما خلق یعنی میں ہر راس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ کے کلات کی پناہ مانگتا ہوں۔ بھرا سے کچھ ضرر نہ ہہنچے گا۔ یہاں تک کہ وہ اس بلگ سے کوچھ کر لے۔

**غزوہ میں شرکت کے وقت کی دعا**

اور امام احمد نے نقل کیا کہ جب آپ غزوہ میں شرکت یہ دعا پڑھتے ہے۔ یا ارض ربی و سبک اللہ عوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما دب علیک عوذ باللہ من شرکل اسد و اسود و حیة و عقرب و من شر ساکن البلد و من شر و الد و ماؤلہ، یعنی لے زمکن میرا بھر و روگار اور تبر اور روگار اللہ ہے۔ میں تیر سے شر سے اور جو کچھ تجویں ہے اس کے شر سے اودھ تو جھوٹ میکہ پیدا کیا گیا اس کے شر سے اور جو تیر ہے اور پریلما ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور میں ہر شیز ناوسیاہ و سانپ، پچھو، شہر میں رہنے والے، باب اور پیدا ہونے والے (بچے) کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

نیز آپ فرمایا کہ تھے کہ جب تم سبزو زاروں میں سفر کرو تو انہوں کو بھاڑی میں میں سے ان کا حصہ دیا کرو اور جب تم ویران مقام میں سفر کرو تو جدیدی سے اُسے عبور کر جاؤ۔ ایک روایت کے لفظیہ ہیں کہ وہاں سے گزرنے میں سرعت اختیار کرو اور جب تم پڑاؤ کرو تو راستہ کو چھوڑ دو بکیونکہ وہ بھوپاؤں کی گزرا گا ہیں میں اور رات کو کیڑے بکوڑوں کے ساکن۔

اوْرَجَبَّ اَنْتَ كُسْتِيْ كُو دِيْكِھِيْتِ جِبْ مِنْ اَنْتَ دِاخِلٌ ہُونَا چَاهِيْتِ تُولَى سَهِيْرَ كِيرَ دِعَا پڑھتے،

اللَّهُمَّ إِنِّي بِالسَّمَوَاتِ وَمَا أَنْظَلْتُنِي وَرَبِّ الْأَرْضَيْنِ السَّبِيعِ وَمَا أَقْلَنِي  
وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْتُنِي وَرَبِّ الْرِّيَاحِ وَمَا ذَرْتُنِي أَنْفَسَ الْكُلُّ خَيْرٌ  
هذِلَّ الْقَرِيْبَةَ وَخَيْرَ أَهْلَهَا وَنَعْوَذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا۔

یعنی، اے اللہ آسمان اور جو کچھ ان کے سایہ میں ہے ان کے پر و روگار اور ساتوں زمینوں کے رب اور جو کچھ وہ یہے ہوئے ہیں اور شیاطین کے رب اور جنہیں انہوں نے مکلو کیا اور ہواؤں کے رب

اور جنہیں انہوں نے منتشر کر دیا ہم تجھ سے اس کی بستی کی جملائی اور اس کے رہنے والوں کی جملائی پاہتھیں اور ان کے ضرر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے ضرر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

اور سفر میں جب صحیح ہو جاتی تو آپ یہ پڑھتے: سمع سامع بحمد اللہ و نعمته و حسن  
بل و مُلْهٗ عَلَيْنَا سَرِبَنَا مَا حَبَنَا وَ أَفْضَلُ عَدِيَّتَنَا عَمَّا كُنَّا بِأَنَّ اللَّهَ مِنَ النَّاسِ يَعْلَمُ صَنْفَتَنَا  
ولے نے اللہ کی حمد اس کی فضت اور حسن بلاد کو سن لیا، ہمارے رب اور ہمارے مالک نے ہم پر خصل  
فرمایا ہم دوزخ سے اللہ کی پناہ پاہنسے والے ہیں۔

حورت کو غیر محروم کے ساتھ سفر نہ کرنا پڑا ہے | ہم اواز بلند کر دیتے اور آپ سافر کو اس بات  
سے منع فرماتے کہ وہ قرآن لے کر دھمن کے علاقے میں سفر کے کہ ایسا نہ ہو کہ دھمن اسے لے لے را اور  
تو ہم کا مرتکب ہو)

اور آپ محروم کے بغیر حورت کو سفر کرتے سے منع فرماتے۔ اگرچہ یہ بہرید (۲ میل) کی مسافت کیوں  
نہ ہو۔

اور آپ سافر کو حکم دیتے کہ جب سفر میں کام فتحم ہو جائے تو جلدی سے اپنے گھروٹ آئیے۔ اور جب  
آپ سفر سے واپس تشریعت لاتے تو ہر لوچی جگہ تین بار اللہ اکبر کرتے۔ پھر یہ کلمہ پڑھتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیہون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ  
وعن لا و فسر عیدا لا و هزدا لا و حزاب و عذاب سعی اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں۔ وہ تنہا ہے۔ اس  
کا کوئی شرکی نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر فقاد ہے۔ واپس آنے والے،  
توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے پروگرام کی حمد کرنے والے، اللہ نے اپنا وعدہ پر کر دکھایا  
اور اپنے بندے کی مدد کی اور یکر و تنبہا تمام گروہوں کو شکست دی۔

نیز اگر سفر کی وجہ سے کوئی دری تک غائب رہتا تو آپ رات کو چکوں سے آپ کا مشق قانعہ بر تناو اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا نے کی مانع فرماتے اور صحیحین میں ہے کہ  
آپ اپنے گھر والوں کا دروازہ لات کونہ کھٹکھٹاتے بلکہ شام کو یا صبح کو داخل ہوتے اور جب آپ سفر

سے تشریف لاتے تو خاندان کے بھروس سے آپ کی ملاقات ہوتی۔ حضرت عبد اللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ سفر سے تشریف لاتے تو میں نے آپ کی طرف سبقت کی۔ چنانچہ آپ نے مجھے آگئے بٹایا۔ پھر حضرت قاطرؓ کے صاحبزادے، حسنؓ یا حسینؓ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے بیچھے بٹایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم تمینوں ایک سو لکھ پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے۔

اور سفر سے آنے والے کے ساتھ آپ معالقة فرماتے اور اگر کھروالا ہوتا تو اس کا بوسہ لیتے۔

زہریؓ نے حضرت عروۃؓ سے انہوں نے حضرت عائشہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے زید بن حارثہ مدینہ کے انہوں نے حاضر ہو کر دروازہ کھلکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکر کر اس طرف تشریف لے گئے اور اس حالت میں کہ آپ کا کپڑا گستاخ رہا۔ اللہ کی قسم سے قبل یا بعد میں نے آپ کو میں (جگہ میں قمیص نہ ہونا مراد ہے) کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے معالقة فرمایا اور انہیں بو سہ دیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب جعفر اور ان کے رفقاء حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میں اور دونوں کو بو سہ دیا اور معالقة فرمایا اور شعبیؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ جب سفر سے ولیس آتے تو ہمہ مسجدیں جاتے اور وہاں دو رکعتیں (نفل) پڑھتے۔

# اذکارِ نکاح

## خطبہ حاجت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اپنے نے خطبہ حاجت سکھایا جو یہ ہے۔

الحمد لله الذي نحمد له و نستعين به و نستغفر له و نعوذ بالله من شرور افسوسات اعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضل فلوا هادى له و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد ا عبد و رسوله۔

پھر اپنے تین آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔

(۱) یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطه ولا تموتون لا وانتم مسلمون۔

(۲) یا ایها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منها زوجها۔

(۳) یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا اقولاً سدايداً يصلح لكم اعمالکم و يغفر لكم ذوبکم و من يطع الله و رسوله فقد من امر فو شرعاً عظیماً۔

شجی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو الحسنؑ سے دریافت کیا کہ آیا یہ خطبہ نکاح ہے یا کچھ اور ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہر ضرورت کے لیے ہے۔

اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوچت یا خلام یا جو بائیہ حاصل کرے تو وہ اس کی پیشانی پکٹے۔

اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرے اور اللہ بنی اک و تعالیٰ کا نام لے اور کہے: اللهم اذن لاسأتك خیرها وغیر ما جبلت عليك واعوذ بك من شرها وشر ما جبليتك عليك  
یعنی اسے اللہ میں تجوہ سے اس کی بجلائی اور جو اس کی جبلت ہے اس کی بجلائی طلب کرتا ہوں  
اور میں اس کے شر اور اس کی جبلت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

نماخ کروانے والے حوث سے سے آپ فرمایا کہتے بارک اللہ لك وبارك عليك وعجم بینکما  
فی خیر، یعنی، اللہ تمہارے لئے برکت کرے اور تم پر برکت کرے  
اور تم دونوں  
کو بجلائی پر اکٹھا کرے۔

اور فرمایا کہتے کہ اگر تم میں سے کوئی یہنی زوجہ کے پاس جانا چاہے تو وہ دعا پڑھے وہ

بسم اللہ اللہ رحمۃ الشیطان وجنب الشیطان ماسر زقتا یعنی ہم اٹھ کے نام  
سے اسے اللہ میں شیطان سے الگ کھانا اور جو تو ہمیں (بچر) عطا کرے اسے بھی خیطان سے الگ کھانا  
(اس کے پڑھنے سے) اگر اسی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ ہونا متحرک کر دیا ہے تو اسے شیطان کبھی ضرر دردے  
سکے گا۔

**اپنے اہل یاماں میں خوش کر منظر دیکھے تو کیا کہے؟** حضرت انسؓ میں منقول ہے کہ مجھے  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ  
اپنے بندے کے گھر میں یا مال میں یا اولاد میں گرفتار ہوتے عطا کرے اور وہ کہیے: ما شاء اللہ لا قوۃ الا بالله تو  
موت کے سوا کوئی دکھنہ دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولو لد ذدخلت جنتَكَ قلمتَ  
ما شاء اللہ لا قوۃ الا بالله - یعنی جب تو اپنے بانگ میں داخل ہو تو کیوں نہ  
کہا ما شاء اللہ لا قوۃ الا بالله۔



# بیمار کو دیکھ کر کون سی اپڑھی جائے

سکون، خواب، وسوسوں اور شدت غضبے کے وقت کی دعائیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، کہ جو آدمی بھی کسی بیمار کو دیکھئے اور یہ دعا پڑھ لے تو اسے وہ مرض کبھی نہ ہو گا چاہے جو بھی ہو، دعا یہ ہے:-

الحمد لله الذي عافني هما ابتلاؤك به وفضلني على كثير من ممن خلق تفضييلـاـ يعني سب تفضيلـاـ اللهـكـ لـيـهـ بـيـنـ جـسـ نـهـ بـجـهـ اـسـ مـرـضـ سـمـعـ مـخـفـظـ لـهـ جـسـ مـيـںـ تـجـهـ بـتـلـاـ کـيـاـ ہـےـ اوـ بـجـهـ کـيـرـ مـخـلـوقـاتـ بـدـيـهـ طـورـ خـاصـ اـفـضـلـيـتـ بـخـشـتـيـ۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے کہ آپ کے سامنے شگون کا تذکرہ کیا گیا آپ نے فرمایا، کہ اس زیر اسب سے بہتر فال ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کو ضرر نہیں دے سکتی۔ جب تم کوئی شگون دیکھو جسے تم برا کھینتے ہو، تو یہ دعا کرو۔

اللهـمـ لاـ يـأـتـيـ بـاـلـمـحـسـنـاتـ لـاـ مـاـنـ وـلـاـ مـدـافـعـ السـيـئـاتـ لـاـ مـاـنـ وـلـاـ حـولـ وـلـاـ قـوـةـ الاـ بـكـ يـعـنـيـ اـسـتـيـرـ تـيـرـ شـگـونـ کـےـ سـوـاـ کـوـئـیـ شـگـونـ نـہـیـںـ تـیـرـ سـوـاـنـہـ تـوـقـیـقـ ہـےـ اـوـ زـقـوـتـ ہـےـ“

اور حضرت کعبت یہ پڑھا کرتے تھے: «اللهـمـ لـاـ طـيـرـاتـ وـلـاـ خـيـرـاتـ وـلـاـ سـبـ غـيـرـاـتـ وـلـاـ حـولـ وـلـاـ قـوـةـ الاـ بـكـ یـعـنـیـ اـسـتـيـرـ تـيـرـ شـگـونـ کـےـ سـوـاـ کـوـئـیـ شـگـونـ نـہـیـںـ اـوـ تـیـرـیـ بـحـلـانـیـ کـےـ سـوـاـ کـوـئـیـ بـحـلـانـیـ نـہـیـںـ تـیـرـ سـوـاـ کـوـئـیـ رـبـ نـہـیـںـ اـوـ زـقـوـتـ نـہـ تـوـقـیـقـ ہـےـ اـوـ زـقـوـتـ ہـےـ»۔

اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبصہ میں بھری جان ہے۔ یہ تو سکل کی جڑ ہے اور حشت میں بند ہے کا فراز نہ ہے اور جو بند و بھی یہ کہے گا۔ پھر پچھے کام میں لگ ک جائے تو اسے کچھ ضرر نہ ہو گا۔

**وحشت ناک خواب دیکھنے کے بعد کیا کہنا چاہئے** اپنے کہاچھے خواب اللہ کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور تم سے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اس لیے جو یہے خواب دیکھنے جس میں اس نے کوئی فامر غوب بات دیکھی ہو تو وہ باعث جاذب تین بار تھوڑے دے اور **ا عوذ بالله من الشیطان الرجيم** پڑھے۔ اسے کچھ ضرر نہ ہو گا اور نہ کسی کو بتائے اور اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اسے بتائے جعلے محبت کرتا ہو اور حکومی ناپسند خواب دیکھے اسے حکم فرمایا کہ وہ پہلو کو بدل دے جس پر پیٹے (سورہ) تھا اٹھ کر ناز پڑھ لے پھر انچھے آپ نے پانچ بائز کا ارشاد فرمایا:

(۱) باعث طرف تھوڑے دے۔

(۲) **ا عوذ بالله من الشیطان الرجيم** پڑھے۔

(۳) کسی کو خبر نہ دے۔

(۴) جس پہلو پر تھا اس کو بدل لے۔

(۵) اور کھڑا ہو کر نہ پڑھے۔

جب اس نے یہ کام کر لیا تو ناپسند خواب اسے کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گا بلکہ یہ احمد اس کے شر کو دور کر دیں گے۔

اور فرمایا کہ تعبیر نہ جانتے والے آدمی کے سامنے خواب بیان کرنے سے احتراز کرو گے اس نے تعبیر بتاوی تزوہ تم پر پڑھ لئی (اس لیے کہ) صرف سمجھدار افادی یہ آدمی کے سامنے خواب بیان کرو، جس کو تم سے محبت ہو اور حضرت عمر بن خلابؓ کی عادت تھی کہ جب آپ کے سامنے خواب بیان کیا جاتا تو فرماتے، اسے اللہ اگر یہ اچھا ہے تو ہمارے لیے ہو اور اگر یہ خلاب ہے تو ہمارے دشمنوں کے لیے ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جس کے سامنے خواب بیان کیا جائے اسے جاہیزی کہ اپنی بات بہ طور تعبیر کے کہے اور تعبیر بتانے سے قبل خواب دیکھنے والے سے کہے کہ جو کچھ تو نہ دیکھدے وہ بہت خوب ہے، پھر اس کے بعد تعبیر بتائے۔

اور عبد الرزاق نے میرے انہوں نے ایوب سے، انہوں نے این سیروں سے نقل کیا۔ بتانے میں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ جب خواب کی تعبیر تانے کا راد و فرلاتے تو کہتے: تو نے صحیح خواب دیکھا ہے یہ اس طرح ہے۔

**حضرت صالح بن کیسان نے عبید اللہ بن عبد الشفیع بن وساوس میں مبتلا ہونا اور ان کا علاج** [ مسعود سے مرفوع روایت کی ہے کہ این آدم کے قلب کے ساتھ مولک فرشتے کی رفاقت ہوتی اور ایک شیطان کی رفاقت، فرشتے کی رفاقت بجلائی کا وعدہ کرنا حق کی تصدیق کرنا اور اچھے اجر کی امید دلانا ہوتا ہے اور شیطان کی رفاقت، شر کا وعدہ، حق کی تکمیل اور بجلائی سے نامیداری پہنچ جب تم فرشتے کی رفاقت محسوس کرو تو اللہ کی حمد کرو اور اس کا افضل مانگو اور جب تم شیطان کی رفاقت محسوس کرو تو عوذ باللہ من الشیطان ۱ لترجمہ پڑھو اور استغفار کرو۔

حضرت عثمان بن عاص نے عرض کیا کہ میرے اور میری ناز اور قرأت کے درمیان شیطان حائل ہوگیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جسے خنزیر کہتے ہیں۔ جب تو اسے محسوس کرے تو اللہ کی پناہ ہگ اور اپنی پائیں جانب تین بار تھوک دے۔

اسی طرح ابی زمیل نے حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا کہ مجھے یہ نہیں میں کچھ (وسوہ) محسوس ہوتا ہے (ابن عباسؓ نے پوچھا کیا ہے؟

راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز زبان پر نہ لاٹیں گا۔ انہوں نے فرمایا کیا کوئی شک کے کوئی بات؟

میں نے کہا ہاں اودہ کہنے لگے کہ اس سے کوئی بھی نجات نہ پاس کا جب تم یہ نہیں میں کچھ (وسوہ) محسوس کرو تو یہ آیت پڑھا کرو وہاں اخروا لظاہر و الباطن و هو بكل شی علیم یہ ضروری ہے کہ ایک غیر مخلوق ناق تک انہیا ہو، بہود و سروں سے غنی ہو، قائم نفسہ ہو، ہر چیز اس کی محتاج ہو، خود موجود بالذات ہو اور ہر چیز اسی سے قائم ہو، قدیم ہو۔ اس کا اندازہ ہو بالذات یا قی ہو اور ہر چیز کی بقاوار اسی سے ہو۔ یہی وہ ذات ہے، جو اول ہے کہ اس سے قبل کچھ نہیں۔ آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس سے اور کچھ نہیں، باطن ہے کہ جس کے پرے (نچے) کچھ نہیں۔

اور نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہنے والا بکے چاہ پر الشہر ہے جس نے حقوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب جس کو اس قسم کی کوئی مخلوق محسوس ہو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور رُک جائے۔

شدت غضب میں آپ کا قول فعل نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غصے کی چنگاری کو خرو  
سے بھلایا جائے اور اگر کہٹے ہو تو پیچھے جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لپیٹ جاؤ۔ اسی طبقے  
اور شہوت ہاگ کی چنگازیاں ہوتی ہیں تو آپ نے فتوحہ نماز اور شیطان المیم سے اللہ کی پناہ مانگنے کے  
دریافت کو بھائی کا حکم فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ إِذْ  
يَسْعَىٰ إِلَيْهِمْ لُوْجُونَ كُو حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھلا دیاتے ہو۔ اب شدت شہوت بھی ان پر محوں ہوگی۔  
چنانچہ ہم با توں سے اس چنگاری کو بھائی کا حکم دیا وہ صبر اور نماز کے فریب استعمال ہے اور حکم دیا کہ  
شیطانی وساوس کے موقع پر اللہ کی پناہ مانگو چونکہ تمام معماں کا صدر غضب اور شہوت ہی سے ہوتا ہے  
اور غضب کا انجام قتل اور شہوت کا انجام زنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل اور زنا کا  
ساتھ ساتھ ذکر کیا اور سورۃ النعام، سورۃ اسری اور سورۃ فرقان میں اپس کا فتحی قریدیا۔ لغرض  
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہارت دی۔ وہ نمانا اور استعاذه سے غضب اور شہوت جیسی قتوں  
سے پہنچنے آپ کو پس ملکیں۔

# نام غوب کام

اچھے کام کرنے والوں کے لئے آپ پرستی کی دعائیں

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو یہ دعا  
پسندیدہ چیز پر دعا  
برہتے ۱ الحمد لله الذی بنعمتہ تتم الصالحت

یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے میں، جس کی نعمت کے باعث بجلائیاں مکمل ہوتی ہیں۔

اور جب کوئی نام غوب (مکیف) کی بات دیکھتے تو رہتے، تو رہتے، ۱ الحمد لله علی کل حال یعنی ہر  
حال میں تمام تعریفیں الشریعی کے لئے ہیں۔

جب کوئی محبوب یا مناسب چیز پیش خدمت کرتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے؛ چنانچہ جب  
حضرت ابن عباسؓ نے آپ کے لیے دعویٰ کا انتظام کیا تو آپ نے دعا فرمائی، اسے اللہ اے دین کی سمجھ عطا  
فرما اور اس کو تاویل (تعییرات) کا علم سکھا۔

اور راستہ میں رات کو جب ابو قتاڈہ نے آپ کو تھام لیا، جب آپ اپنی سواری سے یک طرف  
کوچک سے گئے تو آپ نے دعا دی۔ جس طرح تو نبی کی حفاظت کی۔ اس طرح اللہ بھی تمہی حفاظت کرے  
تیر آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ بصلانی کی جائے۔ اور وہ جزاک اللہ خيراً کہے تو اس نے گویا  
خوب تعریف کروی۔

اور آپ نے عبد اللہ بن ابی ربیعہ سے قرض لیا پھر ادا کر دیا اور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تعیرے مال اور  
ابل میں برکت دے۔ یہ شک قرض کا صدقہ تعریف کرنا اور ادا کرنا ہدایت ہے اور جب آں حضرت صلی  
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی پریمیٹیشن کیا جاتا ہے آپ اسے قبول کر کے اس سے زیادہ بدلہ دیتے اور

اگر مسترد کرتے تو عذر فرلتے۔ جیسے آپ نے صحبت بن بشاہر سے فرمایا جب انہوں نے شکار کا گزشت پیش کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا، ہم اسے رد نہ کرتے لیکن (اس وقت) میں احلام سے ہیں۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ آپ نے اگ لگ جانے کے موقع پر تجھیر کرنے والوں کی کیونکہ تجھیر اسے بھادے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپس کرنے تھے کہ اہل مجلس اپنی مجلس کو ذکر الہی سے محروم رکھیں اور فرمایا کہ جو قوم بھی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے۔ جس میں لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ گویا اگدھے کی لاش پر سے اٹھ رہے ہیں۔ نیز فرمایا کہ جو آدمی ایسی جگہ سے اٹھے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوا ہوا سے اس پر حضرت ہوگی۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں کثرت سے لغو ہاتھیں کر دلے۔ اگر اٹھتے سے قبل یہ کلمات کہہ دالے تو اس مجلس میں جو کچھ بھی اس سے خطا ہو چکی ہوگی۔ معاف کر دی جائے گی، دعا یہ ہے۔

سبحانک اللہ عزوجل جن اشہد ان لا إله إلا أنت استغفرلك و  
اتوب إليك اسعنی: اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سے سوا  
کوئی معبود نہیں۔ میں تجوہ سے بخشش لگتا ہوں اور تجوہ سے توبہ کرتا ہوں۔

حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ رات کو پریشان خیالی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم  
استغفار جاؤ تو یہ دعا کہو:

اللهم رب السنوات السبع وما ظلت ورب الوفيات السبع  
اقللت ورب الشياطين وما أضلت كنني جاراً من شر خلقك كلهم جميعا من  
ان يقرظ احد منهن على ادانت يطغى على عذجاري سجل شاعرك ولا والله لا  
انت اسعنی: اے اللہ ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان کے زیر سایہ ہے ان کے رب اور ساتوں  
زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے ان کے رب اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گراہ کیا سب کے رب  
اپنی تمام کی تمام مخلوق کے شر سے مجھے پناہ دیتے والا بن جا کر ان میں سے کوئی مجرم پر زیادتی رکھ کرے  
یا مجرم پر سرکشی (رہ) کرے۔ تیرا پڑھو سی عزت والا ہو گیا اور تیری شناختی ہے۔ اور تیرے سوا کوئی معبود  
نہیں۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کو تجھیر کر سے اور افطراب کے موقع پر یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے

اعوذ بالکلمات اللہ التامة من شر غضبہ و متن شر عباد ۲ و من شر  
 همیزات الشیاطین و ان یحضر وون۔ یعنی میں اس کے غضب اور اس کے بندوں  
 کے شر سے اور شیاطین کے وساوس کے شر سے اور اس بات سے کہ وہ آن موجود ہوں۔ اللہ کے  
 کل کلامات کے ساتھ پناہ مالگتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت  
 میں شکایت کی کہ اسے نیند میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حب توبہ تر ہے جایا کر سے تو یہ  
 دعا بڑھا کر۔ پھر آپ نے مذکورہ دعا فرمائی۔ راوی کا بیان ہے کہ چھر اس سے یہ گھبراہٹ جاتی رہی۔



# اَنْحَضَرَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ناپسندیدہ الفاظ

## انانیت، تکبیر اور نخوت کی مذمت

مشترکانہ الفاظ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی (و دوسرا کے نام) کی قسم کھانی اس نے مشرک کیا۔ اس طرح یہ کہنا زار آپ کے نزدیک ناپسند تھا، اگر وہ ایسا کرے تو وہ یہودی، نصرانی یا کافر ہو۔ اسی طرح مسلمان کو کافر کہتا اور بادشاہ کو لیک الملوک (بادشاہوں کا بادشاہ) یا رشمنشاہ کہتا کہ پکارنا اسی پر قاضی القضاۃ کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ نیز آقا اپنے خلاجیاں بونڈی کو یوں کہے جدیدی یا امتی میراندہ یا میری بندی۔ یا خلاجیاں اپنے آقا کو اس طرح پکارتے۔ میرے پلٹے والے دربی، بلکہ آقا کو چاہئیے کہ وہ میرا پچھہ میری پیچھے کے اور غلام کو جپائیے کہ وہ میرا سردار یا میری سردار کہا کرے اسی طرح احوال کے چلنے پر اسے گالی دینا رکروہ ہے بلکہ اس وقت دعا کرے آئندہ اس کی جعلیٰ مطلا کرے اور اس کے شر سے پناہ دے۔

اسی طرح بخار کو جملہ حیثیت کی ممانعت فرمائی۔ فرمایا کہ یہ (بخار) سیلہ آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتا ہے۔

اسی طرح مرغ کو گالی دینے کی ممانعت فرمائی۔ صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: مرغ کو گالی مت دو۔ کیونکہ زہ نماز کے لیے جگاتا ہے نیز حاصلیت کے نفرے کی طرف بلانا جیسے خاندان اور قوم و نسب کے نام پر بلانا یا فروعی مذہب طرق اور مشائخ کے نام پر نفرے لگانا اور محض قوم پرستی وغیرہ کے باعث ایک کو دوسرا پر اضافیت

بختت، نیز مسلمان کو گالی دینا اور تیسرے کو الگ کر کے دو کا آپس میں سرگوشی کرنا یا عورت کا اپنے شوهر کے سامنے دوسرا عورت کے محاسن بیان کرنا، یا اس طرح دعا کرنا۔ اس اللہ اگر تو یہ ہے تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر۔ نیز کثرت سے قسمیں کھانا، نیز آسمان پر نظر آنے والے رنگوں کو تو سے قرض کا نام دینا، نیز اللہ کے نام پر سوال کرنا، مدینہ کو پڑب کہنا دیر تمام صورتوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مکروہ ہیں۔

نیز نامناسب، حرکات میں سے یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے پہنی زوجہ سے جماع یا دیگر آپس کی باتوں کا نذکر کرے جیسے کہ بعض لوگوں کی عادتِ نہیں ہے۔ نیز نہ عمواً و ذکر و اوقاً الواجیسے الفاظ سے حکایت کرنا بھی ناپسند کرتے تھے۔ نیز یہ کہ بادشاہ کو زمین میں خلیفۃ اللہ یا نائب اللہ کہا جائے کیونکہ خوبی اور نائب تو غیر مودود کے ہو سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے گھر سے غیر حاضر ہونے والے کا خلیفہ اور اپنے موحی بنوں کا کار ساز ہے۔

نیز (ما، لی، عنده) یہی (میرا، میرے نزدیک) کے الفاظ سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اُہی تین الفاظ سے ابلیس، فرعون اور قارون گمراہ ہوئے۔

ابیس (انا خیر منہ) (یہ اس سے بہتر ہوں) اور فرعون و فی ملک مصر (اور مصکونک مہلہ ہے) اور قارون، و انتہا اور قبیتہ علیٰ علو عنده) اور مجھے یہ (مال و زر) میرے علم کی بنا پر دریگیا۔ جیسے مشکیرانہ (حملوں سے تباہ ہوا)۔

اور سب سے بہتر انارمیں، بندے کے اس قول میں ہے (انا العبد، امتد نب) (بیگانہ بگار بندہ ہوں) اور لفظی جیسے کہ فی الجرم ولی المسکنة (یہی جرم و مسکین ہوں) اور عنده) جیسے کہ غفرانی جدا کی وہنی و خطیبی و عمدائی و حمل ذا لک عتمدی - (میرا گناہ، لغرض، خطائیں اور عدا گناہ بخش دے اور میرے پاس یہ تمام نقاصل ہیں)۔

# جہاد و غزوات میں آپ کی سنت طیبہ

## جہاد کے اقسام و انواع مختلفہ و متعددہ

آپ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا | جہاد و حرب نکر اسلام کا ایک اعلیٰ اور عظیم الشان سند ہے۔ اور مجاہدین جنت میں بلند ترقیات پر فائز ہوں گے۔

بیس کرنہ میں دنیا میں رفت کی خوشخبری دی گئی تو گویا یہ لوگ دنیا واختر ہر جگہ ہی بلند حیثیت کے مالک ہوں گے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ میں ایک بلند ترقیات پر فائز تھے پھرنا پھر آپ نے (جہاد) کی ہر قسم میں حصہ لیا۔ آپ کے تھام اوقات قلب و زبان اور ساتھ سے جہاد میں مصروف تھے۔ اور آپ تمام جہانوں سے زیادہ ذاکر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر تھے اور تعالیٰ نے آپ کو سورت کرتے ہی جہاد کا حکم دیا اور فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعْثَتُنَا فِي حَلَّ قَرِيَةٍ نَذِيرًا فَلَمَّا تَطَعَّمُوا الْكَافِرُونَ وَجَاهُهُمْ بِهِ جَهَادٌ أَكْبَيْرًا یعنی اور اگر ہم چاہتے تو ہرستی میں ڈرانے والا بھیجتے۔ پس کافروں کی اطاعت مت کرو اور ان کے ساتھ خوب ہہا دکرو۔

یہ سورۃ کلیٰ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دلیل، تقریب اور قرآن کی پیغام رسائی کے ذریعہ جہاد کا حکم دیا۔ اسی طرح منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا کہ انہیں دلیل دی جائے ورنہ اسلام کے غلبہ کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

یا ایتہا النبی جاہد اَنَکَفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ وَأَقْلَمُظَاهِرُهُمْ وَمَا وَاهِمُ  
جَهَنَّمُ وَمِنْسُ الْمُصَبِّرُ یعنی؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کردا اور

ان پر سختی کرو اور ان کا انجام جہنم ہے اور یہ بہت بُرا طھکانا ہے۔“

اس لیے کفار کی نسبت منافقین کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، کیونکہ منافقین کے ساتھ جہاد گویا خاص اور واثقین انبیاء کے ساتھ جہاد ہے جو عالم میں متفرد (بظاہر دین کے حامل) اس میں شرکیہ اور معادن ہیں۔ پھر یہ یہ کم تعداد میں ہوں لیکن ان کا خطرہ زیادہ ہے۔

بیزافضل جہاد یہ ہے کہ سخت ترین مقابلہ کے موقع پر حقیقت بات کہی جائے جیسے کہ جابر حکومت کے سامنے زبان کھولنا جسکے اس سے اپنادہی کا خطرہ بھی ہو۔ اس رقمم، کے جہاد میں رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کا کافی حصہ ہوتا ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سلسلہ میں کامل اور مکمل ترین مجاہد تھے۔

تیرالشہ کے اعداد کے مقابلہ میں کیا جانے والا خارجی جہاد بندے کے داخلی جہاد کی فرع اور شاخ ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مجاہد وہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی (خوشنودی) کی خاطر اپنی ذات سے جہاد کیا اور میا جزوہ ہے جس نے ان باتوں کو چھوڑ دیا جنہیں اللہ نے منع کیا ہے۔

تو لا ہر ہے کہ جہاد بالنفس ہاہر کے جہاد سے افضل ہے بہر و دونوں دشمن ہیں۔ دو بندے کو اونے دونوں سے جہاد کرنے کا مکلف کرنا کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا بیٹھنے سامنے کھڑا ہے۔ اس سے جہاد کیے بغیر ان دونوں کا مقابلہ کرنا بھی محال ہے۔ اور وہ (تیسرا) بندے کے کو ان دونوں کا مقابلہ کرنے سے باز رکھنے اور اسے کمزور کرنے کی گوشش میں لگا رہتا ہے اور ان دونوں کے مقابلہ کے موقع پر وہ بندے کو مشقتوں، عیش سے ختم کر دیتے، الذات و شہوات کے فوت ہو جانے کا تسلیم پیش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس سے مقابلہ کیے بغیر ان دونوں سے مقابلہ کرنا بہت ہی دشواری بن جاتا ہے۔ گویا اس (سے جہاد کرنا) ان دونوں کے ساتھ جہاد کی وجہ ہے۔

اور یہ تیسری طاقت، شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاَتَّخِذُوا لَهُ عَدُوًّا، یعنی اسی شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔

چنانچہ اسے دشمن سمجھنے کا حکم اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سے جنگ کرنے اور مقابلہ کرنے کے لیے پوری وسعت اقدامت سے کام لینا چاہیے۔ گویا اس ایڈمن ہے کہ بندے سے جنگ کرنے میں قطعاً سُست نہیں پڑتا اور کوتاہی برستا ہے۔ اس طرح یہ تین دشمن ہیں۔ جن سے بندے کو جنگ کرنے اور

جہاد کا حکم دیا گی۔ اس دنیا میں بندہ ان سے مقابلہ کا مقابلہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کے جانب سماں پر ایک طرح کا امتحان و آزمائش ہے (چنان پیغمبر جو لوگ اس امتحان میں کامیاب رہے) اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ ان میں سے پر ہیزگاروں، احسان کرنے والوں، صبر کرنے والوں اور ایمان والوں کے ساتھ رہے اور روزانہ جب اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو اللہ اپنے مومن بندوں کا خود دفاع کرتا ہے۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہی دشمنوں پر ظفر پایا جا سکتے ہیں اور اگر وہ ان کی مدافعت نہ کرتا تو دشمن انہیں اچک لیتے یہ مدافعت ان کے ایمان و یقین کے مطابق ہوتی ہے اگر ایمان قوی ہوگا۔ تو مدافعت بھی قوی ہوگی۔ اس لیے جو جلالی پائیے اسے چلہیے کہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے علاوہ (تکلیف) دیکھے۔ وہ صرف اپنے آپ کو ولامت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس سے اس قدر قذف و ہتنا کرہ ڈرنے کا حق ہے اسی طرح فرمایا کہ جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اور ڈرنے اور مہرہ زیستگاری کا حق بھے کہ اس کی اطاعت کرے، تافرمانی نہ کرے اس کا ذکر کرے اسے فراموش نہ کرے۔ اور شکر کرے، کفر نہ کرے۔ اسی طرح جہاد کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ سے جہاد کرے۔ تاکہ اس کا نلب ربان اور تمام جوارح اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو جائیں اور وہ بالکل ہی اللہ کا بن جائے اور اپنی ذات کا نام رہے اور شیطان کے وعدوں کی تکنیب، اس کے حکم کی نافرمانی اور اس کی ممانعت کی مخالفت کر کے اس (شیطان) کا مقابلہ کرے۔ کیونکہ وہ جھوٹی امیدیں دلاتا اور غلط تمناً میں دکھاتا ہے۔ محتاجی کا وعدہ کرتا افسوسی ہے جیسا کہ حکم کرتا ہے۔ پر ہیزگاری، ہدایت، عفت، صبر اور تمام ایمانی اخلاقیات سے منکرتا ہے اس کے وعدوں کی تکنیب اور اس کے حکم کی نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کرو۔ اس طرح ان جہلوں کے ذریعہ ایک قوت و سلطوت پیدا ہو جائے گی جس کے ذریعہ خارج میں بھی اللہ کے دشمنوں کا تدبی ربان، با تحدا وسائل سے مقابلہ کیا جاسکے گا۔ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔

**جہاد کے چار مرتب ہیں | پچھار اقسام ہیں۔**

۱) ایک یہ کہ ہدایت اور دین حق کی تعلیم حاصل کرنے کی گوشش (جہاد) کہے کیونکہ اس کے بغیر معاش و معاد (دنیا و آخرت) میں نہ فلاح ہے اور نہ سعادت ہا اور اگر یہ چیز گیا تو دارین کی بذختری سلطنت ہو گئی۔

(۱) دوسرے یہ کہ علم کے بعد عمل کے ذریعہ جہاد کرے۔ ورنہ عمل کے بغیر مغض علم اگر مرض نہیں تو نامنہ بھی نہ دے گا۔

(۲) تیسرا یہ کہ جو علم کو نہیں جانتے انہیں سکھائے۔ ورنہ ان میں سے ہو جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت اور بینات کو چھپائے ہیں۔ اور اس کا علم اسے نفع نہ دے گا اور نہ اسے اثر کے عذاب سے چھڑتے گا۔

(۳) جو تھے یہ کہ اللہ کے دین کی دعوت پر تکالیف اور مخلوقات کی جانب سے آمدہ ایماں پر صبر کرنے کی لکشش (جہاد) کسے اور مغض اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرے۔

جب یہ چاروں مرتب حاصل ہو گئے تو در بانیہیں میں بن گیا کیونکہ صرف کاس پر بات پر جماعت ہے کہ عالم اس وقت تک عالم ربانی نہیں بن سکتا جب تک حق کو شہر پہچان لے۔ اس پر عمل نہ کسے احمد دوسروں کو بھی نہ سکھائے اس لیے جس نے علم حاصل کیا، تعلیم دی اور اس پر عمل کیا اسے آسمانوں میں مرغیم رہنگ اس سمجھا جائے گا۔

**شیطان سے جہاد کے دو مرتب ہیں**

ایک ان شکوک و شبہات کو دور کرنا جو وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور جن سے ایمان میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔

پہلی نوع کے جہاد کے بعد تین کامل ہوتا ہے اور دوسرے کے بعد صبر حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے

فریادا

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً فَيَهْدِنَ بَا مِنْ نَا لِمَا صَبَرُوا وَأَكَافِرُ بَا يَا تَنَاهُوْ قَبْنُونَ  
یعنی ”اور ہم نے ان میں سے امام (رشیشا) بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں۔ جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔“

اس طرح آپ نے تباکر صرف صبر اور یقین کے ذریعہ اقامت دین حاصل ہو سکتی ہے صہراشہوات اور خلطاءوں کو دور کرتا ہے اور یقین شکوک و شبہات کو ختم کرتا ہے۔

**کفار و منافقین کے خلاف جہاد کرنے کے تین مرتب ہیں**

ایک ہائج سے الگ استطاعت ہو جہا صورت میزبان سے اور

اگر اس سے بھی عاجز ہو تو قلب سے، یہ جہاد کئے نہیں مراتب ہیں۔ جو مرگیا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے ول میں جہاد کا شوق پیدا ہوا۔ تو وہ نفاق کی ایک علامت پر مرا۔

جہاد و حجت کے بغیر اور حجت جہاد و ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے یہی تین لوگ اللہ کی رحمت کے اپدوار نہیں۔

اَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ لِشَكْرِ  
يَرْجِونَ رَحْمَةَ اللَّهِ غَفُورِ رَحِيمٍ يَعْنِي مبے شک جو ایمان لائے اور جہنوں نے حجت  
کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہی اللہ کی رحمت کے لیے دار ہیں اور اللہ تعالیٰ سخشنے والا رحم کرنے والا ہے“  
چونکہ ایمان لانا ہر کوئی پر فرض ہے اس لیے انسان پر ہر وقت دو ہجرتیں لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توجیہ  
اخلاص، انیابت، توکل، خوف، انابت، توبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کے  
غاطران کی طرف، حجت۔ آپ کی خبر دہی کی تصدیق اور رسول پر آپ کی خبر دہی کو ترجیح دینا چنانچہ  
حدیث میں ہے کہ جس کی حجت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی حجت دنیا کی طرف ہو  
کرتے باعث یا اورت (مقصود) ہے جس سے نکاح کرے تو اس کی حجت اسی طرف ہوگی۔

لہذا اس پراللہ کی رضا حاصل کرنے اپنے شیطان سے (بچنے) کے لیے جہاد کرنا ہوگا۔ یہ سب فرضیہ  
ہیں ہے کوئی دوسرا اس حدیث میں کسی کی نیابت نہیں کر سکتا اور کفار و منافقین کے ساتھ جہاد میں امت  
کا کچھ حصہ دوسرے حصہ کی نیابت کر سکتا ہے۔ جبکہ اس طرح مقصود حاصل ہو سکے۔

اللہ کے نزدیک اکمل الخلق ہے، جس نے جہاد کے تمام مراتب مکمل کیے اللہ کے ہاں مخلوقات  
مراتب کے باعد مختلف درجات دکھنی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم  
ساری مخلوق سے اعلیٰ اور اکرام ہیں۔ کیونکہ آپ نے جہاد کے تمام مراتب مکمل کیے اور اللہ کی خاطر جہاد کرنے  
کا حق ادا کر دیا اور بخشش سے نے کروغات تک آپ نے جہاد کیا۔

کیونکہ جب آپ پر یہ آیت فائز ہوئی، یا ایتھا احمد بن قاسم فاتح سر و تیک فلک پڑ  
و شاید بخ فطہ تر ہیتی اے کمی والے اٹھو، پس ڈلا اور اپنے پر ور و گار کی بذریگ بیان کر۔

چنانچہ آپ دعوت کے لیے کمرستہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر مکمل طور پر منہک ہو گئے اور دن رات اور پوشیدہ ملائیہ ہر طرح تبلیغ کی۔ آخر جب یہ آیت نازل ہوئی۔

فاصد ع بما تو صر یعنی جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے اس کا مکمل کر اعلان کر دیجئے یہ تو آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی اور کسی طاقت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کی۔ چنانچہ آپ نے ہر جھوٹے بھر سے آزار و غلام، مرد و عورت، سرخ و سیاہ اور حسن و انس کو (اللہ تعالیٰ) کا پیغام پہنچایا۔ پھر جو نبی آپ نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور انہیں اپنے (مصنوعی) خداوں سے الگ ہونے اور غلط روایات کو ترک کرنے کا حکم دیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پھر ایمان لانے والے صحابہ کی ایذا دہی میں سخت ترین را (چھے) ہتھیار پہنچائے اور کسی انواع کی ایذا ائمہ دینے لگے اور یہ سمجھی انشیارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، مایقال لک ۱۳۰ ما فند قیل  
﴿مَرْسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ﴾ یعنی تجوہ سے مرد و بھی کچھ کہا جادہ ہے جو تجوہ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا نہ  
اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَكَنَ الَّذِي جَعَلَنَا كُلَّ نَبِيٍّ عَذَّ وَأَشِيَّ طَيْنَ إِلَّا نَسَ وَالْجَنَّ یعنی اس طرح  
ہم نے ہر نبی کے انسانوں اور جنات میں سے شکن بنا دیتے ہیں۔

نیز فرمایا: كَذَنِ الَّذِي مَا ظَقَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ سَرِّ الرَّسُولِ إِلَّا قَالُوا ساحِرٌ  
اوْ جَنَّوْنٌ اُتُوهُ صَوَابِهِ بَلْ هُمْ قَوْهُ طَاغُونَ۔ یعنی اس طرح ان سے قبل ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے یا جنون کہا انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ بلکہ وہ ایک شریر قوم ہے یہ

چنانچہ انشیارک و تعلکے نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے تسلی دی (اوہ بتایا) کہ پہلے انہیار میں ان کے لیے بھی اسود ہے۔

نیز آپ کے اتباع (صحابہ) کو تسلی دی فرمایا: اَرْحَبُتُمْ إِنْ تَرْكُوا لِجَنَّةً وَلِمَا  
يَا تَكُمْ مِثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِرًا بِالْبَاسَاءِ وَلِضَرِّ الْأَرْضِ وَلِزَلْزَلِ  
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّتِي يُنَزَّلُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِهِ مَتَى نَصْرَ اللَّهُ إِلَّا وَإِنَّ نَصْرَ اللَّهِ  
قَرُونِ یز فرمایا: اَتَرْاحِسِبُ النَّاسُ اُنْ تُنْزَكُو اُنْ تَقُولُوا اُمَّا هُمْ لَا يُفْتَنُونَ

ولقد فتنا آئذین من قبليهم فليعلمون اللہ اذین صدقوا ولیعلمون  
اکاذبین اهنجسپ اذین یعملون السیئات ان یسبقو ناساً ما یعلمون  
من کان یرجو لقاء را اللہ فان اجل اللہ الات وهو السميع العليم ومن  
جاہد لنفسہ فاما یجاہد لنفسہ ان اللہ یغتی عن العالمین و آئذین  
آمنوا و عملوا الصالحات لکنکفر لا عنہم شیاطئهم ولنجد نیھر احسن الذی  
کافرو یعملون و فضیلنا الہ نسان بو الدایہ حسنا و ان جاہد الک  
لتشراک بی ما لیس لک بہ علم فلو شطعہمما فی مرجعکم فانہ مکرم بیما  
کتبتتم تعملون فی اذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلتہم فی  
الصالحین و من انسان من یقول امما با اللہ فاذ اوذی فی اللہ جعل  
فتنة انسان کعد ای اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن ان کذا کنتم عکم  
او لیس اللہ باعذر بینا فی صد و سر العالمین -

میں یعنی کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات  
ان لوگوں کے جو ہو چکے تم سے پہلے کہ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور جھٹر جھٹڑے گئے یہاں تک  
کہ کہتے لگا رسول اور جواس کے ساتھ ایمان لائے تھے، کب آئے گی اللہ کی مردم، من رکھو، اللہ  
کی مدد و قرب ہے۔

۲۔ کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ کہ کر جھوٹ بھائیں گے کہ ہم یقین لائے اور ان کو نہ ہانچے لیں گے ؟  
اور ہم نے ان کو ہانچا ہے جوان سے پہلے تھے۔ سوال بتہ اللہ معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور  
ابڑہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کہ ہم سے بچ  
جائیں، برائی بات طے کرتے ہیں جو کوئی اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے سوال اللہ کا وعدہ  
اکہ ہا ہے اور وہ سننے والا جانتے والا ہے اور جو کوئی محنت اٹھا سوا ٹھاتا ہے اپنے ہی  
واسطے۔ اللہ کو جہاں والوں کی بہدا نہیں اور جو لوگ یقین لائے اور کیسے جعلے کام ہم ان  
پر سے ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ان کو بہتر سے بہتر بدله دیں گے کاموں کا۔ اور ہم نے  
انسان کو اپنے ماں باپ سے جعلائی کے ساتھ رہنے کی تاکید کر دی اور اگر وہ تجوہ سے زور

کر دیں کہ تو میرا شریک کرے جس کی تجھے خبر نہیں نوان کا کہا ملتا مان۔ مجھی تک پھر آتا ہے تم کو سوچیں بتلاؤں گا تم کو جو تم کرتے ہو اور جو لوگ یقین لائے اور جیسے کام کیے ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ ہم اللہ پر یقین لائے۔ پھر جب ان کو اللہ کی راہ میں ایسا پہنچے تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر کرنے لگے اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آئے پہنچے تو کہنے لگیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبر دا ہے جو کچھ سبتوں میں ہے جہاں والوں کے ॥

انسان کو چاہیے کہ ان آیات کا سماق اور ان میں بیان کردہ حکم اور عبر قبول کے خرپتے دیکھ کر یونک جب انسانوں کی طرف انبیاء علیہم السلام کو مہوت کیا گی تو وہ باتیں کھل کر سامنے آگئیں۔ ایک یہ کہ کسی نے کہا ہم ایمان لائے اور کسی نے کہا نہیں لائے، بلکہ وہ کفر اور بدی پر حجم گئے۔ اب جس نے آمنا کہا اکرم ایمان لائے، پیور و گارنے اس کا متحان لیا، اس کی آنہاتش کی اور کمرے کھوٹے میں امتیاز کرنے کے لیے نقن میں پتلا کر دیا اور جس نے کفر وال کار کیا وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دے گا اور اس پر سبقت لے جائے گا، یونک تمام امور اسی کے سامنے پیٹے جاتے ہیں۔

وَكِيفَ يَعْتَزِ المرءُ عَنْهُ بِذَانِبِهِ ۔

اذ ما ان يطوي في يديه (المراحل، الحسني)۔ اور انسان اپنے گناہوں کو کس سے کیسے فرار ہو سکتا ہے۔

جبکہ اس کے سامنے سفر ہیٹا جا رہا ہے۔

اور امام شافعیؓ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کے یہ کیا بات بہتر ہے وہ سطوت حاصل کر لے یا بتلاؤ رہے؟

آپ نے فرمایا: تب تک اسے سلطنت حاصل نہ ہو گا جب تک کہ اس کا متحان (ابتلاء) نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولی المرض (غیر بول علیہم الصلوٰۃ والسلام) کو بتلاؤ میں فیلا۔ آخر جب انہوں نے صبر کیا تو انہیں سطوت حاصل ہوئی۔ اس کے لیے کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ وہ دکھوں سے منور ہی محفوظ ہے گا اور مصائب و کام میں بتلاؤ لوگوں کی عقول میں بھی تفاوت ہے سب سے بڑا مقلعہ نہ دہستے جس نے تھوڑے سے ختم ہو جلتے والے دکھ کے عوض طویل ترین اور دلائی دکھ کو زیع دیا اور سب

سے بڑا بدیخت وہ ہے کہ جس نے طویل ترین اور داہمی دکھ مولے کے حصہ میں اختتہ ہو جانے والا دکھنے کا حاصل الغرض اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگوں کا ضرور امتحان لیتا اور انہیں بنتلا سے مصائب واکام، کرتا، تاکہ امتحان کے ذریعہ پاک اور ناپاک قابل محبت و اکرام اور ناقابل (کفار و مشکون) کا انتیاز ہو جائے اور قبل اصلاح لفوس کو امتحان کے ذریعہ پاک نہ کر دیا جائے جیسے سونا رگڑ کرنے کے ابتلاء کے بغیر صاف و شفاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ "نفس" مصل کے لحاظ سے جاہل اور ظالم ہے اور ظلم و جہالت کے باعث اسے بات کی ضرورت ہوئی کہ اسے پھولایا جائے اور اس کی صفاتی کی جائے اگر اس مگر سے (صفاتی و طہارت کے ساتھ) نکلا تو عیک و رنہ جہنم کی بھٹی میں (جانا پڑے گا) اس لیے جب بند مہذب ہو گیا اور پاکیرو املاق ہو گیا تو اسے جنت میں و اخلاق کی ایمارت مل جائے گی۔

---

## دعوتِ اسلام

**کفار کی ایزار سانیاں، مسلمانوں کا استقلال، بھرت کا حکم**

**سب سے پہلے کون اسلام لایا؟** جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو ہر قبیلہ میں سے اللہ کے بندوں نے آپ کی دعوت پر بیک کیا۔ چنانچہ صدیق الامت اور اسلام انسانے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین (اصحیلانہ میں) آپ سے تعاون کیا۔ چنانچہ آپ نے ان کی رفاقت و صحبت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہی ابو بکر ہیں جن کی مستعدی کے باعث عثمان بن عفان و علیہ بن مسیم اللہ اور سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا۔

نیز صدیقۃ النساء حضرت خود و بھر بنت خویلہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کی اور صدیقانہ صفات کی حامل ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے حضرت (لہٰ تجھے) نے عرض کیا۔ آپ خوش ہو چکے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوانہ کرے گا۔ یہی فراستو کاملہ تھی جس کے باعث آپ اس بات کی مستحق ہوئیں کہ ان کا پدر و دگار انہیں اپنے رسول جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سلام ارسال فرمائیے۔

**حضرت علی بن ابی طالب نے آخر سال کی عمر میں اسلام قبول کیا** ازیادہ مروی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ انہیں آپ نے اپنے مجاہسے تربیت کرنے کے لیے یا تھا۔

**حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ**

نیز حضرت زید بن حارثہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہبہ کے طور پر پیش کر دیا۔ ان (زید بن حارثہ) کے والد اور چچا فندیہ دینے حاضر ہوتے۔ ان دونوں نے نبی اکرم صلی علیہ وسلم کے متعلق معلوم کیا۔ پتھر چلا کر آپ سجدہ میں تشریف فرمائیں۔ چنانچہ دونوں وہاں آئے اور عرض کیا: اسے عبد المطلب کے بیٹے، اسے ابن ہاشم، اسے سردارِ قوم کے بیٹے، آپ اللہ کے حرم کے محافظ اور اس کے پڑوی ہیں۔ آپ مسکین کی مدد کرتے اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے ہم پر احسان کیجیے اور اس کا فندیہ نبور کر کے ہم پر کرم کیجیے۔

آپ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا "زید بن حارثہ"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور کام کیوں نہ کر لیا جائے؟ انہوں نے عرض کیا

وہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا، زید کو لا فی میں اسے اختیار دیتا ہوں اگر وہ تمہیں منتخب کرے تو تمہارا ہے اور اگر مجھے منتخب کرے تو اللہ کی قسم میں اس آدمی کے نہیں جو اس اختیار سے اختلاف رکھتا ہو۔

ان دونوں نے عرض کیا آپ نے انصاف کیا اور ہدایت ہی طور پر فرمایا: چنانچہ انہیں بلا گی آپ نے فرمایا کیا تم ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔

فرمایا یہ کون ہیں؟ عرض کیا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔

فرمایا میں کون ہوں؟ یہ بھی تمہیں معلوم ہے اور تم نے میری صحبت بھی دیکھ لی اس لیے اب یا مجھے انتخاب کرو یا ان دونوں کو منتخب کرو۔

حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا، میں بھی بھی آپ کے علاوہ کسی اور کو منتخب نہیں کروں گا۔ آپ میرے نزدیک باب اور ماں کے مقام پر ہیں۔

وہ دونوں کہنے لگے، اسے زید تعجب ہے تو آنادی اور اپنے والد اور چچا کے مقابلہ

میں غلامی قبول کرتا ہے؟

حضرت زید نے فرمایا کہ ہاں! میں نے اس سنتی میں ایسی بات دیکھی ہے کہ جس کے باعث میں اس کے سوا کبھی بھی کسی دوسرے کو منتخب کر سکتا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا تو انہیں دامن میں میں سے لیا اور فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بنانا ہوں کہ زید میرا بھی ہے یہ میرا دارث ہو گا اور میں اس کا دارث ہوں گا جب ان کے والد اور پرچاٹ نے خوش کن منتظر دیکھا تو دونوں بہت خوش ہوتے اور واپس چلے گئے۔

غلط اس ب کا اختیار کرنا جائز نہیں اور حضرت زید بن محمد کے نام سے شہور ہو گئے اخرا اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل فرمایا اور حکم دیا کہ لوگوں کو اپنے والدین کے نام سے یاد کرو۔ چنانچہ اس کے بعد انہیں زید بن حارثہ کے نام سے یاد کیا جاتے لگا۔

جامع مسلم میں زہری سے روایت ہے کہ تمیں معلوم نہیں کہ زید بن حارثہ سے پہنچے کوئی مسلمان ہوا اور یہ بھی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں خبر دی کہ ان پر اللہ نے اور اس کے رسول نے انعام کیا اور ان کا نام لے کر ذکر کیا۔

در قہب نو قبول اسلام در قہب نو قبول بھی اسلام لائے اور تمنا کی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نکال دیں گے کاش

اس دن میں نبجوان ہوتا اور جامعہ ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواہ کے اندر اچھی حالت میں دیکھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے انہیں سفید لباس میں دیکھا آخر لوگ ایک ایک کر کے دین میں داخل ہونے لگے اور قریش نے اس کی مخالفت نہ کی۔ آخر جب آپ نے ان کے بناؤں خداوں کا پروردہ چاک کیا کہ یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں تو یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی مخالفت پر کربستہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چھاپو طالب کے ذریعہ حفاظت فرمائی جو قریش کے ایک شریف مردار تھے۔ ان کے باعث تکلیف دینے کی جڑات نہ کرتے تھے اور حکم ایک مکین کی یہ حکمت تھی کہ انہیں اپنی قوم کے دین پر قائم رکھے۔ لیکن انکا اس میں سمجھہ دار

کی نکا ہوں میں خاص قسم کے مصالح تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی حالت یہ تھی کہ جو صاحب خاندان ہوتا۔ وہ خاندان کے باعث مشرکوں کی ایذاوں سے محفوظ رہتا درہ نہیں پڑنا پچھہ بہت سے صحابہؓ مگر مشرکین مکہ سے مصالح اور تکالیف کا سامنا کر رہا۔ بین میں سے عمار بن یاسر، ان کی والدہ اور ان کے گھروالے ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں ایذا میں دی گئیں جب انبیاءؓ ایذا میں دی جا رہی ہوتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے اسے آلو یا سر صبر کرو، کیونکہ تم سے جنت کا وعدہ ہے

**حضرت بلاں کی استقامت**

ان میں حضرت بدل بن رباح بھی تھے۔ انبیاءؓ اللہ کی خاطر ان کی قوم کی سخت اہانت کی گئی اور جوں جوں ایذا رہی میں شدت ہوتی تو ان کے مُشہ سے احمد، احمد رائیک خدا ایک خدا نکلتا۔ پڑنا پچھہ ورقہ بن فویل دہاں سے گزئے اور کہتے، ہاں اللہ کی قسم اسے بلاں ایک ہی رخدا ہے، ایک ہی رخدا۔ ابھے۔ اللہ کی قسم!

اور جب مسلمانوں کے خلاف کفار کی ایذا میں سخت تر ہو گئیں اور انہیں طرح طرح کے دکھ دیے جانے لگے تاکہ مجبوراً اور بے میس ہو کر لات اور عزمی کی پروجا شروع کر دیں پڑنا پچھہ اللہ کا وشن ابوبہل، بہمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہؓ کے پاس سے گزرا، انہیں ان کے خاندان اور ربیٹے کو قبولِ اسلام کے باعث ایذا دی جا رہی تھی۔ ابوہبیل نے ان کی شرمگاہ میں حریرہ مار دیا جس سے ان کی شہادت ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کسی غلام کے پاس سے گزرتے ہے ایذا دی جا رہی ہوتی تو اسے رکفار اسے خرید لیتے اور آزاد کر دیتے۔ ان میں سے حضرت بلاں، عاصم بن فہیرہ، امام عیسیٰ، دنییرہ، نہدیریہ اور ان کی بیٹی تھی اور بنی عدی کی ایک لوگی بھی انہیں میں شامل تھی جسے عُمراً اسلام سے قبل ایما سے رہے تھے۔

اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والدہ نے کہا۔ اسے بیٹے تو کمزور لوگوں کو آزاد کروارہا ہے اگر تو کسی مظبوط جماعت کو آزاد کرتا تو کسی دن یہ لوگ تیرے کام آجائتے۔

حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں، وہی چاہتا ہوں۔

**پہلی بھرت جبشہ کی طرف** اور جب ایذا میں شدید اختیار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ پہلی بار جبشہ کی طرف بھرت کی اجازت دے دی۔ پہلے مہاجرین میں سے عثمان بن عفان، ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ پہلی بار بارہ مردوں اور چار عورتوں نے بھرت کی۔ جن کے اسمائے مبارک یہ ہیں۔

عثمان، ان کی زوجہ حترمہ، ابو حذیفہ، ان کی بیوی سعد بنت سہیل، ابو سلمہ اور ان کی بیوی دام سلمہ، ازبیر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، عاصم بن رجیعہ اور ان کی بیوی کلی بنت الہ بشمہ، ابو سبرة بن الجراح، حاطب بن عمر و سہیل بن دہب اور عبد اللہ بن مسعود۔

یہ لوگ چھپ کر مسلح حالت میں نکلے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کروایا کہ ان کے صالح پیشے اسی تجارت کی دو کشتیاں تیار تھیں، جن میں یہ سوار ہو کر جبشہ کی زمین کو رد آنہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھشت کے یانچوں سال رجب کے مہینے میں بھرت کی۔ قریش بھی ان کی تلاش میں نکل کر رے ہوئے۔ چنانچہ صالح بنا کرنے لیکن ان میں سے کسی کو نہ پکڑ سکے۔ پھر ان مہاجرین کو معلوم ہوا کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ اس یہے پھر وہ ائمہ جب یہ لوگ مکہ سے صرف ایک دن کے ناصے پر تھے تو خبر مل کہ قریش تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض پناہ رے کر مکہ میں داخل ہو گئے جن میں حضرت ابن مسعود بھی تھے۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اپنے اس وقت غار میں صروف تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ ابن مسعود کو اس بات سے سخت رغم لا جتن ہوا۔ پہاں نہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں کلام مت کیا کرو۔

**جبشہ کی طرف دوبارہ بھرت کے حکم** جبشہ سے جو مہاجرین واپس ہوتے ان پر اور ان کے مظالم پہلے سے شدید تر ہو گئے اور ان لوگوں کو ان سے سخت زمیں اٹھانی پڑیں آخر آنحضرت صل

الله علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ عبشه کی طرف پھرست کرنے کا حکم فرمایا۔

دوسری مرتبہ ان لوگوں کا پھرست کرنا در قریش اپر شاق گزرا۔ چنانچہ مہاجرین کو سخت ایذاں اور لکھاف سے درپیار ہونا پڑا اور رہ زیادہ سنیلوہ برف کا تم بنائے جانے لگے۔ خصوصاً بہب قریش کو نجاشی کے حُسن سلوک کی خبر ملی۔

دوسری مرتبہ جن لوگوں نے پھرست کی ان کی تعداد تراسی مردوں پر مشتمل تھی پس پڑیکہ عربین یا سر بھی ان میں شامل ہوں۔ ابن الحنف نے فرمایا کہ رواوی کو ان کے متعلق شک بے اس قابلہ مہاجرین میں انیس عمر تیس شامل تھیں۔

### شاہ جہشہ کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ

اہمابرین نجاشی کی سلطنت میں الحینان سے رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبد اللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاصی کو تحالف اور ہدایاد سے کر نجاشی کی طرف پیچنا کا کروہ انہیں واپس کر دے یہیں اس نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس کی فوج کے اعلیٰ افران نے بھی سفارش کی تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے یہ سفار کا نہ مطالبہ قبول نہ کیا۔ آخر انہوں نے اسے یہ کہہ کر پہلا ناچاہا کر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سخت گستاخی اکی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہے تھے۔ چنانچہ اس نے مہاجرین کو دربار میں بلا یا، حضرت جعفر بنا ابی طالب اس جماعت کے رہنما تھے۔ جب ان لوگوں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی جماعت سے داخل کی اجازت چاہتی ہے اس نے دربان سے کہا ان سے کہو کہ یہ لوگ اپنی درخواست پھر دہ رہیں۔ انہوں نے دو لہ اس طرح کہا۔ پھر جب یہ جماعت اس کے (دردار) میں داخل ہوئی تو اس نے دریافت کیا کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں۔

حضرت جعفر نے کلیعوں کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہ تھے اس کے پادری پہنچنے۔  
وہ کہنے لگا تم لا کچھ پہنچو!

مسلمانوں سے نجاشی نے کہا: جاؤ تم میری سلطنت میں مامون ہو، جو تمہیں ایذا مارے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر وہ قریش اکے دنوں قاصدوں سے بکھر لگا کہ اگر تم مجھے ہونے کا گر جا بلکہ بہادر بھی دے دو پھر بھی میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس نے سردار ان قریش کے تھائف دو مادی نے کا حکم دیا۔ آخر یہ لوگ رسوائی کر دیا پس آئئے۔

### عمر اور عم رسم رسول حضرت حمزہ کا قبول اسلام

حضرت حمزہ اس واقعہ کے بعد مسلمان نے اسلام قبول کیا اور رفتہ رفتہ اسلام پھینا شروع ہو گیا جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ترقی پذیر دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے تو وہ جمع ہوئے تاکہ بنی هاشم، بنی عبد المطلب اور بنی عبد المناف کے خلاف ایک معاہدہ کریں کہ زان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے زنگاچ کریں گے، زان سے کلام کریں گے اور زان کی مجالس میں پہنچیں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے حوالے نہ کریں پھر انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا اور اسے کبکی چھٹ پر لٹکا دیا۔ کہتے ہیں کہ منصور بن عکر و بن عامر بن ہاشم نے یہ عہد نامہ لکھا تھا۔ ایک قول نظرین حارث کے متعلق بھی ہے، ایکن صیحہ ترقول یہ ہے کہ یہ آدمی بیضی بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعاء دی اپننا نچہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔

پھر بنو ہاشم اور بنو مطلب میں سے بعض اہل ایمان اور بعض اہل کفر سے مل گئے تو ائمہ ابو ہبیب کے کیونکہ اس نے قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی مطلب اور بنی ہاشم کے خلاف اکسایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکپ کے ساتھیوں کو شعبابی طالب میں مجوس کر دیا گیا۔ دیر واقعہ البشت کے ساتھیوں سال محرم کی رات کو پیش آیا اور کبھی کی چھٹ پر وہ عہد نامہ لٹکا دیا گیا۔

یہ لوگ تین سال تک اس جگہ محصور و نظر بند رہے۔ ان کو تمام ضروریات زندگی ہیا کرنی بند کر دی گئیں۔ یہاں تک کہ انہیں سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور شعب رگھانی کے پیچے سے ان کے پھوٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ اس موقع پر ابو طالب نے اپنا مشہور

قیمہ لامیہ بخوا۔

اور اس مقام پر بعض قریش رافی تھے اور بعض ناپسند کرتے تھے جو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے عہد نامہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی۔ چنانچہ ہشتمین بن علی و اس سلسلہ میں معلوم ہے علی اور قریش کی ایک جماعت کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی اس کی تائید کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد نامہ کے متعلق آگاہ فرمایا کہ اس پر (اللہ تعالیٰ) نے دیکھ بھی جس نے ظلم، قطع تعلق اور ستم رسانی کی بتیں چاٹ دالیں اور صرف اللہ کا نام مبارک باقی رہنے دیا۔ آپ نے اپنے چیا کو اس کی خبر دی، وہ قریش کی طرف نکلے اور انہیں بتایا کہ ان کے بستیجے نے اس طرح کہا ہے اگر وہ جھوٹا نکلا تو ہم اس کے اور تمہارے درمیان ہے جائیں گے اور اگر وہ سچا نکلا تو تم مقاطعت اور ظلم سے ہماز آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا تو نے انساف کی بات کی۔

چنانچہ انہوں نے عہد نامہ اتنا اور جب ویکھا تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی معاملہ نکلا اس پر وہ پہلے سے زیادہ کفر پر اتر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رسمب عہد اشتبہ ابی طالب سے نکل آئے۔

**ابو طالب اور خدیجہ کا انتقال** [ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بعثت کے دو سال و قریب تر برہما اور اس کے چھ ماہ بعد ابو طالب

نے دفات پائی۔ اس کے تین دن بعد امام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال فرم گئیں۔ عہد نامہ کے ختم ہونے کے بعد ابو طالب کی دفات اور امام المومنین حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد مارت آپ کو سہنے پڑے اور قوم کے پشت اور ذیل طبقہ کے لوگوں سے سخت ترین ایذا میں پہنچتے گئیں۔

**طائف کا سفر** [چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف کی طرف تشریف لے گئے کہ

از شاید وہ اسلام نے ائمیں اور قوم کے مقابلہ میں آپ کے ساتھ تعاون و حمایت کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا یا لیکن ان میں سے کسی کو بھی اس طرح مائل یا حامی نہ دیکھا بلکہ انہوں نے آپ کو سخت ترین ایذا دی اور آپ کو اپنی

قوم سے بھی زیادہ خوفناک نکالیف اور حجتیں اٹھائی پڑیں۔ آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ وہاں دس روز تھہرے آپ وہاں کے صردار کے پاس تشریف لے گئے اور (سلام) کے متعلق گفتگو فرمائی یہکن وہ کہنے لگے کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ اور غنڈوں کو آپ کے خلاف اکسایا۔ نیز اجرت پر بعض لوگوں کو حاصل کیا۔ وہ آپ کو پھر دوں سے مارنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک ہو یہاں ہو گئے۔ زید بن حارثہ آپ کو بچاتے رہے۔ آخر ان کے سر پر زخم آگیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے غنڈہ حالت میں واپس تشریف لے آئے راستے میں آپ نے طائف کے متعلق مشہور و عافر مائی۔ دعا یہ تھی: اے اللہ میں اپنی ضعفی قوت اور کمی حید اور لوگوں میں ناتوانی کی تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ اے تمام حرم کرنے والوں سے زیادہ حرم کرنے والے! تو ہی ضعیفوں کا پردہ دگار ہے اور قوہی میرا رب ہے، مجھے کس کے پردہ کرتا ہے۔ اس دور کی طرف جو مجھ سے ترش روئی کرتا ہے یا ایسے دشمن کی طرف جس کا تراک ہے اگر تو مجھ سے ناراضی نہیں تو مجھے اس کی کچھ پروادا نہیں۔ ہاں بس تیری (عطایا کر دہ) عافیت ہی میرے یہے دلیع ہے میں تیرے جہرے کے فور کی پناہ مانگتا ہوں جس کے صدقے اندر جھیرے اجائے بن گئے اور دنیا و آخرت کے امور اسی کے طفیل درست ہوتے۔ اس بات سے کہ مجھ پر تیر غصب آئے۔ یا مجھ پر تیری ناراضی ہو۔ میرا چلنہ صرف تیر یہے ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سوانح توفیق ہے اور نہ قوت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لوں کے فرشتے کو بھیجا کر آپ فرمائیں تو اہل مکہ پر پہاڑ گردیں۔ اور یہ دلوں ان دو شہروں رمکہ اور تحالف ا کے درمیان ہیں۔

آپ نے حواب دیا میں پر امید ہوں شاید ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں۔ جو اس اللہ اکی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی تحرک نہ کریں۔ والیسی پر جسم، آپ ایک بھور کے پاس سے اترے تو رات کی نماز پڑھنے میں معروف ہو گئے اور جنات کی ایک چھوٹی سی جماعت آپ کی طرف آئی۔ انہوں نے آپ کی تلاوت سنی مگر آپ کو پرستہ نہ چلا۔ یہاں تک کہ آپ سے یہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِذَا أَصْرَفْنَا الْمُكْفِرَ نَضْوًا مِنَ الْجَنَّةِ يَسْتَعْمِنُونَ الْقَرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا

قالوا انصتوا فلم تأقفي ولتو ای قوم هم متنزهین ه قالوا يا قومنا نا سمعنا  
کتاباً با انزال من بعد موسی مصداقاً قال ما بین يدیه یهودی ای الحق و ای  
طريق مستقيمہ یا قومنا چیبوا داعی الله و آمنوا به یغفرنکو من  
ذنبکم و یجبر کم من عذر ای المیره ومن لا یحجب داعی الله فليس بمحجز في الوضي  
یعنی: اور میں وقت ہم نے آپ کی طرف کتے لوگ ہنوز میں سے متوجہ کر دیے وہ قرآن  
سننے لے گئے، پھر جب دہل پہنچ گئے، بڑے چپ رہو، پھر جب غشم ہوا اپنی قدم کی  
طرف دُرسناتے ہوئے ائمہ پھرے۔ بڑے اے ہماری قوم ہم نے ایک  
ایک کتاب سنی ہو موسیٰ کے بعد اتری ہے سب اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے  
والی حق اور سیمی سے راہ کی ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم اللہ کے بلانے  
و اے کو ما فرا در اس پر یقین لا و کہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تم کو دینا ک  
عذاب سے بچائی۔ اور جو اللہ کے بلانے داۓ کرنے مانے گا تو وہ زمین میں  
بھاگ کر اللہ کو نہ تھکا سکے گا اور اس کا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں وہ لوگ  
مرتکب یہ علکتے ہیں۔

**ٹائف سے مکہ میں آپ کی واپسی**

اور راہی نہ کہ میں آپ چند دن نہ ہرے۔ زید بن  
حارث نے عرض کیا۔ قریش نے آپ کو نکال دیا  
ہے اب آپ رملہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے زید! جیسے تم دیکھ دے  
ہو اللہ تعالیٰ نکلنے اور کامیابی کی کوئی راہ نکال دے گا۔ وہی اپنے دین کا مددگار اور اپنے  
نہی کو نبیرہ دینے والا ہے، پھر آپ بکھر پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ نے بنی خزانہ کا ایک اور معلم  
بن عدی کی طرف بھیجا کر کیا میں تمہارے جوار میں داخل ہو جاؤں گا؟

اس نے جواب دیا ہاں اور اپنے قوم اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ستحیا پہن لو اور خانہ کعبہ  
کے ارکان کے پاس کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے  
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ہمراہ داخل ہوتے اور مسجد خرامہ کی پہنچ گئے  
اب معلم بن عدی اپنی سواری پر کھڑا ہو گیا اور آواز دی، اے قریش کی جماعت امیں نے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے اس یہے تم میں سے کوئی ان کی اہانت نہ کرے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم رکن تک تشریف لے گئے اور استلام کیا، پھر درکعین پر صیں پھر گھر تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہونے تک مسلم بن عدی کے رٹ کے ہتھیار سے سلح آپ کے ساتھ رہے۔

**میراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم** [بھر سجد حرام سے] کے کربیت المقدس تک براق پر سور ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی رفاقت میں آپ کو جسمانی سیر کرائی گئی۔ آپ وہاں اترے اور تمام انہیاں علیہم السلام کو امام بن کرماناز پر صاحی اور سجدۃ القبی کے دروازے پر براق باندھ دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بیت لمم میں اترے اور وہاں نماز پڑھی لیکن یہ قول درست نہیں۔ پھر اسی رات بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف تشریف لے گئے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے لیے اجازت چاہی، دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں آپ نے ابو بلusher حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا انہیں سلام کیا، انہوں نے مر جبایکہا اور سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور اپنی دامیں جانب سعید اور مراح اور بامیں جانب شقی ارواح کا منتظر رکھا یا۔

پھر آپ رجبریل اکے ہمراہ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کے لیے دروازہ کھلوایا وہاں آپ نے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کو دیکھا، ان سے ملاقات فرمائی اور انہیں سلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا اور مر جبایکہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔

پھر آپ تیسرا آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مر جبایکہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ پر تشریف لے گئے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں مارون بن عران علیہ السلام کو دیکھا ان سے علیک سلیک ہوئی انہوں نے بھی مر جبایکہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، پھر آپ پہنچے آسمان پر تشریف لے گئے اور

وہاں موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے رسالہ کا جواب دے کر مر جبا کہا۔ اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔

جب آپ اگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روپڑے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روپڑے اور فرمائے گئے کہ میں اس لیے روپڑا ہوں کہ میرے بعد ایک جوان کو نبی بنایا گیا اور اس کی امت میری امت سے بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے میں داخل ہوں گے۔

اس کے بعد آپ ساتوں آسان پر تشریف رکھے گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دے کر مر جبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو سدرۃ المحتہی تک سے بھایا گیا۔ اس کے بعد بیت معمور تک پہنچا گیا اور اس کے بعد آپ کو اللہ جل جلالہ کے دربار اعلیٰ میں سے جھایا گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ حقیقت کہ دو کان یا اس سے بھی کہم فرق رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم بھیجا جو چاہا اور آپ پہنچاں نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر نچھے آپ لوٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا؟ آپ نے فرمایا پہنچاں نمازوں کا، وہ کہنے لگے کہ آپ کی امت کو اس کی استطاعت نہ ہوگی، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیئے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف التفات فرمایا گریا ان سے مشورہ پاہتے ہوں۔ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ میں اگر آپ کی خواہش ہو۔ آخر آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہ دہیں تھا۔ بعض طرق میں یہ بخاری کے الفاظ میں روا اللہ نے دس نمازیں معاف فرمادیں۔ پھر آپ اتر سے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور انہیں خبر دی انہوں نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے حضور پھر جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیئے۔ اس طرح آپ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آتے جاتے رہے۔ یہاں تک کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی واپس جانے اور تخفیف کی درخواست کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے بلکہ راب تو میں راضی ہو گیا اور تسلیم کر دیا۔ جب آپ چلے تو نداکرنے والے نے نداک اور کہا کہ میں نے اپنا فریضہ دے لیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔

**صحابہ کا اختلاف رائے** [صحابہ کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس شب کو پروردگار کی زیارت کی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ ایک قول یہ بھی ان سے منقول ہے کہ قلب سے دیکھا۔

حضرت عائشہ اور ابن مسعود کا انکار بھی ثابت ہے۔ ان دونوں نے فرمایا ہے کہ ولقد رأى نزلة أخرى عنده سدرة المنتهى سے مراد ببريل عليه السلام ہیں اور حضرت ابو ذر سے مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک نور دیکھا ہے یعنی میرے اور اس کی روایت کے درمیان ایک نور حاصل ہو گیا۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے خود دیکھا اور عثمان بن سعید داری نے عدم روایت پر صحابہ کااتفاق نقل کیا ہے۔

ملئے میرے نزدیک تخفیف نماز کی یہ روایت اگرچہ بخاری کی روایت کردہ ہے مگر عمل نظر بے حقیقت یہ روایت ان اسنادیات میں سے ہے جو کسی ذکری مفرج اسلامی اخبار و روایات میں داخل ہو گئی ہیں۔

اس روایت کا حاصل کیا ہے؟

یہ کہ حضرت موسیٰ، آنحضرت سے زیادہ دردانہش تھے، آپ فرزیل اور شام انبیا ہونے کے باوجود ان کی رائش کے مطابق بار بار خدا کے پاس تخفیف نماز کی استدعا کے کراfter ہوتے یہ بات مزاج بہوت کے بکسر ستافی ہے۔

آپ کے شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ عبادت کرتے کرتے پائے مبارک متورم ہو جاتے لوگ کہتے آپ تو معصوم ہیں آپ کیوں یہ تکمیف الحمار تھیں آپ جواب دیتے ہیں:

کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

ایسا بھی خدا کے پاس تخفیف نماز کی استدعا کر جا سکتا تھا؛ کلامِ حکمة۔ (زمیں احمد عصری)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ صرہ نے فرمایا کہ ابن عباس کا قول ہے کہ اپنے نے رب تعالیٰ کو دیکھا اور اپنے نے قلب سے دیکھا۔ آپس میں متفاہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھیٹا ہاتھ ہے کہ اپنے نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار تبارک و تعالیٰ کو دیکھا لیکن یہ واقعہ شبِ اسراء کا نہیں بلکہ یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا جبکہ اپنے کی مسیحی کی نماز قضا ہو گئی۔ پھر اپنے نے رب تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی خبر دی۔ اسی بناء پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحقيقة دیکھا اور رویت انہیاد حق ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے دو آنکھوں سے بیداری میں دیکھا اور جس نے ان سے ایسا قول نقل کیا ہے۔ اسے غلط فہمی ہوئی جو مذکور امام احمد نے ایک بار فرمایا کہ اپنے نے دیکھا ایک بار فرمایا کہ اپنے نے ربِ حمانی طور پر دیکھا تو اس لیے ان سے دونوں قول منقول ہو گئے۔ دام احمد سے ایک تمسیح قول بھی منقول ہے کہ اپنے نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن یہ ان کے بعض اصحاب کے تصرف کا نتیجہ ہے۔ امام احمد کی نصوص موجود ہیں لیکن ان میں یہ قول نہیں ملتا۔

### خبر مراجح کا کفار پر عمل

جب مسیح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو یہ عظیم آیات دکھائیں۔ انہوں نے سختی سے تکذیب کی اور اتهامی شدت سے ایذا دی اور فردرسانی پر اتر آئی اور اپنے سے مطالبہ کرنے لگے کہ بیت المقدس کا علیہ بیان کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اپنے کے سامنے ظاہر کر دیا کہ اپنے نے اسے دیکھا اور اس کی تمام علامت بتانی شروع کیں اور وہ لوگ کسی بھی بات کو رد نہ کر سکے نیز ان کے سامنے راستہ میں اور واپسی پر ایک قافیہ کا ذکر بھی کیا اور اس قافیہ کے پہنچنے کا وقت بھی بتا دیا اور سب سے اگلے اونٹ کا پتہ بھی بتایا۔ اب معاملہ ایسا ہی تھا، جیسے اپنے نے فرمایا تھا لیکن اس کے باوجود ان کی نفرت و رھنمی اگری اور ظالم لوگ انکار پر مصروف ہے۔

امام زہری فرماتے ہیں کہ مدینہ روانگی سے ایک سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر آسمان کی طرف مراجح روحانی کر لیا گیا اور ابن عبد البر وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہجرت اور مراجح کے درمیان ایک سال دو ماہ کا وقفہ تھا اور مراجح ایک بار ہوا۔ ایک قول میں دو

مرتبہ ہر ایک بار بیداری میں اور ایک بار خواب میں۔ اس قول کے حاملین کا خیال یہ ہے کہ حدیث شریک اور آپ کے فرمان، پھر میں بیدار ہو گیا یا اور درسری تمام روایات کو جمع کر سکیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اسرار اور بارہ ہوا۔ وہی سے قبل ایک بار جیسے حدیث شریک ہی امذکور ہے اور یہ وہی سے قبل کا ذکر ہے اور ایک بار وحی کے بعد جیسا تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔

بعض نے کہا تین بار ریه واقعہ پیش آیا ایک بار وحی سے قبل اور دوبارہ وحی کے بعد حالانکہ یہ تمام خبط ہے اور ارباب نقل کے ظاہر پرست ضعفاء کا کارنامہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ قصر (مراجع) میں بعض الفاظ دوسری روایات کے نیاق کے خلاف پڑتے ہیں تو انہوں نے اسے ایک مرتبہ اور ہونا قرار دے دیا۔ اس کے بعد جوں جوں اختلاف روایات محسوس کیا ر مراجع اکے مزید واقعات مانند چلے گئے اور صحیح وہی ہے کہ جس پر ائمہ حدیث متفق ہیں کہ واقعہ اسرابعثت کے بعد اور ایک ہی بار ہوا۔

بھرپور کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اعلاء کے درمیان فرق کرنے کا سبب قرار دیا۔ اور مس سے اپنے دین کو غالب کرنے، اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ابتدا فرمائی۔

زہری فرماتے ہیں کہ مجسے محمد بن صالح سے انہیں عاصم بن عفر قیادہ اور زینیہ بن رومان وغیرہ سے روایت ہی۔ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی ایام میں تین سال تک مکہ میں چھپ کر کے رہے۔ پھر پوتھے سال اعلان عام کیا اور لوگوں کو دس سال تک دعوت اسلام دی۔ مج کے موسم پر حجاج کی قیام گما ہوں پر تشریف لے جاتے نیز عکارہ بمنتهی، ذمی الجاز کے موسمی تہواروں پر بھی آپ تشریف لے جاتے اور دعوت اسلام دیتے اور اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتے (اور فرماتے کہ اگر تم نے قبول کر لیا تو جنت ملے گی لیکن کوئی بھی آپ کی صد اپ بلیک نہ کرتا نہ حمایت پر تیار ہوتا۔ اخفاپ قبائل کے نام دریافت فرماتے اور ایک تبیید کی قیام گماہ کا پتہ چلا تے اور فرماتے۔

اسے لوگوں کو حملۃ اللہ الکاظمۃ کے سوا کوئی معبود کا رسانا نہیں تم عرب کے باوشاہ

بن جاؤ گے اور بھم رکے لوگ اتھا را دین اختیار کریں گے اور جب تم ایمان لاؤ گے قوت  
میں بھی صدردار ہو گے۔ ابو ہب اپ کے پیسے رہتا اور کہتا ہے۔

ابو ہب کی ایذار سانیاں [چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے انکار کر دیتے

اور آپ کو ایذا میں دیتے اور کہتے کہ تیرا خاندان، اور قبیلہ تجھے خوب جانتا ہے (اس یہے) انہوں نے تیری اتباع نہیں کی اور آپ انہیں اللہ کی دعوت دیتے پھرے جاتے اور کہتے، اسے اللہ اگر تو پا ہتا تو یہ ایسے نہ ہوتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ بنو قارن صعصعہ، بنو حفصہ، قرارۃ، غفارہ، صرۃ، حفیظ، سلیم، میس، بنو فضر، بنو نکا، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عذرۃ اور قبیلہ حضری، لیکن ان میں سے کسی نے دعوت اسلام قبول نہ کی۔

اہل مینسہ کی آپ کی طرف رغبت اور قبول اسلام [اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نعمت

کے لیے بھی انتظامات کر رکھے تھے۔ اوس اور خزر ج مددینہ میں دو قبائل تھے جو یہودیوں میں سے اپنے دوستوں کے ذمیع اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس زمانے کے انہد ایک نبی مسیح عیش ہو گا، ہم اس کا اتباع کریں گے اور ما و ماد مکی طرح تمہیں قتل کریں گے۔ اب عرب لوگوں کی طرح انصار بھی کعبہ مشرقہ کا حج کیا کرتے تھے۔ جب انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے احوال کا بغور سطالعہ کیا اور بعض انصاری کہنے لگے کہ اللہ کی قسم لوگوں جاتے ہو؛ یہی دو شخص ہیں جن کا نام یہ مددینہ کے یہودی تمہیں دھکایا کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر سبقت لے جائیں۔

سوید بن مامن اس کا ایک ادمی تھا جو مکہ آیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی اس نے مذکور کیا تھا اقرار کیا۔ آخر افس بن رافع، ابوالملیس بن عبد الاشہل کے

چند نو جوانوں کے ہمراہ حلف کے لیے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ایسا بن معاذ بھی ایک نوجوان تھا، کہنے لگا۔ قوم، اللہ کی تسمیہ ہم جس کام کے لیے آتے ہیں اس سے پر اسلام اہمتر ہے۔ ابوالجیس نے اسے جھڑک دیا وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ان کا حلف بھی مکمل نہ ہوا۔ اور وہ واپس مدینہ پہنچنے لگئے۔

**بیعت عقبیۃ الرؤوف**

ایضاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مقام عقبیۃ الرؤوف کے پچھا آدمیوں سے ملنے جو خرز حج کے قبلیہ سے تعلق رکھتے تھے جن کے نام یہ ہیں: ابوالمامر احمد بن زدارہ، عوف بن حرش، رافعہ بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبیۃ بن عامر، جابر بن عبد اللہ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ سلطان ہو گئے اور مدینہ واپس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اسلام کی دعوت پر بنا شروع کر دی اور وہاں بھی اسلام پیشیتاً شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جہاں اسلام داخل نہ ہوا۔ اگلے برس بارہ آدمی حافظ ہو گئے جابر بن عبد اللہ کے علاوہ جو چھ پہنچے تھے۔ نیزان کے ہمراہ معاذ بن حرش، بن رفاعة جو عوف مذکورہ کا بھائی تھا اور ذکوان بن عبد القیس بھی حاضر ہوا اور ذکوان مکہ میں ہی شہر گیا۔ اس نے بعد میں امدادیہ کی طرف ہجرت کی۔ چنانچہ ان کو مہاجر انصاری کہا جاتا ہے۔

نیز عبارہ بن صامت، یزید بن شلب، ابوالشیم بن بہان، عوییر بن مالک۔ یہ بارہ تھے۔ ابو زبیر نے حضرت جابر سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں کی قیام گاہوں پر تشریف لے جاتے۔ مجذہ، عکاز وغیرہ کے تھوڑاروں میں بھی جاتے اور اکریب کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے، میری حمایت و نصرت کرے جتنی کہ میں اپنے پر دردگار کا پیغام پہنچا دوں، اسے جنت ملے گی۔

لیکن کسی کو حامی و ناصر نہ پاتے، معاملہ یہاں تک آن پہنچا تھا کہ کوئی آدمی مصریاں سے اپنے قرابت را روں سے ملنے آتا تو آپ کی قوم اس کے پاس آتی اور کہتی۔

دیکھنا پچنا، قریش کا فوجوں تھیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ آپ ان لوگوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں مرین کی دعوت دیتے اور اقریش آپ کی طرف انگلیوں سے اشارے کر دے۔

ہوتے۔ وہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پرثرب سے لوگ بیسجے۔ ان میں سے ایک آدمی آتا اور ایمان لاتا پھر اپنے اس کے سامنے قرآن پاک پڑھتے۔ وہ واپس لوٹ جاتا اور اس کے اسلام کے باعث اس کے گھروالے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں کہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت نہ پائی جاتی ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کی طرف یہ جما۔ ہم جمع ہوئے اور عقیدہ کے مقام پر ہم نے بیعت کی۔ اپنے کے چھ عبادت عباس نے کہا۔

اے پیرے بیتیہ امیں اس قوم کو کچھ دقوی نہیں سمجھتا جو تیرے پاس آتے ہیں۔ میں اہل پرثرب کو خوب جانتا ہوں۔ پھر ایک دوسری آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عباس ان کے پھرولی پر غور سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اس قوم کو نہیں جانتے یہ نئے ہیں۔ ہم نے مرغی کیا اے اللہ کے رسول ہم کس بات پر اپنے کی بیعت کریں!

آپ نے فرمایا ہر حالت میں سننے اور اہمادت کی۔ خوشی اور سُستی میں، اشکی و فراخی میں اللہ کے نیے خرچ کرنے پر، امر بالمعروف اور نہیں و من المنکر پر اس بات پر کہ تم اللہ کی اہمادت کرو اور طاعت سے نہ ڈرو اور اس پر کہ جذب میں وہاں آجائوں تو میری نصرت کرو اور ہم سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اولاد کو بچاتے ہو۔ اے مجھ سے بھی ہستا ف پھر تمہارے لیے جنت ہے۔

اسعد بن زرارہ کا انتباہ ہم بیعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسد بن زدارہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا۔ اے اہل پرثرب ٹھہر وہاں کا ان کی طرف اوپر ہوں پر باہر نہیں آئے اور ہم جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور آج اس کا نکان تمام عرب کی مفارقت تمہارے بڑوں بڑوں کے قتل اور تمہارے ساتھ تواروں سے جنگ کے برابر ہے۔ اب اگر تم اس بات پر استقلال (صبر) کرنا سکتے ہو۔ تو بیعت کرو اور تمہارا اجر اللہ کے ہاں ہو گا۔ اور اگر تو ہمیں اپنے آپ کا فدر ہے تعب شک اللہ کے ہاں تمہارا مذر ہے۔

اسلام عدینہ میں وہ کہنے لگے اے اسد ہم سے اپنا ہاتھ ہٹائے ہم اسی بیعت سے نہیں ہٹیں گے۔ پھر ہم ایک ایک کر کے ٹھٹھے اور آپ نے ہم سے

و عده لے کر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی اس کے بعد یہ لوگ مدینہ والپس پہنچے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ عمر بن ام مکتوم اور مصعب بن عمير و صحابی بھیجے ہو مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں صحابی انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی الی امامہ اسعد بن زرارہ کے ہاں ٹھہرے جب یہ چالیس کی تعداد کو پہنچ گئے تو مصعب بن عمير ہی ان کو جمع کرتے اور امامت کے فرائض انجام دیتے۔ آخر ان دونوں صحابیوں کے ہاتھ پر کثیر تعداد میں لوگ اسلام لائے۔ اسی روز بن حضیر اور اسعد بن معاذ انہی میں شامل ہیں۔ نیز ان دونوں کے اسلام لانے پر نبی عبد اللہ اشہل کے تمام مردوں اور عورتوں نے سوائے عمر بن ثابت بن قس کے اسلام قبول کیا۔ عمر بن ثابت یومِ احمد کو اسلام لایا اور اس وقت جہاد میں شریک ہوا اور ایک بھی سجدہ کرنے سے پہلے شہادت پائی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

### عمل قلیل تھا اور اب رکشیر

پھر مدینہ میں اسلام پھیل گیا اور غالب ہونے لگا۔ اس کے بعد مصعب حکم والپس آگئے۔ اور اس سال حج کے موقع پر کثرت سے انصاری مسلمان شریک ہوئے اور برادر بن معروف کا سردار حاضر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ عقبہ کی آخری رات جب رات کا ابتدائی ملکش گزر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیر مرد اور دو ٹھوڑی عیین حافظ ہوئیں۔ نے اپنی قوم اور مکہ کے کفار سے پرشیدہ طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تاکہ یہ لوگ جس بات سے اپنی عورتوں، بچوں اور بڑوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی بھی حفاظت کریں اس رات کو سب سے پہلے برادر بن معروف نے بیعت کی، جب اس نے بیعت کی تو اس کا ہاتھ سفید تھا اس نے آپ کی طرف جلدی کی اور حضرت عباس اس کی بیعت کو موکد کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت یہ اپنی قوم کے دین پر تھے اور اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بارہ کا انتخاب فرمایا جن کے اسماء مبارک حسب فیلی ہیں:-

اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبد اللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برادر بن معروف عبد اللہ

بن عمر بن حرام جو حضرت جابر کے والد تھے اور اسی رات کو یہ اسلام لائے تھے۔ سعد بن عبادہ منذر بن عمر اور عبادہ بن صامت یہ مذکورہ حضرات تو تبیلہ خزر ج سے تعلق رکھتے تھے اور تینیں افراد تبیلہ اوس سے انتخاب فرمائے، اسید بن حضیر، سعد بن خلیلہ اور رفاعة بن عزد المنذر۔ ایک قول میں رفاعة کی جگہ ابوالشیم بن تیمان کا نام لیا گیا ہے۔ دوسرے تین یہ تھیں: امام علماء نیبہ بنت کعب بنا عمر و اور یہودیہ عورت ہیں کہ جن کے رُوکے حبیب بن زید کو میلکہ نے شہید کیا تھا اور درسری عورت اسماء بنت عمر بن عدی تھیں۔

جب یہ بیعت مکمل ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ کیا اہل عقبہ پر اپنی تواریخ سے مسیح ہو کر حمد کر دیں! آپ نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی اور شیطان اہل عقبہ کو سنانے کے لیے چلاتا ہے۔ جیسے دور سے آواز آرہی ہو۔ اسے اہل خاہ تہیں معلوم ہے کہ محمد اور اس کے صاحبی ساتھی تمہارے خلاف بٹک کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں درستہ مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اللہ کے شمن میں تیرے یہے مزدور فارغ ہوں گا۔

اہل مدینہ کے قبول اسلام پر قریش کا اضطراب | پھر آپ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے

مجھ ہوئی تو قریش کے بڑے بڑے سردار قبائل انعام کے پاس آئے اور کہنے لگے اسے قوم خزر ج (ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم گزشتہ رات ہمارے اس ادمی (حضرت محمد) سے ملنے ہو اور تم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ تم نے ہمارے مقابلہ میں ڈنے کی بیعت کر لی ہے۔ اللہ کی قسم، عرب میں کوئی تبیلہ ایسا نہیں کہ جو ہمیں اس سے زیادہ مبغوض ہو۔

چنانچہ خزر ج کے مشرکین کھڑے ہوئے اور انہوں نے تین دلانے کی خاطر تسلیم کھانے لگیں۔ کہ نہ یہ بات تھی اور نہ ہمیں اس کا علم تھا۔

اور عبد اللہ بن ابی کہنے والا کہ یہ غلط ہے۔ یہ بات ہی نہ تھی اور میری قوم اس جیسے ادمی سے مبتلا نہ فتنہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر میں یہ ثابت میں ہوتا کہ میری قوم میرے مشورے کے بغیر ایسی بات نہ کرتی۔ چنانچہ قریش دوڑ کر چلے گئے اور برادر بن معمر درستہ کو پڑھ کیا اور وادی

یا جو میں اپنی مسلمان قوم سے جاتا۔ قریش نے بھی انہیں تلاش کیا اور سعد بن عبادہ کو پکڑ دیا اور ان کے ہاتھوں کو ان کی گردان کے ساتھ درسی سے باندھ دیا اور مارنے اور گھینٹنے لگئے اور ان کے بال فرپنے لگئے، بہانہ تک کہ انہیں مکہ میں آئے۔ آخر مطہم بن اولہ حربت بن حزب بن امیہ آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا۔ جب النصار نے انہیں نہ پایا تو اپس میں واپس جانے کے لیے مشورہ کیا۔ راجحی مشورہ کر رہے تھے کہ مسلمان کے پاس واپس پہنچ گئے اور سب النصار کی واپس مدینہ پہنچے گئے۔

مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت اس کے بعد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر انچہ سب سے پہلے ابو سلۃ بن عبد اللہ السدا اور ان کی بیوی سلۃ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن رام سنت کو روک دیا گیا اور ایک سال تک جبوس رکھا گیا۔ نیزان کا بچہ بھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ ایک سال کے بعد یہ اپنے بیوی کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔

اس کے بعد لوگ کثرت سے یکے بعد دیگرے مدینہ جانے لگے آخر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ اور علیؓ کے سوا کوئی مسلمان نہ رہا۔

# آنحضرت کی بحث

اہل مدینہ کا جوش و خروش کے ساتھ والہانہ استقبال

مشرکین کی چال اجب مشرکین نے دیکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہہ میں سر جا چکے اور اپنے بیوی، پھروس اور مال و دولت کو سے کر اوس اور خندراج کے پاس پہنچ چکے ہیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ (امدینہ) ان کے لیے ایک جائے اسن بن چکا ہے۔ اور ویسے بھی اہل مدینہ شوکت و سلطوت کے ماں کہ میں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندریشہ ہوا کہ کہیں آپ بھی وہیں تشریف نہ ہے جائیں۔ ایسا ہوا تو یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کرے گا۔ پھر ایک دو دارالند وہ ر مشورت خانہ میں جمع ہوئے اس موقع پر وہاں کے محل و عقد میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہ تھا۔ کہ آپ کے بارے میں صلاح کی جاتے۔ نیزان کا بڑا امیس "بھی ایک نجدی بوڑھے کی صورت اختیار کر کے کبیل اوڑھے شریک ہوا۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوب تبادلہ خیالات کیا۔ ہر ادمی اپنی رائے پیش کرتا یکن یہ بوڑھارا امیس اسے رد کر دیتا اور اس پر رضا مندی ظاہر نہ کرتا۔

آخر الوجیل کہنئے لگا۔ میرے ذہن میں ایک ایسی اسکیم آئی ہے جس تک ابھی تھا را ذہن نہیں پہنچ سکتا۔

کہنے لگے: وہ کیا ہے؟

اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ہم قریش کے ہر قبیلہ کا ایک مضبوط اور فوجوں

یہ پھر نہیں تیز تکواریں دیں اور وہ بکارگی ایک آدمی کی طرح محمد پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح ان کا خون قبائل میں منقسم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سنی عبد المناف کی کچھ سمجھے میں نہ آئے گا کہ اب کیا کیا جائے اس سے انتقام لیں؟ کیونکہ تمام قبائل سے دشمنی مولینا ان کے لیے مجال ہو گا اُخْرَ ہم سب مل کر ان کی ریت ادا کر دیں گے۔

دوزھارا (بلیں) کہنے لگا اس فوجوں نے کیا خوب کہا، خدا کی قسم رائے ہے تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس عہد کے بعد یہ لوگ منتشر ہو گئے۔

پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاذب سے وحی کے کرامہ ہوتے اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور فرمایا کہ آج رات آپ اپنے برترین نہ سویں۔ پھنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و پھر کوچھرہ دہانکے حضرت ابو بکر کے ہاں تشریف لائے یہ تشریف اوری بالکل خلاف معمول تھی۔

آپ نے فرمایا تمہارے ہاں ہو رہا دمی (بھی ہو اسے باہر کر دو۔

انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مجھے شرف رفاقت حاصل ہو گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں!

حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ میرے پاس دوسواریاں میں ایک قبول فرمائیئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیمت دے کر دلوں گا! اور حضرت علیؓ سے فرمایا آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔

قریش کے لوگ جمع ہو کر دروازے کی لٹگائی کرنے لگے کہ موقع پاتے ہی ٹوٹ پڑیں۔ یہ باہم شورہ کرنے لگے کہ کون سب سے بڑا بد نخت اور شقی ہو گا۔ جو یہ کام اقتلی محمد انجام دے گا؟

**آل حضرت کا مقصدِ بھرت** [بَنَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاهِرٌ تَشْرِيفٌ لَا تُئْدِي إِلَيْهِ أَوْ أَنْكِي سر کی طرف پھینکا، یقینت یہ تھی کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے تھے اور آپ یہ ایک آیت مکاولات فرمائے تھے۔]

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْتَثَنَا هُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ لِعْنَى، اور ہم نے ان کے سامنے اڑ کر دی اور ان کے پیچے اڑ پس ہم نے ان پر بے ہوشی طاری کر دی کہ وہ ریکھنے سکتے تھے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف تشریف سے گئے۔ بعد ازاں دونوں خانہ صدیق کے ایک غیر معمون سے باہر نکلے۔ اس اشتہا میں ایک آدمی آیا اور آپ کے دروازے پر لوگوں کو دیکھا تو پوچھا، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جواب بلا خود کا!

وہ کہنے لگا تم نامزاد ناکام رہے۔ اللہ کی قسم وہ تمہارے قریب سے گزر کر جا پہنچئیں اور تمہارے سر پر سٹیڈل کر گئے ہیں، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے انہیں نہیں دیکھا اور اپنے سر سے سٹی جھاؤتے ہوئے اٹھے۔

ان کے نام جو آپ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آئے تھے یہ ہیں۔ ابو جیل، ابو جلب، ابن بن حلف اور حجاج کے دونوں رُوکے بنیہ اور منیہ۔ سلم بن عاصی، عقبہ بن الجی میعیط، لفڑ بن حارث، امیہ بن خلف، زمعۃ بن اسود، طعیمہ بن عدی۔

**حضرت علیؑ اور کفار قریش** [العلیؑ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا ہوں

نے جواب دیا، میں کیا جاؤں؟

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ فارغ ثور کی طرف تشریف سے گئے اور اس میں داخل ہو گئے۔ کھڑی نے دروازے پر جالتی دیا اور عبد اللہ بن اریقطیشی کو جو راہ تھا تھا، اجرت پرے لیا گیا وہ قریش کے دین دشک اپر تھا لیکن اس سلسلہ میں ایں تھا۔ آپ

نے دلوں سراریاں اس کے حوالے کیں اور تمیں روز کے بعد غار ثور پر ملنے کا وعدہ فرمایا۔ قریش نے مجھ میں کوئی کسرہ اٹھا کی، انہیں فاقہ شک بھی سہنا پڑا۔ آخر غار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اور وہاں تھہر گئے صحیحین میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول اگر کسی آدمی نے اپنے قدموں تے دریکھ دیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اپنے نے عرض کیا اے ابو بکر فتحہار ان دو کے متعلق کیا غیال ہے کہ جن کی تیسری نیق اللہ ہے۔ خم مت کردیکنکہ اللہ ہم رونوں کے ساتھ ہے اور حالت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بالائے سران کی باتیں سن رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپ کا معاذ کفار پر پرشیدہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے کے بہانے اپ کے پاس آیا کہ اور مکہ کی خبریں سن کر اپ کو اطلاع کر دیا کرتا تھا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے انتظامِ سفر کیا اور ایک چڑی کی تھیں میں اپ کا زاد راہ رکھ دیا۔ پھر اسماں بنت ابی بکر نے اپنے لفاظ دکر بند کا ایک لکڑا پھاڑ کر تھیں میں اس سے باندھ دیا اور دوسرا حصہ پھاڑ کر مشک کامنہ باندھ دیا۔ اسی وجہ سے یہ ذات النطاۃ تین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اور مستدرک حکم میں حضرت عمر سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ نکلے۔ حضرت ابو بکر کبھی اپ کے سامنے پہلتے اور کبھی پیچے پلٹا شروع کر دیتے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ذرہ تلبے کر پیچے سے کوئی آئرہا ہو تو میں اپ کے پیچے پلٹا ہوں، پھر خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی نہ آن دھکے۔ چنانچہ اپ کے آگے آگے پلٹنے لگتا ہوں۔ اپ نے فرمایا اے ابو بکر اگر کوئی تکمیل ہائے کیا تم یہ چاہستے ہو کہ میری بجا گئیں اس سے دوچار ہو؟ انہوں نے جواب دیا: بے شک اُنہیں ہے اس کی بس نے اپ کو حق کے ساتھ مسجوب ہوت فرمایا۔

جب غار پر پہنچے، ابو بکر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ذرا اپنی جگہ پر رہیے میں اپ کے لیے غار صاف کروں (ابو بکر) اندر گئے اور اسے صاف کیا اور جب اور آئے گے۔ پھر یاد آیا کہ ابھی تک سوراخوں کو صاف نہیں کیا، اس لیے پھر عرض کیا: اے اللہ

کے رسول مُھریتے میں سوراخوں کو بھی صاف کر لوں۔ پھر اندر گئے اور سوراخوں کو بھی صاف کیا۔ اس کے بعد عرض کیا اے اللہ کے رسول اندر تشریف لائیے پھر دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اور غار میں میں راتیں مُھرے۔ یہاں تک کہ قریش کی تلاش ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عبد اللہ بن اریقطرونوں سواریاں لے کر حاضر ہو گیا اور سفر شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عامر بن فہیرہ کو اپنے پیچے بٹایا اور رہنمائی کے سامنے پلنے لگا اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور ان کی رفاقت میں تھا۔ سفر کرنے اور منزل پر اترنے میں اللہ کی نصرت شامل تھی۔

جب کفار انہیں گرفتار کرنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپ کی اور ابو بکرؓ کی گرفتاری کا انعام مقرر کر دیا، چنانچہ لوگوں نے مرگبی سے تلاشی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ جب آپؐ بنی مدحع کے ایک قبیلے کے پاس گزرے تو قبیلے کے ایک آدمی نے آپؐ کو دیکھ لیا اور اپنے قبیلہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے سائل پر ایک سایہ سا دیکھا ہے اور یہ محمدؐ اور اس کے اصحاب کے سوا اور کوئی نہیں۔ سراقتہ بن مالک ساز اعاظہ سمجھ گیا اس نے چاہا کہ وہ گرفتار کرے۔ کہنے لگا انہیں، بلکہ یہ تو فلاں فلاں آدمی ہیں جو اپنے کسی کام سے گئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر مُھرہ رہا۔ اس کے بعد انہوں کو اپنے خیسہ میں چلا گیا اور اپنے خادم سے کہنے لگا کہ خیسے کے پیچے سے گھوڑا نکال دو، میں ٹیکے کے پیچے تھیں ملوں گا۔ پھر اس نے نیزہ لیا اور اسے نیچا کر کے زمین پر لکیریں ڈالنے پل پڑا۔ جب وہ قریب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اواعز سننے لگا۔ ابو بکر بار بار پیچے مژہ مکر دیکھ رہے تھے۔ یہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم پھیل جانب النبات نہ فرماتے۔

**سراقتہ بن مالک کا تعاقب** حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول یہ سراقتہ بن مالک ہم تک آن پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہے بد دعا فرمائی۔ چنانچہ الگے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دنس گئے۔ وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے جس جرم کی مجھے بسزا ہی ہے یہ آپ کی بد دعا کا نتیجہ ہے میرے یہے اللہ سے دعل نے دخیرا کیجیے۔ میں ہمدرد کرتا ہوں کہ لوگوں کو آپ کی ر تعالیٰ سے واپس کر دوں گا۔ چنانچہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ آزاد ہو گیا۔

اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے سند خوشنودی مرحومت فرمائیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے جو رے کے مکروہ سے پر آپ کے حکم سے تحریر لکھ دی۔

فتح مکمل یہ تحریر سراقہ کے پاس موجود تھی اس دن وہ تحریر کے کر حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدر عطا فرمایا اور فرمایا: آج دعا اور بصلائی کا دن ہے۔

سراقہ نے سند خوشنودی مے کر آپ کی خدمت میں زاد راہ اور دوسواریاں پیش کیں۔ آپ نے فرمایا: ہمیں ان کی ضرورت نہیں بلکہ دشمن کی جگتوں کو ناکام بناؤ دو وہ کہنے لگا آپ مطلع رہیں اور واپس پلا گیا اور فریحہ کو لوگ آپ کی تلاش میں ہیں کہنے لگا میں تمہارے پیے غبر لایا ہوں اور تمہیں الہینان ہرنا چاہیے کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ یہ شخص دن کی ابتداء میں آپ کے خلاف تھا اور دن کے آخر میں آپ کا جانشار بن چکا تھا۔

مدینہ کے راستے میں آپ کا ایک معجزہ پھر آپ چلتے رہے یہاں تک کہ ام معبد یہ ایک قوانا عورت تھی اور خیسے کے سجن میں بیٹھی ہوتی اور جو گزرتا اسے کھلاتی پلاتی۔ آپ نے پوچھا تمہارے ہاں کچھ کہانے کو ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر ہمارے یہاں کچھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی سے محروم نہ رہتے۔ بکری کا درود حشک ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیسے کے ایک طرف ایک بکری دیکھی آپ نے فرمایا اسے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا کمزوری کے باعث یہ بکری ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کا درد ہے ہے؟ اس نے عرض کیا یہ اس مرحلہ سے گزر چکی ہے۔

آپ نے فرمایا کیا تو بمحضے اس کا درد ہد و منہ کی اجازت دیتی ہے؟ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فنا ہوں اگر کاپ کو درد ہم سکے تو آپ بے شک وہ ہیں۔

احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھیری پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لیا اور دعا فرمائی وہ قبول ہوئی اور بکری اس کے تمدن دو دھن سے بھر گئے۔ پھر آپ نے گھر والوں سے برتن طلب کیا اور اس میں درود حنکالا ریہاں تک کہ جھاگ بر قن پر چڑھا آیا۔ پھر آپ نے

رام مسید کر دو دھپرایا اور دہ پی کر سیر ہو گئی اپنے اصحاب کر پڑایا وہ بھی سیر ہو گئے۔ پھر آپ نے خود فرش فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ دو دھن کالا لیہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ پھر آپ دہاں سے آگئے ہوئے اور ایمینہ اکی طرف تشریف سے چلے، پکھ دریہ ہی گزری تھی کہ اس کا شہر ابو معبد دہلی پتیل بھر یوں کو سکھاتا ہاگیا جو کمزوری کے باعث گری پڑتی تھیں۔ جب اس نے دو دھن دیکھا تو تعجب ہوا، پوچھا یہ کہاں سے ملا؟ جبکہ بھری بھی خشک ہو چکی ہے اور گھر میں دو دھن بھی نہ تھا وہ کہنے لگی؛ اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے ایک مبارک انسان کا گزر ہوا جس کی بات اس طرح تھی اور ایسے ایسے اس کے حالات تھے۔

### آل حضرت کا حلیہ اور شمال

اس نے کہا؛ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہی آدمی معبد ذرا ان کی صفت تو بیان کرنا۔ ام مسید نے فرمایا۔ چہرہ تا باں، اخلاق پاکیزہ اور سہر سے بڑے سرنے آپ کو بوجل نہیں کیا اور جھونٹے سرنے آپ کو عیب دار نہیں کیا، فامت و صورت، حسین و جیل، آنکھیں فراخ اور سیاہ، بال کافی اور کلے، آداز جاندار، گردن مسلط، خوبصورت، سرگمیں، بلند قامت، اقرن رجس کی بھروسی اپس میں ملی ہوں (خوب سیاہ بالوں والے)، جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو وقار پھا جاتا ہے اور جب کلام فرماتے ہیں تو حسن طاری ہو جاتا ہے۔ تمام لوگوں سے زیادہ جیل، در سے دیکھو تو زیادہ خوبصورت اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ حسین اور جیل، شیریں کلام، بزرگ، جن کی زبان پر فضول اور راہیات بتیں نہیں آتیں۔ کلام کیا ہے، پر دُنی ہری کوڑیاں ہیں جو ترتیب سے گرتی، ہیں کوئی آنکھ ان میں پستہ قدی کا عیب نہیں نکال سکتی اور نہ لمبے قد کا نقش تلاش کر سکتی ہے۔ وہ دو شاخوں کے درمیان ایک ایسی شاخ ہے جو سب سے زیادہ تر و تازہ اور حسین ہے۔ اس کے رفقاء اسے گیرے سبھتے ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے وہ سنتے ہیں اور جب حکم کرتا ہے تو فوراً تعلیل کرتے ہیں۔ مخدوم اور مطاع ہے، نشانگ نظر اور نہ بے مغز ہے۔ ابو معبد کہنے لگا؛ اللہ کی قسم یہی دہ آدمی ہے جس کے متعلق قریش باتیں کرتے ہیں۔

میں نے آپ کی مصاحبہ کا ارادہ کر لیا ہے اور اگر مجھ سے یہ سکاتوں میں خود ریکام کر دیں گا۔

### مدینہ میں تشریف آوری اور استقبال

مدینہ کی طرف چل پکے ہیں وہ ہر روز مدینہ سے نکل کر دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے جب دھوپ تیز ہو جاتی تو انہی عادت کے مطابق گھروں کو واپس آ جاتے۔ یہ بعثت کا تیرھواں سال ربیع الاول کے مہینے کی بارہ تاریخ منگل کا دن تھا۔ حسب عادت رانصار ابا ہرثے جب سورج کی گرمی تیز ہو گئی واپس لوٹ آئے راتفاق اے یہود کا ایک آدمی کسی فرد کے پیش نظر مدینہ کے تملون میں سے ایک قلعے پر پڑھا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کو دیکھا۔ جن کے آگے بڑھنے سے سراب زائل ہو رہا تھا۔ وہ (یہودی) زور سے چلا یا۔ اسے نبی قبیلہ یہ ہے وہ تمہارا سردار یہ تمہارا بزرگ ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہے تھے۔

النصار نے جلدی سے ہتمیار سمجھا یہے۔ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں اور مر جبار اور شجیر کی آوازیں بنی ہمروں بن عوف میں گو نجتے لگیں۔ مسلمانوں نے آپ کی تشریف آوری کی خوشی کی خوشی میں نعرہ ہائے شجیر پند کیسے اور نبوت کی شان کے مطابق خوش آمدید کہا۔ پچکر لگاتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر دیا، آپ یکسر کون وطنائیت تھے۔ اسی حالت میں وحی نازل ہوئی۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُوْلَاهُ وَجِيرٍ يَلِ وَصَالِحٍ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَكَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرَةٍ

یعنی: پس بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس کاریق اور جیریل اور نیک لوگ ایمان والے۔

اور فرشتے اس کے مددگار ہیں۔

پھر آپ چل پڑے اور بنی ہمروں بن عوف کے علاقے قباء میں اترے۔ آپ کھلثوم بن ہم کے پاس اترے ایک قول یہ ہے کہ سعد بن خیثہ کے پاس اترے پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ پھنانچہ آپ بنی ہمروں بن عوف کے ہاں چودہ شب تک مقیم رہے اور یہاں مسجد تہذیب تھی۔

**مدینہ کی پہلی مسجد مسجد قبۃ النور** کے بعد یہ پہلی مسجد تھی، جس کی آپ نے بنیاد رکھی۔ بسب جمود کارن ہر اتواء اللہ کے حکم کے مطابق سوار ہوتے۔ آخر بنی سالم بن عوف میں جمود کی نماز کا رقت آگیا۔ آپ نے وادی کے درمیان کی مسجد میں (صحابہ) کو جمعہ پڑھایا۔ اس کے بعد سوار ہوتے، لوگوں نے اذنی کی مبارکبڑی۔ آپ نے فرمایا: اس کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ مامروہ ہے۔ چنانچہ اذنی چلتی رہی۔ انصار کے جس گھر کے پاس آپ گزرے وہ فرمائش کرتا کہ آپ یہاں تشریف فرماؤ، لیکن آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، یہ مامروہ ہے (اس سے جہاں اللہ کا حکم ہو گا بیٹھ جائے گی) ادھ چلتی رہی۔ آخر کار اس جگہ پہنچی جہاں آج کل مسجد بنوی ہے اور میمکنی۔ آپ نہ اترے۔ پھر اٹھی اور تھوڑی سی پہلی۔ پھر اس نے پھپلی حاصل دیکھا اور لوت آئی اور پہلی جگہ پہنچ گئی۔ پھر آپ اترے اور یہ بنی بخار میں سے آپ کے خیالی رشتہ وار کا مکان تھا۔ یہ اللہ کی توفیق سے تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک فربی عزیز کے گھر میں اتارنا پسند فرمایا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔

اور حضرت ابوابیوب انصاریؓ آپ کے کجا دے کی طرف بجلدت سے حاضر ہوتے اور سامان اپنے گھر میں انداھا لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے سامان سفر کے ساتھ ہوتا ہے اور صحیح حاکم میں حضرت ملی سے مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے ہمراہ کون بھرت کرے گا انہوں نے جواب دیا: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت برادر فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمارے پاس سب سے پہلے مصعب بن عثیمین اور ابن ام کثوم تشریف لائے۔ یہ دونوں بزرگ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے گے۔ پھر حضرت عمر بن عمار، بلاں اور سعد تشریف لائے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور کی ہوئی میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اس قدر کبھی بھی فرحت نہ ہوئی۔ جس قدر آپ کی تشریف اور کی باعث ہوئی۔ یہاں تک کہ میں نے عروتوں پر چوں اور لونڈیوں کو کہتے دیکھایا اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔

اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اس سے زیادہ میں نے کوئی میں اور رشنا دن نہیں دیکھا اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قلبی اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

بہر حال آپ نے مجرمے اور مسجد کی تعمیر ہونے تک حضرت ابوالیوب کے گھر میں قیام افرایا۔ آپ حضرت ابوالیوب کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ زید بن حارثہ اور ابو رافعؑ کو دردا و نٹ اور پانچ صدر ہم دے کر نکل کی طرف بیچھا۔ چنانچہ یہ دونوں آپ کی درنوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہؓ اور حضرت ام کلثومؓ نیز حضرت سودۃ بنت زمعہؓ (جو آپ کی زوجہ مختومہ تھیں) اور امامہ بن زید، ان کی والدہ ام میمن کوئے کردا پس آگئے۔ البته حضرت زینب کو ان کے خاوند ابو العاص بن ریحہؓ نے نہ آنے دیا اور عبد اللہ بن ابی بکر حضرت ابو بکرؓ کے اہل اعیاں کوئے کر پہنچے جس میں حضرت مائشہؓ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔

مسجد نبوی کی تعمیس | ازہری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپنی مسجد کی پچک پر مسجد نبوی کی تعمیس پہنچ گئی۔ اس وقت مسلمان یہاں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہن یہ جگہ ردیقیم انصاری رکوں سہل اور سہیل کی ملکیت میں تھی اور یہاں راذنؤں کے باندھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی جو اسد بن زرارہ کی زیر پروش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکوں سے اس زمین کی فردخت اور تعمیر مسجد پر گشتوں کی اور دونوں کہنے لگے، نہیں بلکہ اے اللہ کے رسول ہم اسے آپ کی خاطر درجیت کے بغیر اہبہ کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ نے ان سے یہ زمین دس دینار میں خرید لی۔ اس وقت یہ صرف چار دیواری کی صورت میں تھی، اس کی چھت نہ تھی اور اس کا قبلہ پیت المقدس کی طرف تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور زری سے قبل اسد بن زرارہ یہیں پر مسلمانوں کو نماز اور جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور اس میں غ قداد کھجور کے درخت تھے۔ اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑوی گئیں۔ کھجور اور دمرے درخت کاٹ دیئے گئے اور قبلہ کی قبر سے مسجد تکوڑی گئی۔ اور قبلہ کی مسجد کا طول ایک سو گز اور وسیعی طرف اس تک دیا اس

سے کم بنایا گیا اور تین گز بنیاد بنائی گئی۔ اس کے بعد کچی اینٹوں سے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر میں حصہ لیتے اور اینٹیں اور پتھرا ٹھاکر لاتے اور پر شسر پڑھتے۔

اللَّهُمَّ لَا يَعْلَمُ إِلَّا عِيشَ الْأَعْدَى إِلَّا مُخْرَجَةَ

فَاغْفِرْ لِلَّهِ أَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

یعنی: اسے اللہ ذندگی صرف آخرت کی ذندگی ہے۔

پس انصار اور مہاجرین کو مجش دے۔

اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا اور تین دروازے بنائے گئے۔ ایک اخیر میں دروازہ بنایا گیا۔ دوسرا باب الرحمۃ اور تیسرا دروازہ تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے ستوں کھجور کے تنے سے بنائے گئے اور چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی۔ عرض کیا گیا آپ اس کی چھت نہ دالیں گے جو آپ نے فرمایا تو علیہ السلام کے خیے کا ساکوئی خیمه نہیں اور آپ نے مسجد کے متصل کچی اینٹوں سے جگر تعمیر کروائے اور ان پر کھجور کے پتوں اور شاخوں کی چھت ڈالائی۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو مسجد کے مشرقی حصہ کے متصل حضرت عالیہ کے یہیے ایک جھرہ تعمیر کروایا اور یہی آج آپ کی آرامگاہ ہے۔ حضرت سودہ زمعہ کے یہیے درس احمدہ بنوایا۔

انصار اور مہاجرین کے درمیان موانعات | اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نبی ملک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان موانعات رجھائی چارہ قائم فرمائی۔ یہ کل نو تے آدمی تھے نصف انصار اور نصف مہاجر تھے۔ آپ نے ان کے درمیان ذوی الارم کے علاوہ سوت کے بعد ان کی درداشت کی بنیاد پر موانعات قائم فرمائی۔ اخربب غزوہ ہدرا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَالْوَالِرَّحَمَرْ بِعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔

یعنی، اور قرابت دار اللہ کی کتاب میں بعض کے نیے زیادہ متحقی ہیں۔

تو مرنے کے بعد درداشت کا معاملہ صرف اقارب تک محدود ہو گیا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے دوسری مرتبہ مهاجریں اور الفصار کے درمیان مراخات تاائم کی اور اس دوسری مرتبہ حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ پہلا قول توی ہے۔ اگر آپ کسی مهاجر سے اپنی اخوت قائم فرماتے تو آپ کی اخوت کے سب سے بڑے مستحق دہ تھے جو آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ محجوب بحیرت میں آپ کے معاون غاریں آپ کے انیں تمام صحابہ سے افضل و اکرام تھے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا: اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو خلیلِ درست اتنا توا ابو بکر گز بناتا۔ لیکن یہ میرے بھائی اور فیقہ میں اور اسلام کی بنیاد اخوت پر ہے۔ یہاں عام اخوت مرار ہے۔

**نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود سے معاهدہ صلح کیا۔**

[اور ایک یہود اسے لکھ دیا۔]

یہود کے بہت بڑے عالم عبد اللہ بن سلام سرحدت سے حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ البتہ عام یہود کفر پر جھے رہے۔

(قرم یہود) کے تین قبائل تھے۔ بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ تینوں نے آپ سے چنگ کی۔ آپ نے قبیقاع پر احسان فرمایا۔ بنو نضیر کو جلاوطن کر دیا اور بنو قریظہ تسلی ہوئے۔ اور ان کی اولاد کو غلام بنالیا گیا۔ بنو نضیر کے متعلق سورہ هشتر اور بنو قریظہ کے متعلق سورہ الحزاب نازل ہوئی۔

# تحویل قبلہ اور موسین کا متحان

یہود، نصاریٰ اور مشرکین کی قیاس آرائیاں

بیت المقدس سے کعبہ کی طرف [نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل جائے۔ اپنے حضرت ہبیریل علیہ السلام سے کہا میں پھاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قوم یہود کے قبلہ سے میرا رخ بدل دے۔]

انہوں نے عرض کیا، اپنے رب سے دعا کیجیے اور درخواست پیش کیجیئے، کیونکہ میں تو فقط بندہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور اس لگائے رکھتے کہ شاید حکم مل جائے آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، قد نریٰ تقلب وجهك في استمار فلتولیتک قبلة ترضلها فول و حملك شطر المسجد الحرام۔

یعنی: ہم اپنے کارخ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں پس ہم یقیناً اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے اپنے پا ہستے ہیں پس اپنارخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیئے۔

یہ واقعہ مدینہ تشریف اوری کے سولہ ماہ بعد غزوہ بدربے دو ماہ قبل پیش کیا۔ محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ ہمین ہاشم بن قاسم نے انھیں ابو معاشر نے بتایا انھیں محمد بن کعب القرظی سے رعایت ملی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی نے کسی نبی سے تبدیلیت کے معاملہ میں خلاف نہیں کیا۔ جبکہ اپنے مدینہ تشریف لائے تو رسول مامنہ بیت المقدس کی طرف رخ کیے رکھا۔ پھر اپنے نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

شَرِعْ لِحَمْرٍ مِّنَ الْمُّؤْمِنِينَ مَا وُصِّلَ بِهِ فَوْحَافُ الْذَّالِّيَّةِ أَوْ حِينَأَلْيَكَ الْأَذِيَّةِ۔

”لشہریت المقدس سے کبھی کی طرف تریں تبدیل ایک عظیم حکم اور مسلمانوں، مشکینوں، بہودا اور منافقین کا امتحان تھا، پس انہوں نے کہا ہم ایمان ناٹے اور اطاعت کی اور کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب ہمارے ہمارے رب کی طرف ہے ہے۔ مشکین نے کہا جس طرح ہمارے قبیل کی طرف مدد و بحرث کر آئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین کی طرف دوٹ آئیں، حالانکہ آپ نے عین حق کی بناء پر بحرث فرمایا تھا، اور قوم یہود ہبھنے لگی کہ انہوں نے اس سے قبل قبیل ابی اسراہ کی مخات کی۔ اگر یہ نبی ہوتے تو اسی طرف رخ کر کے ناز پڑتے۔ اور منافقین کہنے لگے ہم نہیں سمجھتے کہ محمدؐ کس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں! اگر پہلی صورت حق یعنی قائموں نے اسے نزک کر دیا۔ اور اگر دوسری صورت حق تمی تو پسے باطل پڑتے۔

اس طرح جبلی کی جانب سے کئی باتیں کی جانے لگیں اور یہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی بولا یعنی وَإِن كَانَتْ تَكْبِيرًا لَّوْ أَعْلَمُ الَّذِينَ يَنْهَا هُدًى إِلَهٌ يَرْتَحِلُ فَلَمَّا قَبَلَهُمْ بِهِ مُّحَمَّدٌ

بلا شہر اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کا امتحان تھا تاکہ دیکھے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے! اور کون اپنی ایڈریوں پر واپس پلٹ جاتا ہے۔

ایک اہم اور عظیم واقعہ اپنے نک کعبہ کی شان اور اس کا معاملہ ایک عظیم واقعہ ہے اسی پرے ایک اہم تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کا مدرسے منسونگ کیا اور فرمایا کہ وہ اس سے بہتر یا اسی جیسا مکم نافذ کرے گا۔ اس کے بعد جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا، خدا کی طرف سے اسے زجر و توبیخ کی جاتی۔ اس کے بعد یہود و انصاری کا اختلاف رُکر کر کے بتایا کہ یہ اپس میں کہا کرتے ہیں کہ تم کسی زنجیج اپنے نہیں ہو اور بندوں کو ان کی مساقبت کرنے اور خواہشات کے اتباع سے منع فرمایا، اس کے بعد ان کا کفر و مشرک بیان کیا اور ان کا قول بتایا کہ یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس اتهام سے پاک اور بند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرق مغرب اسی کا ہے اور بندے جدھرا پنارخ کرتے ہیں وہ اس طرف موجود ہوتا ہے اور وہ بہت ہی عطا کرنے والا جانتے والا ہے۔ اسی یہے اس کی عظمت و سعیت اور احاطہ کے

باعت بندے کا رخ جس طرف بھی ہو گا اللہ تعالیٰ کو رپائے گا اپھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے دو ذریعوں کے متعلق باز پرس کریگا۔ بہر اُسکی تصریح داتباع نہیں کرتے۔ پھر بتایا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تب تک راجحی نہ ہونگے جب تک کہ وہ ان کی اطاعت نہ کریں۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا کیا تو اللہ کے مقابلہ میں انکا نہ کوئی کار ساز ہو گا اور نہ مدد و گارا کے بعد اہل کتاب پر کیے گئے انعامات اور خوف قیامت کا تذکرہ فرمایا اور خدا نکعبہ کے معماں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا اور ان کی مدح و تعریف فرمائی اور بتایا کہ ہم نے انھیں تمام لوگوں کا امام بنایا۔ اس کے بعد اپنے گھر بیت الحرام کا تذکرہ فرمایا اور حضرت خلیل علیہ السلام کو بس طرح تمام لوگوں کا امام بنایا تھا، اسی طرح بیت اللہ کو بھی ان سب کا امام (تبید و مرکز) انفراد ریا۔ پھر بتایا کہ جو اس امام سے شرکشی کرے گا وہ تمام لوگوں سے زیادہ نادان اور بے مختہر ہو گا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی اقتداء کریں اور جو کچھ آنحضرت، صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انہیاں علیہم السلام کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس پر ایمان نہیں۔ پھر بن لوگوں نے حضرت ابراہیم اور ان کے اہل بیت کو پسوندی یا انفرادی کیا، ان کے قول کو رد کیا۔ ان تمام مباحثت کو تحریلِ تبید کا مقدمہ بنایا گذرا کیا۔

ان تمام استیاٹوں کے باوجود تحریلِ تبید کا فیضہ لوگوں کو سخت ناگوار گذرا، سوا ان لوگوں کے جنھیں اللہ نے بدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ سیدھے راہ کی طرف بدایت ہے سے چنانچہ انھیں تبید کی طرف بدایت فرمائی اور یہی وہ قبید ہے جو ان کے قابل ہے اور امت مُسْلِمَات کی اہل ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ افضل را علیٰ تبید ہے اور وہ تمام امم سے متوسط اور افضل ہے۔

**فضل قبلہ افضل امت کے یہ [چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل قبلہ کو افضل امت کے یہ من منتخب**

فرمایا جیسے ان کے یہے سب سے زیادہ افضل رسول اور سب سے زیادہ افضل کتاب منتخب فرمائی اور انھیں خیر القرون میں بیسجا اور سب سے افضل شریعت عطا فرمائی اور اسے اعلیٰ اخلاق دیا اور افضل مقام مرحمت فرمایا اور جنت میں اس کے یہے سب

سے اپنے گھر بنائے اور قیامت کے عذان کے لیے سب سے اعلیٰ مؤلف بنایا جو ایک اپنے فیضے پر ہرگما باتی لوگ سنچے ہوں گے پس پاک ہے وہ ذات بوجے چاہتی ہے اپنی حمد سے متعص فرماتی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے جسے چاہتا ہے علا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے۔

---

# جہاد کی فضیلت

## مجاہد کے مراتب، شہید اور غازی

**آئی حضرت کا مہموں اور سنت** [آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ، رشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے عوض اس کے بنائے کو بشرطیکردہ غیر کی خواہش رکھتا ہو نیز کھینچنے والے اور پرلا نے دالے سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہذا تیر اندازی کرو، سواری کرو اور سواری سے تمہارا تیر پرلا نامیرے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آدمی... کا ہم وہ سب بالل ہے۔ سماں کے ساتھ تیر پرلا نا یا اپنے گھوڑے کو رجنگ کاموں کے سے سدننا اور اپنی بیوی سے چاف پیار کا برخدا کرنا ربِ اللہ تعالیٰ نے تیر اندازی سکھانی پھر دہ اسے بے پرداں کے باعث بھول گی تو اس نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا۔ (مسند احمد)

اور اہل سنت وابن ماجد کی روایت ہے کہ جس نے تیر اندازی سکھی پھر اسے چھوڑ دیا اس نے میری نافرمانی کی۔

امام احمد نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، مجھے دیست فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے فرنے کی دیست کرتا ہوں کیونکہ سرہراچھی اچیز کی جوڑ یہی ہے اور تجھ پر جہاد کرنا لازم ہے۔ کیونکہ یہ اسلام کی رہسانیت ہے اور تجھ پر ذکرِ الہی اور قدرتِ قرآن لازم ہے۔ کیونکہ یہ اسمان پر تیری حیات ہوں گے اور زمین پر تیرے یار۔ نیز آٹھ نے فرمایکم جو مر گیا اور اس نے جہاد نہ کیا یا جہاد کی تیاری نہ کی یا مجاہد کے اہل کوئی بھائی نہ کی اسے قیامت سے قبل مفرود کر کے پہنچے گا۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وگ درہم و دینار رخچپ کرنے سے بخل کریں گے اور سو دکا کار و بار کریں گے اور پھر پاؤں کے پچھے چل پڑیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ پر مصائب نازل کرے گا اور اس وقت تک وہ مصائب درد نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آئیں۔

ابن ماجہ نے حدیث تقلی کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کے بدن پر جہاد کا ذرا بھی نشان نہ ہو راس کے ربدن پر انشان رنا فرمائی اہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلتو ما ید یکم الی التہلکۃ یعنی، اپنے تیس ہلاکت میں نہ ڈالو "العفرت ابوالیوب فرماتے ہیں ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب وک جہاد ہے۔ نیز صحیح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت زیر سایہ شمشیر ہے۔ نیز آپ سے مردی ہے فرمایا کہ جو مال دینار اور راسیم درز کے یہے جہا کرے وہ اجر سے محروم ہے۔

آپ دن کے آغاز میں جہاد پسند فرماتے ہیں جس صرح سز کے لیے ابتدائے دن کو موزوں سمجھتے ہتے اور اگر ابتدائے دن میں جنگ شروع نہ کرتے تو غربہ آفتاب، ہراؤں کے پھنسنے اور نذرِ نصرتِ خدا تک مُؤخر فرماتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا:-

جو ادمی بھی فوت ہوا اور اللہ کے ہاں اس کا اچھا مقام اہو۔ تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کے عوض بھی دنیا کی طرف لوٹا پسند نہیں کرتا۔ سوائے شہید کے کہ جب وہ شہادت کی فضیلت دیکھتا ہے تو پاہتا ہے کہ اسے دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وبا قتل کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے اسے دس بار قتل کیا جائے۔

جب غزوہ بدرا کے موقع پر حارثہ بنت نعمان کا رکا شہید ہو گیا تو وہ پرچھنے لگی میرا پچھہ کہاں ہے؟

آپ نے فرمایا کہ وہ فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ شہید اور طاح بزر پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے عرش پر معلق قندیلیں ہیں۔ وہ جنت

میں جہاں چاہتی ہیں بس کرتی رہتی ہیں۔ پھر ان قندیلوں کی طرف بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف جانکرتا ہے اور دریافت فرماتا ہے کہ کیا تمہیں مزید کسی پیغام کی تمنا ہے؟ (مشہد) عرض کرتے ہیں ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں بس کرتے ہیں۔ اب ہم کس بات کی تمنا کریں؟ اللہ تعالیٰ تین بار ان سے دریافت فرماتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جواب دیجئے بغیر چھکا دا نہ ہو گا۔ تو کہتے ہیں اسے پروردگار۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دے حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں۔ چنانچہ جب راللہ ادیکھتا ہے کہ انہیں حاجت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے کئی انعامات ہیں یہ کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہیں جس دیا جاتا ہے اور جنت میں اس کی جگہ دکھادی جاتی ہے۔ اسے ایمان کا باب پہنچانا یا جاتا ہے اور حور العین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اسے عذاب تبر سے پناہ دی جاتی ہے اور وہ بڑے دن رقیامت اُکی گھبراہٹ سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا قوت دنیا و ما نہیا سے زیادہ مشتمل تھیت ہوتا ہے اور تین انھلوں والی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے ستر قاب کے یہے سفارش کر سکتا ہے (احمد ترمذی)

نیز انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرؓ سے فرمایا کہ کیا میں نہ تمہیں نہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا فرمایا؟  
انہوں نے عرض کیا ارشاد:

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی سے جواب کے بغیر کلام نہیں فرمایا اور تیرے والد کے ساتھ تکلیم کھلا گھٹکو کی۔ فرمایا اسے میرے بندے میرے حضور سب اپنی تمنائیں کر میں اسے پورا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، اسے پروردگار مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں تیری راہ میں پھر سے لذت قتل حاصل کروں۔ راللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ یہ تو لمے ہے کہ دوبارہ دنیا کی طرف الوٹایا رہ جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا اسے پروردگار پھر ہمارے پیچے پیغام پہنچا دے۔ تو الہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔

**شہداء کا مرتبہ، درجہ اور حیثیت** اولاً تحسین اللذین قتلوا فی سبیل اللہ  
۲) مواتا بل احیاء عن سبھریز قوف۔  
عنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہونے مددگار نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں وہ اپنے پروردگار  
کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔

اور سنن میں آیا ہے کہ شہید کی ایسے ستر گھر والوں کے بارے میں سفارش قبول ہوتی ہے۔  
سنن میں مردی بے کو افضل شہید اور وہ ہیں کہ جو راثائی اُکی صفت میں اس طرح جائیں کہ انصار اور حضرت  
تو جزو نہ کریں، یہاں تک کہ قتل بوجائیں۔ وہی جنت کے اعلیٰ مقامات کی طرف دوڑ رہے  
ہیں اور تیرا پر درودگار ان کو دریکھ کر امرت سے اہانتا ہے۔ اور جب دنیا میں تیرا رب  
کسی کی طرف دیکھ کر ہنس دے تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں۔  
اور شہداء کے کئی مراتب ہیں۔

(۱) ایک وہ ادمی جو مومن ہے، اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، اللہ کی تصدیق کی یہاں تک کہ  
قتل ہو گی۔ یہ وہ شہید ہے جس کی طرف لوگ گرد نہیں اٹھا کر دیکھیں گے جتنا نچہ رسول  
الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گردان اٹھانی۔ یہاں تک کہ آپ کی توبی مانی ہے سقوط ہو گئی۔

(۲) دوسرا ادمی وہ مومن ہے جس نے دشمن کا مقابلہ کیا گویا اس کی جلد پر کاشاچ بھر رہا ہے۔  
اسے تیرا ان کو ملکا اور وہ قتل ہو گیا یہ دوسرے درجہ میں ہے۔

(۳) وہ مومن جس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ نیک عمل کیے اور برائی بھی کی۔ پھر دشمن کا مقابلہ  
کیا، اللہ کی تصدیق کی، اور قتل ہو گیا تو یہ ادمی تیسرا درجے میں ہے۔

(۴) اور ایک ادمی جس نے اپنے رب پر بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کی۔ پھر دشمن کا مقابلہ کیا  
اللہ کی تصدیق کی، یہاں تک کہ قتل ہو گیا تو یہ چوتھے درجہ میں ہے۔

اور سنند و صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ مقتول یعنی طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ  
مومن جو اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، دشمن کا مقابلہ کرے اور راہِ خدا  
میں شہید ہو جائے تو یہ لمحتی شہید ہے جو راہ اللہ کے عرش کے نیچے اس کے نیمہ میں ہے۔  
انہیاں علیہم الصلوٰۃ اسلام صرف ہے اعتبار نہوت اس سے افضل ہے۔ دوسرا وہ مومن جس نے گناہ

کیا، برا نیاں بھی کہیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، یہاں تک کہ دشمن سے مل کر اس سے جنگ کی اور قتل ہو گیا تو ایک ہی آزادی نے اس کے گناہ اور برا نیاں مٹا دیں اور تواریخ نے اس کے گناہ ختم کر دیئے اور دہ جنت کے بس در داری سے چاہے داخل ہو سکے گا۔ یکون نکل اس کے آنہ در داری سے ہیں اور دوزخ کے سات۔ اور نیسا را وہ منافق بس نے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، دشمن کا مقابلہ کیا اور اللہ کی راہ میں جنگ کی۔ آخر قتل ہو گیا۔ تودہ آگ میں جائے گا (یہ جہاد) اس کے نفاق کو نہ مٹا۔ سکے گا۔ نیز صحیح روایت میں متفق ہے کہ آپ نے فرمایا، کافر اور اس کا مقابلہ دوزخ میں بھی بھی جمع نہ ہوں گے۔

**سب سے بڑا جہاد ظالم حاکم کے سامنے کام حق سن ان ماہ میں ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے ہے**

---

بات کہنا ہے۔ نیز مردی ہے کہ آپ کی امت کا ایک گرد، ہمیشہ حق کی خاطر جہاد کرتا رہے گا۔ اور انہیں پیجاد کھانے اور مخالفت کرنے والا ضرر نہ دے سکے گا۔ یہاں تک کہ تیانت قائم ہو جائے ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھنگ کے متین اپنے اصحابؓ سے فرار نہ ہونے کی بیعت لیا کرتے تھے۔ بسا ارثات آپ نے ہوت پر بھی بیعت لی ہے، جہاد پر بھی بیعت لی ہے۔ بس طرح اسلام پر رقائق رہنے کی بیعت لی ہے اور فتح سے قبل ہجرت پر بیعت لی ہے، تو حیدر پر، اللہ اور اس کے رسول کی احلاعات پر بیعت لی ہے اور فقراء محتاجینؓ سے اس بات پر بیعت لی ہے کوہ کسی سے کچھ نہ مانگیں گے اس کے بعد حال یہ تھا کہ کسی کے ہاتھ سے کوڑا کر جاتا تودہ اسے پکڑنے کے لیے خود اترتا اور کسی سے نہ کہتا کہ ذرا اسے اچھا دے۔ نیز انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد و شہادت اور منازل سفر کے متعلق صحابہؓ سے پکڑت مشورہ فرماتے۔

**آل حضرت اکثر مشورہ فرمایا کرتے تھے**

---

استدرک میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے نہیں دیکھا۔ نیز آپ سفر میں پیچے رہتے کمزد

کو ساتھ ملا کر پہلاتے اور نہ چل سکتے والے کو ساتھ موارکر لیتے اور چننے میں آپ تمام گونے سے زیادہ نرم روی سے کام لیتے اور جب آپ کسی غزدہ کا ارادہ فرماتے تو جنگی چال سے کام لیتے۔ مثلاً آپ نے جب غزدہ ہین کا ارادہ فرمایا تو دریافت فرمایا کہ بند کار است کوں سا ہے اور اس کا پان کیسا؟ اور دہاں کون کون دشمن ہے وغیرہ۔

آپ فرمایا کرتے کہ رواں فراست کا نام ہے۔ نیز آپ جاسوسوں کو بھی ارسال فرماتے دہشم کی خبریں لاتے اور اس کے عساکر کا پتہ چلاتے اور جب آپ دشمن کو دیکھ پاتے تو ٹھہر جاتے دعا کرتے اور اللہ سے مدد چاہتے۔ آپ اور آپ کے محبوبہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے اور اپنی آواز نرم رکھتے اور آپ شکر مرتب کرتے۔ ہر سوت میں صفیں قائم کرتے اور سامنے کی جانب مبارزت فرماتے۔ آپ جنگ کے لیے مخصوص بہاس پہنتے۔ با اوقات آپ نے دوزہ ہیں بھی زیب تک لیں۔ نیز آپ کے پرچم اور جنڈے بھی ہوتے جب آپ کسی قوم سے مقابلہ کرتے تو تین دن تک وہاں ٹھہرتے پھر واپس آتے۔ جب حلکرے کا ارادہ فرماتے تو انتظار فرماتے۔ اگر وہاں اذان کی آواز سننے تو حلقہ ذکر تے۔ درز حلکر دیتے۔ کبھی آپ دشمن پر رات کو حلکر کرتے اور کبھی دن کو اچانک حلکر دیتے اور آپ جمعت کو بخ سویرے نکلنا پسند کرتے اور جب شکر کی جگات ناٹوا آپ ایک دوسرے کو اس طرح ترتیب دیتے کہ اگر ان پر چادر دال دی جاتی تو سب کو کافی ہو جاتی۔ نیز آپ صفیں مرتب کرتے اور جنگ کے وقت اپنے ہاتھ سے انہیں ٹھیک فرماتے اور ہکتے اسے فلاں آگے بڑھو، اسے فلاں پیچے ہٹ جاؤ۔ آپ اس اور کی کوپسند فرماتے جو اپنی قوم کے جنڈے سے تک جنگ کرتے اور جن دشمن سے مغلات کرتے تو فرماتے:

اللهم منزل الكتاب ومحرى السحاب وهازى المحرام هزمهم وانصرنا  
عليهم — یعنی اسے اللہ کتاب نازل کرنے والے اور بادل چلانے والے اور  
عکر کر شکست دئے انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرم۔

نہ یعنی حین کی بجائے نجد کی صدر رات حاصل فرمائیں میکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم نجد جائیں گے کیونکہ  
یہ ملسفہ بیانی سوتی اور ہر نبی معصوم ہوتا۔ (رأیں احمد عفری)

نیزجہ دعا بھی کیا کرتے،

یعنی: اے اللہ تو ہی میرا بازد ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے اور تیری ہی مدد ہی ہے میں جنگ کرنا ہوں۔"

جب جنگ خوب تیز ہو جاتی اور رٹائی شدت انقیار کر جاتی اور دشمن آپ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا تو فرمایا کرتے۔

انا النبی لاکذب

انا ابجه عبد المطلب

میں نبی ہوں ریا مجموعت نہیں۔

میں عبد المطلب کا بُلیا ہوں۔

اور جب رٹائی خوب گرم ہو جاتی تو لوگ آپ کے پاس آن کر پناہ چاہتے آپ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے۔

جنگ کے موقع پر سلانوں کے خفیہ شعار [نیز رٹائی میں آپ صحابہ کا ایک شان مقرر فرمادیتے۔ جب وہ آپس میں ملیں

ڈتاکر دشمن دھوکہ دے کر شریک نہ ہو سکے ایک بار ان کا شعار ہے تھا امت امت ایک بار یا مخصوص شمار مقرر کیا گیا ایک بار حمد لا ینصر وون شumar تھا آپ زرہ اور خود پہن لیتے اور اور تلوار کو قلا دے میں رکھتے۔ نیز سے اور مرل کمان اٹھاتے ہوئے۔ نیز آپ ڈھال سے بھی تحفظ فرماتے اور رٹائی میں آپ اکڑ کر پہنے کر پسند کرتے۔ آپ نے مجذبیت سے کامیا اور اسے اہل ملائف کے لیے استعمال کیا آپ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرماتے تھے۔ رٹائی کے دوران میں آپ بے باخ سمجھتے اسے قتل کرنے اور جو باخ نہ ہونا اسے قتل کرنے سے میا کرتے۔ جب آپ کوئی فوج بھیتے تو اسے اللہ سے درستے کی وہیت فرماتے اور فرماتے اللہ کے نام نے اور اللہ کی راہ میں سفر شروع کر دا اور جو اللہ کا انکار کرے اس سے جنگ کر دا اور مثل اڑا تھا پاؤں کاٹنا) نہ کرو اور نہ دھوکہ دو اور نہ پیچے کو قتل کرو۔ نیز آپ دشمن کے ملاقاً کی طرف قرآن مجید لے کر سفر کرنے

کی مانع فرماتے اور آپ فوج کے امیر کو حکم دیتے کہ شمن سے بچ کرنے سے قبل اسے دعوت دو۔ یا اسلام اور بھرت قبول کرے یا، عبرت کے بغیر مخفی اسلام تبول کرے دیکن مُخْرِمَۃؓ میں مسلمانوں کی طرح غنیمت کا حق دار نہ ہوگا اور یا پھر جزیرہ ادا کرے۔ اگر یہ شرائط قبول ہوں تو جبک درہ اللہ سے مدد چاہو۔ اور جنگ کرداد جب آپ شمن پر ظفر یاب ہوتے تو منادری کرنے کا حکم فرماتے اور تمام عنانم جمع کی جاتیں اور صنی ہری چیزیں بالکل کو دی جاتیں۔ پھر یا غنیمت میں سے پانچواں حصہ رخص نکلتے اور باقی فوج پر تقسیم کر دیتے۔ سورا کوئی میں حصے مرمت فرماتے۔ ایک حصہ آدمی کا اور دو حصے گھروڑے کے اور پیدل کو ایک حصہ فرماتے یہی مسلک آپ سے صحیح طور پر ثابت ہے اور غنیمت میں انحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ برنا تھا۔ اسے صنی کہتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت صیہرؓ صنی میں سے تین یہی رجہ ہے کہ آپ نے بنی زہیر بن قیس کی طرف جریکتوں سوارک ارسال فرمایا اس میں ہے کہ اگر تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اور محمد رضی اللہ علیہ وسلم (اللہ کے رسول) ہیں۔ اور نہ اذنام کر دو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور مالی غنیمت میں سے خس ادا کرو اور صنی ادا کرو، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی امان ہے اور آپ کی ذوالفتخار نام کی تکوار بھی صنی میں سے تھی اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر جو غزوہ سے غالب ہوتا تو اس کا آپ حصہ مقرر فرماتے جیسے آپ نے حضرت عثمانؓ کا ہر میں حصہ مقرر کیا۔ جب وہ غزوہ ہو رہیں آپ کی صاحبزادی کی تیمار داری کے باعث حاضر نہ ہو سکے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمانؓ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں گیا ہے۔ پھر ان کا حصہ نکالا گیا۔

نیز مصحابہؓ جنگ کے موقع پر خرید و فرد خفت کرتے تھے۔ آپ انہیں دیکھتے اور منہ نہ فرماتے ایک آدمی نے عرض کیا کہ مجھے آج اس تدریفع حاصل ہوا ہے کہ اس سے قبل کبھی نہ ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس نے عرض کیا میں خرید و فرد خفت کرنا تارہ بایہاں تک کہ تین سو اوقیہ حاصل کریے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں زیادہ لفظ کی بات بتاؤں! اس نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ناز کے بعد وہ کہتیں (نوافل) نیز رحمابؓ اغزادات میں دو طریق پر خدمات مستعار لیتے تھے۔ ایک یہ کہ آدمی جہاد کے

یہے جانے اور اتنا نے سفر میں خدمت کے بیسے آدمی فوکر رکھ لیے۔ درمرے یہ کہ جو جہار میں جا رہا ہے وہ درمرے کا مال اجرت پرے لے اسے جماں کہا کرتے تھے۔ اس کے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرمایا۔ غازی کے بیسے اس کا اپنا اجر ہے اور جا عمل کے بیسے جعل اپنی مال دینے کا، اجر اور غازی کے روپ نوں ااجر ہیں۔

اور مال نیمیت میں رو طرح شرکت کیا کرتے تھے۔ ایک شرکت بدلتی درمرے یہ کہ ایک آدمی اپنا اونٹ یا گھروڑا درمرے کو اس شرط پر دیتا ہے کہ اس پر ٹھکر جہاد کرے اور جو مالی نیمیت میں اس کا نصف اسے ادا کرے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک تیر کے در جمع کیے گئے۔ چنانچہ ایک کو تیر مل گیا اور درمرے کو اس کا پھلا اور پر ملا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عمر اور سعدؓ نے بد رکے دن مشارکت کی۔ حضرت سعدؓ در قبیدی میں اے میں اور عمارؓ خالی ہاتھ آئے۔ کبھی ناپ پ سوار فوج اور کبھی فوج ارسال فرماتے۔ لیکن نفع ہو جانے کے بعد جو اتنا اس کا حصہ مقرر ہے فرماتے۔

### و شکن کامال بھی ناجائز طور پر ہیں کھایا جا سکت

غزوات میں آپ کے ہمراہ مسلمان شہید، انکوڑ اور کھانا حاصل کرتے تو کھایتے اور اسے منام میں نہ ہے جاتے۔ حضرت ابن عثمنؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شکر نے کھانا نیز شہید مال نیمیت میں حاصل کیا۔ آپ نے اس میں سے خس ر پانچواں حصہ اوصول نہ فرمایا اور حضرت عبد اللہ بن مغفل کو خبر کے دن پر بی کا ایک مشکیزہ ملا۔ وہ کہنے لگے آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہ دوں گا۔ رابودا و د ر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور مسکرا دھیٹے اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت ابن ابی اوفیؓ سے دریافت کیا گیا۔ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں از قبیل طعام اشیاء کا خس دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: نفع نیبہ کے دن، ہمیں کھانا ہاتھ لگا۔ جو بھی اتنا حستِ ضرورت ہے کہ چلا جاتا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ ہم غزوات میں انزوٹ کھایا کرتے اور قسم ذکرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے سامان سفر کے پاس آتے اور اسے بھرا، ہوا پاتے۔

**وشمن کی لاش کا بھی حلیمہ نہیں بگاڑا جاسکتا** | آپ غزوات میں بوٹ مار کرنے اور مثلاً راتاک وغیرہ مقتول کی کامٹا کرنے

سے منع فرماتے۔ آپ نے فرمایا بس نے ایک بار بوٹ کی دہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ بوٹ کے مال سے چند دیگر چیزوں بھر لئے پر کھی گئیں۔ آپ نے انہیں الحدیث دینے کا حکم فرمایا۔ پھر انچہ ابو داؤد نے ایک الفصاری کی روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ لوگوں کو سخت حاجت لاحق ہوئی اور بڑی مشقت انھائی پڑی پھر انہیں مالِ غنیمت طالوت تقیم کرنے کی بجائے اسے بوٹ لیا۔ اس بوٹ کے مال سے اہم اور دیگر چیزوں اب رہی تھیں کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان کے سوار سے پلتے ہوئے تشریف لائے اور اسی سے دیگر چیزوں کی راستے دیے۔ پھر فرمایا۔

بوٹ کا مال مردار سے حلال نہیں ہوتا اور مردار بوٹ سے حلال نہیں ہوتا۔

نیز آپ نے مالِ غنیمت کے جانور پر سواری کرنے کی مانعوت فرمائی کہ جب کمزور ہو جائے تو لوٹا دے اور اس کی طرح مالِ غنیمت میں سے بیاس نہیں پہننا کہ جب پرانا ہو جائے تو لوٹا دے راں کی بھی مانعوت فرمائی (البتہ حالتِ جنگ میں اس سے استفادہ کرنے کی مانعوت نہیں کی)۔

**خیانت کسی حالت میں جائز نہیں** | اور آپ غلول (خیانت کس کے مال چھاپ لینا) کی سخت ترین مخالفت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے یہ تیامت کے دن اس کے مرتکب پر عار ہوگی، اگل ہوگی اور رسول ہوگی۔ جب آپ کے غلام مدغم کو تیر لگا تو صحابہ کہنے لگے، اسے جنت مبارک ہوگی۔

آپ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے غزدہ غیر کے دن مالِ غنیمت تقیم کرنے سے پہلے جو چادر اس نے لے لی تھی وہ اس پر اگ کی صورت میں جلانی جا رہی ہے یہ کس کرا ایک آدمی ایک یادو تھے سے آیا، تو آپ نے فرمایا ایک یادو تھے اگ کے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ غلول اور

اُس کی شدت در برائی کا ذکر کیا اور فرمایا میں تیامست کے دن تم میں سے کسی کو اس طرح نہ ملوں کہ اس کی گردن پر بھری سوار ہو اور پیغام رہی ہو یا گھر ڈالا اس کی گردن پر سوار ہنہار ہا ہو۔ اور وہ کہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے اور میں کہوں گا کہ تیرے یہے میرے بس میں کچھ نہیں۔ میں نے تمہیں راسلام کا حکم اپنے چادر یا نخایا کسی کی گردن پر نامرش رہونا چاندی) سوار ہو اور وہ کہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے میں کہوں گا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لئے کسی چیز کا مالک نہیں۔ میں نے تجھے راسلام کا حکم اپنے چادر یا نخایا کوئی ایسا ہو کہ جس کی گردن پر گھری رکھی ہو، بس سے اس کا سانس بند ہو رہا ہو اور وہ کہے۔ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے تو میں کہوں گا تیرے متعلق مجھے کچھ اختیار نہیں۔ میں نے تجھے راسلام کے احکام اپنے چادر یا نخایا کے تھے۔ نیز سامان کے ایک یہریدار کے مرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہے اگ میں ہے۔

چنانچہ (صحابہؓ) اگئے اور اس کی غلشی لی تو دیکھا کہ اس نے ایک عبار کی خیانت کی تھی۔ ایک غرہ سے میں صحابہؓ نے کہا کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے بیہان تک کہ اُدمی کے پاس سے گزرے اور کہنے لگئے کہ فلاں بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے اسے دوزخ میں ایک چادر یا عبار کی وجہ سے دیکھا جو اس نے خیانت سے چھپا لی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابی خطاب جاؤ اور جا کر لوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہ ہو گا۔

خبر کے دن ایک اُدمی فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اُنہیں میں ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کا جنازہ (خود) ہمی پڑھ لونا دارے غم اکے لوگوں کے پھر سے متینر ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ رکے مال میں اکچھے خیانت کی ہے۔ چنانچہ سامان کی غلشی لی تو یہودیوں کا ایک منکر دستیاب ہوا جس کی قیمت دو درہم بھی نہ تھی۔

جب آپ کو مالِ نیشنیت حاصل ہوتا تو حضرت بلاںؓ کو حکم فرماتے سب لوگ مالِ نیشنیت لے کر حاضر ہو جاتے آپ اس کا خس نکال لیتے اور رباتی تقسیم فرمادیتے۔ ایک اُدمی

رسول سے حکم کرنے اکے بعد بالوں کی ایک لگام میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
کہ تو نے بلال کی ندارتی میں اسے اس نے عرض کیا ہاں!

اپنے نے فرمایا کہ پہلے لانے میں کیا رکاوٹ میں آئی تھی؟ اس نے عذر کیا۔ اپنے  
نرمایا تو اسے قیامت کے درزلائے گاماب میں تجوہ سے ہرگز قبروں نہ کروں گا۔

جنگ آج سے ۱۲ برس پہلے بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے، دشمن کے سپاہی آج سے ۱۲ سورس  
پہلے بھی رہتے تھے، آج بھی رہتے ہیں، آج سے ۱۲ سورس پہلے کا زمانہ جہالت کا زمانہ تھا، بربریت  
ستاکی، دھشت اور جفا کاری کا زمانہ تھا آج کا زمانہ، انسانیت، اہمیت، شاستگی اور مدینت کا  
زماد ہے، میکن کی آج کے زمانے میں بھی دشمن کے ساتھ دہی سلوک ہوتا ہے، دہی رعایتیں کی جاتی  
ہیں۔ دہی ہوئیں عطا ہوتی، میں جو آج سے جدوجہد سورس پہلے رب کے امی نے عطا فرمائیں؟  
حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبہ میں ایک عظیم الشان انقلاب سے دنیا کو  
ردشاں کیا اور یہ اس انقلاب تھا، جو آج بھی باشکن زمانہ اور نیا معلوم ہوتا ہے۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی یاد، اس کے اثرات و نتائج آج بھی بہت سے دماغون میں زمانہ  
ہوں گے۔ ان دونوں جنگوں میں فاتح نے مفتوح کے ساتھ جو سلوک کیا اور جس طرح اسے تراپ  
تو پا کر ہلاک کیا اور جس طرح مفتود شہروں کو پا مال کیا، اس کی مثال کیا ہے بھر مogra کے عہد گرامی  
میں بھی ملتی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی جنگ بھی ایک رحمت ہے، اگرچہ لوگ اپنی نادانی اور جہالت  
کے باعث اس کا اعتراف نہ کریں!

(دیں، احمد بن عفری)

# جہاد اور اس کی فضیلت

**جہاد کی قسمیں، مجاہد کے درجات، اللہ کی نعمت**

**احکام جہاد کے تدریجی مرحلے**

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیری پر  
گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور اپنے مومنین بزرگ  
کی فخرت دنوں میں عدادت اور باہمی جنگ کے بعد ان کے تدریجی محبت ڈال رہی پہنچا پندھہ اللہ تعالیٰ  
کے انعام اور مونین نے آپ کو ہر سیاہ و سفید (رشنمی) سے بچانے کی کوشش کی اور آپ  
کی خاطر ہر قسم کا جہاد کیا اور اپنے والدین، اولاد اور ہر یوں پر آپ کو تزییح دی اور آپ ان کے  
زندیک اپنی زندگی سے کہیں زیادہ قابلِ محبت تھے (پہنچہ عرب اور پہودے مل کر ان کا مقام  
کیا جنگ اور عدادت پر اتر آئے۔ اور ہر جانب سے ان پر حملہ کر دیا اور درہری طرف اللہ  
تعالیٰ انھیں بمرا اور معاف کرنے اور درگز کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ آخر ان کو بھی شوکت  
وقت حاصل ہوئی اور ان کے بازوں میں بھی قوانین اگئی تو انھیں جہاد کی اجازت دی گئی  
یہ فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرٍ قد يرسي بینی جن سے  
مقام کیا جاتا ہے، انھیں اجازت ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔  
**آیہ جہاد کے بارے میں اسکار** ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔  
اویہ اذان مکہ میں داخل ہے۔ یہ نظر پر کمی بلاعی  
سے غلط ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نے مکہ میں قتال کی اجازت نہیں دی تھی اور نہ مسلمانوں  
کو کوئی خاص شوکت حاصل تھی کہ جس کی بنابردارہ مکہ میں قتال کر سکتے۔ درہرے آیت کا

سیاق اس پر دلالت کرنا ہے کہ اذان بھرت اور گروں سے غارج کرنے کے بعد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الَّذِينَ أخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا أَنَّا مُهَاجِرُونَ یعنی بعضیں اپنے گروں سے ناسخ نکالا گیا مگر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور یہ ہماری بھروسی کی جماعت تھی۔ تمیسرے کہ مستدرک حاکم میں حضرت علیؓ نے انہوں نے مسلم بطین سے انہوں نے حضرت سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن حماسؓ سے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو ابو بکرؓ نے فرمایا، مشرکین نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا اللہ وانا الیہ راجعون یہ یقیناً ہلاک اور جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اذن للذین یقاتلون باٰنہم ظلموا ہم نتائج کے متعلق سہل آیت ہے۔

**بِهَاوَفْرَضْ قَرَارْ دِيَأْكِيَا** | اس کے بعد ان کے مقابلہ میں بر مقابلہ کریں، جہاد کرنا فرض قرار دیا گیا، اور فرمایا، وَ قاتلُوهُ فِي سَبِيلِ اللہِ الَّذِينَ یقاتلون، یعنی اللہ کے راستہ میں ان سے جنگ کر جو تم سے بر سر پیکار ہیں۔ اس کے بعد نام مشرکین کے خلاف بہاؤ فرض ہو گیا، اب یہ یا تو فرض میں ہے جسے درازی میں سے ایک سروکاہ ہے، یا مشہور قول کے مطابق فرض کفایہ ہے۔ ہر حال ازدواج تحقیق جہاد کرنا فرض میں ہے، دل سے یا زبان سے یا ہاتھ سے، اس طرح ہر سماں پر دعا ہے کہ دو الوارعی جہاد میں سے کسی ذکری نوع کا بہاؤ کرے۔

رہا جہاد نفس رہا جان کے ساتھ جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے اور جہاد بالمال کے متعلق رو قول مردی ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ راجب ہے کیونکہ قرآن مجید میں جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کو ایک ہی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَنْفُرُوا خِفَافاً وَ ثِقَالاً وَ جَاهِدُوا بِاٰمُولِ الْحَمْرِ وَ اَنْفُسَكُمْ فِي سَبِيلِ اللہِ  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِكُفَّارٍ قَاتَلُوكُمْ تَعْلَمُونَ۔

اس آیت میں اُگ سے بجات اور گٹا ہوں کی غشش اور دخوب بنت کر اس (جهاد) سے مشرکوں کو دیا، پس اپنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ أَدْتَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ لَا تَبْخِيْكُمْ مِنْ عِذَابِ أَبِيهِمْ هُوَ مَنْ نَوْعَنَوْنَ  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَموَالِهِمْ وَلَا نَفْسَكُمْ ذَالِكُمْ  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُهُمْ وَلَا يَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ  
تَجَاهِرُ مِنْ تَحْتَهَا الَّذِنَهَارُ وَمَا كَنْ طَبِيعَتِهِ فِي جَنَّاتِ عَدَنَ ۝ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝  
یعنی اے ریان والو، کیا میں تھیں ایسی تجارت کی خبر دوں (جو تمہیں دردناک عذاب  
سے نجات دے) تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو اور اللہ کے راستہ  
میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہو۔ یہ تمہارے سیلے برتر ہے۔ اگر تم  
جانستے ہو۔ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بانات میں داخل کر دے گا جن  
کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ مکانات عدن کے باغات میں، یہ بہت  
بڑی کامیابی ہے۔“

پھر جب کہ مدعاں محبت کی کثرت ہو گئی تو ان سے مطالبہ ہوا کہ دعوے کے ثبوت میں  
دلیل پیش کریں (اور وہ ثبوت یہ تھا)

قُلْ أَنْ كَنْتُمْ تَعْبُوتُونَ اللَّهُ فَإِتَّبِعُو فَيَحْبِبُكُمْ اللَّهُ يَعْنِي کہہ دو، اگر تم اللہ  
سے محبت کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔“  
اس پر تمام مخلوق پیچھے ہٹ گئی اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دافع اور  
اپ کی سنت طیبہ و اخلاق حسن میں (رسب اللہ) محمد و بدھ گئی۔ اس طرح ان سے ایک  
 واضح ندالت طلب کی گئی، اور فرمایا گیا کہ تزکیہ کے بغیر ندالت قبول نہیں کرتے (اور تزکیہ  
بھی ایسا کہ جس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں اور کسی علمامت سے نہ  
ڈریں۔ اس مقام پر محبت کے کئی دعوے دار پیچھے ہٹ گئے اور مجاہدین کھڑے رہے  
پھر کہا گیا کہ محبت کرنے والوں کی جان اور مال ان کا اپنا نہیں۔ اس یہ سے جس پر عہد نامہ  
ہوا وہ حوالے کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کا جان و مال خرید لیا کہ انھیں  
جنت ملے گی۔ اور ضروری ہے کہ یہ عہد جانشین کی طرف سے تسلیم کیا جائے اور جب  
تجارت خرید کی، ہوئی یہیز کی علیقت اور قیمت کا اندازہ کر لیا جائے جس کے مبارک ہاتھوں پر

عبد ہو رہا ہے۔ اس کے جلال اور بس کتاب میں عبد ہو رہا تھا اس کتاب کا مرتبہ و مقام محسوس کر لیا، تو انھیں یقین ہو گیا کہ اس ملیعہ کی وہ شان و عظمت ہے جو کسی دوسرے ملیعہ کی نہیں ہو سکتی۔ اس یہے انھیں معلوم ہو گیا کہ اگر اس سے یہندہ کھوئے درہم دنیا کی خاطر پیچ دیا گیا۔ تو یہ محنت فقصان اور دامن بد دیاتی ہوگی پس اپنے انھوں نے یعنی کسی قیل رتال کے زیری رضا مندی اور رغبتی و ارادہ کے ساتھ مشترکی کے ساتھ بیج کر لی۔ اب جب بڑے ملن ہو چکی اور ملیعہ (چیز) حوالے کر دی گئی، تو انھیں بتا دیا گیا کہ اب تمہارے مال اور تمہاری جان ہماری ملکیت بن چکی ہے۔ اور ہم انھیں تمہارے پاس جو کچھ تمہارا ہے بہتر اور تمہارے اموال کے ساتھ مزید اموال تمہیں دیں گے۔ اور یہ صلت سمجھو کر جو اللہ کے راستہ میں قتل ہوئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے انھیں رزق دیا جاتا ہے، اور ہم سے تمہارے مال اور تمہاری جانیں نہیں مانگتے کہ تم پر نفع چاہیں بلکہ اس یہے کہ چیز کی قبولیت کے بعد اس کے جو دوستخوا کا انثر ظاہر ہو۔ اور مزید عطا کرنا بڑی قیمت ہے۔ پھر ہم نے قیمت اور خریدی ہوئی چیز بھی تمہیں عطا کی۔

**حضرت جابرؓ کے واقعہ کی طرف اشارہ** [دیکھئے حضرت جابرؓ کے واقعہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اونٹ خریدا پھر اس کی قیمت ادا کی اور زیادہ (قیمت) عطا فرمائی (مزید برال) ادنک بھی واپس کر دیا۔ اور ان کے والد غزوہ احمد میں شیید ہو گئے تھے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ نے ان کے والد کے متعلق اللہ تعالیٰ کافی ضائز (سلوک) بتایا، اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے گفتگو فرمائی۔]

اور مزید برال اس عبد پر مدح و تعریف بھی فرمائی رآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اگر میری امت پر سختی زدنظر آتی تو میں ہر شکر کے پیچے بیٹھتا اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستہ میں قتل کیا جائے۔ پھر زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر مجھے زندہ سیا جائے اور فرمایا، اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اسی روزے فارکی روح ہے جو اللہ کے احکام پر عامل و قائم ہو اور روزے اور نماز سے بالکل نسبت

نہ ہو۔ یہاں تک کہ مجابر اللہ کے راستے سے واپس آجائے اور مجابر فی سبیل اللہ کے ساتھ اٹھ کا درند بے کہ دہ اس سے دنا کرے گا اور اس سے جنت میں داخل کرے گا یا اسے اجر اور مال غنیمت سیست واپس کرے گا۔

نیز اُپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جانا یا آنا لینا اور دینا کی ننام پیزیز دل سے پہتر ہے۔ نیز اپنے رب تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے اُپ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ بھی میرے راستے میں میری رضاکی خاطر نکلے گا، میں اسے ضمانت دوں گا کہ اسے جواہر یا غنیمت ملے گی اس کے ساتھ واپس کر دیں گا اگر میں نے اسر کو سے لیا تو۔ میں عشش دروں گا اس پر حکم کر دیں گا اور سے جنت میں داخل کر دیں گا۔

اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر دیکھو نکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جنت کے دروازہ میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ غم و اندوہ ہے نجات دیتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جنت میں تواریخ جات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے بیانے تیار کر رکھا ہے۔ ہر در در بھوں کے درمیان اسمان وزمیں کے برابر فاصلہ ہے اس پر یہ بیب اللہ سے درخواست کر دی، تو فرودس کی درخواست کر دیکھو نکہ یہ اوسط اور اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر حلقہ کا مرٹی ہے اور یہیں سے جنت کی انہار شروع ہوتی ہیں۔ نیز فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے جنت کے درمیان بلا ہمیں گئے جو بردار دروازے پر بھوں گئے تو جواب نماز سے ہو گا اسے باب الصلوٰۃ سے بلا یا جائے گا۔ اور جواب جہاد میں سے ہو گا اسے باب جہاد سے جایا جائے گا۔ اور جواب صدقہ میں سے ہو گا اسے باب الصدقہ میں سے بلا یا جائے گا، اور جواب صیام روزہ داروں امیں سے ہو گا اسے باب الریان سے بلا یا جائے گا۔

**حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتقبہ یعنید** حضرت ابو بکرؓ نے مرفق کیا، اسے اللہ کے رسول ہی ہے مان باپ آپ پر قربان کیا کوئی ایسا بھی ہو گا جسے ہر دروازے سے بلا یا جائے گا اسکے نے فرمایا، ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو گے۔

**بُجَاهَدْ كَرْنَے والے کے درجات** سنن ابن ماجہ میں مردی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نفقہ بھیجے اور اپنے گھر میں تھبہار ہے اسے ہر درہم کے عوامی سات سو درہم عطا کرے گا، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے جہاد کسے اور نفقہ بھی اپنے پاس سے کرے تو اسے ایک درہم پر سات لاکھ درہم عطا ہوں گے۔ پھر اپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ﴿يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دو گناہ عطا کرتا ہے۔

نیز اپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں بجا ہو کی مقرضی کی ادائی قرض میں یا مکاتب (خلاص) کی آزادی حاصل کرنے میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے (مرش) کے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے (مرش) کے بغیر کوئی سایہ نہ ہو گا اور فرمایا جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آکو د ہوئے، اللہ نے انہیں آگ پر حرام کر دیا اور فرمایا کہ محل اور ایمان ایک آدمی کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، اور اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے یہرے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ ”ایک دل میں“ کے الفاظ متقویں میں۔ ایک جگہ ”ایک آدمی کے پیٹ میں“ مذکور ہے۔ ایک جگہ ”ایک مسلمان کے تنہوں میں تحریر ہے۔

امام حسید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں دن کی ایک ساعت غبار آکو د ہو گئے تو وہ آگ پر حرام ہیں۔ نیزان سے متقوی ہے کہ اپنے نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے بیٹ میں اللہ کی راہ کی غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں جس کے قدم غبار آکو د ہوئے اللہ نے اس کے تمام جسم پر آگ حرام کر دی اور جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس سے تیز پیٹنے والے سوار کے ایک ہزار سال کے سفر کے برابر آگ دردی کر دی۔ اور جسے اللہ کی راہ میں ایک زخم پہنچا، اس پر شہداء کی ہر لگ گئی۔ قیامت کے دن اس کا نور ہو گا، جس کا لگ رعزاں کا سا اور جس کی خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ تمام پہنچے اور بعد میں آنے والے اسے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ نلاں پر شہداء کی ہر بے اور جو اللہ کی راہ میں اذ منی کے

حضر پر جہاد کے گما۔ اس کے یہے جنت و احباب ہو گئی۔ نیز آپ نے فرمایا ایک دن رات (واللہ کی راہ میں پھرہ دینا، ایک ماہ کے درجے سے اور قیام سے بہتر ہے اور اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا عمل جاری رہے گا۔ اور اس کا رزق برابر آثار ہے گا ہمارے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔

اور فرمایا، کہ کوئی ادمی بھی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ سو اس کے جو اللہ کی راہ میں پھرہ دیتے فوت ہو جائے اس کا عمل قیامت تک بُرستا ہی رہتا ہے، اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا پھرہ دینا گھر میں ایک ہزار دن (کی عبادت) سے انفل ہے۔

امام احمدؓ نے آپ کی روایت نقل کی کہ جو مسلمانوں کے ساحل کا تین دن پھرہ دے اسے ایک سال کے در باط اک اثواب ہو گا۔ نیز آپ سے مردی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات پھرہ دینا اس سے انفل ہے کہ ایک ہزار رات کا قیام کرے اور اس کے رہزار ایام کا درجہ رکھا جائے۔ نیز آپ نے فرمایا، اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی۔ جو اللہ کے ذر سے آنسو بہائے یار دے اور اس آنکھ پر آگ حرام کر دی گئی، جو اللہ کی راہ میں بیدار ہو۔

نیز آپ نے فرمایا ہے جہاد میں ایک تیر کا جھٹہ ملا، اسے جنت میں ایک درجہ حاصل ہوا۔ اور فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر چلا یادہ آزادِ راگ سے ابے۔ اور جو اللہ کی راہ میں بڑھا ہوا، قیامت کے دن اس کے یہے ایک نور ہو گا، ترمذی کے نزدیک ایک درجہ سو سال کے برابر ہے، انسانی کے نزدیک پانچ صد سال د کے سفر کا ایک درجہ ہوتا ہے۔

# میدانِ جنگ کی بائیں

اسیرانِ جنگ، فدیہ، جنگی غلام، جاسوسی، مال غنیمت

مکہ زبر و شمشیر فتح ہوا یا از روئے صلح اجنبی قبیلیوں میں سے بعض کو از راہ احسان آپ  
بعض پر چاکری عائد کر دی اور بعض کو قتل کیا۔ حسب تقاضائے مصلحت آپ نے یہ جلد  
صورتیں اختیار فرمائی ہیں۔

بدر کے قبیلیوں کو آپ نے فدیہ دے کر رہا کر دیا اور فرمایا، اگر مسلم من عدی زندہ ہوتا  
اور تجھ سے سفارش کرتا تو میں انہیں ابھی چھوڑ دیتا۔

صلح حدیثیہ میں صلح اور میوں نے حملہ کرنا چاہا انہیں پکڑ دیا گیا۔ آپ نے ان پر اسکا  
فرمایا اور رچھروڑ دیا اُن حیفہ کے سردار شامہ بن اٹال کو گرفتار کیا گیا۔ تو آپ نے اسے  
مسجد کے ایک سلوٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آزاد کر دیا اور وہ اسلام سے آیا۔ بدر کے  
قبیلیوں کے متعلق آپ نے سماں پر سشورہ فرمایا۔ حضرت صدیقؓ نے فدیہ کر کے چھوڑ  
دینے کا مشورہ دیا تاکہ مسلمانوں اکو دشمن کے مقابلہ میں قوت حاصل ہو جائے تو شاید  
اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی پہايت دے دے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی۔ اللہ کی قسم میرا  
خیال وہ نہیں جواب بچکا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے انہیں پکڑ دیا ہے تو میں  
آن کی گرد نہیں مار دیں چاہیں کیونکہ یہ لوگ کفر کے امام اور پیشووا ہیں۔ جناب رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کو تسلیم فرمایا اور حضرت عمرؓ کی رائے کو ترجیح  
نہ دی۔ جب صحیح ہوئی حضرت عمرؓ حاضر ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

ابو بکر و فرزند رہبے سے تھے۔ انہوں نے مرض کیا اسے اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھی را ابو بکرؓ کس وجہ سے رود رہے ہیں؟ اگر مجھے رہنا آگیا، تو میں رددل گا اور اگر رہنا آیا تو آپ کے گریہ کے باعث تکلف ... سے رددل گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گریہ فدیہ کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

ما کان لیتیۡ ان یکو ن لہ اسری حتی شیخن فی الارض یعنی کسی نبی کو جائز نہیں کہ اس کے قیدی ہوں وہاں تک کہ دہ زمین پر اچھی طرح غالب آجائے۔  
ابو بکرؓ و عمرؓ کی تشییہہ ابراہیم و فرح سے | ایک گردہ نے اس حدیث کے باعث

حضرت عمرؓ کے قول کو ترجیح دی۔ درمرے گردہ نے حضرت ابو بکرؓ کے قول کو اس وجہ سے ترجیح دی کہ حکم اسی طرح قائم رہا۔ کتاب نے اسے حوال کر دیا۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آگئی۔ نیز صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکرؓ کو ابراہیم اور علیسیٰ مطیعہ السلام سے شبیہہ دی اور عمرؓ کو حضرت فرح اور موسیٰ علیہما السلام سے مشاہد بتایا اور ان قیدیوں کے اسلام لانے کے باعث خیر عظیم حاصل ہوا اور ان کے اصول سے مسلم اولاد ہونے اور فدیہ یعنی کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہوتی۔ باقی رہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ، تو وہ رحمت کے سبب تھا۔ جب آپ نے دنیا چاہئے والوں پر عذاب کا نزول ہوتے دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ نے دنیا کی خواہش کی ہی نہیں تھی ران کا مطلب تو محض مسلمانوں کی خیر خواہی تھا۔

انصارؓ نے اجازت چاہی کہ عمر رسول عباس سے فدیہ کی رقم ذلی جائے۔

آپ نے فرمایا، ایک درہم بھی نہ چھوڑ۔

یہ ایسی تمام روایات کو ملینظر سمجھتا ہوں، جس سے کسی درمرے شخص کی رائے، ان حضرت کے مقابلہ میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ چیز شانِ محمدی کے بھی خلاف ہے، اور تم تبر رسالت کے بھی۔

تم اسلام کی سعادات کے سامنے ہم رسولؓ اور ایک عام شخص میں کوئی فرق نہیں۔ درمیں احمد بن عزیز (ع)

مسلم بن اکوئ نے ایک لوئنڈی کی درخواست پر جو حضرت ابو بکرؓ نے کسی غزوہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کی تھی۔ آپ نے عطا فرمادی۔ مسلم نے اسے مکہ پہنچا۔ اور کچھ مسلمانوں کو اس کے عوض میں رہا کر دایا۔ اور عقبہ بن ابی میعیط اور نفر بن حرث کو قتل کر دیا گیا کیونکہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول سے محنت ترین عداوت رکھتے تھے۔

امام حسینؑ نے سفرات ابن عباسؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ کچھ قید کی ایسے تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر فرمایا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کے علاوہ کسی کام کو بھی فدیہ فرار دیا جا سکتا ہے۔

آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ گرنتار ہونے سے قبل جو اسلام سے آنمازہ ہرگز غلام نہ بنا یا جاتا اور جس طرح اہل کتاب کے گرنتار شدگان غلام نہ اتنے جاتے اس طرح عرب قبیلوں کو بھی غلام بنا لیا جاتا۔ حضرت عائشہؓ کے پاس ہندی تھی۔ آپ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، کیونکہ یہ بنی اسماعیل سے ہے۔ اور جب آپ نے بنی مصلحت کے غلاموں کو تقسیم فرمایا تو حضرت جویریہؓ بنت حرث ثابت بن قیس بن شماش کی پیاری میں آگئیں جن سے انہوں نے مکاتبت کری۔ چنانچہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی رقم ادا فرمائی اور نکاح فرمایا۔ آپ کے نکاح کے بعد اس رشتہ کی وجہ سے بنی مصلحت کے ایک سر غلام آزاد کر دیئے گئے۔ اور یہ خالص عرب تھیں۔

لئے مرد عداوت ہمانہیں رکھتے تھے۔ مندہ پر داڑ، فنڈا گیز اور حدد رو جو شریر بھی تھے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیتے تھے۔ (دریں احمد جعفری)

لئے اس سے آنمازہ ہوتا ہے کہ ملمکی آپ کی بیکاری کی درباریت اور وقعت تھی۔

لئے اس سے بڑی دلیل ان نقبا کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتی، جو مسلمان کو غلام تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نلایی کو ساقط کر دیتا ہے۔

لئے انفتر کے زمانہ میں کوئی جنگی قیدی غلام نہیں بنا یا گیا سواد تھی طور پر کسی مصلحت کے ماتحت اور پھر کوئی اڑے کو پورے کے پورے آزاد کر دیتے گئے۔

**ماں اور بچپن میں جدا اٹی نہ کرائی جائے ॥** [رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھی ماں سے اس کے بچے کو علیحدہ

کرنے کی ممانعت فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے۔

جو ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدا اٹی ڈالے گا، قیامت کے روز اللہ اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان جدا اٹی ڈال دے گا۔ آپ کے پاس غلام آتے تو آپ بھروسی طور پر بخشنے تاکہ ان میں جدا اٹی نہ پڑے۔

**مسلمانوں کے خلاف جاسوسی** [آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے مشرکین میں سے ایک جاسوس کو قتل کیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حاصلب کو قتل نہیں کیا، سالا بھک انہوں نے جاسوسی کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے ان کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیا علم اللہ تعالیٰ نے اہل بدرا کو دیکھ کر فرمادیا تھا، اب تم ہو چاہو کرو۔ میں نے تمہیں بخش دی۔ اس سے امام شافعیؓ، الحسنؓ اور ابوحنیفہ رحمہم اللہ نے استدلال کیا ہے کہ مسلمان جاسوس کو قتل نہ کیا جائے۔ اور امام حاکمؓ اور اصحابِ احمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا فتویٰ دیتے ہیں اور یہی رائے زیادہ قویٰ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

**مرشکین کے غلام مسلمان علاقہ میں آزاد** [آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ میں آجاتے تو انہیں آزاد سمجھتے اور فرماتے، یہ اللہ مژو جل کے آزاد کردہ ہیں۔ نیز آپ کی سنت طیبہ یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان ہو جانا تو اس کے پاس جو بچہ ہوتا، اسی کے پاس رہنے دیتے۔ نیز زبانہ کفر اور بخندگی میں کافر مسلمانوں کو خواہ کتنا ہی جانی و مالی نقصان پہنچا چکے ہوں راملا اتنے کے بعد ان پر ہر مانع عائدہ کرتے۔

لے مددِ حرم کی اسلام نے زیادہ سے زیادہ ناکید کی ہے اور یہ پیرشمندوں اور میدان بیگنگ کے مریغوں کیسا تھا ہے، تھے ہر ہر حال بحر ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام اسی طرح کی کوئی تفریق پسند نہیں کرنا۔

تھے تبلیغ اسلام کا سب سے بڑا درکار کامیاب ذریعہ یہی طرزِ عمل ہے۔ (رمیس الحسن عصری)

حضرت مسیح<sup>ؑ</sup> نے مرتدین کے گھر دل سے حدا فرز کی جان راں کا خون بہادینا پا ہا تو حضرت عمر<sup>ؓ</sup> نے فرمایا، یہ اللہ کی راہ میں تیل ہر سے ان کا اجر اللہ پہے اور شہید کا فرز بہاد فیں ہوتا۔ پھر پچھے حضرت عمر<sup>ؓ</sup> کے قول پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔

### غیہمتوں کی زمین کے متعلق آنحضرت کی سُنت طبیبہ اُپ سے ثابت ہے

غیر، اور غیر کی زمینیں غانمین کے درمیان تقسیم فرمائیں۔ دینہ منورہ کو قرآن مجید نے فتح کیا تھا اُن بارے اللہ ہی کے باعث وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اپنے دین پر رکھتی۔ سے تائید ہے مگر مکہ بزرگ قوت فتح ہاتھا، اس پر تقسیم نہیں کیا گیا۔ علمائے کرام کے نزدیک اس کی میثمت متین کرنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ ایک گردہ کا خیال ہے کہ یہ چونکہ دارالمناکر رہنمائی کی جگہ اے اور یہ مسلمانوں پر وقف ہے اور وہ تمام اس میں شرک ہیں اس پر اس کی تقسیم محال ہے۔ اس وجہ سے بعض علمائے کرام اس کی فردیت یا اجازہ منزع بنا تے ہیں۔ اور بعضوں نے اس کی اچھی زمینوں کی فردیت کو جائز کہا ہے، اور اجارت کرایہ پر دینا کو منزع بنا پا امام شافعی<sup>ؓ</sup> نے چونکہ قوت سے فتح مکہ اور تقسیم نہ ہونے کو جمع نہیں کیا اس پر اپنے انہوں نے فرمایا ہے کہ درمکار صلح سے مستروح ہوا اس وجہ سے تقسیم نہ ہوا، اور فرمایا، کہ اگر مکہ قوت کے ہل پر فتح ہوتا تو اس کی میثمت غیرت کی سی ہوتی۔ پھر اس کی تقسیم بھی واجب ہو جاتی، جیسے کہ حیوان اور مستقولہ پیزیر کی تقسیم واجب ہوتی ہے۔ اور ان کے نزدیک مکہ کی زمینوں کی بیٹے دا جارت میں کوئی ہر جنگ نہیں اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ مالکوں کی ملکیت ہے۔ ان کی وراشت چل سکتی ہے اور وہ ہبہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مالک کی طرف ملکیت مسوب کی ہے۔ نیز حضرت عمر بن خطاب نے صنوان بن امیہ سے ایک مکان خریدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، مکہ میں آپ کا کل کہاں قیام ہو گا؟ آپ نے فرمایا، کیا عتمیل نے (مکہ) میں کوئی جگہ ہمارے پرے چھوڑی بھی ہے؟ اور عقبیل ابو طالب کے وارث ہنسنے شروع۔ اور جب اصل یہ ہے کہ زمین غنائم میں سے ہے اور غنائم کی تقسیم واجب ہے اور

مکہ کی ملکیت ہر سکتی ہے۔ اس لئے مکاٹ اور زمین کی خرید فروخت ہر سکتی ہے اور قسم نہیں ہر سکتیں تو یہ پیز لازم نہیں کہ یہ شہر صلح یہ مفتوح ہوا۔ جو ادنیٰ احادیث صحیحہ کا مطابق کر سے وہ دیکھے گا کہ تمام ربابات جوور کے قول کی حمایت کرتی ہیں کہ یہ شہر فتح ہوا۔ اس میں اختلاف ہو گیا کہ تقسیم کیوں نہیں ہوا؟ ایک جماعت کے خیال میں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ شہر قربانی اور عبادت کی جگہ ہے، اس لئے تمام مسلمانوں کے پیغمبر کے ہے۔ درسرے گردہ کاغذیاں ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ تقسیم کر دے یا تف رہنے دے نہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو تقسیم فرمایا اور مکہ کو تقسیم نہیں کیا اس سے درنوں امور کا بواز نکلتا ہے ان کا کہنا ہے کہ زمین کو تقسیم کرنے سے یہ غنائم مامورہ میں شامل نہیں ہو جاتی، بلکہ غنائم کا اطلاق تو صرف پھوپادیں اور منقولہ جانماد پر ہی ہر سکتا ہے، کبھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سوا کسی درسری امت پر غنائم کو حلال فرار نہیں دیا، اور ان کے پیسے دار الکفر مباح قرار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا أَقُومَهُ إِذْ صَرَوْا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (آیت)

آخر تک یعنی اور جب مرسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اسے تو آپنے آپ پر اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔

پھر اس آیت کے آخر میں فرعون اور اس کی قوم اور ان کی زمیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دُأْرَقْتَنَا هَا بَنِي اَسْرَائِيلَ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو ان رزمیوں کا دارث بنادیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین غنائم کے تحت شمار نہیں ہوتی۔ امام کو اختیار حاصل ہے کہ مصلحت وقت کے لحاظ سے ہو چاہے کہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم بھی کیا اور ترک بھی کیا۔ حضرت عمرؓ نے تقسیم نہیں کیا بلکہ اسی طرح رہنے دیا اور اس پر در امی نرا ج عامل کر دیا تاکہ امورِ ہنگ میں اس سے مدد لی جاسکے۔

**مکہ بِزُورِ شَمْشِيرٍ فَتَحَ ہُونَے کے چند لائل** ایک یہ کوئی سے یہ منقول نہیں کہ

وسلم نے فتح مکہ کے وقت اہل مکہ سے مصالحت کی، اور نہ اس علاقہ کے رہنے والوں

میں سے کسی ایک کے ساتھ صلح کا کوئی واقعہ منقول ہے بلکہ جب ابوسفیان حاضر ہوا تو اپنے اسے، جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے، یا اپنا دروازہ بند کرے یا مسجد میں داخل ہو جائے یا ہتھیار ڈال دے امان دے دی۔ اگر یہ شہر مخفی صلح سے مفتوج ہوتا تو اپنے فرماتے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے، یا دروازہ بند کر دے یا مسجد میں داخل ہو جائے تو اسے امان ہے۔ کیونکہ تو نو دہی عمومی امن کی ضمانت ہوتی ہے

دوسرا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں رفیل (کو مکہ سے رُک دیا اور اپنے رسول اور ایمان والوں کو اس پر سلطنت فرمایا۔ اور مجھے دن کی ایک گھنٹی رمقانکہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ الفاظ صراحت کے ساتھ طاہر کرتے ہیں کہ مکہ قوت سے مفتوج ہوا۔ نیز صحیح روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اپنے فتح مکہ کے دن حضرت خالد بن ولیدؓ کو دائیں جانب اور حضرت ذبیرؓ کو بائیں جانب مقرر فرمایا۔ حضرت ابو عبیدۃؓ کو میدانی علاقہ میں مقرر فرمایا اور حکم دیا، اسے ابوہریرہؓ انصار کو بلا و رانصار اداؤ تے ہوئے حاضر ہوئے اپنے نے فرمایا، اسے انصار کی جماعت اکیا تم قریشؓ کے آوارہ لوگوں کو دیکھ رہے ہو! انھوں نے عرض کیا، ہاں! اپنے نے فرمایا، دیکھو، جب صحیح تم ان سے مقابلہ کر ذر (ملو) قوانینیں پیس کر کر کھدو۔ اور اپنے نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا (تبایا) اور فرمایا کوہ صفا پر تمہارے ساتھ و عددہ (ملاقات) ہے۔ انصار حاضر ہوئے تو صفا پر عکس لگائے۔ فرمایا کہ آج جو بھی انھیں دکھائی دے اسے سلا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر پڑھ سے اور انصار حاضر ہوئے اور ابوسفیان حاضر ہوا اور کہنے لگا۔

اسے اللہ کے رسول قریشؓ کے اشراف ہاک کر دیئے گئے، آج کے بعد کوئی قریش نہ ہو گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے اور جو ہتھیار پہنچیک دے اسے امان ہے اور جو دروازہ بند کر دے اسے امان ہے۔

نیز حضرت اکابری نے ایک آدمی کو امانت دی، حضرت علی بن ابی طالب نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اکابری سے تو نے امانت دی ہم نے اسے امانت دے دی، نیز اپنے نئیں بن صبا پر، اب غسل وغیرہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر مکح صلح سے نجت ہوتا تو اپنے کسی اہل کم کے قتل کا حکم نہ ریتے۔ نیز سن میں صحیح روایات ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کم کے دن فرمایا، لوگوں کو امانت دے دو۔ جو اسے دو سورتوں اور چار مردوں کے۔ ان کو اگر تم کعبہ کے پردوں سے چٹے ہونے بھی دیکھ لوتب بھی قتل کر دد۔

مشترکین کے درمیان امامت کی نعمت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکین کے درمیان کسی مسلمان کی رہائش کو منسوخ قرار دیا ہے، اگر وہ دہاں سے بھرت کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو کہ مشترکین کے درمیان رہائش پذیر ہے۔

عرض کیا گیا اسے اللہ کے رسول، کیوں افرمایا کیا تو انھیں دیکھ نہیں رہا یعنی ان کے دوزخی ہونے کو نیز فرمایا جو مشترک کے ساتھ آئئے اور اس کے ہمراہ سکون حاصل کرے کر وہ اس کا ساہب ہے۔ اور فرمایا جب تک توہ منقطع نہیں ہوتی، اس وقت تک بھرت منقطع نہ ہوگی اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس وقت تک توہ منقطع نہ ہوگی۔

لئے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں اسلام کے بدترین دشمن تھے، ساتھ ہی اساتھ حدود مفسد بھی۔ (رمیس احمد جعفری)

لئے اسلام اپنے اصولوں میں غیر معاہمت پسند ہے وہ کسی کے ساتھ صلح نہیں کر سکتا اور خاص طور پر مشترکین کے ساتھ تو اس کا بر تاذ اور زیادہ سخت ہے اس یہے کہ اسلام کی بنیاد و اساس تو عید پر ہے یعنی خدا نے واحد دین کی روایت پر۔ اب اگر کوئی جماعت اس میں رخص دیائی ہے، اس اصول کو فریض کر شکش کرتی ہے، اس بنیاد و اساس کو مہدم کرنے کے درپے ہے تو وہ اس کے ساتھ کسی قیمت پر صلح نہیں کر سکتا۔ اس یہے اس صلح کے معنی ہیں اپنی بنیاد و اساس سے ربطیہ ماشیہ آئندہ صلح پر)

اور فرمایا، مفتریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی۔ اس یہے زمین پر سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ابراہیم عليه السلام کے نشان ہجرت سے پیوں تھے ہیں۔ اور زمین پر شرپر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ انھیں وہ پیشیک دے سے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بندروں اور خنازیر کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔

---

(لقاء احادیث سابقہ صفحہ سے) دستبرداری کے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں مشرکین کا ذکر آیا ہے اسی غیر مفہومانہ انداز میں۔

یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ مشرکین انسان حقوق سے مفرد ہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام انھی اسلامی حقوق سے مفرد نہیں کرتا۔ عقیدے کے معاملہ میں ان پر جبری بھی نہیں کرتا، ان کے ساتھ بھی رواداری کا برنا دکرتا ہے۔ اب اس سے برٹھ کر کیا ہو گا کہ فتح مکہ کے بعد مشرکین سے مسلمانوں کے وہ مکانات بھک نہیں واپسے گئے جن پر زبردستی اور دھانڈ سے انھوں نے قبضہ کر لی تھا۔ بیکن ان سے پیش نہیں بڑھائے جا سکتے۔

(رئیس احمد بعفری)

# آماں صلح جزیہ ہل کتاب منافقین اور کفار کے قاصد

کفار کی آمد، ان کا قرآن مجید سنتا پھر انہیں اپنی بامن جگہوں میں پہنچانا

پاسِ عہد اور بیو فافی [آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے۔ سب سے چھوٹا بھی اس کے دنکی کوشش میں رہتا ہے اور بوسکی مسلمان سے خداری کرے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، تیامت کے ردِ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہ کرے گا۔]

نیز فرمایا: کوئی مومن کافر کے بدے قتل نہ ہوگا۔ اور نہ معاہدہ اپنے عہد کے دردان میں قتل کیا جاسکتا ہے۔ جس نے نئی باتِ ربِ عبادت ایجاد کی۔ یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی پیشکار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کفار کے تین گردہ بن گئے۔

(۱) ایک گردہ نے آپ سے صلح کر لی اور وعدہ کیا کہ "ذَأَپَ سے جنگ کریں گے" نہ آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کے دشمن سے پیمانِ دوستی استوار کریں گے۔ وہ بد ستور کافر وہ سکتے ہیں، ان کی جان بھی محفوظ ہے اور مال بھی۔

لہ بشریکہ وہ کافر ذمی یعنی مسلمانوں کی پناہ میں نہ ہو، ایسی صورت ہو تو کافر کے بدے میں مسلمان قتل کر دیا جائے گا۔

سے معاہد سے مراد وہ غیر مسلم ہیں، جن سے وقتی یا مستقل طور پر صلح کا معاہدہ کر دیا گیا ہو۔ (میں الحمد لله عزیز)

(۱) ایک گروہ نے آپ سے جنگ کی اور مخالفت پر اترایا۔

(۲) اور ایک گروہ نے جنگ کی نصیح کی، بلکہ آپ کے اور آپ کے اعداء کے بیانات و نتائج کا استکار کرنے لگے۔

ان جماعتوں میں سے بعض در پرداہ آپ کا غلبہ چاہئے اور آپ سے تناول کو پسند کرنے اور بعض آپ کے دشمنوں کے غلبہ استیاد کے منکر تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو ظاہری طور پر آپ کے ساتھ مل گئے اور در پرداہ دشمنوں سے ساز باز رکھتے تھے۔ تاکہ دنوں فریقوں کے بعد رہ سکیں۔ یہ منافقین کا گردہ تھا۔ آپ نے ان تمام جماعتوں کے ساتھ ایسا ہی بر تاد کیا۔ جیسا پروردگار عالم نے آپ کو حکم دیا، چنانچہ آپ نے مدینہ کے یہود کے ساتھ صلح کر لی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ لکھا گیا۔ مدینہ کے آس پاس ری ہو دیوں ا کے تین گروہ آباد تھے۔ بنی قینقاع، بنی نفیر اور بنی قریظہ۔

**بنو قینقاع کی طرف سے جنگ** [غزوہ بدرا کے بعد بنو قینقاع نے آپ سے جنگ کی بعض عناد اور فساد کی اگ بھڑکا دی۔ چنانچہ بہت

کے بیکریں ماہ شوال کے نصف کے قریب ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول کے جانشادریں کا ایک گروہ ان کی طرف بڑھا یہ تبیدہ منافقین کے سردار عبد اللہ بن ابی بن سلول کا حلیف تھا۔ اور اہل مدینہ کے یہود میں سے سب سے زیادہ شجاع مسلمانوں کا پیغمبر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھا اور ابو لمبارہ بن عبد اللہ کو مدینہ میں چھوڑ دیا گیا۔ ذی قعده کی پندرہویں رات تک سخت ترین محاصرہ کیا گیا۔ قوم یہود میں سے یہ پہلی قوم تھی جس نے راہل اسلام کے خلاف (جنگ کی) مسلمانوں نے انہیں قلعوں میں گھیر دیا اور انتہائی شدت کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جان و مال، ہور توں اور بچوں کے متعلق حکم دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کا حکم جاری فرمایا اور عبد اللہ بن ابی نے سفارش کی اور ازحد اصرار کیا۔ آپ نے اس کے کہنے پر انہیں معاف فرمادیا اور حکم دیا کہ یہ قوم مدینہ سے نکل جائے اور اس کے قریب قیام پذیر نہ ہو۔ چنانچہ یہ

شام کی طرف پلے گئے مگر بہت کم وہاں ہمہر سکے اور اکثر ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ صفت کاراً و تجارتیے اور ان میں قریبًاً چھ سو چنگوں نوجوان بھی تھے۔

**بنو نضیر کی عہد شکنی** | ان کے بعد بنو نضیر نے بھی عہد شکنی کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بد رکے چھ ماہ بعد پیش آیا۔ یہ عروہ کی روایت ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ہمراہ ان کے پاس تشریف لائے اور کلبہ بیوی کے خون بہا کے متعلق ان سے بات پیش فرمائی جنہیں عمر بن امیہ ضمری نے قتل کیا تھا۔ یہ کہنے لگے: اے ابوالقاسم ہم ضرور تعاون کریں گے۔ آپ بہاں میٹھیں تاکہ آپ کی حاجت پوری کر دیں۔ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تہائی میں سازش کرنے لگے۔ اور شیطان نے انہیں بد نجتی میں دھکیل دیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے قتل کا مشورہ کیا۔ اور کہنے لگے کہ کون ہے جو پھر لے کر آپ کے سر پر دے مارے؟ سب سے بر سے شقی عمر و بن جحش نے جواب دیا میں تیار ہوں، اس پر سلام بن مشکم بول اٹھا۔ یہ مت کرد خدا کی قسم تمہارے اس ارادہ کی خدا انہیں خبر دے گا۔ نیز اس طرح ہمارے اور ان کے درمیان عہد کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔

اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دھی آئی اور کفار کے ارادوں کی اطلاع دے دی گئی۔ آپ جلدی سے اٹھے اور مدینۃ کی طرف تشریف لے گئے۔ دیگر صحابہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ تشریف لے گئے اور انہیں خبر نہ ہو سکی۔ آپ نے یہود کے ارادوں سے انہیں آگاہ کیا۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی طرف پیغام بھیجا کہ مدینۃ سے نکل جاؤ اور میرے قریب رہاں مت رکھو۔ اس کے بعد میں نے جس کو بھی یہاں پایا، اس کی گردان اڑادوں گا۔ وہ چند دن تیاری کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔

**منافق کی کارستانیاں** | عبد اللہ بن ابی منافق نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے گھروں سے مت نکلو۔ میرے پاس دو ہزار نوجوان ہے جو تمہارے ساتھ قلعوں میں داخل ہو گا اور تمہاری غاطر مرنے کو تیار ہو گا۔ نیز بوقریطہ

اور غلطان کے معاہدین بھی تھاری مدد کریں گے۔ ان کے سردار حبی بن اخطب نے موقد سے فائدہ اٹھانا چاہا اور رسالت مأب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بریج ریا کہ ہم اپنے ملک سے نہیں جائیں گے۔ تم جو چاہو کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے فوجہ ہاتھ تکبیر بلند کیے اور ان کی طریق پڑھے۔ حضرت علی بن ابی طالب جھنڈا اٹھاتے ہوئے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور تیر اور پتھر مارنے لگے۔ بنو قریظہ ان سے الگ ہو گئے۔ عبد اللہ بن ابی اور غلطان کے معاہدین نے ان سے خیانت کی۔ اس پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے شیطان سے تشبیہہ دی فرمایا:

مُثَلَّهُمْ كَمِثْلِ الشَّيْطَانِ ۚ إِذَا قَالَ لِلَّادُنْسَانُ أَكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرُوا قَالَ أَتَنِي بِرُكْبَتِي  
یعنی ان کی مثال شیطان کی طرح ہے جب اس نے انسان سے کہا، کفر کا در جب اس نے کفر کیا تو کہنے لگا، میں تجھ سے پیزار ہوں۔

یہ آیت سورہ حشر میں بنی نضیر کے حق میں اتری ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، گھوڑ کے درخت کاٹ دیئے اور انہیں بعلادیا۔ اب انہوں نے پیغام بریج کر ہم مدینہ سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی اولاد کی جانیں لے کر جا سکتے ہو اور ہتھیاروں کے علاوہ ویگر سامان اس قدر لے جا سکتے ہو جو ادنف انہاے اور باقی ماں واسکہ پر حضور نے قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ محبت کے چوتھے صل ربع الاول کے آغاز میں درپیش آیا۔

**بنو قریظہ کے عبرت کا انعام کے باب** [سخت ترین دشمن تھے اور بد تزین کفر

کے مرکب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ سزا میں دی گئیں جو ان کے درسرے بھائیوں کو نہیں ملیں۔ ان سے غزوہ کا سبب یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ آپ کی صلح تھی۔ چنانچہ حبی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تھارے پاس زمانہ کی عزت لے کر آیا ہوں۔ میں قریش اور ان کے علماء میں اور غلطان اور ان کے قائدین کا تعاون لے کر آیا ہوں۔ تم

اہل شوکت اور ہتھیار دن کے مالک ہو۔ اس یے آڑ س مدد کو ختم کر دیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر دیں۔ (نحوذ اللہ)

(بُنُوقَرِيلَه) کے سردار نے جواب دیا۔ نہیں بلکہ تو زمانہ کی زبان سے کہا گیا ہے۔

تو میرے پاس ایسا بادل لایا ہے جو یانی بر سا پکنا ہے اور اب اس میں صرف گرج اور چیک ہی باقی رہ گئی ہے۔ یہ دیر تھے اس پر مکر و نزیب کے جال ڈالنا رہا، اسے اسی وجہ دلائا، مدد کے رسیز باغ ادھان رہا۔ آخر کار اس شرط پر مان گیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے تعلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو ان کا حشر ہو گا دہی تمہارا بھی ہو گا اس نے ایسا ہی کیا ہٹانچہ سن دنوں نے عہد توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقی علانیہ واہی تباہی بننے لگے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر دی گئی۔ آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے آدمی بیسجا تو پتہ چلا کہ انہوں نے عہد توڑ دیا ہے۔ پناپچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا اسے گردہ مسلمین خوش ہو جاؤ۔

اور جب مدینہ واپس تشریف لے آتے تو آپ نے ہتھیار رکھ دیئے (اس وقت) حضرت جبریل علیہ اسلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں لیکن فرشتوں نے ابھی بھک ہتھیار نہیں رکھے۔ اس لیے صحابہ کو یہ کہ بُنُوقَرِيلَه کی طرف تشریف لے جائیئے، کیونکہ میں آپ کے آگے آگے آگے چلوں گما اور ان کے تعلوں میں زلزلہ لے آؤں گا۔ نیزان کے قلوب میں رعب ڈال دوں گا اس کے بعد حضرت جبریل علیہ اسلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیں و انصار کی جماعت کے بھراہ ان کے شانات پر چل نکلے اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم آج بُنُوقَرِيلَه کے علاقہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنا۔ پناپچہ اس تعینی ارشاد کی خاطر صحابہ فوراً اٹھ کر چل پڑے۔ عصر کی نماز کا وقت راستہ میں آیا بعض کہنے لگے کہ آپ کے حکم کے مطابق بُنُوقَرِيلَه میں نماز عصر ادا کرتیں گے۔ پناپچہ انہوں نے رات کے وقت دیر سے نماز عصر ادا کی۔ بعض نے کہا کہ آپ کا یہ مطلب زنخا بلکہ آپ کا

طلب تیزی سے جانے کا تھا۔ اس پر انہوں نے راستہ میں ہی نماز ادا کری۔ غرضِ درفوں  
بنا عتوں میں سے کسی کو بھی عتاب نہ کیا گیا۔

اسلام کا پر حجت علیؑ کے ہاتھ میں | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن اہم مکتوم کو حفاظت کے لیے چھوڑ گئے اور خود بخوبی قبضہ کے تکوں پر جا اتر سے اور پہلیس رات تک ان کا معاصرہ جاری رہا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو رہبودا کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم کے سامنے تین صورتیں پیش کیں یا تو اسلام قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں داخل ہو جاؤ اور یا اپنی اولاد کو قتل کر دو اور تواریں سے کران کے مقابلہ میں نکل چلو اور یا انہیں ختم کر کے رکھ دو یا خود ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معاشر پر ایک دم حملہ کر دو۔ اور یہ دفعتہ حملہ ہفتے کے دن کرو، کیونکہ اسی دن (رمضان) ان کے مقابلہ سے پر امن ہوں گے۔ انہوں نے ہر صورت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پہنچا پڑھ رہے اور کہنے لگے: اسے ابو لبابہ محمد کے تو ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے؟

انہوں نے کہا ماں! اور گردن کی طرف اشارہ کیا اور جیسے کہ ماں کہ رہا ہو۔ کہ تمہارے حقیقی میں ذبح کا حکم ہو گا۔ پھر فوراً محسوس ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی۔ پھنچا پڑھ وہ پل پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس حاضر ہوئے بلکہ مسجد نبوی میں گئے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور حلف دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں تو آپ نے فرمایا: اسے اس وقت تک رہنے دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھولا۔ اس کے بعد یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیصدے پر اتر سے پہنچا پڑھ

ادس والے کھڑے ہوتے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بنی قبیطاع کے معاملہ میں جواب نے کہا وہ تو اپ بجاتے ہی ہیں اور وہ لوگ ہمارے بھائیوں خوزرج کے سلیف ہیں اور یہ رب نو قریظہ ہمارے غلام ہیں اس یہے ان پر احسان فرمایئے گا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ خود انہی کا ایک ادمی ان کے متعلق فیصلہ کر دے؟

انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ آپ نے فرمایا: یہ سعد بن معاذ رفیصلہ کریں گے اکہنے لگے ہم راضی ہیں، آپ نے سعد بن معاذ سے کہلا بھیجا یہ مدینہ میں تھے اور زخمی ہونے کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ آسکے تھے۔ انہیں ایک گدھ پر سوار کرایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔

اگر وہ ان سے کہنے لگا اے سعد! ہم پر احسان کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان کے بارے میں حکم رفیصلہ کشندہ (قرار دیا ہے)۔ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ خاموش رہے اور انہوں نے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ جب انہوں نے کثرت سے دریافت کیا تو کہنے لگے اب سعد کے لیے وقت آگیا ہے کہ اسے اللہ کے بارہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے (غار) نہ آئے۔ جب انہوں نے یہ بات سُنی تو بعض مدینہ کی طرف لوٹ گئے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اپ نے صحابہ کو حکم دیا، اپنے سردار کے لیے اُمُّوٰ۔

جب صحابہ نے انہیں اتارا تو کہا اے سعد! اس قوم نے تیرے فیصلے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کیا فیصلہ ان پر نافذ بھی ہو گا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! وہ کہنے لگے اور مسلمانوں پر بھی! انہوں نے جواب دیا ہاں! پھر انہوں نے کہا اور ان پر جو یہاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و اعزاز کی وجہ سے آپ کی جانب اشارہ کیا امی نے فرمایا ہاں! مجھ پر بھی۔

یہ کہنے لگے تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ رب نو قریظہ اکے تمام مرقتل کر دیئے جائیں، ان کی اولاد کو غلام بنالیا جائے اور مال کو تقسیم کر دیا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یقیناً ساتوں اسمانوں سے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس حکم کے نفاذ سے قبل کچھ لوگوں نے اسلام نیوں کر لیا تھا۔ عمر بن سعد بھاگ گیا اور کہیں روپوش ہو گیا۔ عہد توڑ دینے کے باعث ہی انی قوم میں نذر ہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا جو بالغ تھا اور جو نا بالغ تھا اس سے بچہ قرار دے کر (غلام بنالیا گیا) چنانچہ مدینہ کے بازار میں ایک خندق کھودی گئی اور ان کی گرد نیں پار کر رہاں خندق میں ڈال دیا گیا اس وقت ان کی تعداد چھ صد سے ملے کر سات سوتاک تھی۔ اور ایک عورت کے سوا کوئی عورت تسل نہیں ہری۔ اسے بھی سعد بن صامت کے تسل کرنے کے باعث قصاص میں قتل کیا گیا۔ انہیں خندقوں کی طرف گردہ درگروہ ملے جایا گیا۔

اور جب محبی بن الخطب کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ نگاہ پڑنے پر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے آپ کی عداوت کے باعث اپنے آپ کو کبھی طامن نہیں کیا۔ لیکن اللہ جسے غالب کر دے دہی غالب ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا اے لوگو! کوئی حرج نہیں اللہ کی تقدیر بنی اسرائیل پر عالمگردی گئی۔ پھر اسے قید کر دیا گیا اور اس کی گردان مار دی گئی۔

ثابت بن قیس نے زیر بن باطنا اس کے اہل اور مال کی سفارش کی، آپ نے اس کو انہیں ہبہ کر دیا۔ ثابت بن قیس نے اس سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری جان و مال و اہل مجھے ہبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ سب تیرے سماں ہیں وہ بدیخت بولا۔ اسے ثابت بن قیس میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو مجھے دوستوں سے ملا کے گا؟ چنانچہ اس کی گردان بھی مار دی گئی۔ اور اسے بھی اس کے یہودی دوستوں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہ تمام کارروائی یہود مدینہ کے متعلق ہوئی آپ کو ہر بڑے غزوہ کے بعد یہود سے جہاد کرنا پڑا۔ غزوہ بدر کے بعد بنو قنیقاع سے غزوہ احمد کے بعد بنو نفیر سے اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کے مقابلہ میں جہاد کرنا پڑا اور غیر کشمیری یہودیوں کے متعلق انشاد اللہ تعالیٰ ہم عنقریب تذکرہ کریں گے۔

اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم سے مصالحت کی تو بعض قبائل نے صلح توڑ دیا اور بعض نے عہد پورے کیے اور سب نے آپ سے جنگ کو پسند کیا۔ آخر آپ نے بخوبی بخوبی اور بخوبی مقیم کی طرح سب کو عہد شکن قرار دیا۔ اسی طرح آپ نے اہل مکہ سے بر تاؤ کیا پس اس طرح معاہدین کے ساتھ یہ طریقہ کار مسون ہے اور ذمی لوگوں سے بھی ایسا ہی سلوک کرنا مناسب ہے جسے اصحاب احمد و فتحیؓ نے کرام نے صراحت کی ہے اور اصحاب شافعی نے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے۔ عہد توڑ نے والوں سے مخصوص ہے اور زبندوں نے اعہد قائم رکھا اور اس سے راضی رہے وہ اس سے مستثنی ہوں گے اور اصحاب شافعی نے ان میں فرق کیا ہے۔ کیونکہ ذمی سے عہد پورا کرنا از حمد موجہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے تو اپنے اور یہود کے درمیان مصالحت اور عہد کو موقت نہیں کیا بلکہ جب تک وہ اس پر قائم رہے اور جنگ پر آمادہ نہ ہوتے۔ آپ نے اس عہد کو مطلقاً پورا فرمایا اور یہ ان کا ذمی ہونے کا حق تھا اور اس وقت جزیے کا حکم نازل نہ ہوا تھا، بلکہ یہ بعد میں فرض کیا گیا اور جب یہ حکم بھی نازل ہو گیا تو آپ نے جزئیہ بھی عائد فرمایا اور سابقہ عہد میں ایک شق بڑھ گئی، لیکن عہد تبدیل نہ فرمایا۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی پابندی کی جائے اور جب ان میں سے بعض نے عہد توڑ دیا اور دوسروں نے باقی رکھا اور مسلمانوں کو دونوں فریقوں کا واضح علم نہ ہو سکا تو پھر معاہدین اور مصالحت کرنے والوں کی عہد شکنی کی طرح ان سے بر تاؤ کیا گیا۔

اور جب شام میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے مکانات اور اموال جلا دیئے اور جامع اعلیٰ (رسب سے بڑی مسجد) کو جلانے کا بھی انہوں نے ارادہ کر لیا بلکہ اس کا منارہ جلا دیا اور اگر کہ عقاالت نہ کی جاتی۔ تو قریب تھا کہ ساری مسجد کو جلا دیتے اور نصاریٰ کو ان حرکات کا علم تھا۔ بلکہ وہ اس کام سے متفق اور خوش تھے تو فتحیؓ نے کرام سے حاکم شہر نے فتویٰ دریافت کیا تو انہوں نے اس کو ان کے اس فعل کی بناء پر عہد شکنی قرار دیا اور دوسرے چونکہ اس فعل شفیع پر خوش اور راضی تھے اس یہی انہیں ( مجرم ) قرار دیا اور اس

کی سزا قتل ہے اور تیمذ کی طرح اس میں امام کو اختیار نہیں کیونکہ وہ توہر حال حسد کے باعث تسلی کیا جاتا ہے اور اسلام حدود ساقط نہیں کرتا اور جو ادمی حدود اللہ کے ایغفار کا وحدہ کر کے ذمی بن جائے اس کا قتل ساقط نہیں ہو سکتا۔ بخلاف حریق رجنگ کرنے والے اُنکے کہ وہ جب اسلام قبول کرے گا تو اسلام اس کے جان و مال کی حفاظت کرے گا اور اسلام سے قبل جو اس نے انعام کیے ہیں ان پر اسے قتل نہ کیا جائیگا اس کا الگ حکم ہے اور عہد شکن ذمی کا الگ حکم ہے۔ نصوص و اصول امام احمد کا یہی مفہوم ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کئی موقوفہ پر اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

### غیر مسلموں سے معاہدے اور مصالحت

نیز آپ کی سنت میں یہ تھی کہ جس اپنے کسی قوم سے مصالحت و معاہدہ کرتے تو جو بھی اس قوم کا علیف بن جاتا اسے بھی معاہدہ میں شریک کر لیتے اور دوسرا قوم اگر آپ سے معاہدہ کرتی تو آپ اسے بھی اس عہد میں شریک کر کے معاہدہ قرار دے دیتے اور جو ان میں سے جنگ کرتا۔ پھر دوسرا معاہد قوم کو مخاب قرار دیتے۔ اس وجہ سے آپ نے اہل مکہ پر حملہ کیا۔ کیونکہ جب آپ نے راہلی مکہ کے ساتھ دس سال کے یہے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو بزرگ بن دلائل اب تھے اور انہوں نے قریش سے معاہدہ کر لیا اور اس عہد میں داخل ہو گئے اور بنو خزانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور اس عہد میں وہ بھی داخل ہو گئے اس کے بعد بنو بکر نے بنو خزانہ پر حملہ کر دیا اور ان میں سے کچھ اُنی قتل کر دیئے۔ قریش نے پوشیدہ طور پر ہتھیاروں سے ان کی مدد کی۔ چنان پسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو عہد شکن قرار دے دیا۔ اس واقعہ کی تفہیلات اُئمہ انشا اللہ بیان ہوں گی۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی مشرق نصری سے جنگ کرنے کا فتویٰ دے دیا ہے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں رنصری اکی مالی اور ہتھیاروں سے مدد کی۔ اگر وہ خود نہیں رڑے اور زور میداں میں آئے۔ لیکن پھر بھی وہ عہد شکن نہیں، جس طرح قریش نے بنو بکر والی کو جنگ میں

مدد و دے کر عہد شکنی کی اور جب ذمی لوگ باہر کے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف مدد دیں تو کس طرح انہیں عہد شکن قرار نہ دیا جائے ریعنی وہ یقیناً اسلامی ریاست کے بانی ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

دشمن کے قاصدِ خدمتِ نبوی میں نیز آپ کی خدمت میں دشمنوں کی جانب دیتے اور نہ قتل کرتے۔ اور جب آپ کے پاس مسیلہ کذاب کے دو قاصدِ عبد اللہ بن فواحہ اور ابن اثیل حاضر ہوتے تو آپ نے دریافت فرمایا، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟

وہ کہنے لگے جیسا کہ مسیلہ نے کہا ہے دیسا ہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ چنانچہ آپ کی سنت طیبہ چاری ہو گئی کہ قاصد کو قتل نہ کیا جائے۔

نیز آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب قاصد آپ کا دین تبول کر لیتا تو آپ اپنے پاس نہ روکتے اور نہ اپنی قوم کے پاس جانا سے منع کرتے، بلکہ اسے دوبارہ وہاں ہی لوٹا دیتے جیسا ابو رافع نے بتایا کہ قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے دل میں اسلام کی محبت آگئی۔ میں نے مرن کیا اے اللہ کے رسول میں لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، میں عہد شکنی نہیں کروں گا اور نہ چادر کو روکوں گا۔ ان کی طرف واپس جاؤ دہاں جا کر بھی تمہارے قلب میں وہی رایمان ابھی رہا جواب ہے تو لوٹ آنا۔

امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ اس زمان میں واقع ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے صلح عدیہ کر کی تھی، جس میں شرط یہ تھی کہ جو مکہ سے میزبان نے گا اسے لوٹانا ہو گا۔ اگرچہ وہ سلمان ہو چکا ہو۔ لیکن آج کل یہ صورت نہ ہو گی۔ بلکہ یہ تو مشرد طور پر میں تھا، جیسا ابو داؤد نے فرمایا ہے اور جو قاصد میں ان کا حکم دوسرا ہے۔ آپ دیکھ ہی توڑ ہے ہیں کہ آپ نے مسیلہ کذاب کے قاصدوں سے کچھ بھی تفرض

نہیں فرمایا۔ حالا کہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیمہ اللہ کا رسول ہے۔

نیز آپ کی سنت طیبہ یہ تھی کہ اگر آپ کے وہمن آپ کے کسی صحابیؓ سے معاہدہ صلح کریں گے تو آپ اس معاہدہ کو (محدود خدا کے) اجاری رکھتے۔ جیسے کہ حضرت حذیفہؓ اور ان کے والد نے (کفار) سے معاہدہ کر لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے خلاف جنگ نہ کریں گے۔ تو آپ نے اسے جاری رہنے دیا۔ اور فرمایا کہ تم دونوں والیں جاؤ جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو اور ہم کافروں کے مقابلہ میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد پاہتے ہیں۔

قریش نے آپ سے دس سال کے لیے معاہدہ (جنگ بندی) کر لیا اور یہ بھی شرط رکھ دی کہ جو بھی مسلمان ہو کر (مدینے) اجائے اسے واپس کرنا ہو گا اور جو (مدینے) سے امکنہ (چلا آئے) اُسے وہ واپس نہ کریں گے۔ مردوں اور عورتوں کے متعلق یہ الفاظ عام تھے ہچنانچہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق یہ شق منسوخ فرمادی اور صرف مردوں کے حق میں رہنے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موبینین کو حکم دیا کہ اگر ان کے پاس کوئی عورت آجائے تو اس کا امتحان لو۔ اگر اسے مومنہ سمجھو تو اسے کفار کی طرف واپس نہ کرو۔

اور کفار کے نکاح حسب سابق برقرار ہیں گے، انہیں باطل نہ کیا جائے اور ہمارے مسلمان عورت کو کفار کی طرف واپس کرنا جائز ہو گا۔ اگرچہ (کسی معاہدے) میں یہ شرط بھی لگادی جائے نیز مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح جائز نہ ہو گا۔

# خیبر کے ہوں سے معاملہ

## کافروں، منافقوں اور دوستوں سے آپ کا برداو

اہل خیبر پر نلبہ اور فتح حاصل کرنے کے بعد آپ نے ان سے معاهدہ کیا کہ وہ جبلا وطن ہو جائیں گے۔ البتہ اپنے اونٹوں پر لا دکر جتنا سامان لے جا سکتے ہوں یہیں باقی زر نقد اور سلاح جنگ آپ کی ملکیت ہوں گے۔

معاہدہ صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ کوئی پیغیر نہ چھپائیں نہ ناٹ کریں، اگر ایسا کیا تو پھر نہ وہ مسلمانوں کے ذمہ میں رہیں گے نہ معاہدہ صلح قائم رہے گا، لیکن انہوں نے ایک مشک ناٹ کر دی بس میں جی بن الخطب کا مال تھا، بے سے وہ بنو نضیر کی بہلا وطنی کے وقت اپنے ساتھ خیبر سے آیا تھا۔

پھرنا پچھہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بن الخطب کے چچا سعید سے فرمایا:

جی جو مشک بنو نضیر سے لایا تھا، اس کا کیا ہوا؟

وہ کہنے لگا، وہ رات کو اخراجات اور بیٹکوں میں غتم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا معاہدے کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں اتنا زیادہ کیسے خرچ ہو گیا، حالانکہ جی بن قریظہ کیسا تھہ ہی تسلی ہو گیا تھا۔ آخر رسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیر کے حوالے کیا تاکہ اسے محبوس رکھیں، انہوں نے اس پر سختی کی تو انہوں نے ایک خرابے کی نشان دہی کی۔ پھرنا پچھہ رمحابہؓ وہاں گئے، تلاش کی۔ توانہیں شک مل گئی، ان کی عہد شکنی کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی عقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا ان میں ایک جی بن الخطب کی رٹ کی صفیہ کا شوہر تھا۔ ان کی عورتوں اور بیویوں کو غلام بنا لیا اور ان کے

اموال کو تقسیم کر دیئے اور خیر بے انہیں نکالنے کا فیصلہ فرمایا، اس موقع پر سپردہ نے کہا۔ آپ ہمیں یہیں رہنے دیجیے۔ ہم اس علاقہ سے خوب دافت ہیں، زمین کی کاشت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہؓ کے پاس اس قدر اُدی بھی نہ تھے جو یہ ذمہ داری انجھا سکتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاقہ اس شرط پر ان کے سپرد کر دیا کہ اس زمین میں جو پیدا اور بھوگی اس کا نصف مسلمانوں کو اور نصف انہیں ملے گا اور جب تک آپ چاہیں گے، یہ لوگ یہاں آباد رہیں گے۔ بنو قریظہ کی طرح ان کا قتل عام نہ تھا۔ کیونکہ کوئی عہد شکنی میں سب شریک تھے، لیکن یہ لوگ ایسے نہ تھے جن کو مشک کا علم تھا جنہوں نے اسے پوشیدہ کر دیا تھا، اور جنہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر پڑہ پل جائے تو معاهدہ نئی کی رو سے دہی لوگ تسلی کیے جائیں چنانچہ تمام اہل خیر کو یہ مزا نہیں دی گئی۔ کیونکہ یہ قطعی طور پر معلوم ہو چکا تھا کہ حی کی مشک کا علم سب کو نہ تھا اور یہ ایک خرابی میں تھی۔

یہ اس ذی یا معاہدہ کی مثال ہے جو عہد شکنی کرے اور دوسرے افراد کو عہد شکنی اپر مائل نہ ہوں۔ کیونکہ عہد شکنی کا سکم اس سے مختلف بھا جائے گا۔ اس کے بعد زمین کو نصف کاشت پر دینا مساقات و مزارعہ کے جواز کی دلیل ہے اور اگر بھور کا درخت ہو پھر بھی اس صورت پر کچھ اثر منصب نہ ہو گا۔ نیز اس واقعہ سے یہ وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ مالک زمین کی جانب سے یعنی دینا بھی شرط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک حصہ پر مصالحت کی اور انہیں یعنی نہیں دیا اور نہ بعد میں (آپ نے انہیں کبھی یعنی بھی) بعض اہل علم کا قول ہے کہ (مزارعہ) میں اگر یہ کہا جائے کہ (یعنی) عامل کی طرف سے ہوں گے۔ تو یہ مالک زمین کی جانب سے ہونے کی بجائے زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ یہی طریقہ اہل خیر کے متعلق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یعنی عامل اور مالک زمین دونوں کی جانب سے تھیک ہے، اسکی کو مختلف قرار دینا ضروری نہیں اور جن لوگوں نے یعنی مالک زمین کی جانب سے لازم قرار دیا، ان کے پاس مزارعہ کو

مضاربت پر قیاس کرنے کے سوا کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مضاربت میں یہ پرشتر ہوتی ہے کہ اصل زرماں کی جانب سے ہو گا اور مضاربت کی جانب سے ہو گی۔ اس لئے مزاجعت میں یہی صورت ہو گی، اس طرح مسانفات میں بھی یہی صورت روکھی جائے گی کہ در ایک کی جانب سے ہوں گے اور محنت دوسروں کی جانب سے ہو گی۔ حالانکہ یہ قیاس حقیقی میں ہونے کی وجہ نیفاف زیادہ ہے، کیونکہ یہ مضاربت میں اصل زرماں کے پاس بوٹ جاتا ہے اور منافع تقسیم ہوتا ہے اور اگر مضاربت میں بھی یہی بات مشروط قرار دے دی جائے تو یہ فاسد ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے بیچ کو اصل زر کے قائم مقام نہیں بنایا بلکہ اسے تمام سبزیوں کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ اس لیے مزاجعت کو مضاربت پر قیاس کرنا غلط ہے۔ آخر کار جب آپ نے یہ دو نیبیر میں قیام کی اجازت محنت فرمادی۔ آپ ہر سال ایک اندازہ کرنے والا دہاں بھیجتے جو پیداوار کا اندازہ کرتا اور معافہ کے بعد مسلمانوں کا حصہ ایک کر دیتا، باقی پر تصرف میں وہ آزاد ہوتے، اور ایک ہی اندازہ کرنے والا کافی ہوتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جوور کے چلوں کی طرح دوسروں کے چلوں کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کے ہڑکے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبیر کا مال یعنی کے لیے تشریف ہے گئے۔ یہود نے انہیں ایذا دی اور مکان سے نیچے گرا دیا۔ اور مال یعنی سے روکا۔ حضرت عمر نے انہیں شام کی طرف خارج کر دیا اور صلح حدیبیہ میں شریک رحمہ برا پیر غیر کا علاقہ تقسیم کر دیا۔

### عقدِ ذمہ اور حجز یہ وصول کرنے کے متعلق آپ کی سُنْتَ طَيِّبَہ

سورۃ برآۃ نازل ہونے سے قبل تک آپ نے کفار سے جزیہ وصول نہیں کیا، جب جزیہ کی آیات نازل ہوئیں تو آپ نے موسیوں، اہل کتاب اور نصاریٰ سے جزیہ وصول فرمایا: اور حضرت معاذ کوین کی طرف ارسال فرمایا۔ انہوں نے ایسے یہودیوں پر جزیہ عائد کیا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہیں اپنی حفاظت میں یعنی کامعاہدہ کر لیا، البتہ غیر کے یہود سے کچھ نہیں لیا۔ چنانچہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ اہل نبیر کیلئے

یہ مخصوص حکم کو ان سے جزیہ دلیا جائے۔ باقی تمام اہل کتاب سے دلیا جائے، اصل میں یہ سیر و معازی میں عدم فقاہت کی علامت ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلہ فرمایا اور پھر ان سے اس طرح مصالحت کی کہ جب تک آپ چاہیں وہ پہاں آپا درہ سکتے ہیں اور ابھی جزیہ کا حکم نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر ان پر فذول حکم جزیہ سے قبل ہی ان سے وقوف خیرہ اور صحیح کامعاہہ ملے پا چکا تھا۔ پورنگہ ان میں معاہدہ چلا اور ہماختا اور یہ موقرہ حصہ پر رخیرا کی زمین پر کام کر رہے تھے اس لیے ان سے اس کے سوا اور کچھ مطالبہ نہ ہوا اور دوسرے اہل کتاب پر جزیہ ادا کیا گیا۔ جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ تھا۔ یہ سے بخراں کے میسانی دین وغیرہ کے یہود اور بیب حضرت عمر نے انہیں شام کی طرف ملک پدر کر دیا تو خیرہ کی زمین کی رکاشت وغیرہ اس کے متعلق سابق معاہدہ بھی بدلتا اور یہود غیرہ کی عیشیت بھی دوسرے اہل کتاب کی سی ہو گئی۔

جب جزیہ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے جو سیلوں ایکروں اور میسانیوں یعنی میں گردہ بڑے جزیہ وصول کیا اور بت پرستوں سے جزیہ وصول نہیں کیا۔ اس لیے بعض کے خیال میں مذکورہ لوگوں کے ملا وہ ہائی کفار سے جزیہ وصول نہیں کیا جا سکت۔ بعض کا خیال ہے کہ اہل کتاب اور دیگر کفار سے بھی جزیہ وصول کیا جائے گا اور مرپ کے بت پرستوں کے حوالہ میں کے بت پرستوں سے بھی رجیہ وصول کیا جا سکتا ہے، اپنی قول، امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا ہے اور دوسرا قول ابو حنیفہ کا ہے اور دوسری روایت کے مطابق امام احمد بھی اس کے موید ہیں۔ دوسرے قول کے حاوی کہتے ہیں کہ آپ نے مرپ کے بت پرستوں سے جزیہ وصول نہیں کیا۔ کیونکہ یہ حکم نازل ہونے سے قبل مرپ کے تمام بت پرست اسلام لا ہے کے تھے اور رہاں کوئی بھی بت درہ انتہاء ہی دی جبکہ کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے تبرک میں میسانیوں کے ساتھ بھا دکیا۔ اگر سرزی میں مرپ میں مشرکین ہوتے تو اتنی دور چانے کے بھائے مشرکین مرپ سے بھا دکر نازل ہوا اولیٰ تھا، جو شخص ہماری بخیزی فزوات اسلام کا رہنا شناہی ہے وہ پر آسانی سمجھو لے گا کہ معاملہ یوں ہی تھا۔ پس ان سے جزیہ اس لیے لے لیا گیا کہ جن سے رجیہ اہم تھا، ان کا دھر دی مخفود ہو چکا تھا۔

البته آپ نے جو سیلوں سے جزیہ لیا ہے۔ یہ صحیح نہیں کہ ان کے پاس کوئی (اسمائی) کتاب بھی ہے۔ یہ مرفوع روایت ہے، ایسی روایت صحیح نہیں کہی جاسکتی، زادہ کی سند صحیح ہے، اُنہیں پرستوں اور بہت پرستوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ بہت پرست اُنہیں پرستوں کی نسبت قدر سے بہتر ہیں وہ اس سلسلہ دین ابراہیم سے تسلیک ظاہر کرتے تھے اور اُنہیں پرست ابراہیم خلیل اللہ کے علانیہ دشمن تھے۔ جب ان سے جزیہ لیا گیا تو مت پرستوں سے جزیہ لیٹا زیادہ اولی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ جیسا صحیح مسلم میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، بہب مشرکین میں سے کسی دشمن سے دو چار ہو تو اسے تمیں میں سے کسی کی دعوت دو۔ اگر وہ ان میں سے کسی کا انتخاب کرے تو اسے قبول کرو اور جنگ نہ کرو پھر آپ نے (ان تمیزوں بالتوں) کی دعا حالت فرمائی کہ:-

(۱) اسلام کی دعوت دو،

(۲) یا جزیہ را دا کرنے کا حکم دو،

(۳) یا پھر جنگ کرو،

علاوه از یہی حضرت میرہ نے کسری کے عامل سے بھی فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تم سے جنگ کریں۔ یہاں تک کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا جزیہ را دا کرو۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش سے فرمایا تھا کہ کیا تم مرد ایک کلمہ کا اقرار کرو گے؟ کہ میں کی وجہ سے ہم واقعے تھیں جزیہ دیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے وہ کلمہ اکیا ہے۔

آپ نے فرمایا: **كَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

جب آپ توبک سے واپس ہوئے تو اہل دوسرے سے مقابلہ ہوا اور جزیہ پر ان سب سے مصالحت کر لی گئی۔ نیزاں بخراں کے نصاریٰ سے دوہزار پارچہ جات پر مصالحت فرمائی کہ نصف صفر میں اور باقی رجوب میں مسلمانوں کو ادا کریں گے اور مسلمانوں

کو عاریت، تیس زر میں، تیس گھوڑے، تیس اونٹ اور ہر قسم کے تیس ہنسیا رہیں گے، جن سے مسلمان جہاد کریں گے۔ اور مسلمان ان چیزوں کے نام بھی ہوں گے جیسا کہ بیہان تک کہ انہیں بوہاریں، نیز پہ کہ ان کی عبادت گاہیں نہیں گئیں جائیں گی نہ ان کے پادریوں کو باہر لکھا جائے گا، نہ انہیں دین چھوڑنے پر جبوہ کیا جائے گا۔ بشرطیکہ اونہ کوئی شرارت نہ کریں یا سود کھائیں۔ اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرارت یا سود خود کی سے ذمی کا عہد نوٹ جاتا ہے اگر یہ عہد مژد و طہر ہو، اور جب حضرت معاذ کو آپ نے ہم کی طرف رسما جاتے تو حکم دیا کہ ہر بائی سے ایک درینار یا اس کی قیمت کے معافی کے دو رمسافری میں کے پڑوں کی ایک قسم ہے۔ یہ اس پر مشاہدہ ہے کہ جزیرہ کی جنیں اور مقدار مقرر نہیں۔ کچھ سے اسونا، زیورات ہر چیز جائز ہے اور مسلمانوں کی مزدوبات کے مطابق اس کی مقدار میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور امارت و افلاس کا لحاظ بھی تفاوت ہو سکتا ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے مرب و جم کے جزیرے میں تفریق نہیں فرمائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرب کے فصاری سے بھی جزیرہ لیا۔ اور ہجر کے ان بوسیوں سے بھی رسول فرمایا جو عرب تھے۔ کیونکہ عرب ایک ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس رالہی اکتاب نہ تھی اور ہر گروہ اپنی پڑوں کے قوموں کے دین پر پل رہا تھا۔ چنانچہ بھرپور کے مرب بھوسی تھے کیونکہ ان کے پڑوں میں فارس کا علاقہ تھا اور شوخ بھرا اور بنو تغلب روایت کے پڑوں سی ہونے کے باعث میسائی تھے اور میں کے قبائل یہود میں کی مجاورت کے باعث شہودی تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیرہ کے احکام نافذ فرمادیے اور ان کے آباد واجداد کا اعتبار نہیں کیا۔ اس بات کا خیال فرمایا کہ یہ لوگ دین اہل کتاب میں کب داخل ہوتے؟ آیا نئی اور تہذیبی سے قبل داخل ہوتے یا بعد میں اور حضرت معاذ کا قول کہ ہر بائی سے ایک درینار لینا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اور مورت سے جزیرہ لیا جائے گا۔

**کفار اور منافقین کے ساتھ آپ کی سفت بعثت و ففات تک** | ابتدا میں اللہ

تعالیٰ نے وحی فرمائی۔

اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے پیدا کیا؛ بہاں بhort کا آغاز تھا۔ اس بیسے دل دل میں پڑھنے کا حکم دیا، دوسروں کو تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا، پھر ایت نازل فرمائی۔

یا ایتها الْمَدْثُر قِيمَه فَانْذِرْنَا بینی، اسے کمل و اسے انہوں اور دردا۔

شروع میں افْعُوا وَرَبِّكُمْ کر فرمان سے متذکر کیا اور پھر یا ایتها الْمَدْثُر کا حکم نازل کر کے فرمایا اپنے قریبی رشته داروں کو دردا۔ اس کے بعد اپنی قوم کو دردا۔ پھر ان کے چاروں طرف کے عربوں کو دردا، پھر عرب قابلہ کو دردا، پھر نام بہاں والوں کو دردا۔ چنانچہ آپ بعثت کے بعد دس سے کچھ زیادہ برس بغیر بینگ یا جزء کے تبلیغ فرماتے رہے اور آپ کو خاموشی، صبر اور درگذر کرنے کا حکم دیا جاتا رہا۔ جو آپ سے رہے اس سے آپ ممتاز کریں اور جو الگ ہو جائے اس سے رک جائیں، اس کے بعد مشرکین کے مقابل کا حکم فرمایا ہا آنکر دین حرف اللہ ہی کا رہ جائے۔ اب بہادر کی اجازت کے بعد کفار کی تین قسمیں ہو گئیں۔

(۱) مصالحین و معاہدین۔

(۲) دوسروں سے اہل حرب۔

(۳) تیسروں سے اہل ذمہ۔

اس بیسے آپ کا حکم ہلا کر مصالحین و معاہدین سے عہد پورا کیا جائے اور جو عہد توڑ دے اس سے مقاولہ کیا جائے اور جب سورۃ برادت نازل ہوئی تو انہیں اقسام کے متعلق احکامات دانجح کر دیئے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اہل کتاب میں سے دشمنوں کے ساتھ مقاولہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ وہ جزیرہ دیں یا اسلام قبول کر لیں۔ کفار، منافقین کے خلاف مقاولہ اور سختی کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے کفار کے ساتھ توار اور نیزے سے معاہدہ کیا اور منافقین کے ساتھ دلیل اور زبان سے جہاد کیا اور کفار کے معاہدوں سے اسلام بیزاری کا حکم دیا اور معاہدین کو تین حصوں میں منقسم کر دیا۔ ایک قسم کے ساتھ قتال کا حکم دیا۔ یہ دو لوگ تھے کہ جنہوں نے عہد شکنی کی، اپنے وعدے پر قائم نہ رہے۔ ان سے آپ نے بینگ کی اور ان پر قاتل اکر رہے۔ معاہدین کی دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے عہد شکنی نہ کی۔ اور رہان کے مابین

وقتی تھے اور زانہوں نے ہندستانی کی اور زاپ نے انکے خلاف جہاد کیا۔ انکے متعلق صحابہ کی مسیاد پوری کرنے کا حکم دیا گیا۔ تمیر قسم وہ بھی ہے کہ ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا اور زانہوں نے آپ سے جنگ کی۔ یا ان کے معاہدے متعلق تھے۔ آپ نے انہیں چار ماہ کی بہلت دی۔ بہب یہ مدت پوری ہو گئی تو آپ نے ان سے مقابلہ کیا۔ منافقین کے متعلق آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اعمال کو قبول کرنے اور بالعن کے حالات اللہ کے پروردگر نیکا حکم دیا۔ اور اس بات کا حکم دیا کہ ان سے علم اور دلیل سے مجادل کیا جائے اور ان سے اعتراف کرنے اور ختمی کرنے کا حکم فرمایا اور اچھے اندراز سے انہیں سمجھانے کا حکم دیا اور ان کا جذازہ پڑھنے اور انکی قبور پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر ان کیلئے بخشش ملکب کرو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشدے گا۔ کفار اور منافقین کے متعلق آپ کی سیرت طیبہ یہ تھی۔

### صحابہ اور اپنی جماعت کے متعلق آپ کی سنت طیبہ

کے ہمراہ رکھو جو اپنے پر در دگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اس کی رضا اچا ہستے ہیں اور انہیں معاف کرنے مختلف امور میں ان سے مشورہ لینے اور ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا۔ اور نافرمانوں سے علیحدہ ہونے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ وہ توبہ کریں اور آپ کی اطاعت کریں، بیسیے کہ آپ نے تین پیچھے رہنے والوں سے علیحدگی اختیار کری۔ نیز حکم دیا کہ جو آپ سے برائی کرے اس کے احسان سے اور جہالت کے حlm سے اور ظلم کا عفو سے اور قطعی جی کا حصل رحمی سے بدل دیں۔ نیز بتاویا کہ اگر آپ نے یہ کام کیے تو آپ کے دمکن بھی گہرے دوست بن جائیں گے اور جناب میں سے دشمنوں کے دفعہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور یہ تمام اخلاقی سننہ سورہ اعراف، موبین اور حم السجدہ کی آیات جمع کر دیتے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا:

خذا العضو و امر بالمعروف و اغرض عن الجاهلين و اما نيز عنك من  
الشيطان نزع فاستعدن يا الله انه سميع عليم۔

اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہلاء کے مشرے پختے کیلئے ان سے اعراض کرنے اور

شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے پر حکم دیا اور اس آیت میں اخلاق حسن کی قائم باقی جمع فرمادیں، اور سورہ موسیٰ بن موسیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

قُلْ سَرَّتِ الْمَاتِرِيَّةِ مَا يَوْعِدُونَ سَرَّتِ دَلَةٍ تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا  
عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا نَعْدَاهُمْ لِقَادِرُونَ هُدْفَنَةٌ بِالْتَّقْوَىٰ هُنَّ أَحْسَنُ الْسَّيِّئَةِ لِنَحْنُ  
أَعْلَمُ بِمَا يَصْفُونَ هُوَ قُلْ سَرَّتِ الْمَاتِرِيَّةِ مَا عَوْذَ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ هُوَ أَعْوَذُ بِكَ  
سَرَّتِ الْمَاتِرِيَّةِ مَا يَعْصُرُونَ -

یعنی تو کہہ اسے رب، بھی تو دکھادے بجھ کو، جوان کو وعدہ ملتا ہے، تو اسے رب بجھ کو زکریو، ان گناہ گار لوگوں میں اور ہم کو قدرت ہے کہ تجوہ کو دکھادیں جوان کو وعدہ دیتے ہیں، بری بات کے جواب میں وہ کہ جو بہتر ہے، ہم خوب چانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں، اور کہہ اسے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کی پھرپڑ سے اور پناہ تیری پاہتا ہوں اسے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں۔ اور سورہ حم السجدہ میں فرمایا:-

وَلَا تَسْتُوْلُ الْحُسْنَةَ وَلَهُ الْشَّيْءُ مَا ذَفَعَ بِالْتَّقْوَىٰ هُنَّ أَحْسَنُ  
وَبَيْنَهُمْ سُدَّاً فِي الْمَكَّةِ فِي تَحْمِيرٍ هُوَ مَا يَلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَدَرُوا وَمَا يَلْقَاهَا  
إِلَّا ذُو خَطْبَةٍ عَظِيمٍ هُوَ أَقْمَأْنَزَ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعَ فَأَسْتَعْذُ بِاللَّهِ  
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْغَلِيمُ -

یعنی اور برابر نہیں نیکی نہ بدی۔ جواب میں تو کہہ اس سے بہتر، پھر جو دیکھے تو جس میں تجوہ میں دشمنی تھی، جیسے دوست دار ہے ناتے والا۔ اور یہ بات ملتی ہے اپنیں کو جو سہارا رکھتے ہیں اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بری تشریف ہے اور کبھی چوک گئے تجوہ کو شیطان کے پھونکنے سے تو پناہ پکڑا اللہ کی بے شک ہے سنتا جاتا۔

اس طرح مذکورہ انداز میں نبی مصلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں، جنوں، انسانوں اور کافروں کے برتاؤ کے معاملہ میں سیرت طیبہ بیان ہو گئی۔

# آل حضرت ﷺ کے غزوات و سرایا

## بدر کا عظیم اور تاریخی معرکہ

**اسلام کا پہلا شکر** [نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لٹکر بھرت کے ساتویں ماہ رمضان کے مہینے میں ارسال فرمایا جس کا پرچم حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کے یہے تھا۔ یہ جنڈ اسفید رنگ کا تھا اور ابو مرشد کتابہ بن حعین عنوی نے انحراف کھانہ، اپنے ہماجرین میں سے تیس حمابر کو شام سے آنسے والے قریش کے قائد کے مقابلہ میں ارسال فرمایا جس میں ابو جہل قیصر سوادیوں کے ہوا اور ہماجرین، پھنانچہ یوگ سمندر کے کنارے درختوں کی جاہ سے پہنچے اور رثائی کے یہے تیار ہو گئے۔ لیکن مجیدی بن عمر وہیںی اس طرف اور اس طرف دونوں گروہوں کا ملیف تھا۔ اس نے کوشش کر کے یونچ پہاڑ کردا دیا۔ اور جنگ نہ ہوئی۔

**وادی رابغ میں مقابلہ** [پہلا بھرت کے آخر میں معاویہ بن جریر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے یہے بھی سفید جنڈ اہلیار کیا گیا۔ اس شکر میں کوئی انصاری نہ تھا، بلکہ سائٹ کی تعداد میں صرف ہماجرین ہی تھے۔ اور ابو سفیان بن عرب نے جنڈ کے مقام سے دی میل دور وادی رابغ میں مقابلہ ہوا جس کے ہواہ دوسوادی تھے۔ اس جنگ میں تیر اندازی ہوئی تکوار نہ چلی، نہ باتا عدد جنگ بھوئی۔ اسے صرف مدحیہر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دہاں موجود تھے۔ اللہ کے راستہ میں انہوں نے سب سے پہلے تیر مارا۔ پھر دونوں فرقے واپس پلے گئے۔

**وادیٰ نخلہ میں** پھر بھرت کے سر جوی ہیئے رجب میں اب نے عبد اللہ بن جبش اسدی کو وادیٰ نخلہ کی طرف بارہ ادمیوں کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ دو دو ادی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ چنانچہ قریش کے ایک قافلے سے جنگ کے لیے یہ لوگ وادیٰ نخلہ میں پہنچ گئے۔ اس مریہ میں عبد اللہ بن جبش کو امیر المؤمنین کا نام دیا گیا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک مکتوب لکھ کر دیا ہے اور فرمایا، دو دن سے پہلے اسے نکلوانا۔ اس کے بعد دوسرے کھول کر پڑھنا جب مکتوب مبارک کھولا تو اس میں تحریر خاک جب تم میرے مکتوب کو پڑھنا تو پہنچتے ہانا اور مکار اور طائف کے درمیان وادیٰ نخلہ میں ہمہ نہ اور قریش کے قافلے پر کھاٹکا کر پہنچنا اور ان کے حالات سے اطلاع دینا۔ عبد اللہ بن جبش نے کہا بسر قریش، پھر اپنے ساتھیوں کو مکتوب مبارک کے مضمون سے آگاہ کیا اور بتایا وہ انھیں بجور نہیں کرتے، جو شہادت کا طلب گار ہو، وہ چل پڑے اور جو موت سے ڈنزا ہو، وہ کوٹ جائے، اور میں تو آگے قدم بڑھا رہا ہوں، چنانچہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کی سواری کا اونٹ حکم ہو گیا۔ وہ اس کی تلاش میں پچھے رہ گئے اور عبد اللہ بن جبش دور نکل گئے۔ آخر دادیٰ نخلہ میں اترے اور قریش کا قافلہ پختگش اور کھا میں اور تجارتی سامان سے کر گزرا۔ عمر بن حضرمی، عبد اللہ بن مغیرہ کے دونوں بوکے شہمان اور نوقل بن مغیرہ کا غلام حکم بن کیسان بھی اسی قافلنے میں تھے۔ سلاموں نے اپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ رجب یعنی ماہ احرام کا آخری حصہ ہے، اگر ہم نے مقاول کیا تو شہر حرام کی توہین کی۔ اور اگر آج رات انھیں چھوڑ دیا تو یہ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر مقابلے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ کسی نے عمر بن حضرمی کو تیربارا اور دہ قتل ہو گیا۔ عثمان اور حکم کو گرفتار کر لیا گیا اور نوقل بھاگ گیا۔ یہ لوگ قافلنے کا سامان اور دو قیدی لے کر حاضر خدمت ہوئے اور خس نکال کر لگ کر لیا۔ اسلام میں یہ پہلا خس اور پہلا قتل اور پہلے دونوں قیدی تھے۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے پزاری کا اعلان کیا۔ قریش اس واقعہ سے بھروس نہ ہے انھیں موقع پانچ لگ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے محمد نے شہر حرام میں (قتل)

کو جائز قرار دیا، اور مسلمانوں پر بھی اس واقعہ کا سخت اثر ہوا، آخر تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

یَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الشَّهْرِ الْحِرامِ قَاتَلُ فِيهِ قُتْلُ قَاتَلُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّقٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَكُفَّارٌ بِهِ وَالْمَسْجِدُ الْحِرامُ وَالْخِرَاجُ أَهْلُهُ مِنْهُ أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ  
مِنَ الْقَتْلِ ۝

یعنی تجوہ سے شہر حرام کے متعلق اس میں قتال کرنے کے بارہ میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اہل میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور سجد حرام (کا انکار کرنا) اور (حرام) اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ گناہ ہے۔ اور فقط قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ بات ہے جس کو تم نے منکر سمجھا، یہ اگرچہ برائی ہے لیکن تم نے اللہ کا کفر کیا۔ اس کی راہ سے اور اس کے گھر سے روکنا اور اس کے اہل، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا، نیز جس شرک پر تم قائم ہو، اور جو جو تمہاری جانب سے فتنے پا کئے گئے، یہ ساری یا تینیں شہر حرام میں قتال سے بھی زیادہ مجرمی ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور دشمنوں میں عدل و انعام سے فیصلہ فرمایا، اور اپنے دوستوں کو بھی ارتکاب خطا سے بُری قرار نہیں دیا، بلکہ بتایا کہ شہر حرام میں قتال کرنا بہر حال بڑا گناہ ہے لیکن جس پر مشرکین قائم ہیں وہ شہر حرام میں قتال کرنے سے بھی بُری اور عظیم گناہ ہے لہذا وہ مذمت اور سزا کے سبق ہیں، اور اللہ کے دوستوں نے قتال میں رنا فرمائی ہے نہیں بلکہ تاویل سے کام بیان نہ کیا ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں توحید، اطاعت اور صیانت رسول میں بحیرت کے آثار اور قربانی کے باعث معاف فرمادے گا۔

وَإِذَا الْحَبِيبُ مُتَّقِيَ بَنَابِ وَاحِدٍ جَاءَتْ عَاسِنَةٍ بِالْفَشْفِيعِ  
أَوْ رَجِبٍ دُوْسَتْ سَمِّيَ اِيكَ گَنَاهْ سَرْزَدْ ہو جاتا ہے، تو اس کے حاضر ہزار  
سَفَارِشِیں لے کر آ جاتے ہیں ۝

اس یہے انہیں ایسے مبغوض دشمن پر کس طرح قیاس کیا جا سکتا ہے جو برائی سے کر سا منے

آئے اور نیکی کی ایک سفارش نہ رکھتا ہو۔

اد را سی سال شعبان کے مہینہ میں تحویل قبلہ ہوا جس کا مفصل ذکر گزر چکا ہے۔

**ابو سفیان کی سرگردگی میں قافلہ قریش** | اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا قوبی ملی کہ ایک قافلہ ابو سفیان کی سرگردگی میں آ رہا ہے۔ اسی قافلے کی تلاش میں نکلے جب دی لوگ مکہ سے نکلے تو ان میں چالیس ادمی تھے۔ اپنے عکم دیا تھا جس کے پاس سواری ہو دہ ساتھ چلے، لیکن یہ قافلہ پکڑا نہ جا سکا کیونکہ جلدی سے فکل گیا، اور اپنے کے پاس تین سو اور دس سے کچھ زیادہ تعداد میں آدمی تھے، جن کے پاس صرف دو گھوڑے تھے جو زیرین عوام کے تھے اور مقدا بن فرس کنوی کا ایک گھوڑا تھا اور ستر اونٹ تھے، ایک اونٹ پر دو یا تین ادمی سوار ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیؑ اور مرشد بن ابی مرشد غنوی ایک اونٹ پر حضرت زید رضوان کے درکے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کتبشتہ ایک اونٹ پر سوار تھے حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ اور عبد الرحمن بن عوفؓ ایک اونٹ پر سوار تھے۔

اس موقع پر اپنے نازکی امامت اور اہل بیت کی حفاظت کے لیے حضرت ابن ام مکتوم کو خلیفہ مقرر کیا جب اپنے روما کے مقام پر پہنچے تو ابو بمار بن عبد المنذر کو واپس کیا اور انھیں مدینہ پر عامل مقرر فرمایا۔ مصعب بن علیؑ کو جنہد ام حمت فرمایا۔ نیز علی بن ابی طالب کو ایک جنہد اور درہرا ایک الفصاری سعد بن معاذ کو عطا کیا اور انھیں ایک اونٹ پر قمیں بن ابی صعده کے ہمراہ سوار کر دیا۔ جب بد رکے قرب پہنچے تو اپنے نے سیس بن عمر و عبیتی اور عدی بن رعیاد کو قافلے کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ اوھر ابو سفیان کو بھی بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اوری کی اطلاع لے چکی تھی۔ اس نے فضیم بن عمر و غفاری کو اجرت پر مکہ کی طرف بھجا تاکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ پر حملہ سے اہل مکہ پیغماد کے لیے سپتھ جائیں۔ جب اہل مکہ کو اطلاع ملی۔ تو وہ جلدی سے نکل پڑے اور ابو الحنف کے کوئی بڑا ادمی مکہ میں نہ تھہرا۔ کیونکہ اس پر کسی ادمی کا قرض نہ تھا۔ نیز دیگر قبائل عرب کو بھی اطلاع کر دی گئی بخوبی کے سوا قریش کا کوئی قبیلہ پیچے نہ رہا۔ یہ لوگ قریش کے ہمراہ نہیں نکلے۔

## انصار کی طرف آنحضرت کی نگاہ امید

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اپنے نے صحابہ سے مشورہ کیا تو ہبھارین سے اس معاملہ میں بات چیزیت کی قوانینوں نے پہنچ جواب دیا۔ پھر دبارہ بات چیزیت ہوئی پھر بھی انہوں نے اچھا جواب دیا۔ پھر تیسرا مرتبہ بات چیزیت فرمائی۔ پھر بھی انہوں نے اچھا جواب دیا۔ اس پر انصار بھجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انصار کا عندیہ ہے کہ کتنا ہے۔ پہنچنے پر حضرت سعد بن معاذ بحدی سے بڑھے اور عرض کیا:

## انصار کا ایمان افروز اور روح پرورد جواب

اسے اللہ کے رسول، گویا اپنے ہم سے مخاطب ہیں اور اپنے کا مطلب بھی بھی ہے تو گستاخ۔ کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی کہ وہ اپنے ملک میں برداشت سے بچائیں گے۔ ایسے جب اپنے نکلنے کا رادہ کیا تو اپنے نکلنے کا باطنی حالت سے آگاہی حاصل کرنا چاہی۔ پھر حضرت سعد نے مرٹ کیا کہ انصار پر جو حق ہے۔ شاید اپنے کو اندیشہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنے کی مدد ذکریں گے۔ میں انصار کی طرف سے مرٹ کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جہاں اپنے چاہیں نیزہ ماریں، جو رسمی چاریں کاٹ دیں اور جو اپنے چاہیں بورڈیں۔ ہمارے اموال سے اپنے جس قدر چاہیں لے سیں اور جو کچھ اپنے چاہیں ہیں دیں اور جس قدر اپنے ہم سے مال میں گئے وہ ہمارے پاس چھوڑ سے ہوئے مال سے پہنچ ہو گا اور جو چاہیں اپنے ہمیں حکم فرمائیں۔ ہماری ہر حرکت اپنے کے حکم کے تابع ہو گی۔ اللہ کی قسم اگر اپنے خداون کے تالاب تک جانا چاہیں تو بھی ہم اپنے کے ہمراہ ہون گے۔ اور خدا کی قسم اگر اپنے ہمیں اس سمندر میں لے چلیں تو بھی ہم اپنے کے ہمراہ اس میں غوطہ لگادیں گے۔ حضرت مقدم نے عرض کیا۔ ہم اپنے کو قوم موسیٰ کی طرح جواب نہ دیں گے کہ اذھب انت و سبک فقاتله، ناہمہتنا قاعدون، یعنی تو اور تیر پر درودگار جائے اور راؤ۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

بلکہ ہم تو اپنے کے دل میں، باہم اپنے اگے اور پیچے ہر طرف سے جنگ کریں گے دیہ باہمیں کہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھرہ چک انجما اور صحابہ کی بھی باہمیں سن کر اپنے احمد خوش ہوئے۔ اپنے نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دُو

گروہوں میں سے کسی ایک کے متعلق وعدہ کیا ہے اور میں نے قوم کا میدان جنگ دیکھا ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف پل پڑے۔ ابوسفیان ڈھلوان کی طرف چلا گیا اور ساحل منذر کے قریب جا پہنچا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ بچ گیا ہے اور قافلہ محفوظ رہا ہے تو اس نے قریش کو لکھ بھیجا کہ لوٹ جاؤ کیونکہ تم اپنے فانکے کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اب تمہیں سلامتی کی خبر مل گئی۔ یہ لوگ جنہ کے مقام پر تھے پناپچہ انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن ابو جہل، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہم واپس نہ جائیں گے بلکہ بدر پر پہنچ کر دہاں ٹھہریں گے اور اپنے ہمراہ جو عرب میں انھیں بلایں گے۔ اس کے بعد عرب ہم سے ڈریں گے۔ آخر دہ جل پڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پل پڑے آخر کار نشان کے قریب بدر کے چشمتوں کے قریب آن پہنچے۔

آپ نے فرمایا کہ منزل کہاں ہونی چاہیے؟ حضرت غبار بن منذر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اس جگہ اور اس کے قلب سے واقف ہوں۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہم اس کے قلب میں چلے جائیں۔ دہاں میلھا پانی کثرت سے پہے اور دہاں ہم انڑیوں کے اور کفار سے قبل اس پر قبضہ کر کے ان کو پانی سے محروم کر دیں گے۔ دوسری طرف مشرکین نے تیزی سے پانی کی طرف پیش قدی کی۔ آپ نے سعد اعلیٰ اور زبیرؓ کو بدر کی طرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے قریش کے دو غلام گرفتار کیے اور یہ آئئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔

پناپچہ صحابہؓ نے ان سے پوچھا کہ تم کس کے اونی ہو؟ کہنے لگے۔ ہم قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ صحابہؓ نے اسے ناپسند کیا اور تمنا کی، کہ کاش یہ ابوسفیان کے قافلنے میں سے ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے ان سے پوچھا مجھے بناو قریش کہاں ہے؟

وہ کہنے لگے کہ اس نیلے کے پیچھے۔ آپ نے پوچھا کتنی تعداد میں ہیں؟ کہنے لگے میں معلوم نہیں آپ نے پوچھا کتنے را نہ ارزان ذبح کرتے ہیں۔ کہنے لگے کسی دن نواز کسی دن دن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نو ضد سے ایک ہزار تنک ہیں۔

اس شب کو اللہ تعالیٰ نے بارش فرمادی، مشرکین کے یہے بارش مصیبت بن گئی اور انھیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور مسلمان چونکہ ریت کے نیچے پر تھے، انھیں پاک بنادیا۔ زمین کو ہمارا دریت کو بخشنے بنا دیا جس پر پاؤں جسم سکتے تھے اور صاحبِ پر کے تکوپ کوڑھا رک دی۔ پھر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبِ پرانی کی طرف بڑھے اور رات کے ایک حصہ میں اس پر اتر سے اور حوض بنایے۔

**صلادید کفار کی قتل گاہ کی نشان دہی**

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہے ایک میلے پر خیریہ لگادی گیا جہاں سے میدان جنگ خوب نظر

آتا تھا اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے بتایا،  
یہ غلاں کی قتل گاہ ہے، اور یہ غلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ غلاں کی قتل گاہ ہے اشارہ اللہ۔  
پھر اپنے آپ کی بناں ہوئی بجھوڑ سے ذرا بھی دہادھڑہ ہوا۔  
جب قریش آگے بڑھے اور دونوں شکر نظر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔  
اسے اللہ یہ قریش گھوڑوں اور عزدر و نخوت تجھ سے رونے اور تیر سے رسول کی تکذیب  
کرنے آئے ہیں۔

پھر آپ کھڑے ہو گئے اور با تھاٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا شروع کر دی۔  
اسے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کر۔ میں تیر سے وعدہ اور لمبہ  
کو دہراتا ہوں۔

حضرت صدیق نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول، خوش ہو جائیے جس کے قبفہ میں یہی  
جان ہے۔ اس کی قسم اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدہ کو ضرور پورا کرے گا۔  
اور مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی اور اپنے خشوع و خضوع سے مدد چاہی  
پھر اللہ تعالیٰ نے ملا جکہ کو دھی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس یہے ایمان والوں کو  
ثابت قدم رکھو۔ میں جلد ہی کافروں کے دلوں میں رعب دال دلوں کا اور اللہ تعالیٰ نے  
اپنے رسول کی طرف بھی دھی فرمائی کہ میں آپ کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد بھی رہا ہوں۔

**آنحضرت کا اپنے رب سے رازِ فیض** [نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے قریب نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔

ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی ستر ہوئی تاریخِ جمعہ کی رات کا یہ واقعہ ہے، جب صحیح ہولی توقیریش اپنے دوستوں کے ہمراہ سامنے آئے اور دونوں جماعتوں نے صفت بندی کی حیثیت بن حزم اور عتبہ بن رمیع نے دونوں جماعتوں میں مصالحت کی کوشش کی اور تقریش سے کہا کہ واپس پہنچ جاؤ اور جنگ نہ کرو۔ ابو جہل نے انکار کیا۔

آخر ابو جہل نے عرب بن حضرت کے بھائی کو عمر کے خون کا بدالینے کے لیے اکایا، وہ پڑایا ہے عمر... قوم رقریش اکو جوش آگی، اور لڑائی چھڑ گئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفیں درست فرمائیں اس کے بعد آپ اور ابو بکر رضی خیے کی جانب تشریف نے آئے اور انصار کی جماعت کے ہمراہ حضرت سعد بن معاذ خیے کے دروازے پر پہراہ دینے لگے۔ اتنے میں عتبہ، اس کے بھائی شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے اور مقابلے کے لیے آواز دی۔ ان کے مقابلے کے لیے انصار میں سے تین مخالف حضرت عبد اللہ بن رواہ اور عفار کے دونوں روف کے معاذ اور روف سامنے آئے۔ تقریش نے پوچھا تم کون ہو، کہنے لگے انصار ہیں۔ وہ کہنے لگے تم تشریف لوگ ہو لیکن ہم تو نبی علیم کو مقابلے میں بلاستے ہیں۔

یہ سن کر حضرت علی، عبیدہ بن حرش اور حمزہ میدان میں آگئے۔ حضرت علی نے اپنے مقابل ولید کو اور حضرت حمزہ نے اپنے مقابل عتبہ کو قتل کر دیا (ایک روایت میں شیبہ ان کا مقابل تھا) حضرت عبیدہ بن حرش زخمی ہوتے۔ حضرت علی اور حمزہ نے ان کے مقابل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے، ان کا پادل کٹ گیا تھا۔ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی اسی حالت میں وہ وفات پا گئے۔

پھر مار دھار مار دھار شروع ہوئی اور جنگ کی چکی تیز ہو گئی۔ میدان کا رزار گرم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیگز میں اور اپنے پر در دگار کے ذکر میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے شنانوں سے چادر گر گئی۔ حضرت صدیق نے اسے دبارہ ڈال دیا اور عرض کیا آپ کی

دعا ہم سن رہے ہیں۔ خدا یعنیناً اپنے سے اپنا دعو پورا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار عنودگی اگئی۔ حالت حرب میں قوم کو بھی عنودگی سی اگئی۔ اپنے نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ اور فرمایا اے ابو بکر ضخوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں۔ اللہ کی نصرت اگئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر کو نازل فرمادیا: اپنے رسول اور مومنوں کی مدد فرمائی اور مشرکین کے گز فتار کرنے اور قتل کرنے پر انہیں قدرت دی، پتنا نجح (صحابہ) نے ستر کو قتل کیا اور ستر کو گرفتار کر لیا۔

جب (قریش) انھلے تھے تو انہیں اپنے اور نبی کنانہ کے درمیان دشمنی کا خیال ہوا، پنا نجح ابلیس سراقد بن مالک مدحی کی شکل میں ان کے پاس آیا (سراقد)، نبی کنانہ کا ایک بڑا سردار تھا کہنے لگا، آج تم پر کوئی آدمی بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے ہمراہ رہوں گا تاکہ نبی کو نہ تمہیں کچھ بھی ایذا نہ دے سکیں وہ اس وعدہ پر نکل پڑے اور شیطان (صورت صراقد) انکے ہمراہ رہا اور جدا نہ ہوا۔ جب روای شروع ہوئی اور اس اللہ کے دشمن را بیس افسے اللہ کا شکر (فرشتے) دیکھا جو انسان سے نازل ہوا تھا تو ایڈیوں کے بل دہاں سے فرار ہو گیا۔

(قریش) کہنے لگے اسے سراقد اکہاں پھیلے! کیا تم نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور مفارقت اختیار نہ کروں گا! ابلیس افسے جواب دیا، میں وہ (فنون) دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔

ابیس نے جب یہ کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تو، صحیح کہا۔ لیکن جب یہ کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جھوٹ بولا ایک قول کے مطابق اسے انہیشہ ہرا کہ میں وہ بھی ان کے ہمراہ ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اور ظاہر معنی یہی معلوم ہوتا ہے۔ جب دشمن قریب ہو گیا اور جماعت (صحابہ) کی طرف بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور وعظ فرمایا، اور انہیں صبر و استقامت کی تلقین فرمائی کہ اس طرح فتح و نصرت وراللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ملے گا اور بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت واجب کر دی۔

پتنا نجح میر بن حمام کھڑا نے ہوئے اور عرض کیا،  
اسے اللہ کے رسول وہ جنت میں کی دعوت انسانوں اور زمین کے برابر ہو گی۔

اپ نے فرمایا، باں انہوں نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول بس ابیں (کافی ہے) اپ نے فرمایا، بس بس تو نے کیوں کہا؟ عرض کیا، اسے اللہ کے رسول (میرا مطلب غلط) نہ تھا بلکہ مجھے امید ہے کہ شاید میں اسی کے رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اپ نے فرمایا، ہالے تک تو ان کے رہنے والوں میں سے ہے۔ انہوں نے چند کھجوریں نکالیں اور کھانے لگئے۔ پھر کہا۔ اگر میں ان کے کھانے تک زندہ رہا تو پھر یہ دنیا کی ازندگی بہت طویل ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے باقی کھجوریں پھینک دیں اور ہباد میں مشریک ہو کر شہید ہو گئے۔ یہ پہلے شہید تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ ریزوں سے منہی بھری اور انھیں شمن کے پھر و کی طرف پھینکا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ میں مٹی نہ پڑی ہو، وہ اپنی انہوں سے مٹی نکلنے میں معروف ہو گئے اور سدان انھیں قتل کرنے میں مصروف ہو گئے نیز اس دن فرشتے کفار کو قتل کرنے میں مسلمانوں سے بھی سبقت لے جاتے تھے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک سلمان اس دن ایک مشرک کے پیچے تبریز سے ہمارا ہاتھا کہ اپانک اس نے اپنے سامنے کوڑے کی آواز سنی اور ایک سوار کی آواز اُنی بجو کپڑہ رہا تھا۔ اسے حیزدم آگے بڑھ، پھر دیکھا تو مشرک مر پڑا تھا۔ غور سے ہو دیکھا تو کوڑے کی ضرب سے اس کی ٹاک ٹوٹ پیکی تھی اور پھر سے کا ایک حصہ پھٹ گیا تھا۔ یہ واقعہ سب کے سامنے لا یا گیا تو ایک انصاری نے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرا سنایا۔ اپ نے فرمایا، تو نے پچ کہا یہ تمہرے سے اسماں سے مدد آتی تھی۔

ابوداؤد حاذنی فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچے بڑھ رہا تھا تاکہ اس کا سر قلم کر دوں، اپانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے قبل ہی جدا ہو کر گر گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اسے میرے ہوا کسی دوسرے نے قتل کیا ہے۔

عباس بن عبدالمطلب کی گرفتاری ایک انصاری عباس بن عبدالمطلب کو گرفتار

اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا بلکہ مجھے تو ایک انتہا خوبصورت آدمی نے گرفتار کیا جو ابنی گھوڑے پر سوار تھا اور اب وہ نظر نہیں آتا۔ انصاری فرمائے گے کہ اے اللہ کے رسول میں نے انھیں گرفتار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہ جو اللہ تعالیٰ نے اچھے فرشتے کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے۔ نبی عبدالمطلب سے تین آدمی عباں، نونل اور شیل گرفتار ہو گئے جب رواں فتحم ہو گئی اور قریش شکست کھا کر بھاگ کھرے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا ہنا؟ حضرت ابن مسعود گئے اور گراہواد کیجا۔ عضراو کے دونوں رُکوں (معزز و معاذ) نے اسے مارا تھا۔ آخر مر گیا۔ ز ابن مسعود نے اس کی دارا ہی پکڑی اور پوچھا تو ابو جہل ہے؛ وہ کہنے لگا کہ آج کس کی فتح ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کو فتح حاصل ہوئی اور اے اللہ کے دشمن اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ وہ بولا اور کیا ایسے آدمی پر کہ بس کی قوم نے اسے قتل کیا؟ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے اسے قتل کر دیا اور راس کا سر انہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رے آئے اور عرض کیا۔ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی مبعود نہیں۔ آپ نے تین بار یہ کلام دہرا�ا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر سب تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے اپنا وعدہ پچھے کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تنہار دشمن اسکی جماعت کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے دکھائیں میں نے آپ کو راس کی لاش بے سرا دکھایا۔ آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اسی روز حضرت عکاشہ بن محسن کی توارث گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک خشک ہنسی عطا فرمائی اور فرمایا، اس سے رکام کرو۔ جب حضرت عکاشہ نے اسے پکڑ کر ہلا کا تو ری ہنسی (ایک طویل انتہائی سفید توارب گئی)۔ یہ صحابی ہمدیہ اس سے جہاد کرتے رہے۔ آخر کار ابو جہل کی خلافت میں نہنہ ارتاد کے موقع پر شبیہ ہو گئے۔

حضرت زیر نے عییدہ بن سعید بن عاص کو دیکھا، وہ تھیاروں میں غرق تھا اور اس کی صرف انکھیں نظر آتی تھیں۔ حضرت زیر نے اپنا حربہ اس کی انکھوں میں گھونپ دیا اور وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے اپنا پاؤں حربہ پر رکھا اور اسے کھینچا اسے کھینچتے ہوئے انہیں

کافی زور لگانا پڑا اور اس کی ایک طرف دہری ہو گئی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حریر طلب فرمایا، انھیں سنھیش کر دیا۔ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو انھوں نے پھر اس سے واپس ہے لیا۔ پھر ابو بکرؓ نے ان سے مانگ لیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو عضت عرض نے ہے لیا۔ جب حضرت عمرؓ کا انتقال ہوا تو پھر رزیرؓ نے واپس ہے لیا، اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے ہے لیا۔ جب حضرت عثمانؓ کا انتقال ہوا تو یہ حریر آل علیؓ کے پاس آگئی، چنانچہ عبد اللہ بن زیرؓ نے ان سے ہے لیا اور شہادت تک ان کے پاس ہی رہا۔

حضرت رفاعة بن رافع فرماتے ہیں کہ بد رکے دن میں نے تیر مارا تو میری الجھ پھروٹ گئی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عاب سبارک لگایا پھر مجھے کچھ بھی تکلیف نہ دی۔ جب جنگ شتم ہو گئی تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم مفتولوں کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تم بد تین خاندان ہو۔ تم تھے جن کی طرف میں بن کر مبجوت ہما۔ اور تم نے میری تکنڈیب کی اور دوسرے لوگوں نے میری مدد کی۔ تم نے مجھے لکال دیا، اور دوسرے لوگوں نے مجھے بجکھ دی۔

پھر اپ نے بد رکے کنوؤں میں سے ایک دیران کنویں کی طرف انھیں گھیٹا اور اس میں انھیں بھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آپؐ کھڑے ہو کر کر نام ہے لے کر فرمانے لگے۔ اسے عقبہ بن ریمہ، اسے شیبہ بن ریمہ۔ اسے غلام اسے غلام کیا تھا نے پالیا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؛ بالآخر میں نے حق پالیا، جو مجھ سے میرے پر درگار نے وعدہ کیا تھا۔

حضرت عمر نے عرض کیا، اسے اللہ کے رسول اپؐ ایک مردہ قوم سے مخاطب ہیں! آپ نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے امیں جوان سے کہہ دہا ہوں، وہ کلام تم ان سے زیادہ نہیں کر رہے یکن وہ جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ آپ اس علاقے میں تین دن تھہرے رہے اور آپ جب بھی کسی قوم پر حملہ کرتے تو آپ وہاں تین دن تھہرا کرتے۔ اس کے بعد آپ فاتح اور اللہ کی مدد سے خوش خشم

واپس تشریف لاتے۔ آپ کے ہمراہ قیدی اور مال غنیمت ہوتا۔ جب آپ صفراء پر پہنچے تو علام کو تقیم فرمایا، اور نفرین حضرت بن کلاہ کی گردن ماروی۔ پھر آپ عرق الطبلیہ اتر سے اور عقبہ بن ابی میظط کی گردن مار دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور منصور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ آپ تو مدینہ اور اس کے ارد گرد کا ہر دشمن آپ سے درنے لگا۔ نیز مدینہ کے متعدد لوگ علقو اسلام میں داخل ہوئے۔ عبد اللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی بھی اسی وقت ظاہری طور پر مسلمان ہوئے۔ غزوہ بدر میں تین سو دس سے کچھ زیادہ مخالف شرکیں ہوئے۔ ترا سمی ہبہ بھیں ماکھھر اوس قبیلہ کے۔ ایک سو ستر بخ غزرہ کے تھے۔ اوس کی تعداد غزرہ سے کم تھی۔ اگر پھر یہ قبیلہ زیادہ قوی، اور صاحب شوکت تھا، اور روانی میں مستقل مزاج تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے گھر مدینہ سے باہر تھے اور جنگ کا بلا و آپا نک آگیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینہ میں غزوہ بدر اور اس کے گرفتار شدگان سے نارغ ہوئے۔

---

# غزوہ سویق

## دشمن اسلام یہودی سردار کعب بن اشرف کا قتل

**غزوہ سویق** جب مشرکین کا گردہ ذیل، رسول اور غزوہ حالت میں واپس گیا تو اب  
سفیان نے نذر مانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنگ کیے بغیر سربر  
پانی نہ ڈالوں گا، چنانچہ دوسو سواروں کے ہمراہ مکلا اور مدینہ کے ایک جانب میدان میں آیا،  
وہاں ایک یہودی سلام بن شکم کے پاس رات بگزاری۔ اس نے اسے خراب پلانی اور لوگوں  
سے بہرہ شیدہ رکھا۔ جب صحیح ہوئی تو اس نے کھجور کے چند درخت کاٹ دیے۔ ایک  
انصاری اور ایک ان کے جیف کو قتل کر دیا۔ پھر واپس بھاگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  
بھی اس کی نذر مانی۔ اس کی تلاش میں قشیریف ہے گئے، اور قرقۃ الکدر تک پہنچے، لیکن  
ابو سفیان بھاگ چکا تھا۔ زادراہ کی کثرت کے باعث کفار نے کافی مقدار میں ستونیک  
ڈیئے۔ مسلمانوں نے وہ ستونیک ڈیئے۔ اس طرح اس کا نام ہی غزوہ سویق پڑ گیا یہ  
واقعہ غزوہ بدر کے دو ماہ بعد پیش آیا۔

**کعب بن اشرف کے واقعہ کی تفصیل** اب کعب بن اشرف کا واقعہ بیان ہوتا  
ہے، اس یہودی کی مان بخونپیر سے  
تعلق رکھتی تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف و اذیت کا موجب تھا اپنے  
اشعار میں صحابہ کی ازواج سے تشیب کیا کرتا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو یہ مکہ کیا اور رسول  
الله صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے خلاف راہل مکہ کو بھڑکانے لگا، پھر مدینہ لوٹ آیا  
اور ایسی ہی حرکتیں کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا خاتمه

کون کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ محمد بن مسلم، عباد بن بشیر، ابو نائل جس کا نام سلکان بن سلامہ تھا، اور یہ کعب کے رضا جی بھائی تھے۔ حربت بن اوس اور ابو عبس بن جرنیار ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ اسے گھات سے قتل کر دیں۔

یہ لوگ رات کو جب پانچ فی مکمل ہوئی تھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیعن غرقتک ساتھ تشریف سے جا کر انہیں رخصت کیا۔ جب وہاں پہنچے تو سلکان بن سلامہ کو اس کے پاس بھیجا وہ بظاہر رسول اللہ سے منحر ہو کر، اور اس کے دم ساز بن کر پہنچے۔ اور آپ کے بارے میں شکایتی الناظر کہے۔ نیز کہا کہ یہ اسلامی رہنما دکھلواد دیرے افقار کے کافی نے کا بند و سست کرو، اس نے قبول کر لیا۔

سلکان اپنے ساتھیوں کے پاس داہی آئے، انھیں ساتھ لے آئے۔ وہ اپنے قلعے سے باہر نکلا یہ فوراً اس پر پل پڑے اور تکوار کی نوک پر رکھ لیا۔ محمد بن مسلم نے اسے تلق کر دیا، زخمی ہو کر یہ دشمن خدا از در سے چینا، جس سے ہر چیز اڑاف ایک داشت کی پیصل گئی۔ ان لوگوں نے آگ بلانی اور دندگانی۔ آخر یہ دمحا بر انہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب کے آخری حصے میں حاضر ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حربت بن اوس اپنے کسی ساتھی کی تکوار سے زخمی ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک زخم پر لگا دیا، وہ فوراً ہی محنت یا ب ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی عہد شکنی اور خدا اور رسول سے جنگ آزمائی کے باعث ان کے قتل کی اجازت دے دی۔

---

# غزوہ احمد

## تاریخ اسلام کی اہم ترین اور فیصلہ کن جنگ

**ابوسفیان کی اسلام شنبنی** ابوبکر اللہ تعالیٰ نے اشراف قریش کو بدر کے سورت پر قتل کر دیا اور انھیں سابق مواتع کی نسبت پہت زیاد نقصان اٹھاتا پڑا تو ان کا رئیس ابوسفیان بن حرب تھا، یہی تھا جس نے انھیں بھیجا تھا، وہ غزوہ سویں میں بھی یہ خود آیا تھا، اور خاطر غواہ کا میاںی حاصل نہ کرنے سکنے پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلموں کے خلاف بوجوں کو اسکا یاکرنا تھا، آخر کار اس نے تین ہزار کی تعداد میں فوج مرتب کر لی جس میں قریش اس کے علیف اور دیگر گروہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ اپنی عورتوں کو ساتھ رے آئئے تاکہ عار کے خوف سے فرار نہ ہو سکیں، اس کے بعد یہ شکر مدینہ کی طرف پل پڑے۔ علینین کے مقام پر احمد پیہاڑ کے قریب اترا۔ یہ داقعہ بھرت کے تیرے سال شوال کے ہمینہ میں پیش آیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آیا مقابلہ میں مدینہ سے باہر نکلیں یا مدینہ میں ٹھہریں؟ اپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جائیں اور یہیں تلعہ بند ہوں۔ اگر وہ شہر میں داخل ہو جائیں تو مسلمان ان سے لگبھوں میں مقابلہ کریں اور عورتوں چھٹوں پر سے۔ عبد اللہ بن ابی نے اس رائے کی تائید کی۔ کمار صحابہ کی ایک جماعت جو بدر میں شریک نہ ہو سکی تھی، انہوں نے باہر نکلنے کا مشورہ دیا اور اس پر اصرار کیا۔

عبد اللہ بن ابی نے مدینہ میں ہی ٹھہر نے کا اشارہ کیا۔ اپ کی رائے بھی مدینہ کے متلوں تھی، اس یہے بعض صحابہ نے اپ کی تائید کی۔ بخشش بخت اکثر اپ انہوں کو گھر میں تشریف

لے گئے اور سلاح جنگ زیب ثق فرما کر باہر تشریف لائے۔  
اب صحابہ نے عرض کیا اسے اللہ کے رسول اکابر مدینہ میں ٹھہرنا پسند فرمائیں تو ایسا  
ہی کر لیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو مناسب نہیں کہ جب وہ بہاسی رجہا دا  
پہنچ لے تو پھر رہنمایا اتار دے جب تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے  
درمیان فیصلہ نہ کر دے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار صحابہ کے ہمراہ باہر تشریف لائے۔ اور جو  
لوگ مدینہ میں رہ گئے ان کی امامت کے لیے آپ نے ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ نبی  
صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن باہر نکلے۔ جب آپ مدینہ اور احد کے درمیان پہنچے تو  
عبد اللہ بن ابی (منافق) اشکر کا تیر احمد سے کراں گکیا، اور کہنے لگا، تم میری مخالفت  
کرتے ہو اور میرے سواد و سر دل کی ہاتھ سنتے ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہروی جاری رکھی اور وادی کے ایک کنارے احد کے  
ایک حصہ میں اترے آپ نے احد کی طرف پشت کی اور بلا اجازت لوگوں کو جنگ  
خروع کرنے سے منع فرمایا۔

**مسلمانوں کی صفائی اور جنگی تیاری** | جب ہفتے کے دن کی صبح آئی توریانی کی  
تھے جن بیکدیچاں سوار تھے۔ آپ نے پیاس تیراندازوں پر عبد اللہ بن جبیر کو امیر بنایا۔ انہیں  
اور ان کے رفقاء کو حکم دیا کہ مرکز سے چھٹے رہیں۔ اور اس سے ہرگز جدا نہ ہوں۔ اگرچہ پرانوں  
کو دیکھیں کہ وہ اشکر کو کھائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ فوج کے چھپے کی جانب متین تھے۔  
آپ نے انہیں حکم دیا کہ مشہر کیون کو تیروں سے روکے رکھیں تاکہ چھپے کی جانب سے  
مسلمانوں پر حملہ نہ ہو سکے۔ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زریں پہنچتے تھے۔ آپ نے  
مسعف بن عییر کو جنڈا عطا فرمایا۔ نیز آپ نے زیر بن عوام کو ایک بجائب اور منذر بن عمر دو  
کو دوسرا بجائب امیر بنایا۔ اسی روز ایسے نوجوان بھی حاضر ہوئے۔ آپ نے جنہیں کہاں

خیال فرمایا اس لیے موادیا۔ عبد اللہ بن عمر۔ اسامہ بن زید۔ اسید بن ظہیر۔ برا بن عازب  
 زید بن ارقم۔ زید بن ثابت۔ عرابہ بن اوس اور عمر بن حزام رضی اللہ عنہم انہی میں سے تھے  
 اور جنہیں قدر سے تو انہیں اجازت دے دی۔ سمرة بن جذب۔ رافع بن خذب  
 انہیں میں سے تھے۔ ان دونوں کی عمر پندرہ سال کی تھیں۔ ایک قول یہ ہے  
 کہ جس کی عمر پندرہ سال کی تھی اسے آپ نے اجازت دے دی، اور جس کی عمر اس سے  
 کم تھی اسے دلپس کر دیا اور اس روز مسلمانوں کا شعار امت امت تھا پھنانچہ ابتدائے  
 دن میں مسلمانوں کو کفار پر فتح حاصل ہوئی اور کفار فرار ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی عورتوں کے  
 پاس جا پہنچے۔ جب تیراندازوں نے رکفار کی شکست دیکھی تو اپنی جگہ چھوڑ دی جہاں  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معین فرمایا تھا اور کہنے لگے (پیغمبر) غیبت انیمت  
 ان کے امیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد یاد دلایا لیکن انہوں نے ذہناً اور  
 سمجھ کہ مشرکین بھاگ چکے پھنانچہ سرحد غالی چھوڑ کر مالِ غیبت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔  
 مشرکین نے سواردیں کو دیکھا کہ سرحد غالی ہے، وہ تیزی سے آگے بڑھے اور مسلمانوں  
 کا احاطہ کر لیا اس کے بعد صحابہؓ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے نوازا۔ صحابہ کے ہٹ جانے  
 کے باعث مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اور آپ کا چہرہ انور زخمی کر  
 دیا، اور آپ کا ایک دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ پر پھر بر سارے یہاں تک کہ  
 آپ ابو عامر کے ساتھ ایک گڑھے میں گر گئے جو اس نے مسلمانوں کے پیے کھود رکھے  
 تھے۔ حضرت علیؓ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا اور طلحہ بن عبد اللہ نے آپ کو  
 اپنے جسم کی اڈت میں کر لیا۔ حضرت مصعبؓ بن عمير آپ کے سامنے شہید ہو گئے۔  
 آپ نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو جھنڈا دے دیا۔ آہنی خود کے دو علقے آپ کے خسار  
 میں چھو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے انہیں نکالا۔ انہی زخموں کے باعث آپ کے دو اونٹ  
 شہید ہو گئے۔ ابوسعید حذری کے والد مالک بن سنان نے آپ کے رفسار سے بہتے  
 ہوئے خون کو چھو سی لیا۔

بشرکین نے خیال کیا کہ اب ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ

تنا نے حاصل نہیں۔ چنانچہ دم کے قریب مسلمان بیچ میں آگئے۔ آخر وہ شہید ہو گئے..... پھر حضرت عللو نے ان سے مقابلہ کیا اور مشرکوں کو اپنے سے دور ہشادیا۔ حضرت ابو وجہان اپنی پشت کنار کی طرف کر کے اپنے کے بیسے ڈھال بن گئے۔ ان پر تیر بری، ابھے تھے اور وہ دہان سے ہٹتے نہ تھے۔ حضرت قتادہ بن نعیان کی آنکھ میں بجوت تک گئی انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا گیا۔ اپنے نے اپنے دست مبارک سے اپنی جگہ پر نوما دیا، اب وہ دونوں میں سے زیارتِ محنت میں انکھ بن گئی۔

جگہ کی گہما گہما میں شیطان پیغما کو مدد قتل ہو گیا۔ میں نوں پر محنت مرا سیکلی طاری ہو گئی، بڑی تعداد میں وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ انس بن نفر ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو ہاتھ توڑے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کس بات کا استقرار کر رہے ہو؟

کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے۔

انہوں نے کہا تو پھر اپنے بعد تم زندگی سے کیا لو گے، ادا ٹھوہر پر اپنے نے دفات پائی تھی موت کو راس پر انخوش آمدیہ کہو۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت سعد بن معاف سے طاقتات ہوئی۔ ان سے کہنے لگے، اے سعد میں احادیث سے درسے ہی سے جنnt کی خوشبو پاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور شہادت کے بعد دیکھا گیا اتوان کے بدن پر زخم کے ستر نشانات تھے۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف نے قریباً بیس زخم کھائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف تشریف لائے تو سب سے پہلے کعب بن حاک نے خود کے نیچے سے اپنے کریمہ جانہ اور زور سے آوازی، اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اپنے نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ ”خاموش رہو“، مسلمان اپنے کے پاس جمع ہو گئے اور جس شعب رکھا گیا میں اپنے اتر سے وہیں عام مسلمان بھی آگئے۔ دہان ابو بکر اور عمر بن علی اور عروث بن محمد النصاری دیگرہ بھی موجود تھے۔

## ایک دشمن رسول کی درگت

ابن علیہ وسلم اس سے قتل کر دیں گے۔ جب آپ اس کے قریب آئے تو سرت بن صحہ سے جوہ لیا اور اس سے مارا۔ اس کی گردان میں زخم ہوا اور اللہ کا دشمن شکست کھا کر بھاگا۔ مشترکین نے اس سے کہا۔ نہ اکی قسم تھے کچھ نہیں ہوا۔

اس نے جواب دیا کہ میں تدریجی تکلیف ہے اگر ذمی مجاز والوں کو اتنی تکلیف ہوتی تو تمام مر جاتے۔ واقعہ یوں ہے اکر یہ مک میں گھوڑا چرار ہاتھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس پر سوار پر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکو قتل کروں گا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو آپ نے فرمایا، بلکہ انشاء اللہ میں اس سے قتل کروں گا۔ آپ نے جب اسے مارا تو والہ کے دشمن کو دہی بات یاد کی کہ میں اس سے قتل کر دیں گا۔ اسے تقین ہو گیا کہ اس زخم سے ضرور مر جائے گا، چنانچہ وہ مک کی طرف واپس آتے ہوئے صرف کے مقام پر مر گیا۔

حضرت عتلہ اس معرکہ میں شہید ہو گئے۔ یہ حالتِ جنابت میں تھے کیونکہ جب انہوں نے آواز سنی تو اس وقت اپنی بیوی سے مشغول تھے، اسی وقت اُنھے اور جہاد میں اُکسر شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو خبر دی کہ انھیں فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معلوم کرو کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کی بیوی سے صحابہؓ نے دریافت کیا تو انہوں نے اصل واقعہ بتا دیا، پھنانچہ فقاد نے اسے اس بات کی دلیل قرار دے دیا ہے کہ اگر حالتِ جنابت میں کوئی شہید ہو جائے تو فرشتوں کی اقدام کے باعث اسے غسل دیا جائے۔ جب لڑائی تھی تو ابو سفیان نے پہاڑ پر پڑھ کر آواز دی، کیا تم میں محمد ہے؟ انہوں نے کچھ نہ جواب دیا۔ پھر کہنے لگا کیا تم میں ابن ابی قحافہ را بوجرم ہے؟ اس پر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا، پونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام انہی حضرات کے باعث طاقت و رہے اس پر اپنی کے متعلق دریافت کیا پھر ابو سفیان اکہنے لگا، ان سب کا تو کام تمام ہو گیا۔

ابوسفیان کے تعروں کا جواب حضرت عمر سے نذر یا گیا، فرمایا، اور شکن خدا! جن  
کا تو نے ذکر کیا ہے دہ سب زندہ ہیں اور اللہ  
تعالیٰ نے مجھے ایسا دینے کے لیے انھیں بالی رکھا ہے۔

اس کے بعد (ابوسفیان) چلا یا اسے میل اور پچارہ (اعلیٰ ہیل)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کا جواب نہ در گے؟ عرف کیا گیا، کیا کہیں!  
آپ نے فرمایا۔ کہو اللہ سب سے ادنچا اور بڑا ہے (اللہ اعلیٰ داخل اپر وہ (ابوسفیان))  
کہنے لگا ہمارے پاس عزیزی رائیک بنت کا نام جس کو یاد کر کے وہ بزم خوشیش عزت حاصل  
کرتے اب ہے اور تمہارے پاس عزیزی نہیں (لنا العزیز ولعزمی لکم) آپ نے فرمایا کیا  
تم اس کا جواب نہ در گے؟ عرف کیا گیا، ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا اقا اللہ ہے اور  
تمہارا کوئی آثار مولا نہیں (الله مولانا ولا مولا نکم)

اس کے بعد ابوسفیان کہنے لگا، بدرا کے دن کا یہ بدلا ہے اور جنگ کے بعد  
میں رہا ریت ابھوتی رہا رہتی ہے۔

حضرت عمرؓ نے جواب دیا، نہیں یہ بات نہیں بلکہ ہمارے مقتول جنت میں ہیں  
اور تمہارے مقتول جسم میں۔

غزوہ احد میں بھی طائفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیا پہنچا پوچھیں میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کیا، فرمایا کہ میں نے احد کے دن  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے ہمراہ دو ارمی تماں میں شریک تھے جن پر از حد سفید  
کپڑے تھے۔ اس سے پہلے اور بعد میں میں نے انھیں کبھی نہیں دیکھا اور صحیحین میں ابی  
حازمؓ سے مروی ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے متعلق پوچھا گیا۔ انھوں  
نے کہا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون دھورتا  
کوں پانی بہارتا تھا اور دعا کیا کی گئی۔

حضرت فاطمہ زخم کو دھورتی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب پانی دال رہے تھے۔  
جب حضرت فاطمہؓ نے دیکھا نون زیادہ نکل رہا ہے تو انھوں نے پھٹائی کا ایک مٹکڑا جلا یا

اور زخم میں رکھا جس سے خون رک گیا۔

حضرت اُنس نے کہا اسے سعد جنت کی خوشبو آرہا ہے۔ میں احمد سے درے ہی عسوی کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ سید ان میں پلے۔ گئے اور بہاد شروع کیا۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کی لاش بیجاں نجاتی چاہی۔ ان کی ہشیر نے انگل کے پوروں سے بچانا اور ان پر نیز سے تواروں اور تیروں کے اشی سے زیادہ نشان تھے۔

مشرکین ابتدائے دن میں ہی شکست کھا گئے۔ ابلیس چینا، اسے اللہ کے بندوں اللہ تھیں رسول کرے۔ شکست سے واپس آر اور بٹنگ کر د۔

حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلم ان کے والد کو مشرکین کا آدمی سمجھ کر قتل کرنے لگے ہیں انہوں نے آواز دی، اللہ کے بندوں یہ میرے والد ہیں وہ ان کا کلام نہ سمجھے اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا، اللہ تھیں بختے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیت دینا چاہی انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان کی دیت مسلمانوں کو معاف کر دی اس واقعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حذیفہ کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔

حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد کے روز مجھے سعد بن ربيع کی تلاش میں بھیجا، فرمایا کہ اگر تو انہیں دیکھے تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ دریافت فرمائے تھے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں مقتولوں میں پھر نے لگا۔ آخر میں رَسُدُّ کے پاس آیا ان کا دم بھوں پر تھا، نیزوں، تواروں اور تیروں کے بدن پر نشانات تھے۔

میں نے کہا اسے سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور دریافت فرمایا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، ان سے مرفی کرنا، اسے اللہ کے رسول میں جنت کی خوشبو پار رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں ایک بھیکنے والی آنکھ بھی باقی

ہوئی تو یاد رکھراللہ کے ان تہارا کوئی عذر نہ جانے گا۔ اس کے فوراً بعد ان کی روح پر واز کر لئی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر بن حزام فرماتے ہیں، میں نے احمد سے قبل مبشرین عبد المندر کو نواب میں دیکھا، کہنے لگے چند ہی روز میں تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔

میں نے پوچھا اور تم کہاں ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم جنت میں ہیں ہمارا جہاں دل پھاہتا ہے سیر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ بدر کے غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ انھوں نے نزایا باں! پھر مجھے دربارہ زندہ کیا گیا۔ رادی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا اے ابو جابر یہ گواہی ہے۔

اللہ کا دشمن ابی بن خلف نوہے میں ڈوبایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر محمد پنج رہاؤ میں نہ بخ سکوں گا کیونکہ اس نے مکہ میں حلف اٹھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رثوفود بالله (تسلی) کر دے گا۔ مصعب بن عمير سامنے آئے اور مصعب شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ اور بقیہ کے درمیان گردن پر جگد دیکھی۔ آپ نے اس جگہ حریہ مارا اور وہ گھوڑے پر سے گرپڑا۔ اس کے دوستوں نے اسے اٹھایا۔ اور پیل کی طرح خروا رہا تھا اس کے ساتھی اکہنے لگے، یہ ذرا ساز خم ہے، پھر بھی تو اتنی بے صبری دکھارا ہے! اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آگیا میں انشاء اللہ اسے قتل کر دیں گا۔ پھر پنج رابع میں جا کر مر گیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رات کے ایک حصہ میں میں وادی رابع میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی۔ میں ادھر گیا، دیکھا تو ایک آدمی ایک زنجیر گھیستا ہوا اس میں سے نکل رہا ہے اور پیاس پیاس پیخ رہا ہے اور ایک آدمی بھی نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ اسے پانی نہ پلانا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ یہ اب بن خلف ہے۔

**یوم احمد ابتلاء اور امتحان کا دن تھا** زہری۔ عاصم بن عمر اور محمد بن سیمی بن جبان وغیرہ فرماتے ہیں کہ یوم احمد ابتلاء و امتحان کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن مومنین کو آزمایا اور منافقین کو عریاں کر دیا، جو محض زبان سے

اٹھا را سلام کیا کرتے تھے، اور دل میں کفر چسپا رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے درستوں میں سے جسے چاہا شہادت کے اکرام سے فواز۔ نیز احمد کے دن قرآن کی سورہ آل عمران کی ساتھ آیات نازل ہوئیں جن کی ابتداء اس آیات سے ہوتی ہے واذ غدا و  
من اهلك تبوی المؤمنین مقاعد للقتال۔ آخر تک۔

**احد کا غزوہ کی احکام و قواعد فقیہہ پر مشتمل ہے** | ایک یہ کہ بدب جہاد کا آغاز ہو جائے اور اسلام پر اسے اٹھانے کا اعزام کر لیا جائے تو دن سے بہنگ بیکے بغیر واپس نہ ہونا چاہیے۔

(۲) دوسرے شکرے کران زمینوں سے گزرنا جو کہ راہ میں پڑیں اگرچہ مالک راضی نہ ہو رہا شرطیکہ اس کے بغیر چارہ کا رہ نہ ہو۔

(۳) تیسرا جو بچے بانج نہ ہوں اور جنگ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں واپس کر دینا۔  
(۴) نیز اگر امام کو زخم آجائے تو وہ پیٹھ کر نماز پڑھائے اور اس کے پیچے سب پیٹھ کر نماز پڑھیں جیسا اس غزوہ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وفات تک آپ کیہ سنت بخاری رہی۔

(۵) نیز اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو قتل کر دے تو وہ اہل نار میں سے ہو گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمان کے متعلق فرمایا بدب کہ احمد کے دن اسے سخت ترین ابتلاء میں ڈالا گیا۔ جب اسے شدت سے تکلیف محسوس ہو تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل نار میں سے ہے۔

(۶) نیز شہید کے متعلق سنت یہ ہے کہ اسے غسل نہ دیا جائے۔ زاس کا جنازہ پڑھا جائے اور جو کپڑے پہنے ہواں کے علاوہ دوسرے کپڑوں کا اسے کفن بھی نہ پہنایا جائے بلکہ انہی کپڑوں میں اس کے زخم اور نخون کے بہراں اسے دفن کیا جائے۔ باں اگر اس کا بیس (دشمنوں) نے چین بیا ہو تو دوسرا کفن دیا جا سکتا ہے۔

(۷) نیز اگر حالتِ جنابت میں شہادت ہو جائے تو غسل دیا جائے، جیسا مانگنے سے منتظر بن ابی عامر کو غسل دیا۔

۸۔ اور شہیدا کے مقام میں مسنون یہ ہے کہ انھیں میدان جنگ میں ہی دفن کیا جائے اور دوسرے مقام پر منتقل نہ کیا جائے کیونکہ صحابہؓ کی ایک جماعت نے اپنے م Estoں کو مدینہ میں منتقل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کرنے والے نے منادی کی رائیں میدان جنگ میں واپس لوٹا دیا جاتے۔

۹۔ نیز ایک قبر میں دو یا تین شہیدا کو بھی دفن کرنا جائز ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں دو یا تین کو بھی دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن حرام اور عمر بن جموج کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ دنیا میں ان کی آپس میں بہت محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں دونوں محبت کرنے والے کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ پھر ایک طویل زمانے کے بعد ان کی قبر کھو ری گئی تو عبد اللہ بن عمر و بن حرام کا باخڑا سی طرح اپنے زخم پر نخا جیسے انھوں نے زندگی میں اس پر رکھا تھا۔ ان کا باخڑ زخم سے ہٹایا گیا تو فوراً انہوں ابلجتے رکا۔ اس پر ان کا باخڑ پھر اسی جگہ لوٹا دیا گیا اور انہوں نکل گیا۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو قبر میں دیکھا؟ کہنے لگے انھیں ایک طرف کی چادر میں دفن کیا گیا نخا جو پھرے پر اس کی اور پاؤں پر حرمل رکے پودے اڈال دیئے گئے۔ ہم نے چادر کو اس طرح دیکھا اور حمل بھی ان کے پاؤں پر حسب سابق موجود تھی۔ اور ان کے دفن (ہونے سے اب تک چھیالیں برس گز رکھے تھے۔

۱۰۔ نیز اگر مسلمان کسی اپنے ادمی کو غلطی اسے قتل کر دیں قوام پر بیت الماء سے دیت دینا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عذیفؓ کے والد کی دیت دینی چاہی گو حضرت عذیفؓ نے دیت پیلنے سے احتراز کیا اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔

۱۱۔ موت کی تمنا جائز نہیں گو میدان جنگ میں دشمن سے لڑتے ہوئے حصول شہادت کی تمنا جائز ہے۔

**غزوہ احد میں حکم و غایات محمودہ**

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان پر رشتنی دالی ہے، وَإِذْنَهُ وَذَرَ مِنْ أَهْلِكَ تَبُوی

اً مُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَتَالِ الخ ان ساختہ آیات میں قصہ بیان فرمایا اور انھیں معصیت تفرقہ و انتلاف

کے انجام بدر سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جو گزندان خیں پہنچا وہ اسی وجہ سے تھا۔ پھر بتایا کہ تمہیں ان سے پھیر دیا، تاکہ تمہیں آزمائے اور اب تمہیں معاف بھی کر دیا ہے چونکہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور اختلاف و افتراق کا نتیجہ دیکھ لیا تھا اس یہ سے اب اساب خذلان سے خوب واقف اور متینہ ہو کر اس سے انتہاز و اجتناب کرنے لگے۔

نیز یہ فائدہ ہوا کہ مومن صارق اور منافق کا ذب میں امتیاز ہو گیا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا اور ان کی آواز بلند ہو گئی تو ظاہری طور پر اسلام میں ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے جو بالآخر میں مسلمان نہ تھے۔ اس یہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اپنے بندوں پر ایک مصیبت اور محنت ڈال دے تاکہ مومن اور منافق میں فرق آجائے۔ پھر اس غزوہ راحد میں منافقین نے سراہیا یا جو کچھ پھیسا رہے تھے منہ پرے آئے اور نفاق کھل کر ظاہر ہو گیا اور لوگ علانیہ کافر مومن اور منافق تین گروہوں میں بٹ گئے اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے گھروں میں بھی انکے دشمن موجود ہیں، جو ان کے ہمراہ رہتے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوتے۔ پھر ان کے مقابلے کے یہے مستعد ہو گئے اور ان سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے لگے۔

نیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہادت اولیاء اللہ کے اعلیٰ مراتب کی علامت ہے۔ شہدار اس کے خواض و مقریبین میں شامل ہوتے ہیں۔ درجہ صدقیت کے بعد شہادت کا ہی درجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے شہداء کا انتخاب فرمائے۔ جو اس کی محبت و رضا کی خاطر نہون بہائیں اور اس کی محبت و رضا کو اپنی جان پر بھی فو قیت دیں۔ اور اس سعادت عظیم کا مصلوں کا طریق صرف یہی ہے کہ انھیں دشمن کے تسلط میں دیا جائے تاکہ اساب مقدارہ کے باعث وہ درجہ شہادت حاصل کریں۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے شمنوں کو ہلاک کرنے کا قصد فرمایا تو ان کے

یہے ایسے اساب ہیا کر دیے جو ان کی ہلاکت دبر بادی پر منتج ہوں۔ اور سب سے بڑا جرم یا سبب ان کا کفر و بغاوت و طغیان اور اللہ کے اولیاء کو ازحد ایذا دینا اور ان سے مقاومت کی رہے۔ ان کے گناہ و عیوب کے باعث اپنے اولیاء کو ان پر ظاہر

فرمادیا اور اس سے اللہ کے شہنوں کے اسباب بلاکت میں اضافہ ہوا۔  
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر فرمایا:

فَلَا يَقْهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَإِنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسِكُ رَجُحٌ فَقْدَ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مُّثْلِثٌ وَتِلْكُثٌ إِلَّا وَيَأْمُرُنَا إِلَيْهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ رَبُّهُمُ اللَّهُ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُونَ مِنْكُمْ شَهِيدًا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيَمْحَصَ اللَّهُ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَحِقَّ الْكَافِرُونَ۔

یعنی کمزد دنہ اور تم نہ کرو۔ اگر تم موں ہو۔ تو تم سبند ہو اگر تم کو تکلیف پہنچی تو اس طرح (دوسرا) قوم کو بھی تکلیف پہنچی اور ہم لوگوں میں دنوں کو بدلتے رہتے ہیں میں تناکہ ان لوگوں کو جان میں جراحتان لائے اور یہی وہم میں سے گواہ اور اللہ طالبوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی حوصلہ افزائی اور تقویت اور ان کے عزائم و مصمم کو زندگ بخششہ کا کلام جمع فرمایا۔ اور کفار کی زیادتوں کے منطقی نتائج کی بنا پر پیدا شدہ مکملوں کا تذکرہ کیا اور اپھے املاز سے تسلی دی۔ اس کے بعد ان کے عزائم و مہمتوں پر تقویت فرمائی کرد اس سے قبل اتم چہاد کی تناکر تھے اور جنگ میں جانا چاہتے تھے۔

نَرِبَاً، وَلِقَدْ كَنْتُمْ تَمْتَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ إِنْ تَلَقُوا كَمْ فَقْدَ رَبِّيْمُوا وَإِنْ تَرْ

یعنی اور تم اس سے قبل سوت کی تناکر تھے کہ اس سے ملیں۔

صحابہ میں شہادت کی تمنا اور شوق احضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پدر کے شہادت کے نتائج کی خبر دی، تو صاحبہ دم کو شہادت کی خواہش ہوئی۔ ان کی تمنا یہ ہوئی تاکہ جنگ ہوتا کہ اس میں شہید ہو اپنے بھائیوں سے جا لمیں۔ احمد کے روز اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا میں انہیں دکھاویں، تو سوانح پہنچ کے جنسیں اللہ نے چاہا تھا شکست کھا گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔

پیر غزوہ الحنفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفات کی را للاعہ تھی اس کے یہ مقدمہ تھا اس سے انھیں متینہ فرمایا اور فرار یہ تقویت کی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل

بوجایں تو را نہیں فراز نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان پر واجب یہ ہے کہ اس کے دین اور توعید پر فاتحہ میں اور اسی پر مریں۔ ہر جاندار کو ہر حال موت آئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہنے کے لیے معموت نہیں فرمایا۔ نہ وہ صحابہؓ اس کے لیے دنیا میں بیسیجے گئے، بلکہ ان کا مقصد اتو اسلام و توعید کی خاطر مرتباً ہے اکیوں کہ موت تو ہر حال آکر رہے گی۔ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا زندہ رہیں اسی وجہ سے جو دین سے پھر گئے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ جب شیطان پھلا یا کہ محمد قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبَتْ مِنْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِ حَمْرَوْمٌ وَمَنْ يَنْقُلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضْرِبْ إِلَّا شَيْئًا وَسِيَحْزِبْ إِلَّا شَيْئًا**۔

یعنی اور نہیں ہیں مخدود مگر رسول تحقیق گذر چکے ان سے پہلے کہنی ارسول کیا پس اگر فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے! اور جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے تو وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی ضر نہیں رہے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ عنقریب شکر کرنے والوں کو بجزادے گا۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغز کی خبر دی جس سے انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیوں نے دشمنوں کے مقابلہ میں ہمیشہ مدد چاہی۔ اور وہ توبہ، استغفار اور اپنے پروردگار سے دعا ہے تاکہ ان کے قدم مضبوط رہیں اور ان کے اعداء کے خلاف اللہ ان کی مدد کرے۔ پھر نچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

**وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا أَعْفَرُنَا ذَنْبَنَا فَأَسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَنْدَانَا فَأَنْتَأْنَا نَصْرَنَا عَلَىٰ الْقَوْمِ إِلَّا كَافِرِينَ فَاتَّاهِمْ رَبُّنَا ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَإِلَّا لَهُ يَحْكُمُ الْمُحْسِنِينَ**

یعنی، ان کا قول بھی تھا کہ انہوں نے کہا، "اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے اور امور میں ہماری زیادتی کو بخش دے۔ اور یعنی ثابت قدم کر دے اور کافر دل کی قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرمائیں اللہ تعالیٰ نے انھیں دنیا کا اجر اور آخرت کا بہتر اجر عطا فرمایا اور اللہ انسان

کرنے والوں کو پسند نہ تاہے۔

**اللہ نے اپنا وعدہ پسح کر دکھایا** [پھر انھیں یہ بھی بتایا کہ اللہ نے شہنشوں کے مقابلہ میں ان کی مدد کر کے اپنا وعدہ پسح کر دکھایا اور وہ پچھے وہدے والا ہے۔ اسی سے یہ اگر تم لوگ اطاعت پر جسے رہے اور رسولوں کی اطاعت کو لازم کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد کر سے گا۔ لیکن اگر اطاعت کا حدا اکار دیا اور مرکز (وجہ) سے ہٹ گئے تو اللہ کی مدد الگ ہو جائے گی۔ اور سزا ابتلاء کی خاطر دشمنوں کا تسلط کر دیا جائے گا تاکہ معلوم ہو جائے معصیت اور اطاعت کے عواقب کیا ہوتے ہیں۔]

نیز اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری لفڑیوں خدا نے معاف فرمادیں۔ اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس طرح اس واقعہ میں کئی عکتیں اور مومنین پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ملتی ہیں۔

پھر اس میں تکذیب و تحریف، ارشاد و تنبیہ، اسہاب غیر دشمن کی وضاحت ان کا مال و انجام پھر اپنے نبی اور مومنین کی تسلی و تسلی، جوان میں سے منقول ہوتے ان کے متعلق اتہامی الطف و کرم اور رضا اپنی کی ضمانت بحوالہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہے مقدار فرمادی رغفی اسی طرح کے بے شمار انعامات ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ أَتَيْلَ احْياءً عَنْهُنَّ  
رِيَاهُمْ مِنْ رِزْقِنَا فَرَحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبَشِّرُونَ بِمَا الَّذِينَ  
لَمْ يَلْحِفُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَخْوَافِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

یعنی، "اور ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، انھیں مردہ مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ہاں، انھیں رزق ملتا ہے، خوشی میں جو اللہ نے انھیں دیا ہے اپنے فضل سے اور ان کے بعد جوان سے ابھی نہیں ملے انھیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ان پر زور بے اور زور نہیں ہوں گے۔"

# اسلام کے دو چانپاڑ

## ضیب بن عدی اور زید بن الذئب کا بے در رانہ قتل

بھرت کے تیر سے سال شوال کی سانویں تاریخ بستے کے دن غزوہ احمد راتیع ہوا، جیسا مذکور ہو پہلے اسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس تشریف نے آئے اور شوال ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے پہیئے دہیں ٹھہرے۔ جب محرم کا چاند طلوع ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ خویلد کے دنوں لا کے اپنی قوم کے بھراہ بنی اسد بن خزیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بنسک پر ابھار رہے ہیں۔ آپ نے ابو سلمہ کو بھیجا اور انھیں جسٹیڈیا اور آپ کے بھراہ انصار اور ہباہرین کے ڈریزہ صد افراد بھیجے، انھیں ایک اونٹ اور بکری مل۔ اور ابو سلمہ (پیر تمام (مال غنیمت) نے کرم مدینہ واپس تشریف لائے۔

**خالد بن سفیان نذری کا قتل۔** محرم کی یانچوں تاریخ آپ کو معلوم ہوا کہ خالد بن سفیان بن انس کو اس کی طرف بھیجا۔ انھوں نے اسے قتل کیا اور اس کا سرے آئے اور آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے انھیں ایک عصا عنایت فرمایا یہ کہنے لگے کہ یہ مرے اور آپ کے درمیان تیامت کے دن علامت ہو گی۔ جب ان کی وفات فربہ ہوئی تو انھوں نے وصیت کی کہ اسے بھی ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ یہ اٹھارہ راتیں سفر میں سبھے اور بخت کے روز جب محرم میں سات دن باقی تھے واپس آئے۔ جب صفر آیا تو عضل اور قارہ سے ایک قوم خدمت میں حاضر ہوئی۔ انھوں نے اسلام ظاہر کیا اور ورنگارست کی کہ ان کے ہمراہ ان صحابہ کو بھیجا جائے کہ جو دین کے عالم ہوں اور انھیں قرآن پڑھائیں۔ ابن الحنفی کے قول

کے مطابق آپ نے چھ ادی بیجے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ دس ادی تھے اور مرشد غنوی کو ان کا امیر پنایا۔ ان میں خبیب بن عدی بھی تھے۔ یہ ان کے ہمراہ چلے گئے۔ جب یہ لوگ رجسٹر میں پہنچے۔ یہ جماز کے ایک طرف کا پتھر ہے اور کفار انسانے یہاں دھوک دیا اور ان پر حملہ کر دیا اور احاطہ کر لیا اور قتل عام کر دیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن وثنا گرنوار ہر گئے۔ ان دونوں کو سے گئے اور انھیں مکر میں پیچ دیا۔ ان دونوں نے غزدہ بدرا میں کفار کے سرداروں کو داصل بینم کیا تھا۔ حضرت خبیب تو ان کے ہاں قید ہو گئے اور سارے مل کر ان کو قتل کرنے کے لیے حرم سے نکال کر شفیعہ میں لے آئئے۔ جب انھیں سول پر پڑھانے لگے تو انہوں نے کہا مجھے دور کعتیں پڑھ دینے دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے دور کعتیں پڑھیں۔ جب سلام پھیرا۔ تو فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم یہ ذکر ہو کہ یہ بزرگ ہے تو میں زیادہ پڑھتا۔ اس کے بعد کفار اس کے لیے بددعا کی، اسے اللہ انھیں تباہ کر دے انھیں قتل کر دینا اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا۔

ابو سفیان بکھنے لگا، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اس وقت تم اپنے بال بھوں میں زندہ ہوتے۔ اور محمد ہمارے پاس آتے اور ہم ان کی گردان مارتے (نحوذ بالله)

انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل دعیا میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بگر پر جہاں کر دہ ہیں ایک کائنات ہی چھ جائے۔

---

## واقعہ بیرون مسونہ

اسی یعنی ہجرت کے پر تھے سال صفر کے حصے میں پیر مسونہ کا واقعہ درپیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہو کہ ابو بار عامر بن مالک مدینے آیا۔ بنی ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے مرغ کیا اسے اللہ کے رسول اگر اپنے اہل نجد کی طرف صحابہؓ کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے بیس جیسی توبجیس امید ہے وہ قبول کر لیں گے اپنے نے زنا بیا کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے۔

ابو بار کہنے لگا کہ میں سانحہ ہوں۔ آپ نے انکی کے ہمراہ ابن اسحاق کے قول کے مطابق چالیس آدمی روانہ فرمائے۔ لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ وہ متters تھے اور مندرجہ عرو دکوں ان کا امیر بنایا۔ یہ رحمانی اہل اسلام میں سے بڑے بڑے مراتب دائے ہندگ تھے اور قرار اور عمار پر مشتمل تھے۔ یہ پل پر ہڑے اور پیر مسونہ پر اترے۔

یہ علاقہ بنو عامر اور مرق بن سلیم کا تھا۔ انھوں نے ام سلیم کے بھائی حرام بن سلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کی طرف سیجا۔ اس نے نظر بھی نہ دالی اور ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے پیچے سے نیزہ مار دیا اور بدن کے پار ہو گیا اور جب اپنا خون بہتے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ میں تو کامیاب رہا۔

پھر اللہ کا یہ دشمن جلدی سے بنی عامر کی طرف گیا تاکہ باقی سے قتال کیا جائے میک انھوں نے ابو بار کی ہمراہی کے باعث ..... انکار کر دیا۔ پھر یہ بنو سلیم کی طرف گیا پھر نجیع عصیہ رسول اور ذکوان تیار ہو گئے۔ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا دالیا۔ اور ان سے مقابلہ کیا ہیا۔ تک کعب بن زید بن نجاح کے سوا تمام کو شہید کر دیا گیا۔ کیونکہ یہ معنوں میں پڑے اور بعد میں زندہ رہے آخر غزوہ خندق میں شہید ہو گئے۔

عمر بن منذر ضمیر کا اور منذر بن عقبہ بن عامر نے دیکھا کہ جنگ کی بجگہ پرندے اور بے بیل چنانچہ منذر بن محمد اتر سے اور مشرکین سے سلام کیا آخر یہ بھی شہید ہو گئے اور عمر بن ضمیر گرفتار ہو گئے۔ جب انھوں نے کہا کہ مضر قیبلہ میں رہے ہوں، تو انھیں رہا کر دیا گیا۔ اب عمر بن امیہ والپس تشریف لائے۔ اور ایک نہر کے کنارے قرقرہ میں ٹھہرے سے اور ایک درخت کے سایہ کے نیچے اترے۔ اس کے بعد بنو کلاب کے دو آدمی بھی اور ہبھائے اور وہ بھی ان کے ساتھ رہیں اتر پڑے۔ جب وہ سو گئے تو عمر نے انھیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے دو آدمیوں کو قتل کر دیا۔ میں ان کی دیت دوں گا۔

**قتوت نازلہ** [جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قتوت نازلہ پڑھی اور جن لوگوں نے مبلغین اسلام کو پیر موز میں قتل کر دیا۔ ان کے خلاف بدوعا کی۔ آپ نے رکوع کے بعد قتوت پڑھی۔ جب وہ لوگ تائب مسلمان ہو کر حاضر ہوئے، تو آپ نے قتوت پڑھنا ترک کر دیا۔]

# غزوہ ذات الرقاص

نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الرقاص کے غزوہ میں خود حصہ لیا۔ یہ بحدکار غزوہ ہے۔ ہجرت کے پوتھے سال جمادی الاول کے ہینے میں اپ تشریف لے گئے۔ ایک قول کے مطابق عمر میں اپ عارب اور بنی تعلیمہ بن سعد بن عظیمان کی طرف گئے۔ مدینہ پر حضرت ابوذر الغفاری کو عامل بنیا۔ ایک قول کے مطابق حضرت عثمان بن عفان کو عامل بنیا۔ اپ چار سو مجاہد کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ ایک روایت سات سو کی ملتی ہے۔ اخواں عظیمان کی فوج کے سامنے پہنچے۔ آمنے سامنے دونوں فوجیں کھڑی ہو گئیں لیکن قیام نہ ہوا۔ ہاں صرف یہ ہوا کہ اپ نے اس دن صلوٰۃ خوف ادا فرمائی۔ اس غزوے کے متعلق ابن الحنفی اور اہل سیرہ و مغاری کا یہی قول ہے یہ مسئلہ بہت مشکل سا ہے کیونکہ صحیح طور پر مردی ہے کہ خندق کے غزوہ پر آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر پر سے روکا گیا۔ سنن، مسنداً حمد اور شافعی رحمہما اللہ میں ہے کہ انہوں نے نماز ظہر و عصر، مغرب اور عشاء سے روک کے دکھا پھر اپ نے تمام نمازیں اکٹھی ادا کیں لیکن یہ صلوٰۃ خوف کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے اور خندق کا غزوہ ذات الرقاص کے بعد ہے کہ اسے اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنان میں پہلی صلوٰۃ خوف ادا کی۔

## بدر موعود یا بدر ثانی

یہ واقعہ تو گذر جیکا ہے کہ ابوسفیان نے واپسی پر کہا تھا کہ اب ہمارا اور تمہارا وعدہ اگھے سال ہدر پر علاقات (جنگ) اکا ہے۔ چنانچہ جب شعبان کا مہینہ آیا۔ ایک قول کے مطابق اگھے سال کا ذی قعده کا مہینہ آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے مطابق ایک ہزار پانچ سو کاشکرے کرنے کے حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ کو جنڈا دیا گیا۔ اور مدینہ میں عبد اللہ بن رواحد کو عامل بنایا۔ آخر اپ بدر کے مقام پر پہنچنے اور وہاں آنکھوں تک اقامت پذیر رہے اور مشرکین کا انتظار کرتے رہے۔ ابوسفیان مکہ سے دو ہزار کاشکرے کرنکلا اور ان کے پاس کچھ سوار تھے۔

جب یہ مرا نظر ہان پہنچے جو مکہ سے ایک منزل کے فاسٹے پڑے۔ ابوسفیان کہنے لگا، یہ شش سالی کا سال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم واپس لوٹ جائیں۔  
چنانچہ واپس پہلے گئے اور وعدہ خلافی کے مرتکب ہوئے۔ اسی یہے اسے غرفہ خبر موسود، یا غزوہ بدر ثانی کا نام دیا جاتا ہے۔

# غزوہ میسیح اور واقعہ افک

حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقوں کی تہمت اور اس کے اثرات

واقعات کی ضروری تفصیل | شعبان شہر میں یہ غزوہ ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا، کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ

حرث بن ابی حزار جو بنو مصطفیٰ کا صردار ہے، اپنی قوم اور دیگر عربیوں کو سے کر جنگ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے بر بدہ بن حصیب اسلامی کو خبر لانے کا حکم دیا۔ یہ گئے اور حرث بن ابی حزار سے ملے اور اس سے گفتگو کی۔ اس کے بعد حاضر خدمت ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ چنانچہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکلے آپ کے ہمراہ ترافقین کا ایک گروہ بھی نکل آیا۔ جو اس سے قبل کسی غزوے میں شریک نہ ہوا تھا۔ زید بن حارثہ کو آپ نے مدینہ پر شامل مقرر فرمایا۔ ایک قول ابوذرؑ کے متعلق بھی ہے ایک قول شمیلہ بن عبد اللہ بن بشیر کے متعلق ہے۔ آپ پیر کو نکلے حرث بن حزار اور اس کے ساتھیوں کو آپ کی اور صحابہؓ کی آمد کی اطلاع ملی تو خوف کے مارے عرب کے قیائل اس سے الگ ہو گئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح پہنچے، یہ پانی کی جگہ تھی۔ بہاں آپ کا خیبر گھاڑا لیا۔ آپ کے ہمراہ عائشہؓ اور ام سلمہؓ تھیں چنانچہ قتال کی تیاری کی گئی، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کی سف بندی کی۔ مہاجرین کا جنبدار حضرت ابو بکرؓ کے پاس اور انصار کا

حضرت اُنہیں سعد بن بجاد کے پاس تھا۔ ایک ساعت تبران مذہبی ہوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعتہ حلقہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی وقت اللہ کی مدد پہنچی، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ کفار شکست کھا گئے۔ کچھ ان بیس سے قتل ہوئے۔ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا گی۔ جانور اور بکریاں مال غیرت کے طور پر باخت لگیں۔ صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ عبد المؤمن بن خلف نے یہ سرت میں بھی لکھا ہے حالانکہ یہ ان کا دہمہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تعالیٰ نہیں ہوا بلکہ آپ نے اچانک حلقہ کیا تھا، چنانچہ ان کی اولاد گرفتار ہوئی اور مال ہاتھ لگا۔

**حضرت جویریہ آپ کے عمدیں**

حضرت جویریہ آپ کے عمدیں جگہ میں حضرت جویریہ بنت ارشاد بن قیس میں آئیں۔ یہ حدیث اپنی قوم کا سردار تھا۔ یہ ثابت بن قیس کے حقیقے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے کتابت کری۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابت کی رقم ادا فرمائی۔ بھراں سے نکاح کر پایا۔ اس پر مسلمانوں نے نو مصطفیٰ کے تقریباً سو خلام آزاد کیے جو مسلمان ہو چکے تھے اور کہا:

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرائی میں۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس غزوہ میں حضرت مائشہؓ سے ہار گر گیا اور صحابہؓ اس کی تلاش کی وجہ سے رک گئے چنانچہ تمہم کی آبیت نازل ہوئی۔

یہ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت مائشہؓ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آئیں۔ کیونکہ ان ہی کے نام قرآن سفر میں جانتے کا انکلائی تھا۔ آپ کا اپنی ازدواج مصطفیٰ کے ساتھ یہی طریقہ تھا۔ جب غزوہ سے واپس ہوئے۔ اور ایک جگہ ٹھہرے۔ حضرت مائشہؓ کسی خروج سے باہر تشریف لے گئیں اور جو مارا ہیں نے اپنی ہمشیرؓ سے مستعار یا تھا دہ کھو دیا۔ چنانچہ دوبارہ وہیں اس کی تلاش میں گئیں اتفاق سے اسی وقت جو لوگ ان کا ہو دیج اٹھا کرے جاتے تھے، حاضر ہوئے انہوں نے سمجھا امام المومنین سے اس کے اندر میں۔ انہوں نے اسے اٹھا بیا اور اس کے پلے کے ہن کا احساس نہ کیا کیونکہ ان دونوں امام المومنین رضی اللہ عنہما چھوٹی سلیمانی تھیں نیز اٹھانے والے زیادہ تھے، اس لیے بھی انہیں

احساس نہ ہوا۔ اور اگر ایک یادو ادمی اٹھاتے تو یہ معاملہ ان سے مخفی نہ رہتا۔  
بمار کی تلاش کرنے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ وابیس تشریف لا یہیں تو دیکھا کرتا نہ  
چاچکا ہے اور وہاں کوئی ادمی بھی نہیں رہا۔ پناپنچہ وہیں بیٹھ گئیں اور بہر خیال کیا کہ  
جب وہ انہیں ہو درج ہیں نہ پابیس گے تو تلاش کرتے ہوئے والپیں ہمیں آبیس گے اور  
اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ اپنے عرش پر سے جیسے چاہتا ہے امور کی تدبیر کرتا  
ہے پھر ان پر زیندگانی کا غلبہ ہوا اور صفوون بن معطل رجو قافلے کے تیچھے تیچھے  
آرے ہے تھے، کی آواز سے جا گئیں۔ انہوں نے دیکھ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کی زوجہ انا ناللہ و انا ملیہ سراجون۔

یہ صفوون قائلے سے تیچھے رہتے تھے کیونکہ یہ سوتے زیادہ تھے۔ جیسا کہ صحیح ابن  
حاتم ہیں مروی ہے اور سنن ہیں ہے کہ جب انہوں نے ام المومنین کو دیکھا تو پہچانتے  
لیا اور پردے کے حکم سے قبل انہوں نے انہیں دیکھا تھا۔ پناپنچہ انہوں نے استرجاع کیا  
(انا ناللہ و انا ملیہ سراجون بڑھا) اور اپنی اونٹی کو بٹھا کران کے قریب کر دیا۔ وہ سورہ  
ہو گئیں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ ام المومنین نے اس کے علاوہ ان سے اور کوئی  
کلام نہیں سننا۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چل پڑے یہاں تک کہ قافلے سے آن ہے۔  
جس بگر لشکر دوپہر کے وقت اڑا ہوا تھا۔

چہ میگویاں اور طرح طرح کی باتیں | جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ہر ادمی  
جیسے منافق تے بغض و لفاق کا منظا ہرہ کیا۔ اور اس واقعہ کو رنگ دے کر خوب پھیلاتے  
اور ہوا دینے لگا۔ صحابہؓ بھی اس کے فریب ہو جایا کرنے۔ جب مدینہ پہنچے تو پھر ناقین  
کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور صحابہؓ سے مشورہ کیا۔  
حضرت علی رضی اللہ عنہ فے الگ ہونے کا مشورہ دیا اور صراحتاً نہیں بلکہ تکویجا مرضی  
کیا۔ آپ دوسری شادی کر لیں۔ حضرت ابوالیوہبؓ انصاری اور دوسرے کبار صحابہؓ  
نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فوراً بول اٹھ۔ اللہ پاک ہے۔ بہبہت بڑی تہمت سے

کیونکہ انہیں بقیٰ ہو گیا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیلیہ حضرت صدیقہ رضیتی اللہ عنہا اس سے باافزار میں کراللہ انہیں کسی مصیبۃ بیس مبتلا کرے۔

آخر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی برأت نازل فرمائی تو کہنے لگیں کہ میں خود آپ کی طرف نہ جاؤں گی اور میں صرف اللہ ہی کی حمد بیان کرنی ہوں۔ اسی نے میری برأت نازل فرمائی۔ نیز ابک ماہ نک وحی رک بجانا بھی حکمت کے مطابق تھا کہ بد معاملہ خوب پختہ ہو جائے، اور مسلمانوں کے قلوب اللہ کی وحی کی جانب مائل ہو کر اس کی عظمت میں ڈوب جائیں۔ اور وحی کی طرف شدت تنس سے بچ ک پڑیں۔ آخر جس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت و صحابہؓ وحی کے محتاج تھے۔ وہ اس طرح آئی کہ جیسے سخت پیاسی زمین پر بارش آئی ہے۔ چنانچہ وحی ایک مناسب اور بہتر موقع پر ایسی اور اہل اسلام کو اس سے مکمل اور پورجہ اتم نشاط و صریح حاصل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی کرامت و شرف نظاہر کی آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائی۔

**منافق کو کوڑے کیوں تھیں لگائے گئے** | جب ام المؤمنین کی برأت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگاتے والوں پر حذف نہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں اتنی اتنی درتے مارے گئے، البتہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو حذف نہیں لگائی گئی، حالانکہ وہ اس افراد بیانی کا سرعنہ تھا۔

اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدود اس لیے ہوتی ہیں تاکہ گناہ گار کوان سے پاک کیا جائے اور بہر بدنخت اس سعادت کا اہل نہ تھا اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سخت تریتی عذاب کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے اسے وہی (عذاب آخرت) ہی کافی تھا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ افراط یا بُیْبُیَہ کے بعد حد جاری کی جاتی ہے بلکن اس بدنخت نے علانیہ ملوہ بر اقرار نہیں کیا اور نہ بُیْبُیَہ قائم ہوا کیونکہ وہ بہتر تام یا نیٹ اپنے

منافق ساتھیوں میں بھی کیا کڑا تھا اور وہ اس کے خلاف گواہی نہ دیتے۔ اور منافقین کے درمیان اس نے ایسی بات کا تذکرہ (خاطرے کی وجہ سے) نہیں کیا۔

### حضرت عائشہؓ کے طرزِ عمل کی توجیہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل بھی قابل غور ہے۔ جب ان کے والدین نے فرمایا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، تو کہنے لگیں، اللہ کی قسم میں ان کی طرف خود نہ جاؤں گی اور میں حرف اللہ کی مدد کروں گی، اس سے ان کے علم و معرفت اور قوت ایجاد کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس نعمت کو محض اللہ کے ساتھ مخصوص رکھا اور تجدید توحید کی۔ انہوں نے بہ حملہ صلح نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقہ، محبت اور ایک حبیب کے سامنے نازد کھانے کے لیے جیسے کہا ہے، اسی طریق پر بہ کلام کیا اور بہ مقام بھی ناز کے تمام مقامات سے زیادہ ناز کا تھا۔

### منافق کے قتل سے آپ کا انکار

اس غزدہ سے والی بی بی عبد اللہ بن عباس اس غزدہ سے والے ذلت والوں کو وہاں سے باہر نکال دیتے گے۔ حضرت زید بن ارقم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ خبر بھیجا دی۔ عبد اللہ بن ابی عذر کڑا ہوا آئا اور قسمیں کھانے لٹکا کر میں نے بہ بات نہیں کہی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں حضرت زید کی تصدیق نامہ فرمائی۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا۔ خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ تیری تصدیق کر دی۔ حضرت عمر بن نافع نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ عباد بن بشیر کو حکم دیتے کہ اس مدنخت کی گرد نشیعہ مار دیتے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں لوگ کہیں گے محمدؐ اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔

# غزوہ خندق

## شمن اسلام یہودی سردار ابو رافع کا قتل

دواقوال میں سے زیادہ صحیح قول کے مطابق یہ غزوہ شہر کو شوال میں ہوا کیونکہ غزوہ احمد بلا اختلاف کردہ میں ہوا۔ اور مشرکین نے آئندہ سال بنی اسرائیل علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا۔ یہ شہر میں ہوتی تھیں اس سال قحط کی وجہ سے انہوں نے عہد شکنی کی اور واپس بٹ گئے۔ جب شہر ہوتی تو جنگ کے لیے ائمہ، اہل سیر و منازی کا بھی قول ہے۔ اس کے برعکس موسیٰ بن عقبہ نے کہ یہ شہر میں ہوا ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔

**یہود اور قریش کا اتحاد اسلام کے خلاف** غزوہ خندق کا سبب یہ تھا کہ جب یہود نے احمد کے دن مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی نصرت دیکھی اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ابوسفیان کا وعدہ معلوم ہوا کروہ اس سلسلے اور آئندہ سال آنے کے لیے واپس چلے گئے تو (یہود کے) بڑے بڑے سردار سلام بن ابی حقيقة سلام بن مشکم اور کناڑ بن ریبع وغیرہ مکہ میں قریش کے پاس گئے۔ انہیں رسالت تاہم مصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا۔ ان سے انہمار دوستی کیا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ قریش نے قبول کر لیا۔ پھر یہ لوگ غطفان

کے پاس گئے۔ انہیں بھی اس کام کی دعوت وہ بھی مان گئے۔ اس کے بعد عرب کے دیگر قبائل کو اس پر آمادہ کر لیا۔

پالآخر قریش ابو سفیان کی قیادت میں چار ہزار کاشکرے کرنکے مرا نظر پڑا۔ مرا نظر پڑا جب میں نبوی علم بھی ان سے مل گے۔ نیز نبواسد، فزارہ، شجاع اور نبیورہ بھی ان ملے۔ مختلفان اور ان کا سردار عین تیزی میں حصن بھی آگیا۔ اس طرح غزوہ خندق میں (کفار کی تعداد) دس ہزار ہو گئی جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔

جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کا حال سناتو صاحبہ سے مشورہ کیا جفت سلان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا جو مدینہ اور دمشق کے درمیان حائل ہو جائے۔ آپ نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ مسلمان تیزی سے اس کام میں مصروف ہو گئے آپ خود بھی اس کام میں عملاً شریک ہوئے۔ کفار بھی بڑی تیزی سے آئے۔ اس خندق کے واقعہ میں بھی آپ کی نیوت درسالت کی علامات واضح تشبیں جو کثرت و تواتر سے منقول ہیں۔

سلح کے سامنے خندق کھو دی گئی۔ پہاڑ تھا جو مسلمانوں کی پیشت پر تھا اور سامنے مسلمانوں اور کفار کے درمیان خندق حائل تھی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بزرگ صاحبین کو سے کر میدان میں تشریف لائے این اسحاق کہتے ہیں کہ آپ سات سو صاحبہ کو سے کر تشریف لائے، لیکن یہ غلط ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں اور زیجتوں کے متعلق حکم دیا، چنانچہ انہیں مدینہ کے قلعوں میں بسنا دیا گیا اور این ام مکتوم رہ کو ان کا ہر پہاڑ مقرر کیا گیا اور اسراجمی بن اخطلب بن قریش کے پاس آیا۔ ان کے قلعے کے قریب پہنچا، لیکن کعب بنی اسد نے قلعہ کھوئی سے انکار کر دیا۔ وہ اس سے بات چیت کر مار لے۔ آخر کار اس نے قلعہ کھوی دیا۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو کہنے لگا۔

میں تیر سے پاس زمانے کی عزت لا یا ہوں۔ قریش، مختلفان اور نبواسد کو میخ ان کے سرداروں کے لا یا ہوں (جو) مجھ سے جنگ کریں گے۔

کعب نے جواب دیا اللہ کی قسم تو میرے پاس زمانہ کی ذلت اور الیسا باول لا یا ہے۔

جو اپنا پانی بہا چکا ہے، وہ گرجتا اور چکتا ہے (لیکن برستا نہیں) لیکن طویل مباحثہ کے بعد آخر کار یہ لوگ بھی عہد شکنی پر تباہ ہو گئے اور مشرکین کے ساتھ عمل کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ اس سے مشرکین بہت مسرور ہوئے۔ نیز کعب نے حمی بن الخطب سے یہ شرط کی کہ اگر وہ مدد کے خلاف کامیاب نہ ہو سکیں تو حمی بن الخطب بھی یہ ہود کے ہمراہ ان کے قلعے میں داخل ہو جائے گا تاکہ جو سزا اُنہیں ملے اسے بھی مل کر رہے۔ اس نے قبول کر لیا۔

**بنو قریظہ کی عہد شکنی** [بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ اور ان کی عہد شکنی کی اطاعت ملی، تو آپ نے سعد بن عبَّاد، خوات بن جبر اور عبد اللہ بن عباس اور فاحح کو سورتِ حال معلوم کرنے کے لیے ارسال فرمایا۔ جب بہر قریب پہنچے تو انہیں بدترین حالت میں دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ یہ ہود دشمن طرزی اور عداوت کا منظا ہرہ کر رہے ہیں، یہ لوگ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے گئے اور آپ کو مطلع کیا کہ یہ لوگ غدر اور تقصی عہد پر مالک ہیں، مسلمانوں کو اس بات کا بڑا صدر ہوا۔]

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اے مسلمانوں اخوش ہو جاؤ، ایکلا وشدیدر سوت اختیار کر گیا۔ اور نفاق ملائی ہو گیا۔ بنی حارثہ تے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت طلب کی اور کہنے لیکے کہ ہمارے گھر خانی ہیں، حالانکہ وہ خانی نہیں تھے بلکہ فرار ہونا چاہتے تھے۔ یہ لوگ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر آپ نے دونوں گروہوں کو مصیبہ مل کیا اور مشرکین نے ایک ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ لیکن خندق کے حامل ہونے کے باعث مسلمانوں اور مشرکین میں تقابل نہ ہو سکا۔ صرف قربش کے چند سور خندق کی طرف بڑھے جن میں عمرو بن عبد ورد بھی تھا۔ جب یہ اس کے قریب آئے تو کہنے لگے یہ ایک مکر ہے۔ اور عرب لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ پھر خندق میں ایک تنگ جگہ کارادہ کیا اور خندق اور بھاؤ کے درمیان انہوں نے کو دنے کی کوشش کی۔

حضرت علیؑ بن ابی طالب نے عمرو بن میبدود سے مقابلہ کیا۔ حضرت علیؑ کے باחרے اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کیا۔ یہ مشرکین کے بہادر دوں اور جنگجو لوگوں میں سے تھا، باقی مشرکین والپس بھاگ گئے اور مسلمانوں کا شعار ”حر لاؤ ینصروت“ تھا۔ جب مسلمانوں پر یہ صورت حال طوبیل ہو گئی تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن اور عزیز بن عوف جو غلط فان کے دونوں سردار تھے مدینہ کے پلوں کے نیٹ پر مصالحت کا ارادہ فرمایا۔ سعدیں سے آپ نے اس مسئلہ میں مشورہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اگر اللہ تعالیٰ نے اس کام کا حکم دیا ہے تو پھر بپرس و پشمن اور اگر آپ خود کراچا ہستے ہیں تو ہمیں اس کی مزدودت نہیں۔ ہم اور ہماری قوم مشرک تھیں۔ بنوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس وقت یہ لوگ طرف ہمہ ایسا خرید کی صورت میں کھا سکتے تھے اب جب کہ اللہ نے ہم کو اسلام سے عزتِ نخشی اور ہمیں پداشت دی اور آپ کی سرپرستی سے ہمیں عزتِ عطا فرمائی ہے تو آج ہم انہیں مال دیں؟ اللہ کی قسم ہم انہیں رکھے بغیر ہرگز مال نہ دیں گے۔ آپ نے ان کی رائے کی تصویر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں نے یہ محض خود کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ عربوں نے ایک ہو کر تم پر حملہ کیا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کی حمد ہے اپنے پاس سے قضا بھیجی اور دشمن کو روا کیا ان کے لشکر کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر ہوا چلائی جس سے ان کے شیئے اکھڑ گئے۔ ان کی ہاندز بیان الٹ گئیں اور تمام شیئے اڑ گئے۔ اور ان کا سڑپڑنا دشوار ہو گیا اور اللہ کے ہاتھ کا لشکر ان کو ملانے لگا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذلیفہ بن یافا کو رکفار کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے دیکھا وہ کوچھ کرنے کے لیے تیار بیٹھیے ہیں، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف والپس حاضر ہوئے اور آپ کو ان کے کوچھ کرنے کی اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو دور کیا۔ انہیں کچھ بھی خبر حاصل نہ ہوئی اور جنگ میں بس خدا ہی مسلمانوں کی طرف سے کافی رہا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اپنے لشکر کو عزتِ نخشی۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا رکفار کو شکست دی۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور ہتھیار آثار دیئے۔ اس کے بعد آپ حضرت ام سلمہؓ کے گھر میں غسل فمار ہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیئے لیکن فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں آتا رہے۔ ایسے (رسول نبو قریب) سے جنگ کرنے کے لیے نکلنے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کر دادی کہ جو سننے اور احادیث کرنے والا ہے اسے چل دیئے کہ نبو قریب میں جا کر غماز عصر پڑھے۔ مسلمان بڑی تیزی سے نکلے۔ آپ اور نبو قریب میں بحوالیات ہوئے وہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ غزوہ خندق اور نبو قریب کی جنگ میں دس مسلمان شہید ہوئے۔ ایک ادی نے ہی بن اخطب کو قتل کیا تھا۔ اس زمانہ میں عبد اللہ بن ہدی نے یہودی سردار ابو رافع کو قتل کر دیا۔ یہ اوس دفعہ کی جنگ کا نتیجہ تھا۔

---

## سری نجد

### ایک بذریعین دشمنِ اسلام کس طرح حلقة بگوشِ اسلام ہوا؟

اس کے بعد بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف شکر روانہ فرمایا، چنانچہ وہاں سے بنی حنیفہ کے سردار شاہد بن اتمال حنیفی کو گرفتار کر کے لائے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، پھر آپ اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے شماں! تمہارا کیا خیال ہے؟

وہ کہنے لگا، اے محمد! اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک قاتل کو قتل کر دیں گے اور اگر معاف کر دیں تو ایک شکر گزار کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر آپ ماں چاہتے ہوں تو فرمائیے جتنا درکار ہو بیس دوں گا۔

آپ ر آگے بڑھ گئے پھر دوبارہ پاس سے گزرسے اور وہی سوال کیا۔ اس نے وہی جواب دیا۔ پھر نبیری بار گزرسے تو فرمایا، شماں کو چھوڑ دو ر صحابہؓ نے انہیں چھوڑ دیا یہ مسجد کے قریب ایک کھجور کے پاس گئے۔ غسل کیا، پھر واپس اگر اسلام قبول کر دیا اور کہا:

اللہ کی قسم میرے زدیک زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی مبغوض چہرہ نہ تھا لیکن اب یہ چہرہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے دین سے زیادہ مجھے زمین پر کوئی دین مبغوض نہ تھا لیکن اب آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔ اب میں عمر ادا کرنا چاہتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور سکون کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ قریش کے پاس آیا تو کہنے لگے۔

اسے شماہرؓ کیا تو اپنے پرانے دین سے پھر گیا؟

انہوں نے جواب دیا، نہیں اللہ کی قسم بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ کی قسم شماہر سے تہبیس گندم کا ایک خانہ بھی آپؐ کی اجازت کے بغیر نہ طے گا۔

شماہرؓ کا پیداواری ملا قدر تھا۔ چنانچہ یہ اپنے ملاقی میں واپس چلے گئے اور مکہ کی طرف غلہ بھیجننا بند کر دیا۔ قریش سخت تنگ آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فراہت داری کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ وہ شماہرؓ کو نکھیں کر غدر ان کی طرف بھیجا جائے۔ آپؐ نے ازدواج گندم بھیجنے کی پدابہت فرمادی۔

---

# صالح حدیبیہ

**ظاہری شکست کے پردے میں حقیقی فتح و عظمت کا پہلو**

مسلمانوں کے ایمان کا امتحان نافع فرماتے ہیں کہ یہ شہزادی قعدہ میں ہوئی اور  
یہی درست بھی ہے۔ ذہری، قادہ، موسیٰ بن عقبہ

اور محمد بن اسحاق نے بھی یہی فرمایا ہے اور صحابین میں حضرت انسؓ سے مردی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمر سے کیے۔ یہ تمام عمر سے ذی قعدہ میں کیے۔ ان میں سے ایک عمرہ حدیبیہ کا ذکر کیا۔ آپ کے ہمراہ پندرہ سو صحابہ تھے۔ قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے دریافت کیا جو لوگ بیعت رخوان میں شریک ہوئے اُنکی تعداد کیا تھی انہوں نے جواب دیا۔ پندرہ ہو، میں نے کہا حضرت جابرؓ سے دونوں قول صحت سے مردی ہیں اور ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے حدیبیہ کے سال ستراونٹ ذبح کیے اور ایک اونٹ سات کی جانب سے نکا۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی تعداد کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا، ہمارے پینڈل اور سوار ملا کر جو دہ سوتھی۔

مسلمانوں کی طرف سے عمر سے کی تیاری جب یہ لوگ ذی الحجه میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلاوے ڈال دیے اور شعار لگادیئے اور عمر سے کامرا مہندھ لیا اور بنو غزاءہ کے ایک آدمی کو قریش کی خبر لانے کے لیے بھجا، جب آپ سقان کے قریب پہنچے تو خبر حاضر ہوا اور مرضی کیا۔ میں نے کعب بن موسیٰ کو دیکھا کہ اس نے کافی فوج جمع کی ہے اور ایک بڑا شکر تیار کیا ہے۔ اور وہ آپ سے جنگ کی اور آپ کو کعبہ کی زیارت سے

روکنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ ہم ان کی اولاد کی طرف چلیں۔ بہنوں نے ان کی مدد کی ہے، انہیں قابو میں کر لیں۔ اگر وہ پیٹھے رہے تو حزرون و نیمیں بیٹھیں گے اور بجات پا گئے تو ایسی گردیں کر دیں ہوں گی جنہیں اللہ نے قلعہ کیا ہے یا تمہاری رانے ہے کہ بیت اللہ کا قصد کر لیں اور بورہ میں اس کی ریاست اسے دو کے اس سے ہم مقابل کریں۔

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے ہم عمرہ کے بیے آئے ہیں اور قبال کے بیے نہیں آئے دہل البیہ اگر کوئی ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو تو ہم اس سے بے شک مقابلہ کریں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر چلو! چنانچہ سب چل پڑے۔ جب یہ راستے میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قرشی کی ایک جماعت کے ساتھ غیرمیں میں تھے۔ اس سے یہ دعائیں کا خیال کرو مگر بخدا خالد کو ان کا پتہ تک نہ چلا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ آخر اپ دپر سے راستے میں پسپے جماں آپ کو اترنا تھا۔ آپ کی اوشنی پیٹھ کئی لوگوں نے کہا اتر د اتر د اداونی ایشی رہی۔ لوگ ٹھہنے لگے قصوار غفور کی اوشنی کا نام ہے ارک گئی قصوار درک گئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قصوار نہیں رکی۔ ذیر اس کا طریقہ ہے۔ بلکہ انہیں بالتجویل کو روکنے والی ذات (خدا) نے روکا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم بوجملہ بھی مجھ سے طلب کرو جس میں اللہ کی حدکات کی تنظیم کی جائے میں نہیں وہ خطہ عطا کر دیں گا۔ پھر اپ نے زبرکی۔ وہ اٹھ گئی اور آپ اس پر درست ہو کر پیٹھ کو اس کے بعد آپ حدیث کے آخر میں ایک ایسے تالاب پر اترے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ جسے لوگ نکالتے رہے۔ یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔

آل حضرت کا معجزہ پھر صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے تکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ روایت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس میں اس قدر جوشی آیا کہ تمام صحابہ سیرا ب

ہو گئے اپنے بھی پانی باقی پچ گیا۔

ادھر قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خطرہ محسوس ہوا۔ اپنے ان کی طرف ایک صحابی کو رواذ کرنے کا ارادہ فرمایا: پھنانچہ عمر بن خطاب کو بخشنے کے لیے بیا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بنی کعب میں سے مکہ میں کوئی اسیاً ادمی نہیں کہ اگر مجھے افریت دی جائے تو اسے میری وجہ سے غصہ آئے، اس لیے عثمان بن عفان کو رواذ فرمائیے، کیونکہ ان کا خاندان وہیں ہے اور جو اپنے چاہتے ہیں وہ پیغام بھی پہنچا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو جایا، اور قریش کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ انہیں خبر دے دو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ اور حکم دیا کہ جب مکہ کے مومن مرد اور مومن عورتیں آئیں، تو ان کے پاس جاؤ انہیں فتح کی خوشخبری دے دو اور انہیں خبر دو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکہ میں بھی غالب کرنے والا ہے رہماں تک کہہاں وہ مخفی ذرہے جو ایمان دار ہے۔

حضرت عثمان قبل پڑھے اور بلاح کے قریب قریش کے پاس سے گزارے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے! فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تمہیں اللہ اور اسلام کی دعوت دوں اور تمہیں خبر دے دوں کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔

وہ کہنے لگے جو تم نے کہا ہے ہم نے سن لیا ہے اس لیے اپنی حاجت پوری کر دے۔ اباں بن سعید بن عاصی اس نے انہیں مر جانا کہا اور اپنے گھوڑے پر کاٹھی دال کر حضرت عثمان کو گھوڑے پر دال دیا۔ آخری ہو گئے بخش گئے۔ دوسری طرف حضرت عثمان کی واپسی سے قبل مسلمانوں کو خیال ہوا کہ عثمان ہم سے پہنچے ہی کعبہ کا طواف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں بھختا کہ عثمان نے طواف کیا ہو جبکہ ہم محصور ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! انہیں کس بات کی رکاوٹ ہے، جب کہ انہیں موقع مل چکا۔ اپنے فرمایا: میرا اس کے متعلق یہی گمان ہے کہ وہ تب تک طواف نہیں کریں گے جب تک ہم ان کے ہمراہ نہ ہوں۔

## عثمان کی طرف سے آپ کی بیعت

نیز مسلمان اور مشرکین سخے کے مدار میں منتظر ہو گئے۔ پھنانچہ فریضیں میں سے ایک ادمی نے دوسرے فریض کے ایک ادمی کو تیر مارا۔ اب جنگ شروع ہو گئی، نیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ دوفون جماعتوں نے آواز بند کی اور ہر ایک فریض نے دوسرے فریض کے ادمیوں کو پکڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ پھنانچہ آپ نے بیعت کرنے کا حکم دیا۔ آپ درخت کے نیچے نتھے۔ تمام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بابت پر بیعت کی کہ وہ فرار نہ ہوں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی جانب سے بیعت ہے جب بیعت ختم ہو گئی اور حضرت عثمان بھی واپس آگئے۔

مسلمان نے کہا: اے ابو عبد اللہ بیت اللہ کے طواف سے (روح) کوتا زہ کر دیا اور انہوں نے جواب دیا جو تم نے میرے متعلق ٹھن کیا بہت غلط تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر میں ایک سال بھی وہاں رہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد پیری میں غمیم ہوتے تو میں آپ کے طواف کرنے سے پہلے ہرگز طواف نہ کرتا۔ قریش نے مجھے طواف کرنے کی دعوت بھی دی میں نے انکار کر دیا۔

مسلمانوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتے اور ہم سے زیادہ حسن ٹھن رکھتے ہیں۔

مسلمان ابھی مصروف تھے کہ بدیل بن درقاد خراجمی بنون خزادہ کی جماعت میں سے حاضر ہوئے یہ خبر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے عامر بن ٹومی اور کعب بن ٹومی کو مدیر کے پیشوں کے قریب اترے دیکھا ہے۔ ان کے ہمراہ بہت بڑا شکر ہے اور آپ سے بہت کرنا اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لاٹنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم تو صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں اور قریش کو روانہ کرنے کا منصب کر رکھا ہے اور نعمان دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں مدد دوں گا اور وہ میرے لوگوں کے درمیان حائل نہ ہیں اور اگرچا ہیں تو اس میں داخل ہو جائیں۔ بس

میں لوگ داخل ہوتے اور اگر وہ جنگ ہی پر اصرار کریں تو اس ذات کی قسم جس کے باقاعدے میری جان ہے۔ میں ان سے جنگ کر دوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر نافذ فرمادے۔

**بدیل کا تاثر اشرف قریش** پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ چل پڑا اور قریش سے آکر کہا کہ میں اسی ادمی را رسول اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ میں نے انہیں ایک بات فرماتے سن، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے رکھ دوں۔ بعض پست فطرت لوگ کہنے لگے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تو ان کی بات ہمارے سامنے بیان کرے۔ لیکن بعض اہل خود کہنے لگے، بتاؤ کیا سنابے!

انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایسے بیسے فرماتے سنابے۔ عروۃ بن مسعود شفیعی ہے لگا کہ یہ مناسب بات تمہارے سامنے پیش کی گئی ہے، اسے قبول کرو اور میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آیا اور گفتگو کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدیل والی بات فرمائی، اس پر عروۃ ہے لگا: اے خُسْدَا کاش قوایبی قوم سے تعلق قائم رکھتا۔ کیا تو نے سننا کہ عربوں میں سے کسی نے تجھے سے قبل اپنے اقارب سے امراض کر دیا ہو؟ اللہ کی قسم کہ میں ایسے سبھروں اور ایسے چھوٹے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو بھاگ جائیں گے اور تجھے چھوڑ جائیں گے۔

ابو بکرؓ نے فرمایا کیا آپ کو چھوڑ کر یہ بھاگ جائیں گے؟ عروۃ نے پوچھا یہ کون ہیں؟  
بواب ملا ابو بکرؓ۔

ہے لگا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر مجھ پر تیرا وہ احسان نہ ہو تو اک جس کا بدله میں نے نہیں انداز ا تو تجھے جواب دیتا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا باتیں کرتے کرتے اس نے آپ کی ریش مبارک پکڑ لی (اس زمانہ میں عربوں کی یہ عادت تھی) حضرت مغیرہ بن شعبہ تواریخ سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تکوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا اور فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی سے ہاتھ ہٹا۔ عروۃ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی مبارک کی طرف ہاتھ ڈھکا

رہا وہ اس کے ہاتھ پر تکوار کا دستہ مارتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہاتھ الگ رکھ،

عروہ نے ہاتھ اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب ملا مغیرہ بن شعبہ۔

اس نے کہا: یعنی غدر کرنے والا۔ واقعہ یوں تھا کہ زمانہ تجاہیت میں حضرت مغیرہ نے ایک قوم کی مصحابت کی پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال بوتا ہوا۔ اس کے بعد حاضر ہوتے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام قبول ہے اور مال میں تیرا کچھ حق نہیں۔

عروہ کے تاثرات اسی حضرت اصحابہ کے پارے میں اس کے بعد عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دیکھنے لگا۔ بخدا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغنم تھوکتے تو بھی وہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا، وہ اسے اپنے بدن اور پیرے پر مل لیتا اور جب حکم دیتے تو فوراً اطاعت کرتے اور جب آپ دھوکرتے تو دھوکا رپانی پیش کئے یہی ایک درسرے پر سبقت ہے جانے کی کوشش کرتے اور جب آپ کلام فرماتے تو دھاہب اکی آواز گنگ ہو جاتی اور عظمت و فقار کے باعث آپ کی طرف نظر بھی راستھا سکتے۔

اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف بوتا آیا اور کہنے لگا اسے قومِ اللہ کی قسم میں کسری، قیصر اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس قدر عزت و احترام کرتے ہوں جس قدر حُسْد کے صحابہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ بخدا اگر وہ بغنم تھوکیں تو نہ بھی کسی آدمی کے ہاتھ میں پڑتا ہے وہ اسے پھر سے اور بدن پر مل لیتا ہے اور جب وہ انہیں حکم دیتے ہیں تو فوراً اطاعت کرتے ہیں، جب آپ دھوکرتے ہیں تو اس کا رپانی پیش کئے یہی اپس پیش چلگرتے ہیں۔ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو دھاہب اکی آواز یہی بند ہو جاتی ہیں اور شدید تعظیم کے باعث وہ اُن کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے ہمارے سامنے ایک بہترین پیش کی ہے اسے قبول کرلو۔

بی کنایہ کا ایک اور آدمی انجما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ کو اور آپ کے تابر کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں سے اور یہ اس قوم میں سے ہے، اب تو قربانی کے جانوروں کا احراراً مکرتی ہے، اسے بلا لو، اسے بلا یا گئی قوم نے تنبیر کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ وہ کہنے لگا سجان اللہ ایسے لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے بالکل نردوں کا چاہیے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے جانوروں کو تسلیم کو تسلیم سے روکنا چاہیے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے جانوروں کو تسلیم کو تسلیم سے روکنا چاہیے۔

اس کے بعد مکر زبن حفص انجما، کہنے لگا میں جانا بھو۔ جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا آدمی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخ کرنے لگا۔

**سہیل بن عمر و سے صلح کے شرائط** اتنے میں سہیل بن عمر رأی گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب کام آسان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: اذْ هُمْ أَبِيسُ مِنْ عَبْدٍ نَّاهِي لَهُمْ لِيْسُ۔ کاتب کو بلا یا گیا۔ آپ نے فرمایا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لکھو۔

سہیل کہنے لگا رحمن کو ہم نہیں جانتے تکھو باسم اللہ تیرے نام سے اب سیے آپ لکھا کرتے تھے۔ سلماںوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم بسم اللہ الرحمن الرحيم ہی لکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیسا یہ کہتا ہے۔ دہی لکھو: باسم اللہ ربہ فرمایا لکھو، یہ ہے وہ تحریر جس میں محمد اللہ کے رسول نے فصلہ فرمایا۔

سہیل بولا اللہ کی قسم اگر ہم یہ مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ رکھتے اور نہ آپ سے مقاولہ کرتے، بلکہ لکھو محمد بن عبد اللہ!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ تم نے میری تکہیں کیے ہیں لیکن میں واقعہ اللہ کا رسول ہوں (اچھا)، اس طرح لکھو، محمد بن عبد اللہ!

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان سے ہٹ

جاوے گے تاکہ ہم اس کا طواف کریں۔

ہیل کہنے لگا: ہمارا کوئی ادمی آپ کے ہاں نہیں آئے گا چاہے وہ آپ کے دین پر آیا اور اگر آگئا تو اسے واپس کرنا ہو گا۔

مسلمان کہنے لگے بھان اللہ جو ارمی مسلمان ہو کر آجائے اسے مشرکین میں کہنے بھجو جائے گا؛ ابھی انہی باتوں میں تھے کہ ابو جندل بن سہیل سختکڑیوں میں جکڑے ہوتے ہو گئے اور مسلمانوں کے سامنے پیچ گئے۔ سہیل کہنے لگا: اے مُحَمَّد! اے پہلا ادمی ہے بے فیصلہ کے مطابق آپ دو ماں ہیں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی تک تو عہد نامہ تیار بھی نہیں ہوا وہ کہنے لگا پھر اللہ کی قسم کی بات کا فیصلہ نہ کروں گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا میرے یہے رہنمے دے وہ بولا میں آپ کے سیے بھی نہیں رہنمے دوں گا۔

ابو جندل نے وجہ پرستی تو فرمادی کی، اسے مسلمانوں میں مسلمان ہو کر آیا ہوں کیا مجھے مشرکین کے حوالے کیا جائے گا؟ اکی تم نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا کیا دکھ بہنچا ہے؟ کفار نے انہیں سخت ترین ایذا میں دی تھیں۔

**مسلمانوں پر مالیوی کی کیفیت** [جب سہد نامے سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اٹھو اور نحر (قربانی) کرو، پھر حلق کرو، لیکن مسلمانوں میں سے ایک ادمی بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے تین بار فرمایا: جب کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو آپ ام سلطنت کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی حالت بیان فرمائی۔ ام سلطنت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ چلتے ہیں تو تشریف لے جائیے۔ کسی سے کوئی بات نہ کیجئے۔ یہاں تک کہ آپ خود قربانی کر لیں اور پھر جہام کو بلا ٹیکے اور خود حلق کر دائیں۔ پھنانچہ آپ اٹھے کسی سے کلام نہ فرمایا: اور نحر کیا پھر جہام کو بلا کر سلق کر دایا، جب لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بھی نحر کیا اور ایک درمرے کا حلق کیا اور غنم کی شدت کے باعث ایک درمرے کو زخمی

کرو یا۔ اس کے بعد سورتیں سلمان ہو کر اُپسیں قول اللہ تعالیٰ نے یاد کیا یہا الذین  
امتنوا اذنا جاءکم المونات مهاجرین سے لے کر عصمر الکوافر آیات نازل  
فرائیں۔

پھر بنی صلی اللہ علیہ وسلم والب میر تشریف لے آئے، راستے میں ہی یہ آیات نازل  
ہوئیں:- اَنَا فِتْنَةٌ لَكُمْ فَتَحَمِّلُنِي مَنْ يَغْفِرُ لَكُمْ لَهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبٍ وَمَا  
تَأْخُرُ فِي سَمَرٍ نَعْمَلُهُ عَلَيْكُمْ وَنَهْدِيْكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَنَصْرًا عَلَى  
عَزِيزٍ ۝

یعنی ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے مریع فیصلہ تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو اگے ہو سکے تیرے گناہ اور جو پچھے رہے اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور پلاٹے تجھ کو سبیدھی راہ پر اور مددگرے تیری اللہ زبردست مدد۔

صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بادپش کیا اور عرض کیا، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہو الہا نی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لخ  
جب آپ مدینہ تشریف لائے تو قریش کا ایک ادمی ابو لصیر مسلم بھوکر حاضر ہوا انہوں  
نے ان کی تلاش میں دو ادمی دا پس لانے کے لیے بیجے۔ آپ نے انہیں دونوں ادمیوں  
کے حوالے کر دیا وہ انہیں لے کر نکلے۔ آخر ذا الحینہ پیغام بھی ایسا اتر کر کھجوری کھائے

ابو بیضیہ نے ایک سے کہا۔ اللہ کی قسم تیری تکوار میں دیکھنا ہوں کہ خوب سفید اور  
مددہ بے اس نے سونت لی اور کہا! اللہ کی قسم یہ بہت ہترنگ ہے۔ اسے میں کہنی  
بار آزمائچکا ہوں۔

**منظوم مسلمانوں نے خود اپنی نجات کی صورت نکال لی** | ابو بصیر نے فرمایا۔ ذرا بھے دکھاویں بھی دیکھوں۔

اس نے ان کے ہاتھ میں تھادی، انہوں نے اسے قتل کر دیا، دوسرا بھاگ گیا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گیا۔ مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو وہ گھبرا یا ہوا تھا وہ آپ کے قریب پہنچا تو کہنے لگا و اللہ میرا ساتھی قتل ہو گیا ہے اور میں بھی قتل ہوئے لگا تھا اور مگر بھاگ آیا اتنے میں ابو بصیر بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے عرض کیا؛ اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کا عبد پورا کر دیا۔ آپ نے مجھے ان کی طرف نوما دیا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ان سے نجات دلادی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرابی ہواں کی ماں کو بٹنگ باز ہے۔ کاش اس کا دوسرا ساتھی ہوتا۔ جب رابو نصیر (رض) نے یہ کلام سنتا تو یقین کر دیا کہ انہیں پھر نومادیا جائے گا رابو نصیر (رض) مدینہ سے نکل آئے اور ساحل سمندر پر آگر رہائش پذیر ہو گئے۔ ابو جندل دکن بیسل بھی دہاں سے بھاگے اور ابو بصیر (رض) سے بجا آئے۔ اب قریش کا جو ادمی بھی اسلام لانا وہ ابو بصیر (رض) سے جا ملتا۔ یہاں تک کہ ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اللہ کی قسم وہ قریش کا جو قافلہ بھی دیکھ پاتے، اس پر ٹوٹ پڑتے۔ انہیں قتل کرتے اور ان کے اموال بورٹ لیتے۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اور اپنی قراہت کا واسطہ دیا کر انہیں اپنے پاس بلائیں اور جو بھی رمدینہ آئے گا وہ مامون ہے (یعنی ہم واپسی کا مطابرہ نہ کریں گے)۔

اس موقع پر بعض بھیب والفات پیش آئے ای صحیح بخاری میں حضرت جابر (رض) سے مروی ہے کہ حدیثیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس محسوس ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک نوماتھا بس سے آپ دھو فرماتے۔ جب لوگ ادھر ائے تو آپ نے فرمایا؛ کیا بات ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول؟ ہمارے پاس نہ پہنچنے کیلنے پانی ہے اور نہ دھو کرنے کے لیے۔ صرف آپ کے سامنے دیکھ لوما ہے آپ نے بوٹے میں ہاتھ رکھا اور انگلیوں سے جسموں کلہنے پانی بینے لگا، تمام صحابہ نے پانی

پیا، و منوجھی کیا۔ ان کی تعداد پندرہ سو تھی۔ یہ واقعہ کنویں کے واقعہ سے جدا ہے۔ اسی شب کو بارش ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کی نماز پڑھی تو فرمایا۔ جانتے ہو تمہارے رب نے آج شب کو کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔

دآپ نے فرمایا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میرے بعض بندوں نے اس طرح صحیح کی کردہ میرے مومن ہیں اور بعض کافر ہیں، جس نے کہا کہ اللہ کے فعل و کرم سے بارش ہوئی وہ مومن ہے اور کو اکب کامنگر ہے اور جس نے کہا ہم پر ایسے ایسے ستارے کے باعث بارش ہوئی وہ میرا کافر ہے اور کو اکب پر ایمان رکھتا ہے۔

مسلمان عورت کی حرمت نے عاہدہ کی ایک شق منسوخ کر دی مسلمانوں اور اہل مکہ میں دی

سال کے پیسے مصالحت ہو گئی اور عوام ایک دوسرے کی ایذا دہی سے مامون ہو گئے۔ اگلے برس اپنے مکہ میں تشریف لائے اور تین دن وہاں قیام فرمایا اور حکم دیا کہ تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہ لیا جائے اور اس سے بھی میان میں رکھا جائے نیز یہ بھی طے پایا تھا کہ ہم اپنے کے ساتھیوں میں سے آنے والے کو واپس نہ کریں گے اور ہمارے جانے والے ساتھیوں کو وہاں نہ ہو گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم انہیں یہ دسہولتیں ادیں! اپ نے فرمایا جو ہم میں سے ان کی طرف چلا گیا اسے اللہ نے راسی رحمت سے دور کر دیا اور جو ہمارے پاس آیا اور پھر ہم نے اسے لوٹایا تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کی راہ پریدا کر دے گا۔

صلح حدیث میں ہبی اللہ تعالیٰ نے سرمنڈا نے کافریہ روزہ یا صدقہ یا قربانی قرار دیا یہ حکم کعب بن عجزہ کے معاملہ میں نازل ہوا۔

اس صلح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے پیسے تین بار اور قصر کرانے والوں کے پیسے ایک بار دعا کے مغفرت فرمائی۔

اس میں ایک ادمی کی جانب سے ایک اونٹ نحر فرمایا اور سات ادمیوں کی جانب

سے ایک گائے ذبح کی۔

اس واقعہ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے اوٹوں میں ایک اونٹ کی تاک میں جو کبھی ابو بہل کی ملکیت رہ چکا تھا۔ چاندی کی ایک نیکیل ڈال دی تاکہ مشرکین جبل اٹھیں۔

اور اسی موقع پر سورہ فتح نازل فرمائی۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخواہ نے معاہدہ کر دیا اور بزرگرنے قریش سے معاہدہ کر دیا۔ کیونکہ صلح حدیث میں یہ بھی ایک شرط تھی کہ اقبال عرب میں سے ابھ کا جی بس کے ساتھ چاہے معاہدہ میں شریک ہو جائے۔

جب آپ مدینہ تشریف لائے تو کچھ عورتیں مسلمان ہو کر آئیں۔ ان میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بھی تھیں۔ ان کے دارث آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کے مطابق انہیں واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے انہیں واپس نہ کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمادیا۔ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے معاملہ میں یہ شق منسوخ ہو گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت کو محدود کر دیا گیا، لیکن (صحیح) قول یہ ہے کہ صلح حدیث میں صرف مردوں کے متعلق یہ شرط طے ہوتی تھی اب مشرکین نے چاہا کہ اس کا دونوں صنفوں (مرد عورت) اپر اطلاق کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے انکار فرمایا۔

**واقعہ حدیثیہ کے سلسلہ میں فوائد فتحیہ** [الله علیہ وسلم نے اشخر حج میں عمرہ فرمایا، کیونکہ آپ ذی قعدہ کو نکلے۔]

دوسرے میقات سے عمرے کا احرام باندھنا زیادہ افضل ہے۔ جیسے حج کا احرام باندھا جانا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیٹے ذی الحیدر سے احرام باندھا۔ اس جگہ اور مدینہ میں ایک میل کے قریب فاصلہ ہے۔

تمسک سے عمرہ مفرد میں ہدی چلانا اسنون ہے جیسا حج قرآن میں طریقہ ہے۔

پوختے ہدی کا اشعار کرنا مستحب ہے نہ کہ اسے مثلہ کیا جائے کیونکہ یہ منوع ہے۔

پانچویں اللہ کے دشمنوں کو غصب ناک کرنا اور جلانا مستحب ہے۔ یکو نکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سابق ملکیت اونٹ کو چاند کی کنکیل پہنائی تاکہ مشرکین خوب بیسیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حمایہؑ کی وصف میں فرمایا: ان کی مثال دی۔ وَمُثْلِهِمْ فِي الْأَنْجِيلِ كَمَرْسَعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَأَنْزَرَهُمْ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوْسِي عَلَى سُوقِهِ يَعْبِرُ الزَّرَاعَ لِيَغْيِطَ بَهْرَ الْكُفَّارِ۔ یعنی، اور مثال ان کی انجلیل میں، جیسے کہیتی نے نکالا اپنا بخا پھراں کی کمر غبرو ط کی پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا۔ یعنی نالی خوش گلتہ ہے کہیتی والوں کو تاکہ جلا رئے ان سے جی کافروں کا۔

نیز فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَصِيهُونَ ظِلَامًا وَ لَا نَصْبٌ وَ لَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يَطْوُؤُنَ مَوْطِئًا يَغْيِطُ الْكُفَّارَ۔ وَ لَا يَتَالُونَ مِنْ عِدَّ وَ نِيلَهٗ إِلَّا كُتُبَ الْهُدَى هُدَى  
عمل صالح ان اللہ لا یضيع اجر المحسنين۔

چھٹا یہ کہ امیر کو چاہیئے کہ دشمن کی طرف مجرما رسال کرے۔

ساتویں طابیں اور سورا یوں کا نام رکھتا بھی سنوں ہے۔

آنھویں دین کی خبر پر حلف اتحاداً بآذر بجلکہ مستحب ہے، جس سے اس کی تائید ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سے زیادہ بار حلف اتحاداً ثابت ہے اور تین مقامات پر تو اللہ نے تصدیق کے لیے حلف اتحاد نے کا حکم دیا۔ سورہ یونس، سورہ سباء اور تعابن میں منقول ہے۔

نویں، مشرکین، اہل بدعت، فتنی و فحور میں بینکار لوگ بھی اگر اللہ کی حرمتات کی عملت و احترام کا مطالبہ کریں تو اس سلسلہ میں ان سے تعاون کرنا چاہیے اور دوسروں کو ان سے روکنا چاہیے اور حرمات اللہ کی تعظیم میں تو ان کی مدد کی جائے گی البتہ ان کے ذاتی فتنہ و فحور میں بالکل تعاون نہ کرنا ہوگا۔

وسیمیں، یہ کہ جو مکر کے قریب نازل ہوا سے چاہیے کہ صل میں اترے اور حرم میں لذا ادا کرے۔ حضرت ابن عمرؓ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

گیارہویں، سریا سینہ جہاں سے موابہبہ اسے پاک کرنا۔

بارھویں، متعلق پانی کا پاک ہو گا۔

تیرھویں، نفاذیں کا استحباب۔ یاد رکھیے یہ طور یعنی غالباً یہ سے کی قسم کی نہیں۔ بنی اسرائیل علیہ وسلم نے سہیل کی آمد پر فرمایا، اب کام سہل ہو گیا۔  
پندرھویں، علق کروانا ناقصر سے افضل ہے۔ عمرہ میں بھی حج کی طرح قربانی ہو گی۔ عمرہ محصور میں دوسرے کی طرح قربانی ہو گی۔

پندرھویں، یہ کہ محصر اس جگہ قربانی کر دے جہاں کہ اس سے روکا گیا، چاہے حل ہو یا حرام ہو اور یہ وجہ نہیں کہ قربانی کو اگر حرام میں نہ پہنچا کے تب بھی حرم میں پہنچانے۔

صلح حدیثیہ میں بعض حکمتوں کا بیان [اس میں جو حکمتوں میں ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بس نے اس اب

ہنکئے۔ چنانچہ اس کے تقاضائے ملکت کے مطابق و اتفاقات (ظہوراً پذیرہ ہنکئے۔  
ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ معاہدہ فتح عظیم کا مقدمہ بنا، جس سے اللہ نے اپنے رسول اور شکر کو عزتِ عالیٰ اور لوگ اللہ کے دین میں گردہ درگروڈ داخل ہنکئے۔ گویا یہ قسم اس مبارک امر کا دروازہ اور چاہی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت جیلہ ہے کہ جو بھی عظیم اور بڑا کام کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے مقدمات اور تمہید میں قائم فرماتا ہے جو اس کا سبب بنتی اور اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔

نیز یہ معاہدہ سب سے بڑی فتح تھی۔ کیونکہ لوگوں نے ایک دوسرے کو امان دے دیا اور مسلمان اور کفار اپس میں ملنے لگے۔ انہیں اسلام اور قرآن کی دعوت دینے لگے اور اسلام کے متعلق علاییہ مناظر سے شروع ہو گئے اور مخفی طور پر جو مسلمان تقاضا کر رہے تھے ظاہر ہو گیا اور اس مدت میں بس نے چاہا وہ اسلام میں داخل ہو گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فتحِ مسیمین کا نام دیا۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و اذعان میں اس سے زیارتی کا سبب قرار دیا۔ اللہ کی قضا و قدر کی رضا، اس کے وعدوں کی تصدیق۔ اس کے مواعیب کا انتظار پھر سکینز کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا مشاہدہ جس کے ذریعہ قلوب کو الہمیناں

فسیب ہوا اور انہیں قوت حاصل ہوئی ران سب سے ایمان میں زیادتی ہوئی۔

ویگر سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم ہوا پسے رسول اور مومنین کو دیا اسے اپنے رسول کے تمام سابق آئندہ ذنوب کی بخشش کا سبب اور ان پر اپنی نعمت کے تمام اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت اور غالب نصرت کا سبب قرار دیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بیعت کا ذکر فرمایا اور اسے اس طرح مونکد کیا کہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بیعت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ران کے ہاتھوں پر تھا تو گویا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ کیونکہ وہ اسی ذات کا نبی اور رسول ہی تو ہے تو یوں سمجھو کر اس کے نبی در رسول سے بیعت خود اسی سے عقد و بیعت ہے پس جس نے در رسول اکی بیعت کی گویا اس نے اللہ کی بیعت کی اور (در رسول اللہ) کے ہاتھ کے اوپر کا ہاتھ ہے۔ پھر خبر دی کہ اس عہد کو توڑنے والے کی اسی حرکت کا زوال خود اس پر اگر رہے گا اور ایفائے عہد کرنے والے کے پیسے بہت بڑا بزر ہے۔ اس طرح ہر وہ مومن ہو اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ کی بیعت کرتا ہے یا تو وہ عہد کو پورا کرے گا یا عہد شکنی کرے گا اریعنی دوہی صورتیں ہوں گی۔

پھر ان امراب کا ذکر فرمایا ہے ہوں نے عہد شکنی کی اور اللہ کے ساتھ بدظی کا ثبوت دیا۔ را اور ان کے ان خیالات کو، کہ رسول اس کے ساتھیوں اور شکر کو (خود باللہ) رسول کیا، کہ دشمن ان پر فتح حاصل کرے تاکہ وہ واپس گھر دیں میں قطعاً نہ جائیں۔

پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وجہ سے مومنوں سے راضی ہوا اور اس وقت ان کے قلوب بس صدق و دفاع سے پُر تھے خدا ہی خوب جانتا ہے جس قدر وہ کمال اطاعت و دفاع، اللہ و رسول کی خاطر ایشارہ کا جذبہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر سکینہ، الہمینا اور رضا نازل فرمائی اور اپنے حکم سے ان کی رضا، صبر پر فتح قریب کا مرشدہ سنایا، نیز یہ بتایا کہ انہیں بہت سے مقام ہاتھ ملیں گے۔

مزید برائی یہ بھی فرمایا کہ یہ عنانِ حمّا نہیں جلدی دے دیئے جائیں گے اور ان معانیم کے علاوہ و درستے فتوحات کثیرہ کا بھی وعدہ فرمایا کہ اس وقت وہ ان پر قادر نہ تھے۔

ایک قول فتح مکہ کے متعلق ہے۔ بعض کاغذیاں ہے کہ اس سے مراد فارس اور روم کی فتوحات ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ فتح نبیر کے بعد آفاقی عالم پر فتوحات کا سلسلہ مراد ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر کفار اللہ کے اولیاء سے جنگ کریں گے تو انہیں نصرت نہ ملے گی اور پیغمبر کردار ہو جائیں گے اور اس کے بندوں میں یہ اللہ کی سنت قدمیہ چلی آئی ہے اور سنت اللہ میں تغیر نہیں آیا کرتا۔

پھر نبیر دی کہ اس کے رسول نے مسجد (سرام) میں امن سے داخلہ کا خواب صحیح دیکھا۔ اور وہ عنقریب رونما ہو گا۔ اور لازماً ہو گا۔ لیکن اس سال اس کا وقت نہیں آیا۔ تم اگرچہ جلدی کرنا چاہتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ خوب چانتا ہے۔ اس کی تاخیر میں کیا کیا مصالح و ملکیں بو شدید میں۔ چنانچہ اسی کے لیے تہیید و بنیاد کے لیے فتح قریب عطا فرمائی۔

پھر فرمایا کہ راللہ اور ذات بے بس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مسیح فرمایا کہ اسے باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ پس جب دین اسلام کے اتمام اور اتمام ادیان پر غلبہ عطا کرنے کا کفیل خود اللہ تعالیٰ ہو گیا تو اس میں مسلمانوں کے قلوب کو قوت و فرجت حاصل ہوئی اور اس عہد پر انہیں ایقان حاصل ہوا کہ ضرور پورا ہو کر دے گا۔ اور یہ ذکر مسیح کو کہ عدیہ کے روز جو اغراض واقع ہوا وہ دُشمن کی مدد اور اپنے رسول دو دین حق کے ساتھ مسیح فرمایا اور وعدہ کیا کہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اس کے صحابہؓ کی مدح فرمائی اور تواتر و انجیل میں ان کی صفات م McConnell کا تذکرہ فرمایا۔ اس طرح یہ تواتر و انجیل اور قرآن کے ارسال فرمائے داںے کی حقانیت کا ثبوت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مذکورہ

الہامی کتابوں اور ان صفات میں سے متصف ہیں اور وہ بات نہیں کہ جس کا تذکرہ کفار کرتے ہیں اور الزام دھرتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ طالب دنیا، اور حکومت کے خواباں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے نصریٰ نے (صحابہؓ) کو دیکھا، ان کا طریقہ زندگی کا مطالعہ و مشاہدہ کیا۔ ان کے عدل و علم و عمل اور دنیا سے پرہیز آخرت کی طرف رغبت کا حال دیکھا تو کہنے لگا۔

یوگ ان سے افضل ہیں، جنہوں نے سیچ علیہ اسلام کی ہدایت کا شرف حاصل کیا

یہ نصاریٰ کی رائے ہے، جو صحابہؓ کے مقام و فضیلت سے آگاہ تھے۔ بخلاف روافض کے کہ یہ صحابہؓ کے متعلق ایسی باتیں بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روایت نہیں رکھیں اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے اللہ گراہ کرے اس کا کوئی کار ساز اور ہنما نہیں۔

---

# فتح خیبر

یہود کی ہمیشہ کے لیے سرکوبی، خیبر کے یہودیوں سے معابدہ

**شہر کا ایک اہم واقعہ** اموی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ جب رسول ماب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بوٹ کر مدینہ تشریف لائے اور قریبًا میں دن ٹھہر سے۔ اس کے بعد آپ خیبر کی طرف نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ ہمایں اس کا وعدہ کر دیا تھا۔

امام مالکؓ فرماتے ہیں کہ نبیر شہر میں فتح ہوا اور جہور کا خیال بے کوشہ میں فتح ہوا۔ ابن اسحاقؓ فرماتے ہیں کہ مجھے ذہریؓ سے انہیں عروہ سے انہیں مردان بن حکم اور سورہ بن محزمه سے روایت پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سال تشریف لے گئے۔ ابھی مکہ و مدینہ کے درمیان تھے کہ سورۃ فتح نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیبر عطا فرمایا اور مغاثم کثیرہ وعدہ فرمایا۔ اس طرح یہ خیبر کی فتح و غناائم (جلد عظیم) کو دی گئیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الجھۃ کے ہمینے میں مدینہ والپس تشریف لائے اور تھوڑی مدت ہی ٹھہر کر محرم کے ہمینے میں خیبر تشریف لے گئے۔

آپ خیبر و عظماں کے درمیان وادی رجیع میں اترے۔ خطرہ ہوا کہ عظماں حملہ نہ کریں چنانچہ یہیں رات گزاری اور صبح کے وقت ان کی طرف گئے۔ مدینہ پر سباع بن عوف کو عامل مقرر کیا۔ اسی وقت ابو ہریرہؓ پر پیخ گئے اور صبح کی نمازیں سباع بن عوف سے پہلی رکعت میں کھلی ہیں اور دوسری میں ویل لله طفیل سنی۔

سلیمانؓ اکوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف گئے

اور ہم نے رات کو سفر کیا۔ قوم کے ایک ادمی نے عامر بن اکوئ سے کہا کیا تم ہمیں پانچ  
اشعار زدناؤ گے؟

عامر ایک شامر ادمی تھے۔ پانچ ہجہ حاضرین کو ان اشعار سے گرفتے گئے۔

اللَّهُمْ تَوَلُّ مَا هَنْتِ يَا

وَلَا تَصْدِقُنَا وَلَا أَصْلِيْنَا

یعنی اسے اللہ اگر تو زر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہ آتے۔

اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے۔

فَاغْفِرْنَا لِكَ مَا اتَّقَيْنَا

وَثِبِّتْنَا لَاقْدَرْنَا لَوْقِيْنَا

ہمیں بخش دے ہم تجوید پر فدا ہوں۔

اور اگر تو جنگ پر ثابت قدم رکھتا۔

وَنَزَّلْنَا سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

وَأَنَا ذَلِكَ صَيْحَةُ بَنَاءِ قَيْمَتِنَا

اور ہم پر سکینہ نازل فرمایا۔

اور جب ہمیں بلا یا جائے گا، ہم حاضر ہوں گے۔

وَبِالصَّيَامِ عَوْلَوْا بَنَا

وَإِنَّا إِذَا دَوَّلْنَا فَتَنَّةً أُبَيْنَا

اور جنگوں میں ہم پر استاد کیا گیا۔

اوپر اگر ہمیں بعفی گراہ کرنا چاہیں گے ہم انکار کر دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا سائق کون ہے؟

عرف کیا گیا عامرؓ

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے۔ ایک ادمی ہنسنے لگا واجب ہو

گئی، واجب ہو گئی عامر کو اسے اللہ کے رسول!

راوی کہتے ہیں کہ ہم نبیرائے اور ہم نے ان کا محاصرہ کر دیا لیکن شدید تکلیف و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اپنے اللہ تعالیٰ نے ان پر باب کامرانی اکھوں دیا جب شام ہوئی تو انہوں نے کثرت سے آگ جلائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آگ کیسی ہے اکیا پکار رہے ہو، عرض کیا گیا گوشت اپکار ہے ہیں، آپ نے دریافت فرمایا، نہیں گوشت! عرض کیا گوخر کا گوشت۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سالن کو انڈیں دو، یہ ہانڈیاں تو زور دو، جب صرف آرائستہ ہوئی تو مر جب تووار ہاتا اور یہ شعر پڑھنا نکلا۔  
قد علمت خیراً فی مرحباً

شاكِ السلاح بطل مجروب مجروب - اذا الحروب اقیمت قلة هب  
یعنی: نبیر کو معلوم ہو چکا کہ میں مر جب ہوں۔

ہتھیاروں سے سجا ہوا۔ تجربہ شدہ بہادر ہوں۔ جب نہایاں آئیں تو شعلہ زک ہو جاتا ہوں۔

اس کے مقابلے میں عامر یہ شعر پڑھتے مقابله میں آئے۔

قد علمت خیراً فی عامر

شاكِ السلاح بطل مفامر

یعنی: نبیر کو معلوم ہو چکا کہ میں عامر ہوں۔

ہتھیار سجانے والا، بہادر را اور انڈر جنگجو ہوں۔

چنانچہ اپس میں بھڑپ ہوئی اور عامر کی ڈھال پر جب کی تووار پڑی اور عامر سے نیچے سے جانے لگے۔ عامر کی تووار میں کچھ لفظ تھا۔ تووار کی ڈھاران پر پڑی اور عامر کی آنکھ پر ملکی اس سے ان کی شہادت بھی ہو گئی۔

حضرت سلطنت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عامر کا مسل بہادر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: میں نے یہ کہا اس نے جھوٹ بولا اس کے نیے دو اجر

ہیں اور آپ نے دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، وہ یقیناً جاہد و مجاہد ہے۔ بہت کم مری ایسے ہیں جنہوں نے اس کی طرح بہاد کیا ہو۔

**اہل خیر کی بے خبری** [جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیر تشریف لائے۔ وہاں صحیح کی نزا دا فرمائی۔ اس کے بعد سلطان سوار ہوتے تو اہل خیر اپنے کھیتوں اور کام کاچ کی جگہوں کی طرف نکلے اور انہیں مسلمانوں کی آمد کا علم بھی نہ تھا بلکہ وہ اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تھے، جب انہوں نے شکر را سلام کو دیکھا تو کہنے لگے۔]

حُسْنَةُ اللَّهِ كَيْفَ قَسْمٌ خَذْلُواْ رَسُولَهُ (الیعنی ماں غنیمت کا حصہ)

چنانچہ اپنے شہر کی طرف بھاگتے ہوئے واپس ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر خیر بر باد ہو جائے، اللہ اکبر خیر بر باد ہو گیا۔ جب ہم ایک قوم کے علاوہ میں اترے تو درائے جانے والوں کی صحیح بری ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور شہر پر نظر پڑی تو فرمایا: شہر جاؤ، شکر را (اسلام) پھر گیا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَا وَرَبَّ الْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَا وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَا. فَأَنَا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرِيَّةِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْقَرِيَّةِ وَشَرِّ هَا فِيهَا۔

اس کے بعد فرمایا: اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔

**حضرت علی کا شرف** [جب داخل کی شب ای تو آپ نے فرمایا، کہ صحیح اس اُدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے ان باتوں میں ہی رات گزار دی کر دیکھیئے صحیح کس کو جھنڈا ملتا ہے۔ جب صحیح ہوئی تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اسی کو جھنڈا عطا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، ملیٰ بن الجی طالب کہاں ہے؟

عرض کیا گیا: ابے اللہ کے رسول! اسے آشوبِ حشم کی نشکایت ہے۔  
 آپ نے انہیں بلا بھجا وہ حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انکھوں میں  
 لعاب مبارک لگایا اور ان کے یہے دعا بھی فرمائی وہ تند رست ہو گئے گویا انہیں پکھلیف  
 ہی نہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں جھنڈا اعطاف فرمایا۔  
 انہوں نے عرض کیا، اسے اللہ کے رسول کیا میں ان سے تب تک مقابلہ کرو جب  
 تک وہ ہماری طرح (سلام) نہ بن جائیں!

آپ نے زمایا ان کے علاقہ میں اترنے تک اپنے قاصدوں تک رہنے دو پھر انہیں  
 اسلام کی دعوت دو اور انہیں اللہ کے حقوق کی خبر دو۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے پا تھپر  
 ایک آدمی کو ہدایت دے دے۔ تو تیرے یہے سُرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔  
 مرحوب اور حضرت علیؓ کا مقابلہ،

أَنَا الْذِي مِمْتَنَى أَمْرِ مُرْحِبٍ  
 شَاكِهِ السَّلاَحْ بِطْلِ مُجْرِبٍ  
 أَذْلَحْ رُوحَ أَقْبَلَتْ قَلْتَهِبَ  
 يعنی، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔  
 ہتھیار پوش بہادر تحریر شدہ۔  
 جب رُوانیاں آئیں تو شعلہ زدن ہو جاتا۔  
 دوسری جانب حضرت علیؓ یہ پڑھتے ہوئے میدانِ مقابلہ میں آئے۔

أَنَا الْذِي مِمْتَنَى أَمْرِ حَيْدَارٍ  
 حَلَيْثَ غَابَاتَ كَرِبَهِ الْمُنْظَرِ  
 أَوْ فِيهِ رِيَال الصَّاعِ كَيْلَ السَّنَدِرِ  
 يعنی، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے حیدر نام رکھا۔  
 جنگلوں کے شیروں کی طرح خوفناک ہوں۔

اس کے بعد علیؐ نے مصعب پر توارکا وار کیا، جس سے اس کی گردن دور جا پڑی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔

بہب حضرت علیؓ قلعے کے قریب ہوتے تو قلعے کی پہونچ سے ایک یہودی نے سر نکالا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں علی بن ابی طالب ہوں! وہ یہودی بولا تم ناب آگئے صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علیؓ نے مصعب کو قتل کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ محمد بن مسلمہ نے اسے قتل کیا۔

حضرت چابر اپنی روایت میں فرماتے ہیں کہ نیبیر کے قلعے سے مصعب یہودی نکلا اس نے خوب سنبھال دکا کئے تھے اور وہ رجنز پر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے مقابلے میں کون ایسا گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ مسجد بن مسلمہ نے مرفن کیا۔ اسے اللہ کے رسول ہیں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کی قسم ہیں بدلوں گا، اس نے کھل ہی میرے بھائی محمود بن مسلمہ کو شہید کیا ہے وہ نیبیر میں شہید کر دینے کے تھے۔ آپ نے فرمایا: اُنھوں اس کی جانب اے اللہ محمد بن مسلمہ اکی اس کے مقابلہ میں مدد کرنا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے تو دونوں کے درمیان ایک درخت حائل ہو گیا۔ اس طرح ہر ایک اس درخت کی آڑی یعنی نگاہ جب دونوں نے ایک دوسرے پر حلڈ کرنا چاہا تو ہر ایک نے سامنے کا حصہ کاٹ دیا اور ایک دوسرے کے سامنے کھل کر آگئے اور اس درخت کا رتنا ادونوں کے درمیان ایک آدمی کی طرح آڑیں گیا جس پر کوئی شاخ نہ تھی۔ پھر (مر مصعب) نے مدد پر حلڈ کیا انہوں نے چھڑے کی دھال سے وار بیجا یا۔ اس کی تکوڑا اس میں چل گئی۔ اس کے بعد مسجد بن مسلمہ نے اس پر دار کیا اور اسے قتل کیا۔

یامسر اور حضرت زبیر کا مقابلہ مصعب کے مر نے کے بعد یامسر یہودی نکلا والدہ حضرت صفیہ نے مرفن کیا اسے اللہ کے رسول میرا لڑکا قتل ہو جائے گا، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تیرا میٹا انش اللہ یہودی کو قتل کرے گا۔

چنانچہ حضرت زبیر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ پھر قوم یہود اپنے

قوس نام کے قلمیں داخل ہو گئی تاکہ روکاٹ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً بیس دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ یہ زمین خراب اور سخت گرم تھی۔ مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پہنچاہوں نے گدھے ذبح کیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع فرمادیا۔ اہل خیر کا ایک سیاہ فام غلام آیا جو اپنے آقا کی بکریاں پھر اڑا تھا جب اس نے اہل خیر کو دیکھا کہ انہوں نے ہتھیار لگا رکھے ہیں ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟

انہوں نے کہا ہم اس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں جو اپنے اپ کو نبی سجادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے دل میں لگ گیا۔ وہ بکریوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اپ کیا کہتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں اپ نے فرمایا: میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی کہ تو گواہی دے کے اللہ کے سو اکوئی مبعود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تو اللہ کے سو اکسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔

غلام بولا اگر میں گواہی دے دے دوں اور اللہ عز وجل پر ایمان لے آؤں تو میرے لیے کیا اجر ہے؟

اپ نے فرمایا تیرے لیے ہفت ہے اگر تو اسی (ایمان) پر مرسے۔

پہنچاہوں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس یہ بکریاں امانت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں اپنے پاس سے ہنکاڑے اور انہیں پھر مار کر دبھگاڑے اکیونکہ اللہ تعالیٰ تیری نجاش سے تیری امانت ادا کر دے گا۔ اس نے اپسہا ہی کیا، بکریاں مالک کے پاس پہنچ گئیں یہودی کو یقین ہو گیا کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا۔

شہداء کی صفات میں ایک تو مسلم غلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، انہیں خطاب فرمایا: اور جہاد کی ترغیب دی۔ جب مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ ہوئی تو وہ

سیاہ غلام شہزاد میں پڑا تھا۔ مسلمان اسے انھاکر اپنے شکر میں لے آئے اور اس نے میں داغل کر دیا۔ یوں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے میں دیکھا پھر حجاۃؓ کے پاس قشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو عزت بخشی اور نیکی کی طرف پہلایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے پاس دونوں سورت آنکھوں والی حوریں ہیں۔ حالانکہ اس نے اللہ کو ایک بھی سجدہ نہ کیا (یعنی نماز نہ پڑھو سکا کیونکہ اسلام لاتے ہی جہاد ہوا اور اس میں وہ شبید ہو گیا)۔

ایک اور پروانہ شمع اسلام | حماد بن سلمہ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول میں سیاہ رنگ ہے بودار ادمی ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اگر میں مقابلہ کروں، یہاں تک کہ قتل ہو جاؤں تو کیا مجھے بخت ہیں واخlew جائے گا؟

آپ نے فرمایا، ہاں!

پھر وہ بڑھا جنگ کی طرف، یہاں تک کہ شبید ہو گیا۔ اسے اسی حالت میں انھاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ یقیناً اللہ نے تیراچھرہ میں کر دیا۔ تیری بو کو خوشبو میںبدل دیا۔ اور تیرے مال کو زیادہ کر دیا۔ پھر فرمایا میں نے اس کی دونوں سورت آنکھوں والی یہ یوں کو دیکھا کہ وہ اس سے اس کا پرانا لباس انمار ہی ہیں۔ اور نئے لباس اور جبہ میں داخل کر رہی ہیں۔

ایک من چلا اعرابی | مشداد بن ہاد فرماتے ہیں۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا اور اتباع کی۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے کسی صحابی کو اس کے متعلق وصیت فرمائی۔ جب مزدوجہ نیبر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت بانٹھا۔ آپ نے اسے تقسیم فرمایا اور اعرابی کا حصہ بھی نکالا اور اس کا حصہ صحابہؓ کو رکھنے کے لیے دیا۔ اس وقت وہ پشت پر پھرہ دے رہا تھا جب وہ حاضر ہوا تو صحابہؓ نے اس کا حصہ

دیا، وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پر یہی اگ کرمایا۔ اس نے بیبا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں کے کہ حاضر ہو گی اور عرضی کیا اسے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تیرا حصہ اگ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اس لایچ سے آپ کا اتباع نہیں کیا۔ بلکہ میں نے تو اس پر یہی اتباع کیا ہے کہ مجھے یہاں اس جگہ تیر گئے، پھر اپنی گردان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اور بس میں مر جاؤں۔ پھر مجھے جنت میں داخلہ مل جائے

آپ نے فرمایا اگر تو نے پنج کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ تیری تصمیق دکا صد ادے گا۔ پھر دشمن کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصتوں میں لا یا گیا۔ آپ نے فرمایا: کیا یہ دہی ہے؟ دم حابہ نے عرض کیا جی ہاں!

آپ نے فرمایا: اس نے اللہ کی تصدیق کی۔ اللہ نے اپنا دو وعدہ اپنے کر دکھایا۔ پھر انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہہ مبارک کا اسے کھن دیا، پھر اسے لے گئے اور اس کے حق میں دعا فرمائی اور آپ اس کے لیے یہ دعا کر رہے تھے: آے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستہ میں مہاجر نکلا اور شہادت کے نون میں قتل ہوا اور میں اس پر گواہ ہوں۔

واقعہ فرماتے ہیں کہ یہود اپنے قلعے کی طرف واپس جا کر قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تین دن ٹھہرے اُخراً یک یہودی آیا۔ جسے عزاں پہنچتے تھے۔ اس نے کہا اسے ابوالقاسم اگر آپ ایک ماہ بھی ٹھہرے رہیں تو بھی انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ یونکران کے پیمنے کا پانی اور پیشے زمین کے نیچے ہیں۔ رات کو نکلتے ہیں۔ اس سے پی لیتے ہیں اور پھر دو بارہ قلعے میں لوٹ جاتے ہیں اور آپ سے بچاؤ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی کاٹ دیں تو سامنے آئیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکے پیشوں کی جانب تشریف لے گئے انہیں کاٹ دیا جب پانی بند ہو گیا تو اب نکلے۔

اور سخت ترین جنگ ہوئی۔ کچھ مسلمان شہید ہوئے اور دو یہودی مارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اسے فتح کرنے کے بعد آپ اہل کتبہ و طیب اور سلام

کی طرف گئے جو ابن الی حقیق کے قلعے تھے۔ انہوں نے سخت ترین قلعہ بندی کر لی۔ اور نظاہ اور شق سے بھاگ کر یہ لوگ یہیں پناہ گزیں ہو گئے، کیونکہ نیبیر کے دفعے تھے شق اور نظاہ پہلے تھے جو فتح ہو چکے تھے اور کتبہ، وطیع اور سلام بعد میں آئے تھے۔ وہ اپنے قلعوں سے باہر نہ آتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مخفیق گاؤڑ کر ران پر پھر بر سارے جائیں، آخر انہیں ہلاکت کا نشیف ہو گیا۔ پس وہ روزہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصرہ میں تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور ابن الی حقیق کو اپ کے پاس بھیجا تاکہ جنگ کے باعث ان کی چانوں کا لفڑان نہ ہوا اور ان کی اولاد انہیں بخشی جائے اور وہ نیبیر سے چلنے جائیں گے اور جو کچھ ان کے پاس مال و دولت، زمین، سونا چاندی ہے سب پیش کر دیں گے۔ سو اسے اس پاس کے جو بدن پڑے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے تحریر بخدا دو اور تم سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ختم ہو چکا۔ انہوں نے اس پر مصالحت کر لی۔ حماد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ انہیں سعد اللہ بن عُثُمؑ نے فرمایا: انہیں نافعؓ سے انہیں ابن عمر سے روایت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی نیبیر سے مقابلہ فرمایا: آخر وہ اپنے قلعے کی طرف پسپا ہو کر صور ہو گئے۔ کیتھی کھجور اور زمین کے عوفی انہوں نے صلح کر لی کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے اور ان کے سواری کے جانور جس قدر بوجھ اٹھا سکیں بس وہ لے لیں گے اور سونا اور چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گا۔ اپ نے شرط لگائی کہ وہ چھاپائیں گے نہیں اور زکوٰت پیز اپ سے اوجمل کریں گے اگر انہوں نے ایسی حرکت کی تو پھر نہ ذمہ ہے اور نہ مہد رامن (۱)

ولیکن انہوں نے ایک مشک بس میں مال اور حجی بن الخطب کے زیورات تھے چھاپا لیا وہ اسے بن نفیر کی جلا وطنی کے وقت نیبیر کی طرف اٹھا لایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجی بن الخطب کے چھاپ کو فرمایا۔ حجی جو مشک بن نفیر سے اٹھا کر لایا وہ کہاں ہے۔

وہ کہنے لگا، اخراجات اور جنگوں نے اسے ختم کر دیا۔

آپ نے فرمایا وہ عبد تو قریب کے زمانے کا ہے اور مال اس سے زیارت نما رہوں  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زیر کے حوالے کیا۔ انہوں نے کچھ سختی کی۔ اس  
سے قبل وہ ایک دیرانے میں گیا تھا۔ کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ وہ دیرانے میں پھر رہا تھا۔  
دیرانے کی طرف گئے اور وہاں تلاش کیا تو شک مل گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
ابن الی ختنی اور اس کی ایک زوجہ صفیہ بنت حبیب اخطلب کو قتل کر دیا اور اس کی عورت کے  
بیوں کو غلام بنالیا اور مال کو تقسیم فرمایا۔ یہ بتاؤ ان کی سمل عبد شکنی کے باعث تھا۔

**اہل خبر سے معاہدہ** [نیز آپ کا ارادہ ہوا کہ انہیں دہان سے ملک بدر کر دیں۔ لیکن]  
اوہ کہنے لگے اے محمد ہمیں اسی زمین میں رہنے دیجیے ہم  
اس کی اصلاح کریں گے۔ اور اس کی حفاظت کریں گے۔ کیونکہ ہم آپ کی نسبت یہاں  
سے زیادہ واقع ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حمابہ کے پاس اس قدر ادمی بھی نہ تھے  
جو اس کا استظام سنبھال سکتے۔ اور وہ خود اس کی حفاظت کے لیے فرمانات نہ لکھتے تھے  
اس لیے آپ نے انہیں خبر کا علاوہ اس شرط پر دے دیا کہ جو پیدا اور یا پھل جو اس کا نصف  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کونا ہو گا۔ چنانچہ آپ عبد اللہ بن رواحہ کو اندازہ  
کرنے اور سال فرمایا کرتے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

**خبر کی پیداوار کی تقسیم** [رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی پیداوار حصیں  
ہم میں تقسیم فرمادی۔ ہر سہم کی ایک سو سہم کا نھا۔ گویا کہ  
کل حصیں سو سہم بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اٹھارا سو سہم ہوتے  
اور باقی نصف یعنی اٹھارہ سو سہم اس کے ماقبلین اور وہاں پر اہل اسلام کے لیے چھوڑ  
دیے گئے۔ امام یعقوبی فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خبر کا ایک حصہ جعلی ہے  
اور ایک حصہ صلح سے مفتوح ہوا۔ چنانچہ جو حصہ روای سے مفتوح ہوا اسے اہل خس  
اور فانین میں تقسیم کر دیا گیا اور جو حصہ صلح سے مفتوح ہوا اسے وہاں کے منتظرین  
اور مسلمانوں کے امور اور مصالح عامہ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔

**امام شافعی کے انکار کی اساس و بنیاد** میں کہتا ہوں کہ یہی امام شافعی کے نیال کی اصل دینا باد ہے کہ تمام عنانم کی طرح قوت سے مفتوح زمین کی تقسیم واجب ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غیر کی زمین تقسیم نہیں ہوئی تو فرمایا یہ مصالحت سے مفتوح ہوا۔ لیکن جو سیر و مغاری کا گہر اعطائی کرے گا۔ اس پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ غیر قوت سے فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزور قوت اس علاقہ پر قابل غش ہوئے۔ اگر مخفی مصالحت سے فتح ہوا ہوتا تو آپ جلاوطن نہ کرتے۔

غیر اصحاب اہل سسموں پر تقسیم ہوا۔ کیونکہ یہ اہل حدیثیہ کے یہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے علیہ تھا جو اس میں شریک تھے اور ان کی تعداد چودہ سو تھی۔ نیز ان کے ہمراہ دو کو سوار بھی تھے۔ ہر گھوڑے کے دو حصے ہوتے۔ چنانچہ جملہ تعداد اصحابہ سو سیم بن گٹی اور حابر بن عبد اللہ کے سوا اہل حدیثیہ میں سے کوئی بھی غزوہ غیر کے موقع پر غیر حاضر تھا۔ ان کا آپ نے دوسرے شریک جہاد معاہدہ کی طرح سہم (حصہ) لکالا۔ سوار کے تین سہم نکالے اور پیدل کا ایک ایک کل چودہ ہوتے، دو سوار تھے۔ یہی روایت صحیح ہے جس میں کوئی تردید نہیں۔

نیز ابو معلویہ کی حدیث میں ہے کہ انہیں عبد اللہ بن عمر سے انہیں نافذ سے انہیں حضرت ابن عمر سے روایت ہے پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے پیسے تین سہم ایک سہم اس کا اور دو گھوڑے کے لگائے اور یہ صحیحین میں مردی ہے۔ امام ثوری اور ابو اسامہ نے بھی عبد اللہ سے اس طرح روایت کیا ہے امام شافعی بتاتے ہیں کہ جمیع بن حارث نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر میں اصحابہ سو سہم مقرر فرمائے فوج کی تعداد پندرہ سو تھی۔ جن میں تین سو سوار تھے۔ آپ نے سوار کو دو سہم اور پیدل کو ایک سہم عطا فرمایا۔ شافعی نے فرمایا کہ جمیع بن یعقوب یعنی اس حدیث کا راوی اپنے والد سے وہ اپنے چا عبد اللہ بن نیزید سے وہ اپنے چا جمیع بن حارث سے روایت کرتا ہے۔ جو غیر معروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے عبد اللہ کی روایت قبول کر لی ہے۔

پوٹکا اس کی معارفی خبر کوئی نہیں اور ایک خبر کو صرف اس پایہ کی خبر سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کے ردبو نے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔

اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ابن علم جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھی بھی آئے۔ ان کے ہمراہ عبد اللہ بن قیس، ابو موسیٰ اور ان کے رفقاء راشدین قبیلے کے لوگ تھے۔ نیز اسما دبنت عمیس بھی آئیں۔

ابو موسیٰ بتاتے ہیں کہ ہم میں میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی اطلاع میں ہم بھرت کرتے ہونے نکلے۔ میں بخدا اور میرے ساتھ میرے دو بھائی تھے۔ میں ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ ایک کا نام الور ہم اور دوسرا الور دودۃ۔ ہماری قوم کے پچاس سے زیادہ افزاد اگئے۔ چنانچہ ہم ایک کشتی پر سوار ہو گئے یہ کشتی میں جدشہ میں نجاشی کی طرف سے گئی۔ ہم وہاں جعفر بن ابی طالب اور اس کے ساتھیوں سے جانے۔ حضرت جعفرؑ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہمیں یہاں ٹھہرنا کا حکم دیا۔ اس نے یہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہر دیا۔ اسی کے ساتھ ٹھہر گئے۔ آخر کار ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فتح خیبر کے موقع پر ہمیں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ہمارے یہے سہم نکالا۔ اور ہمارے علاوہ اور کسی غیر حاضر شخص کا حصہ اس میں سے نہیں نکلا۔ سوا ان صحابہ کے جو آپ کے ہمراہ تھے۔ یا حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے یا ہمارا اور ہمارے شرکاء نے سینے کا۔

حضرت اسما دبنت عمیس اور حضرت عمرؓ میں سخت کلامی لوگ کہنے لگے  
کہ ہمیں تم پر بھرت

میں سبقت حاصل ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت اسما دبنت عمیس حضرت حضرتؓ کے پاس آئیں اور حضرت عمرؓ بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے پوچھا یہ خاتون کون ہیں؟ جواب دیا کہ اسما ہیں۔

حضرت عمرؓ نے کہا، ہم نے تم پر بھرت میں سبقت کی۔ اس یہے تم سے زیادہ ہم رسول اللہ کے حقدار ہیں۔ حضرت اسما دبنت عمیس کو عنصہ آیادہ کہنے لگیں۔ اے عمرؓ ہرگز نہیں۔

تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جو تم میں بھوکا ہوتا اس سے وہ کھلاتے، جو تم میں بھاڑ کرتا وہ مالی غنیمت پاتا۔ مگر ہم ایک دور دراز علاقے میں کھٹا ٹیاں برداشت کر رہے تھے اور یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا۔ خدا کی قسم نہ میں کھاؤں گی نبیوں کی جب تک جو تم نے کہا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض نہ کروں۔ جیسیں وکھریا جائیا پیدا ہوئی اور ہم یہ سب خدا اور رسول کے لیے ہستے۔ میں یہ تمام ماہزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گی اور خدا کی قسم ذرا بھی نہ جھوٹ بولوں گی، نہ نکل مرح و لگا کر کبوں گی اور نہ مبالغہ کروں گی۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسماں نے عرض کیا۔

اسے اللہ کے رسول عز اس طرح کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے انہیں کیا جواب دیا؟

انہوں نے عرض کیا، میں نے جواب میں یہ یہ کہا۔

اپ نے فرمایا عمر اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت بے اور اسے اہل سینہ تمہاری دو ہجرتیں ہیں۔ ابو موسیٰ اور اہل سینہ حضرت اساد کے پاس گردہ درگردہ آیا کرتے اور اس حدیث کے متعلق پوچھ چکیا کرتے تھے۔ ان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات فرحت بخش اور پا یہ سرت نہ تھی۔ جتنی وہ بات جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمائی تھی۔

**حضرت عبقر بن ابی طالبؑ سے اپ کا والہا تعلق خاطر** | جب حضرت عبقر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپ نے ان کی پیشانی پر بوس دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ اپ کو فتح غیرہ سے زیادہ خوشی ہوئی۔ یا حضرت عبقرؓ کی آمد سے۔ اور واقعہ فرماتے ہیں کہ ابو شیم مرنی نے بتایا جو اسلام لاچکے تھے، اور پچ یہ بے کہ انہوں نے بہت عمدہ لہو پر اس دین کو قبول کیا تھا کہ جب ہم یعنیہ بن حسن کے ہمراہ داپس آئے اور عزیزیہ بھی واپس آیا۔ جب ہم غیرہ کے قریب تھے تو رات

کو ہم اڑ سے اور ہمیں گھبراہٹ لاحٹی ہوئی۔

عینیہ نے کہا خوش ہو جاؤ، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ مجھے خیر کا ایک پہاڑِ ذوالر قیدیہ دیا گیا۔ جب ہم خیر دا پس ہوتے، عینیہ آیا اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر قسم کر لیا تھا۔ اس نے عرض کیا، اسے محمد! آپ نے میرے چیزوں سے جو غنیمت ہی ہے تو اس میں سے مجھے بھی عنایت کیجیے، کیونکہ میں آپ کو گزندہ سمجھا نے سے ہٹ گیا حالانکہ ہم آپ کو سچان چکے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ ترشوں کو اپنے گھر کی طرف بھاگا۔

اس نے کہا: اے محمد مجھے انعام دیجیے۔

آپ نے فرمایا تیرے یہی ذوالر قیدیہ ہے۔

اس نے پوچھا ذوالر قیدیہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ پہاڑِ جو تو نے خواب میں دیکھا کہ تو ہے گا۔

چنانچہ عینیہ دا پس ہوا، جب دا پس پہنچا تو حضرت بن عوف اس کے پاس آیا اور کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تجھ سے اور ہی معاملہ ہو گا۔ اللہ کی قسم محمد مشرق و مغرب کی ہر (قوم) پر غالب اگر رہے گا۔ یہودی میں اس بات کی خبر دیا کرتے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ابو رافع سلام بن امی عتیق کو کہتے سننا کہ ہم محبت پر نبوت کے متعلق حد کرتے ہیں کہ بنی ہارون سے فکل گئی حالانکہ آپ واقعی نبی مرسل ہیں۔ حضرت کہتے ہیں میں نے سلام سے پوچھا کہ کیا وہ تمام زمین کے ہادشاہ بنیں گے۔ اس نے کہا ہاں! اور کوئی یہودی نہیں چاہتا کہ میرے اس قول سے کوئی بھی واقف نہ ہجائے۔

آخرت کو زہر دینے کی کوشش [اس مزودہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردیا گیا۔ سلام بن مشکم کی یہوی زینب بنت

حضرت ہمودن نے آپ کو ایک بھنی ہوئی بکری بھیجی، جس میں زہر ملا دیا، وہ آئی اور پوچھنے لگی۔ کونسا گوشہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ بتایا گیا کھلائی کا۔

پھر نجف اس نے کلائی میں زہر زیادہ دوال دیا۔ جب اس پارچہ سے آپ نے کام تو کلائی نے بتایا کہ مجھے سووم کیا گیا ہے۔ آپ نے فوراً نولہ بھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہود کو جمع کرو، جب سب جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا میں تم سے ایک بات دریافت کرنا ہوں، کیا تم پچ پیچ بناؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں! اسے ابوالقاسم۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا باپ کون ہے؟ وہ کہنے لگے، ہمارا باپ فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ وہ بولے آپ نے پچ کہا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کچھ پوچھوں تو پچ بولو گے؛ کہنے لگے ہاں! اسے ابوالقاسم اگر پہ ہم نے آپ کی تکذیب کی لیکن آپ نے ہمارے باپ کے متعلق ہمارا کذب معلوم کر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل نار کون ہے؟ وہ بولے ہم اس میں قوری ہی مدت تک رہیں گے۔ پھر تم لوگ اس میں ہمارے بعد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کچھ دریافت کروں تو پچ بولو گے؛ کہنے لگے ہاں!

پھر آپ نے فرمایا اگر میں تم سے کچھ دریافت کروں تو پچ بولو گے؛ کہنے لگے ہاں! آپ نے فرمایا تم نے اس بکری میں زہر ملا دیا ہے؛ کہنے لگے ہاں! آپ نے فرمایا: کس بات نے تمیں اس بات پر امادہ کیا؟ بولے ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے نجات مل جائے گی اور اگر بھی ہیں تو آپ کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عورت بھی لالی گئی اس نے اقتار کیا کہ میں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے بھی بھی پر مسلط نہ کرتا۔ ابو سلمہ بتاتے ہیں کہ بشیر بن برادر بن مهرور راس بکری کے کھانے سے اوقات پا گئے۔ آپ نے یہود سے کہلا بھیجا کہ تجھ کس بات نے اس کام پر امادہ کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ قتل کر دی گئی۔

اور اس باب میں اختلاف ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھایا یا نہیں ای زیادہ تر روايات کھانے کی تائید میں ہیں۔ اس واقعہ کے تین سال بعد تک آپ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ مرغی وفات کی تکلیف میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں اس نواز کا اثر محبوس کرتا رہا ہوں جو خیر کے دن راں سخوم ابکری سے کھایا تھا۔ زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شہادت تھی۔

غزوہ تجیہر کے سلسلہ میں احکام فقیہہ [ان میں سے ایک یہ ہے کہ شہر حرم میں کفار اس طرف تشریف لے گئے۔ زہری نے مردہ سے انہوں نے مرداں اور مسعود بن مخزون سے اس طرح تعلیم کیا ہے۔ نیز واقعی نے یہی کہا اکہ آپ شہ کی ابتداء میں نکلے لیکن وہ استدلال محل نظر ہے کہ مسعود اور خرم میں آپ نکلے ابتداء میں نہیں اور صفر میں فتح حاصل ہوئی اس سے زیادہ قوی دلیل بیعت رضوان ہے جو مخالف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درست کے نیچے کی کہ وہ جنگ کریں گے اور راوی فزار اخثیار ذکریں گے۔ یہ واقعہ ذی قعده میں پیش آیا تھا۔ لیکن اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بیعت تب لی جب آپ کو حضرت عثمانؓ کی شہادت اور قریش سے ارادہ جنگ کی اطلاع ملی۔ ورز شہر حرم میں قتال کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔]

کیا شہر حرم میں قتال کا آغاز جائز ہے [اختلاف تو اس میں ہے کہ کیا ان دونوں میں قتال کا از خود آغاز کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جہور نے اسے جائز کیا ہے اور کہا ہے کہ تحریم قتال منسوخ ہو چکی ہے اور اندر ارب عزیزۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے اور حضرت عطاوار وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں حضرت عطاوار اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے کہ شہر حرم میں قتال حلال نہیں اور اس کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی۔]

ان دونوں سے زیادہ قوی استدلال طائف کا محاصرہ ہے کہ میں آپ شوال کے

اُز میں اس طرف تشریف لے گئے اور بیس سے زیادہ دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ خارجے کا کچھ وقت ذی قعده میں آتا ہے۔ کیونکہ رمضان میں دس دن باقی تھے کہ فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے بعد آپ انہیں دن وہیں مقیم رہے اور نمازوں میں قصر کرتے رہے۔ اس کے بعد ہوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ جب شوال میں بیس دن باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو ہوازن پر بھی آپ کو فتح عطا فرمائی۔ یہاں کے غنائم تقسیم کرنے کے بعد آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے اور بیس سے زیادہ دن تک دہاں محاصرہ کیے رکھا۔ اس کے باوجود اس واقعہ سے دلیل نہیں ملتی۔ کیونکہ غزوہ طائف دراصل بنو ہوازن کی جنگ کا تمرہ تھا اور انہوں نے پہلے سے ہبی رسول اللہ علیہ وسلم سے تمام شروع کر رکھا تھا۔ جب انہیں شکست ہوئی تو وہ اپنے شہر میں داخل ہو گئے۔ اس طرح محاصرہ طائف نے دراصل پہلے سے شروع شدہ بنگ کا تمرہ تھا۔

انہی احکام میں ایک تقسیم غنائم کا مسئلہ ہے کہ سوار کے یہے تین سہم اور پیدل کے یہے ایک سہم، بس کے متعلق مفصل ذکر ہو چکا ہے۔ نیز یہ کہ ایک فوجی کو یہ جائز ہے کہ اسے کھانا ملنے تو کھائے اور اس شخص ادا نہ کرے۔ بس طرح حضرت عبد اللہ بن مفضل کو پرسی کی ایک بوریا ملی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسے اپنے یہے مخصوص کر دیا۔

نیز بنگ نہیں ہو جائے اور اس کے بعد کچھ لوگ میدان میں ایک تو انہیں حصہ نہیں ملے گا۔ جب تک تمام شکرا جاہات نہ دے دے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اہل سنیۃ کے متعلق اس وقت مشورہ فرمایا تھا جب عفراء اور ان کے رفقاؤ نیبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آیا انہیں حصہ دیا جائے؟ مشورے کے بعد انہیں حصہ دیا گیا۔

پالتوگدھوں کے گوشت کا مسئلہ ان احکامات میں سے ایک پالتوگدھوں کے کی تحریم صحت کے ساتھ ثابت ہے اور اس کی تعلیل یہی ہے کہ یہ جس ہے یہ قول

ان صحابہ کے قول پر مقدم سمجھا جائے گا، جنہوں نے یہ علت بتائی ہے کہ یہ سواری اور بار برداری کا جانور ہے اور اس قول پر بھی مقدم ہے کہ اس کا خس نہیں نکالا گیا تھا اور اس قول پر بھی مقدم ہے کہ یہ جانور لستی کے اس پاس کی گندگی کھاتا ہے یہ نام اقوال اگرچہ صحیح ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ قابل توثیق ہے کہ یہ رجس رنا پاک ہے، سب پر مقدم ہو گا۔

**متعدد کعب حرام ہوا؟** [متعدد فتح خیر کے دن حرام نہیں کیا گیا بلکہ فتح مکہ کے موقع پر اسے حرام کیا گیا اور یہی درست تر راست ہے۔]

بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اپنے نے اسے فتح خیر کے دن حرام بتایا اور انہوں نے صحیحین کی اس روایت سے دلیل لی ہے جو علی بن ابی طالب سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن عورتوں سے متعد کرنے اور پالتوگدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور صحیحین میں ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت عباسؓ کو عورتوں کے متعد کے مسئلہ میں زمی کرتے دیکھا تو فرمایا: اسے عباسؓ تھہر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن عورتوں سے متعد کرنے اور پالتوگدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے سال اسے مباح بتایا پھر حرام کیا تو کہتے لگئے حرام ہوا، پھر مباح ہوا، پھر حرام ہوا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ متعد کے سوا کوئی بات حرام کی گئی ہو۔ پھر مباح کی گئی ہو پھر دوبارہ حرام کی گئی ہو درمودی ہے اک دوبارہ یہ حکم منسوخ ہوا اور بعد والوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ صرف فتح کے سال حرام ہوا اس سے قبل مباح تھا۔

**متعدد کے باس میں حضرت ابن عباس کا فتویٰ** [اور فیبر کے واقعہ میں صحابہ کرام رضوان علیہم یہودی عورتوں سے

متعد نہیں کرتے تھے اور زنانہوں نے اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پہنچی اور اس غزوہ میں کسی نے اس قسم کی بات نقل کی اور زاس واقعہ میں فعلاً قول اس

کا ذکر ہوا۔ بخلاف فتح مکہ کے کاس میں فعلًاً قواؤ امتد کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ طریقہ دونوں سے زیادہ صحیح تھے۔

نیز تیسرا طریقہ بھی مردی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مطلقًا حرام نہیں بتایا بلکہ فضورت کے وقت جائز اور بلا فضورت اسے حرام قرار دیا۔ (مردی ہے) کہ حضرت ابن عباسؓ اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ یہ مردار، خون اور سوچ کے گوشہ کی طرح ہے کہ فضورت اور شدت حاجت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔  
پھر انچہ اکثر لوگ اسے زنجھ سکے اور سمجھا کہ انہوں نے اسے مطلقًا مباح قرار دیا ہے۔  
حضرت ابن عباسؓ نے یہ دیکھا تو رجوع کر لیا اور اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔

مسافات اور مزارعہت کے جواز کا پہلو نیز اس میں مسافات اور مزارعہت

پھل اور کھیتی کے ایک مقرر حصے پر معاملہ ہے کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نبیحہ کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا جو آپ کی وفات تک غیر منسوخ رہا اور بعد میں خلفاء راشدین کا بھی اس پر عمل رہا۔

اسی قبیل میں یہ بھی ہے کہ آپ نے شمنوں کو زمین دی تاکہ ابہت پر کام کریں۔ زمین کو فرد خدت نہیں کیا اور زمینیہ سے بیخ بیسجے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی سندت طیبہ یہ ہے کہ زمین کا مالک بیخ دینے پر مجبور نہیں۔ البتہ یہ عامل کی جانب سے جائز ہے آپ کے بعد خلفاء رشیدین کا بھی بھی معمول رہا۔

نقیضہ اگل پتھر ہے بیخ جدا الجھوروں کے چھلوں کا اندازہ کر کے سووا کرنا نقیضہ اگل پتھر ہے بیخ جدا اور اسے تقسیم کرنا بھی داس غزوہ سے جائز معلوم ہوتا ہے ایزیر کہ تقسیم بیخ نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ اندازہ کرنے والا اور تقسیم کرنده ایک ہی کافی ہے۔

نیز عقد صلح دامان کو مشروط کرنا بھی جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگادی کریہ ہو دی کچھ نائب ذکریں گے اور فرکچہ چھپائیں گے۔

نیز متشم لوگوں کو منزا دینا، یہ حکم شرعی عدالت ہے نہ کہ ظالماً نہ سیاست!۔  
نیز اگر اہل ذمہ اپنے آپ پر عالمدشہ شرالظیں سے کسی کی مخالفت کر دیں تو ان کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کا جان و مال حلال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاهدہ کیا اور شرط لگادی کہ وہ کچھ غانتہ کری گے اور نہ ہی کچھ چھپائیں گے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی جان و مال کا ذمہ ٹوٹ جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے بھی اہل ذمہ کی شرالظیں کے متعلق صفت پر عمل کیا۔ اور راہل ذمہ پر شرط عالمدشہ کر دی کہ اگر انہوں نے کسی دفعہ کی مخالفت کی تو بندختوں اور دشمنوں پر جو کچھ روارد ہو گا ان پر بھی کچھ نہ ہو گا۔

نیز یہ کہ جس نے تقسیم سے قبل غنائم میں سے کچھ لیا وہ اس کا مالک نہ ہو گا۔ اگرچہ وہ نیز اس کے حق سے بھی کم ہو۔ بلکہ وہ تقسیم کے بعد ہی مالک ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے صاحب شملہ کے بارے میں جب اس نے غلوکیا تو فرمایا کہ یہ آگ بن کر اس پر جلد رہیا ہے اور تسلیم کو فرمایا۔ آگ کا ایک تسمیر یاد دتے۔  
نیز امام کو اختیار ہے کہ قوت کے بل پر فتح کیے ہوئے علاقوں کو تقسیم کر دے یا اس کی تقسیم ترک کر دے یا بعض کو تقسیم کر دے اور بعض کو چھوڑ دے۔

نیز اہل ذمہ کو دارالاسلام سے خارج کرنا جائز ہے۔ جب مناسب ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں دیہاں ٹھہرا نے گا ہم بھی ٹھہرا نے رکھیں گے۔ اور یہود کے سردار سے آپ نے فرمایا۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا۔ جب دن ہدن تمہاری سواریاں شام کی طرف کوچ کریں گی اور حضرت عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں شام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ محمد بن جریر طبری کا یہی مذہب ہے۔

باندی کے ساتھ نکاح میں گواہوں کی ضرورت نہیں [نیز اپنی گونڈی کو آزاد کرنے پر آزاد کرنے]

کے بعد اس سے نکاح کرنا اور آزادی کو حق ہبھ مقرر کرنا جائز ہے اور لوئنڈی کے اذن اور گواہوں اور ولی کے بغیر اسے زوجہ بنالیٹنا جائز ہے اور فقط نکاح کرتا ہوں یا شادی کرتا ہوں کی ضرورت ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے معاملہ میں کہا اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ طریقہ صرف میرے یہے مخصوص ہے۔ اور با وہود اس بات کے کہ آپ کو معلوم تھا کہ امت آپ کی سنن کا اتباع کرتی ہے۔ آپ نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور زکسی صحابیؓ نے کہ یہ طریقہ آپ کے سواد و سروں کو جائز نہیں بلکہ انہوں نے اس واقعہ کو امت کی طرف نقل کیا اور انہیں منع نہیں کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی اقتداء سے منع فرمایا؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ موبہوبہ نکاح کے تعلق کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا۔ مخالصۃ لک من دون ممونین یعنی، خاص کرنے کے لیے دوسرے ممونین کے سوا۔“

اس یہے اگر امت سے علاوہ یہ بھی آپ سے مخصوص ہوتا تو اس کی تخفیض کا تذکرہ زیادہ اولیٰ ہے۔

نیز مرد کو اپنی بیوی کے ہمراہ خیمه لگا کر رہنا اور سواری پر شکر کے درمیان ایک ہی ہودج میں سوار ہونا بھی جائز ہے۔

نیز ہب آدمی دوسرے گوزہر دے کر قتل کر دے، اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ہیسے حضرت بشیر بن برادر کو شہید کرنے کے عوض یہودیہ عورت کو قتل کیا گیا۔

کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ [نیز کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شاید یہودی عورت کو عہد شکنی کے باعث قتل کیا گیا کہ اس نے زبر کھلایا نہ کہ قصاص کے باعث۔ اس کا جواب یہ ہو گا کہ اگر عہد شکنی کے باعث اسے قتل کیا جائے تو اقرار کے فوراً بعد قتل کر دیا جاتا اور کھانے والے کی وفات تک اس کا قتل مُؤخر کر دیا جاتا۔ اور اگر کہا جائے کہ اسے عہد شکنی کے باعث قتل نہیں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہی بات جدت ہے جو اس کے قابل ہیں کہ امام کو اسیہ کی طرح عہد شکن کے متعلق اختیار ہے اگر کہا جائے کہ تم تو امام

احمد کی طرحِ وجوب قتل کے قائل ہو۔ اور قاضی ابویعلیٰ اور ان کے اتباع کا خیال یہ ہے کہ امام کو اس میں اختیار ہے تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ اگر صلح سے قبل رزہ بیلی بھروی اکا واقعہ درپیش آیا تو پھر یہ جنت نہیں ہو سکتا اور اگر صلح کے بعد ہوا تو مسلمان کو قتل کرنے کی صورت میں عہد شکنی کے متعلق اختلاف ہے جو اسے عہد شکنی نہیں سمجھتے قوظا ہر ہے اور جو اسے عہد شکنی تصور کرتے ہیں ان میں بعض اس کے وجوب قتل کے قائل ہیں۔ بعض اختیار قتل کے بعد بعض اسبابِ عہد شکنی کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔

### فتح خیر کے سلسلہ میں اختلاف آراء

قوت سے مفتوح ہوا۔ بعض مصالحت سے فتح کے قائل ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد نے حضرت انسؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کاغز وہ کیا تو خیر جنگ کے بعد قوت سے فتح ہوا اور قتال کے بعد بعض کو ملک بدر کر دیا گیا۔ این عبد البر فرماتے ہیں کہ ارض خیر کے متعلق یہ صحیح نزدِ ایت ہے کہ یہ تمام زمین قوت سے مفتوح ہوئی۔ بخلاف فدک کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام زمین غانمین پر تقسیم فرمادی۔ جنہوں نے گھر و دل اور سوار و دل پر بیٹھ کر پڑھ بولنا تھا اور یہ اہل حدود ہی تھے اور علمائے کرام کا اس میں اختلاف نہیں کہ ارض خیر تقسیم کردہ ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب ملک خینت ہیں ہاتھ آجائے تو اسے تقسیم کیا جائے یا وقف کیا جائے؟ اہل کوفہ فرماتے ہیں کہ امام کو اس کی تقسیم اور موقف دونوں کا اختیار ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی زمین کے متعلق کیا اور حضرت عمرؓ نے مراق کے متعلق کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام زمین تقسیم کر دی جائے گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی زمین تقسیم فرمادی، کیونکہ زمین بھی کفار کے دیگر اموال کی طرح غنائم میں شامل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمرؓ کی اتباع کے باعث وقف کے قائل ہیں کیونکہ زمین غنائم میں مخصوصی یعنیت رکھتی ہے جس طرح حضرت عمرؓ نے مجاہد کی جماعت ہوتے ہوئے بھی ان مسلمانوں کے لیے

وقف کر دیا جو بعد کے زمانے میں آئے دا لے ہیں۔

**وادی قری میں آپ کی تشریف آوری** | پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیبر سے چل کر وادی قری تشریف لے گئے،

دہاں یہود کی ایک جماعت تھی اور عرب (مشترکین) کا ایک گردہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو ہو گیا۔ جب یہ لوگ دہاں پہنچے تو یہود نے تیر مارنے شروع کر دیئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مدum قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے باقی میں میری جان ہے جو چادر اس نے نیبر کے روز تقیم سے قبل لی تھی اس پر اگ بن کر شعلہ زن ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یا دو تسمے لایا۔ آپ نے فرمایا، اگ کا ایک تسمہ یادو تسمے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہہاد کی ترغیب دی، ان کی صفت بندی فرمائی اور حضرت سعد بن عبادہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ اور ایک جھنڈا بھناب بن منذر کو ایک سہل بن حنیف کو اور ایک جھنڈا عبادۃ بن بشر کو عطا کیا۔ اس کے بعد یہود کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ تم اسلام میں آؤ تو تمہارے مال محفوظ ہوں گے، تمہاری جانوں کو امان ہو گا اور حساب اللہ پر ہو گا۔

**حضرت زبیر اور حضرت علی کی بہادری** | اس کے بعد ایک آدمی نکلا اس

عوام نکلے۔ حضرت زبیر نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اور نکلا انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا پھر اور نکلا۔ اسی کے مقابلے میں حضرت علی بن ابی طالب نکلے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا اس طرح کفار کے گیارہ آدمی قتل ہو گئے۔ جو نہیں ایک قتل ہو جاتا، دوسرا دل کو دعوت اسلام دی جاتی۔ جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ صحابہ کے ہمراہ نماز ادا فرماتے۔

پھر واپس آکر انہیں اسلام واللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے اس کے بعد مقائلہ فرماتے۔ آخر شام ہو گئی اور جب صبح ہوئی اور ابھی سورج ایک نیزہ بھی اونچا نہ ہوا تھا کہ آپ نے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا اور قوت کے ذریعہ سے آپ کو یہ فتح حاصل

ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا مال فینیت عطا کیا اور سامان و اموال کی ایک کثیر تعداد بنا تھی آئی۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قریٰ میں پھاردن تک متین رہے اور جو مال فینیت حاصل ہوا سے صحابہ پر تقسیم کر دیا اور زمین اور بھروسے کے درختوں کی یہود کے پاس ہی رہنے دیا اور انہی کو کارندہ مقرر فرمادیا۔ جب یہود تیار کو خبر ہنسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر، فدک اور وادی قریٰ کے یہود کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ مال پر مسلح کر لی۔

حضرت عمر اور یہود بیان تحسیب و فدک اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے خبر اور فدک کے یہود کو ملک پدر کر دیا۔ تمہارا اور وادی قریٰ کے یہود کو رہنے دیا، کیونکہ یہ دونوں علاقوں ارش شام کی حدود میں شامل ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نچلا علاقہ مدینے تک چاز میں داخل ہے اور اس سے پرسے کا علاقہ شام میں داخل ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف نے آئے۔ پہلی پر ایک شب ایک بُگداڑ سے اور حضرت بلاں سے فرمایا:

رات کو پہرہ دیتے رہنا۔

چنانچہ حضرت بلاں کی آنکھوں میں نیند غالب آگئی۔ کیونکہ وہ اپنی سواری سے میک لگانے پڑئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاں اور تمام صحابہ میں سے کوئی بیدار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ دھوپ نکل آئی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ گھبرا گئے۔ فرمایا: اے بلاں یہ کیا ہے!

انہوں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی (سُلَا) دیا۔ چنانچہ سواریوں کو وباں سے بچایا۔ یہاں تک کہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں شیطان ہے۔ جب پار چلے گئے۔ آپ نے انہیں اترنے اور دفعو کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فخر

کی سنتیں ادا کیں اور حضرت بلالؓ کو اذان کا حکم دیا۔ آخر نماز کی اقامت ہوئی۔ آپ نے روگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر فارغ ہو کر فرمایا۔

### **قنا نماز موقع ملتے ہی فوراً پڑھنی چاہئے**

علاوه کسی اور وقت انہیں روتانا۔ اس یہے جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سوچاتے یا بھول جاتے، اس سے چاہیے کہ اس طرح پڑھے جیسے وقت پر پڑھنا تھا۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ شیطان بلال کے پاس آیا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں سُلَانَةَ کی کوشش کی اور انہیں تھیکنے لگا جیسے بچے کو تھیک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ سو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو بلایا اور انہیں بھی بتایا، جس طرح حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا۔

### **اس واقعہ کے فتنی احکام**

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جو نماز کے وقت سوچاتے یا بھول جاتے تو اس کا وقت اس کے یہے نماز کا وقت ہے۔ اس گھر سی بیبی ہو گا۔ جب وہ بیدار ہو یا اسے بیدار کرنے۔

نیز یہ کہ سنن راتبہ کی فرائض کی طرح قضا ہو گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ ساتھ فخر کی سنن بھی قضا کیں اور ظہر کی سنن تہجا قضا فرمائیں اور آپ کی سنت طاہرہ یہ تھی کہ فرائض کے ساتھ سنن راتبہ بھی قضا کرتے تھے۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قضا کی حالت میں اذان اور اقامت ہوگی، ایکونک حالت سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلالؓ نے اذان کہی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت بلالؓ کو اذان اور اقامت کا حکم دیا (ابوداؤد)

نیز اس واقعہ سے قضا نماز کو جماعت سے ادا کرنے اور (بیدار ہونے اسکے فوراً بعد قضا کرنے کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا قول اس سے چاہیے کہ جب یاد کے اسے ادا کرے۔ اور مقامِ نزول سے ہٹ کر آپ نے نماز پڑھی اور تاخیر کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شیطان کی ہمکہ تھی۔ آپ اس سے بہتر جگہ پر تشریف نے گئے۔ اس

وجہ سے قضاۓ نماز میں جلدی تاخیر میں شمار ہوگی۔ کیونکہ آپ رحال سفر میں بھی نمازی کے کام میں مشغول تھے۔

نیز اس سے شیطانی جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت بھی معلوم ہوتی ہے جیسے حمام یا باع کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیطان کثرت سے چاتا اور سکونت پذیر ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں نماز کی عجلت کو موخر کر دیا تو ان جگہوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ جو شیاطین کا کھلمنکھل مسکن ہیں!

**مہاجرین کی بُندھو صلگی** | جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئئے، مہاجرین کو خیر کے مال سے حصہ ملا تو مہاجرین نے الفصار کو ان کے عطايات واپس کر دیئے جو انہوں نے صحابہ کو دے رکھے تھے۔

## سفریہ ابو بکر صدیق

غیرہ سے واپس اکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال تک مدینہ میں رہے اور اس زمانہ میں آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے رواز فرمائے۔ ان میں سے ایک دستہ بنی فزارہ کے علاقہ نجد کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں ارسال فرمایا۔ ان کے ہمراہ سلمہ بن الحویب بھی تھے۔ ان کے حصہ میں ایک خوبصورت لونڈی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سے لی، اور اس کے عوض ان مسلمان قیدیوں کو رہا کرایا گیا، جو مکہ میں تھے۔ نیز تیس سواروں کا ایک دستہ حضرت عمر بن خطاب کی زیر نگرانی ہوا زک کی جانب بیجا۔ جب انہیں اطلاع ہوئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو کوئی بھی وہاں نہ تھا پناجہ واپس مدینہ پلے گئے۔ رہنماء نے پوچھا کہ کیا آپ بنو خشم کے گروہ سے مقابلہ کریں گے؟ جو پہلے اُر رہے ہیں۔

حضرت عمر نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا راس یے انہوں نے ان سے کچھ تعریف نہ کیا۔

نیز ایک تیس سواروں کا دستہ حضرت عبد اللہ بن رواحد کی سرگردگی میں بیجا گیا۔ ان میں عبد اللہ بن انبیس تھے۔ انہیں بشیر بن دارام بہودی کی لفظ بیجا گیا کیونکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عظفان نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے گروہ بندی کی ہے۔ اسے وہ غیرہ کے علاقوں میں لے آئئے ہیں۔ اس طرح کہ انہوں نے یہ کہہ کر شروع کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ تجھے غیرہ پر عامل مقرر کر دیں۔ اس طرح یقین دی کرتیں اُدمیوں سمیت لے آئئے۔ اس کا ایک ایک اُدمی ایک ایک

مسلمان کے ساتھ اور نہ پر سوار ہو گیا۔ جب یہ لوگ نیبیر سے چھ میل دور رہ گئے تو نیبیر ہبودی گھبرا یا اور حضرت عبد اللہ بن انبیس کی تلوار کی طرف باتھ بڑھا چاہا۔ وہ بیکھ کئے انہوں نے فوراً اپنے اونٹ کو جھٹکا اور اونٹ سے الگ بھکر قوم کے آگے آگے چلنے لگے۔ پھر جب نیبیر پر قابو پایا تو اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ نیبیر بھی الگ ہوا، اس کے باتھ میں شوحط کی لکھوی تھی اس نے اسے حضرت عبد اللہ بن انبیس کی آنکھ پر حملہ کیا جس سے زخم ہو گیا (لیکن آنکھ) محفوظ رہی اس پر ہر مسلمان نے ہر ساختی ہبودی سوار پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ سوا ایک آدمی کے رکودہ پنج کر بھاگ گیا، اس حادثہ میں کوئی مسلمان زخمی نہیں ہوا۔

یہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے نے عبد اللہ بن انبیس کے زخم چشم پر لعاب مبارک لگادیا، جس سے نہیں پپڑی اور زوفات تک پھر کوئی تکلیف ہوئی۔

اس طرح ندک میں بزرگی طرف حضرت نیبیر بن سعد انصاری کی زیر مرکردگی میں ایک دستہ بھجا گیا، جس میں نیس آدمی تھے۔ جب یہ نکلے تو چردا ہوں سے ملے جو بکریاں اور پھوپائے ہالک کر عربینہ واپس ہو گئے۔ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور رات کو ان تک پہنچ کر تیر بر سانے لگے۔ آخر کام نیبیر اور ان کے اصحاب کے پاس تیرختم ہو گئے۔ پھر نیبیر نے ان سے سخت قتال کیا اور ان کی بکریاں اور جو پائے ہے کر داپس ہوئے۔ نیبیر کو چوت آگئی اور وہ ہبود کے ہاں مقیم رہے یہاں تک کہ صحت ہو گئی اور واپس میزبان پہنچے۔

اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیدہ کے خلاف ایک شکر بھجا جس میں اسامہ بن زید بھی تھے۔ جب یہ دہاں پہنچے تو امیر شکر نے نیبیر بھیجے وہ نیبیر لائے تو اگے بڑھے یہاں تک کہ ایک شب کو ان کے قریب جا پہنچے۔ پھر یہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی حمد و شاشابیان کی اور کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے جس کا کوئی شریک نہیں ڈرانے کی دیت کرتا ہوں کہ تم میری اطاعت کرو۔ اور میری نافرمانی نہ کرو۔ اور میرے حکم کے خلاف نہ کرو۔ کیونکہ جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اس کی رائے پر چھ روز (نہیں رکھتی)۔ پھر انھیں ترتیب

دے کر کہا اے فلاں تو اور فلاں اور اے فلاں تو اور فلاں تم دونوں ایک دوسرے سے  
جدانہ ہونا اور ایسی بات قطعاً نہ ہو کہ میں کہوں کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے تو وہ کہہ دے کہ میں  
نہیں جانتا۔ اور جب میں تکبیر کہوں تم بھی تکبیر کہو اور تلوار کھول لو۔ پھر انہوں نے تکبیریں کہیں  
اور متعدد ہو کر حمل کر دیا اور دشمن کو گھیر لیا (کفار) کو اللہ کی تلواروں نے پکڑ لیا۔ جہاں مسلمان  
پھاہستے مارتے اور اسی دن ان کا شعار امت امدت تھا۔

حضرت اسامہ کی اجتہادی غلطی اور آں حضرت کی اس سے بیزایی ایک ادمی

کے پیچے نکلے جس کا نام نہیں کبیر بن مرداں تھا۔ جب اس کے قریب آئے اور تلوار سے  
اس پر حمل کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔

انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے بکریوں پر پالیوں وغیرہ کو منکایا۔ ہر  
ادمی کے حصہ میں دس بکریاں یا اس کے برابر پوچھئے آئے۔

جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کو حضرت اسامہ  
کے فعل کی خبر کر دی گئی۔

آپ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور فرمایا کہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے  
بعد بھی اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا اس نے نفس جان بچانے کے لیے کلمہ  
پڑھا تھا۔

آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل پھیر کر ذیکھ دیا تھا؟ پھر فرمایا کہ:

قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے مقابلہ میں کون تیرا (مدگار) ہو گا؟ آپ یہی  
بات بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ اسامہ نے دل میں کہا۔ کاش میں آج ہی مسلمان  
ہوا ہوتا۔ پھر کہا اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بھی اس ادمی کو قتل  
نہ کروں گا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو گا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد؟

حضرت اسامہ نے عرض کیا، آپ کے بعد!

**سریہ غالب بن عبد اللہ کلبی** نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن عبد اللہ کلبی کو کدید کر دیا، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے یعقوب بن عقبہ نے انھیں مسلم بن عبد اللہ جہنی سے انھیں بذبب بن مکیث جہنی سے روایت ملی کہ میں اس سریہ میں شریک تھا۔ ہم پڑے جب ہم قدید پہنچے تو حضرت بن مالک بن برضاء ریشی سے ملے ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔

غالب بن عبد اللہ نے فرمایا۔ اگر تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے تو ایک دن رات کی گرفتاری تیر سے یہے بچھ مضر نہیں۔ اور اگر تو دوسرا بات کے لیے آیا ہے تو بھی ہمیں وثوق ہو جائے گا چنانچہ انھوں نے اسے باندھ دیا اور ایک چھوٹے سے سیاہ قام ادمی کو اس پر مضر کر دیا اور فرمایا اس کے پاس تھہر سے رہو۔ ہم تمہارے پاس سے گزریں گے اگر یہ تمہارے ساتھ چلکر اکرے تو اس کا سراز ادا دینا پھر ہم پڑے اور وادی کدید میں پہنچے۔ ہم وہاں عصر کے بعد شام کے قریب اتر سے۔ میرے ساتھیوں نے مجھے ایک قبیلے کی طرف پہنچا جس سے کہ وہ بستی نظر آتی تھی میں اس پر چڑھ گیا اور یہ غروب آفتاب سے قبل کا واقعہ ہے راس بستی والوں میں سے ایک ادمی نکلا۔ اس نے عنقر کیا اور مجھے ٹیکے پر یٹیکے دیکھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں اس ٹیکے پر بچھ سیاہی دیکھ رہا ہوں جو میں نے ابتدائی دن میں نہ دیکھی تھی۔ ذرا دیکھنا کوئی کتنا بر تنوں پر سے نہ گزرا ہو۔ اس نے دیکھا اور کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے تو کوئی پیز نہیں دیکھی جو کھوئی گئی ہو، کہنے لگا، ذرا بچھے کمان اور تھیلے سے دو تیر دینا، اس نے اسے تیر دیئے اور اس کے بعد اس نے تیر مارا جو میرے پہلو میں لگا۔ میں نے اسے نکال دیا اور حرکت نکل کی پھر اس نے دوسرًا تیر مارا جو میرے کندھے میں لگا۔ میں نے اسے بھی نکال دیا اور حرکت ناکل کی۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، بخدا میرے تیر بے کار گئے، اگر کوئی رجاندار اہوتا تو ضرور حرکت کرتا۔ صح کو میرے تیر تلاش کرتا اور دونوں کوے آتا کہیں انھیں کلاب نہ چھا جائیں۔

راوی کا بیان ہے کہ پھر ہم نجھر سے رہے، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ انہوں نے دودھ دوبا، اور خاموشی چھاگئی اور شب کا ایک حصہ گزر گیا۔ پھر ہم نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور بعضوں کو قتل کیا اور چوپائے ہنکائے اور واپس چل پڑے۔ ان کی پنج پکار قوم تک پہنچی اور ہم تیزی کے ساتھ نکل آئے۔ آخر ہم حضرت بن مالک اور اس کے ساتھی کے پاس سے گزرے۔ انھیں بھی ساتھ لیا اور لوگوں کی آوازیں ہم تک پہنچنے لگیں۔ اور وہ ہم تک پہنچ ہی رہے تھے اور ان کے درمیان صرف وادی کا میدان ہی رہ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہاں سے چاہا پانی کا سیلا ب پھیج دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ راس وادی میں اس سے قبل بارش ہوتی دیکھی ہی نہ تھی۔ اور اب اس قدر سیلا ب آیا کہ لوگ اس سے عبور نکر سکے۔ میں نے انھیں دیکھا کہ وہ ہماری جانب دیکھ رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ نہ سکتا تھا۔ اور ہم ڈھلوان پر اتر رہے تھے۔ چنانچہ ہم تیزی سے چلے اور جو کچھ ہمارے قبضہ میں تھا انھیں اس کے حاصل کرنے سے عاجز کر دیا۔

کہتے ہیں کہ یہی وہ سر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

**ابشیر بن سعد کی مہم** اس کے بعد سیل بن نویرہ حاضر ہوئے۔ یہ خبر کے علاقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا۔ کیا خبر ہے؟

انہوں نے کہا کہ میں، عظفان اور حیان میں میں نے دیکھا کہ ایک شکر جمع ہے۔ آپ نے ان کی طرف عینیہ کو بھیجا تھا کہ یا تو تم چلے آؤ، یا ہم تمہاری طرف آئیں گے انہوں نے جواب پہنچا کہ تم ہماری طرف چلے آؤ اور وہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر سے مشورہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ بشیر بن سعد کو ارسال فرمائیے آپ نے انھیں تین سو آدمیوں کے ہمراہ بھیجا اور انھیں حکم دیا کہ رات کو چلو اور دن کو چھپ جاؤ۔ سیل بھی ان کے ہمراہ رہنمائی کے لیے نکلے۔ یہ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے۔ بہاں تک کہ خبر کے زیریں علاقہ میں پہنچ گئے

اور دشمن کے قریب ہو گئے اور ان کے پڑپا دل پر تہ بول دیا۔ جب انھیں خبر ہوئی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ بشیر اپنے اصحاب سینتیستی میں گئے اور دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اپنے لوگ پڑپا نے لے کر واپس آگئے۔ بعد میں میں نے ان کا ایک مخبر قتل کر دیا، اور دواؤنی گرفتار کر کے مدینہ میں آئے جو مسلمان ہو گئے۔

**سریجہ ابی حدرہ اسلامی** [ابن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوحدرہ اسلامی کو ایک سریجہ میں بھیجا۔ اس کا واقعہ ابن الحثیث نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ عیش بن معاویہ کا ایک آدمی جس کا نام قبیلہ بن رفات تھا یا رفاقتہ بن قبیلہ تھا، ایک بھاری عجیبت تھی کہ آیا اور میدان میں اتنا تکہ قبیلہ قبیلہ کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع کرے۔ یہ آدمی حشم میں نامور اور معروف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے اور دو مسلمانوں کو بلالیا اور فرمایا کہ اس آدمی کی طرف جاؤ اور اس کی خبر لاؤ۔ آپ نے ہمیں ایک نحیف بڑی عمر کی اونٹھی عطا کی۔ ہم میں سے ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو خدا کی قسم وہ ضعف کے باعث کھڑی نہ ہو سکی یہاں تک کہ لوگوں نے ہاتھوں کے ساتھ پیچھے سے اسے سہارا دیا تب وہ چلی۔

آپ نے فرمایا کہ تم اس سواری پر پہنچ جاؤ گے۔ ہم نکلے، ہمارے ساتھ ہمارے تیر اور تکواریں بھی تھیں۔ غروب آفتاب کے وقت ہم سنتی کے قریب پہنچے۔ میں ایک سخت میں چھپ گیا اور ساتھی سے پہنچنے کو کہا۔ وہ بھی سنتی کے دوسری جانب چھپ گیا۔ میں نے کہا کہ جب تم میری تکبیر سنو۔ تو تم بھی تکبیر کرو۔ خدا کی قسم ہم اس حالت میں تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ذرا سمجھ ہو جائے یا کچھ نظر آنے لگے۔ رات کا کافی حصہ گزد چلا تھا۔ شہر والوں کے کسی پرواہے نے شب کو آنے میں دیر کر دی تھی یہاں تک کہ انہیں خطرہ لاحی ہوا۔ اس پر ان کا سردار مار فاعuben قبیلہ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی تکوارے کر لگے میں لٹکائی اور کہنے لگا جذا میں اس پرواہے کے نشانات پر جاؤ نگا۔ خدا کی قسم اسے ضرور گزندہ پہنچا ہے۔ اس کے چند ساتھی کہنے لگے خدا کے یہے ہمارے بغیر موت جاؤ۔ وہ کہنے لگا، نہیں صرف میں ہی جاؤں گا۔ انھوں نے جواب دیا۔ ہم بھی تیر سے ماتھ

چلیں گے۔ اس نے کہا، بخدا تم میں سے کوئی بھی میرے پیچھے نہ آئے۔ پھر وہ نکلا، یہاں تک میرے پاس سے گزرا۔ جب میری زد میں آیا تو میں نے اسے تیر مارا وہ اس کے دل پر لگا، واللہ اس نے بات تک ذکی۔ میں اچھلا اور اس کا سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے تکمیر کی، میرے دوساریوں نے بھی خوب زد سے فتح تکمیر لگایا۔ دشمن انساد ہشت زدہ ہوا کہ اپنی عورتوں، بچوں اور بیکے پہلکے سامان کو سے کر فزار ہو گیا اور ہم نے اوٹوں اور بجروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو ہٹکایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے آئے اور اس کا سر بھی میں اپنے ہمراہ انھا کرے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان میں سے تیرہ ادنیٰ رحمت فرمائی جس سے میں نے اپنے خاندان کو بسا یا اس سے قبل، میں نے اپنی قوم کی ایک عورت سے شادی کی تھی اور دوسو در ہم اس کا حق ہمراہ کھانا تھا۔ اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدد چاہئے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اپنے فرمایا انھا میرے پاس راس وقت کچھ نہیں کہ تیر کی مدد کر سکوں ”میں چند دن ٹھہرا رہا، اس کے بعد اس سریر کا واقعہ پیش آیا، اور میں مالا مال ہو گیا۔

سریر ابو قتادہ و مسلم بن جثا میں ایز آپ نے اضم کی طرف ایک سریر پہنچا۔ اس میں جثا مہ بھی شامل تھے اور عامر بن افیط دودھ کا ایک مشیکرہ بے کراونٹنی پر سورا اس کے پاس سے گزرا اور انھیں اسلام کے طریق پر سلام کیا، انھوں نے جواب دیا۔ مسلم بن جثا نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، کیونکہ ان دونوں میں پہلے سے کچھ عداوت سی تھی۔ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی جس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَضْرِبُتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبِيغُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ الْقَوْىٰ إِلَيْكُمْ  
اَسْلَامُ رَسُولُكُمْ وَمَنْ تَتَبَعُوا عَرَضُ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا فَأَعْنَدَ اللَّهُ مَا غَانِمُكُمْ شَيْءٌ تُكَذِّبُنَّ اللَّهَ  
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ فَمَنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِيغُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔

یعنی اُسے ایمان والو، جب سفر کر واللہ کی راہ میں تو تحقیق کرو اور مت کہو جو شخص تمہاری طرف سلام علیک کرے، کہ تو مسلمان نہیں۔ چاہتے ہو مال دنیا کی زندگی کا تو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں۔ تم ایسے ہی تھے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا سواب تحقیق کرو، اللہ تمہارے کام سے واقف ہے ۔“  
وَإِذْ سَمِعَ أَبُو جَعْفَرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَاشَ وَاقْعَدَ كَيْفَيَّةَ قَوْاَبَ فَرَمَّاهُ كَثُرَ نَفْسَهُ أَهْدَى اللَّهُ رَمَّى إِيمَانَ لَا يَا / کہنے کے بعد اُسے قتل کر دیا!

پیغمبر کے سال عینیہ بن بدر حاضر ہوا اور عامر بن اضیط اشجعی کا دم ملکب کیا۔ یہ قبیس کا سردار تھا۔ افرع بن عابس غلم کی جانب سے تحفظ کر رہا تھا اور یہ غنڈف کا سردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کے لوگوں کو فرمایا کہا تم اب ہم سے پچاس ادنٹ لے لو گے اور جب ہم مدینہ والیں گے تو پچاس پھر دے دیں گے؟

عینیہ بن بدر نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اسے ہرگز اس دن تک نہ چھوڑوں گا جب تک اس کی عورتوں کو بھی وہی تکلیف نہ پہنچا دوں جو اس نے میری عورتوں کو پہنچائی ہے۔ اس طرح کافی بحث مبارکہ کے بعد یہ لوگ دیت پر رضا مند ہو گئے۔

حضرت عبد اللہ بن حداۃ ہمی کا سریہ [صحیحین میں حضرت سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت

کیا، فرمایا کہ رأیت یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر مقتکم حضرت عبد اللہ بن حداۃ کے حق میں نازل ہوئی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ایک سریہ میں بھجا ہیں صحیحین میں اعشش کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ انھوں نے سعید بن بیہدہ سے انھوں نے ابو عبید الرحمن سلمی سے، انھوں نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ میں ایک الفصاری ادی کو امیر بنی اوسرا کا حکم سنوا اور اسرا عادت کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ انھوں نے امیر کو کسی بات میں ناراضی کر دیا، امیر نے کہا، لکڑیاں جمع کرو۔ انھوں نے لکڑیاں جمع کر دی۔ پھر کہنے لگا، اُگ جلاو، انھوں نے اُگ جلائی، پھر کہنے لگا:

کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکم نہ دیا تھا کہ میرا حکم سنوا در اطاعت کرو۔  
انھوں نے جواب دیا، ہاں کہا تھا۔

اس پر دبولا ، اس آگ میں کو دپڑو۔

راوی نہیں ہیں پھر انھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگے کہ تم آگ سے بھاگ  
کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ اتنے میں امیر کاغذب بھی تھم گیا اور آگ بھی بچھ گئی  
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو اس کا تذکرہ ہوا۔

آپ نے فرمایا اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ اطاعت اسی صرف معروف میں ہے  
امیر کی اطاعت کے حدود و نظر الظاہر [یہ امیراً بعده اللہ بن حداۃ سہی تھے۔ اگر یہ کہا جائے  
میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے داخل ہوتے گریا از روئے تاریخ و خلائق  
جاتے اس سے تینمیں وہ دائمی طور پر کیسے رہ سکتے؟]

اس کا جواب یہ ہے کہ جونکہ آگ میں اپنے اپکو دالتِ معصیت ہے۔ اس یہے خودکشی کرنے  
کی پاداش میں وہ ہمیشہ اس میں رہتے۔ کیونکہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے خلوق کی اطاعت جائز نہیں  
اور اطاعت امیر سے آگ میں داخل ہونا اللہ اور اس کے رسول کی معصیت ہوگی۔ اس طرح یہ اطاعت  
ہی سزا کا مستوجب ہو جاتی۔ کیونکہ یہ حرکت خود ہی معصیت کی چیزیت رکھتی ہے اور اگر داخل ہو جائے  
تو گویا اللہ اور اُسکے رسول کے نافرمان ہوتے۔ اس ادمی کے متعلق جو خودکشی کرے اسی حکم پر قو بوجو  
ادمی دوسرے ادمی کو امیر یا بادشاہ کے حکم سے ناجائز ایذا سے اس کے دخشت یا عذاب کی کیا حالت  
ہوگی؟ اور آگ میں کو دنا اگر اس طرح ناجائز ہے تو ایسے بازی گروں کے بارے میں کیا کہا جائیگا۔ جو  
آگ میں کو دجااتے ہیں اور جہلا سمجھتے ہیں کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی میراث ہے اور سمجھتے ہیں  
کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھندی اور سلامتی والی بن گئی، اسی طرح ان پر بھی بجو اور سلاماً بن  
جاں گی اور اس ملطوفہ میں بستلا ہیں کہ وہ حالِ رحمانی میں آگ کے اندر کو دے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے  
کہ وہ حال شیطانی میں داخل ہوتے کیونکہ نہیں جانتے کہ یہ بازی گر ایک خاص قسم کا باس استعمال کرتے  
ہیں اور لوگوں پر نظائر ہر کرتے ہیں کہ وہ اولین اور حمل میں سے ہیں، حالانکہ وہ اولین اور شیطان میں سے ہیں۔

# عمرہ قضائی

نافع فرماتے ہیں کہ شہہ ذی قعده کے ہینے میں یہ عمرہ کیا گیا، سیماں تھی فرماتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر سے واپس آئے۔ انہوں نے سرا یا بچے اور مدینہ میں ٹھہر سے رہے ہیں اسک کہ ذی قعده کا چاند نکل آیا۔ پھر اپنے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ پھر حدیث سے الگے سال بنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہہ ذی قعده میں عمرہ کرنے کے لیے نکلے یہی وہ ہمینہ ہے جس میں مشرکین نے اپ کو مسجد حرام کی زیارت سے روکا تھا۔ پھر اپنے نے تمام جنگی تختیار، نیز، نیز سے دغیرہ انار دیئے اور صرف تواروں کے ساتھ مکر میں داخل ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور اپنے نے فرمایا، اپنے کندھوں کو کھول دوا اور طواف میں سمی کرو۔ تاکہ مشرکین قوت و سطوت کا مظاہرہ دیکھ لیں اور اپنے عسب امکان ان کے سامنے مظاہرہ قوت کرتے رہے۔ چنانچہ مکر کے مرد عورتیں اور بچے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے کے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توار سونتے رجیز اشعار پڑھ رہے تھے:-

خُلُوٰ بَنِي الْكَفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ	قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الرَّحْمَنَ فِي تَنْزِيلِهِ
كفار کی اولاد کو ان کی راہ سے ہٹا دو	رَمَنْ نَفَسَهُ اسَے قُرآن میں نازل فرمایا ہے
يَا رَبِّ انِي هُو مَنْ بَقِيلِهِ	فِي صِحْفٍ تَتَلَقَّى عَنْ رَسُولِهِ
ان صحیفوں میں جو اس کے رسول پر پڑھے جلتے ہیں	لَسَے بِرُورِ دَكَارِ میں اس کے فرمان پر ایمان لا لیا
ضَرِبَا يَزِيلَ الْهَامِرَ عَنْ خَلِيلِهِ	وَيَذَاهِلَ الْهَامِرَ عَنْ قَيْلِهِ
اسی ضرب جو گردن کو جدا کر دے	اور دوست کو دوست سے الگ کر دے

اور مشرکین کے بعض لوگ آپ کو سخت غصے اور غیظ کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔

**حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح**

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک مکہ میں قیام فرمایا، پھر تھے روز صبح کو آپ کے پاس سہیل بن عمر و اور حویلہ بن عبد العزیز آئے۔ آپ انصار کی مجلس میں حضرت سعد بن عبادہ کے لفڑیوں کو فرمائے تھے کہ حویلہ چلا کیا اور کہنے لگا ہم اللہ اور عہد کا واسطہ دیتے ہیں کیا تم ہماری سرز میں سے نہیں رخصت ہو گے؟ حالانکہ تین دن گذرا چکے ہیں۔

سعد بن عبادہ نے کہا، بدجنت تو نے جھوٹ بولा۔ زمینِ نذیری ہے اور نذیر سے آباد اجداد کی ہے۔ اللہ کی قسم ہم نہیں نکلیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویلہ یا سہیل کو خطاب کر کے فرمایا، میں نے ایک خاتون سے شادی کی ہے کیا ولیمة تک نہ ٹھہر جاؤ؟ ہم بھی کھالیں گے اور تم بھی کھاؤ، اس میں ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں۔

انھوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے اللہ اور وعدہ کا واسطہ دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا تو ہمارے یہاں سے نہ جائے گا؟ (یہونکہ معاہدہ حدیثیہ میں وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور تین روز رہ کر چلے جائیں گے اس لیے انہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور آپ بھی سوار ہو گئے یہاں تک کہ آپ مقام سرف پر اترے اور وہاں ٹھہرے اور ابو رافع حضرت میمونہ کو نے کیلئے پیچھے رہ گئے آپ وہاں اقامت پذیر ہوئے تا انکہ حضرت میمونہ اور ان کے ساتھ کے لوگ بھی آگئے۔ ان جہلہ مشرکین اور ان کے بھجوں سے انھیں ازحدا ذمیں پہنچیں پھر آپ نے سرف میں خیمه لگوایا۔ آپ نے خاتما کی۔ اس کے بعد کوچ کیا اور مدینہ پہنچ گئے اور اللہ کی تقدیر دیکھیے کہ حضرت میمونہ کی قبر بھی اسی جگہ بنی ہبہ کے مقام پر آپ نے خیمه لگوایا تھا۔

**کیا حالتِ احرام میں نکاح ہو سکتا ہے؟**

اور حضرت عبادہ کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتِ احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا اور خیمه لگوایا تو آپ غیر محروم تھے۔ یہ ثابت نہیں ہے اور اسے دہم سمجھا گیا ہے۔

یزید بن امیر حضرت میکوڑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، جب ہم دونوں مرف میں غیر محرم تھے (سلم) اور حضرت ابو رافع نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونکی حالت میں حضرت میکوڑ سے نکاح فرمایا اور مکان یا خیسہ بنا یا تو بھی آپ حلال تھے، اور میں دونوں کے درمیان قاصد تھا۔ یہ ان سے صحیح روایت میں مروی ہے۔

سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ عبد العذیں عباس بوسجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتِ احرام میں حضرت میکوڑ سے نکاح کیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو حمل اور نکاح ایک ہی وقت میں ہوئے، بس وجہ سے انھیں تو شہر ہو گیا کہ آپ نے احرام سے قبل نکاح کیا۔ یہ بات مل ہے۔ سوا اس کے انھیں احرام سے قبل اس کا دلیل بتایا گیا ہو گا اور میں بھتنا ہوں کہ شافعیؓ نے بھی اس کے متعلق ایک قول ذکر کیا ہے۔ اب اقوال میں ہیں۔

ایک یہ کہ آپ نے عزہ سے علت کے بعد نکاح فرمایا۔ یہ خود حضرت میکوڑ اور ان دونوں کے درمیان قاصد حضرت ابو رافعؓ کا قول ہے۔ نیز حضرت سعید بن میتب اور جہور محدثین کا یہی قول ہے۔

دوسری یہ کہ آپ نے حالتِ احرام میں نکاح کیا۔ ابن عباسؓ اہل کوفہ اور ایک گروہ کا سہی خیال ہے۔

تمیر ایک کہ آپ نے ان سے احرام سے قبل نکاح فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن عقان سے متقول ہے انھوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ محرم نہ نکاح کرے۔ نہ نکاح کرائے اور نہ منکرنی کرے اب اگر قول اور فعل کو متعارض تسلیم کر لیا جائے تو قول کو مقدم سمجھا جائے گا۔ کیونکہ فعل تو برأت اصلیہ کے مطابق ہوتا ہے اور قول اس کا ناقل ہوتا ہے۔

# حضرت حمزہ کی بیوی کی تولیت پر چھکڑا

تمام قریبی عزیزوں اور رشتے داروں پر خالہ کو ترجیح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنت عم - مکہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت

حمزة کی بیوی ان کے پیچے چل پڑی اور آوازیں دینے لگی، پہچا اپنچا۔  
حضرت علی بن ابی طالب نے اسے گود میں اٹھایا اور حضرت فاطمہؓ سے کہا تھا کہ  
پہچا کی بیٹی ہے۔

انھوں نے اسے اٹھایا۔ اس پر حضرت علیؓ، حضرت عفراؓ اور حضرت زید رضی اللہ عنہم  
نے نزاع کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے اسے اٹھایا تھا اور یہ میرے پہچا کی بیٹی ہے۔  
حضرت عفراؓ نے فرمایا کہ یہ میرے پہچا کی بیٹی ہے مزید براں اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت  
زید نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے عنق میں فیصلہ فرمادیا اور فرمایا خالد مان  
کی قائم مقام ہے۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے فرمایا۔

تو مجھ سے اور میں بجھ سے ہوں۔ اور حضرت عفراؓ سے فرمایا کہ تو شکل اور اخلاق میں  
میرے مشاہ ہے۔ اور حضرت زیدؓ سے فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے۔  
اس کی صحت پراتفاق ہے۔ اس واقعہ میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ والدین کے بعد حصہ  
کے زمانہ میں خالہ تمام اقارب پر فوکیت رکھتی ہے اور اگر عورت بچے کے قریبی سے نکاح

کر سے تو اس کی حفاظت ساقط نہیں ہوتی۔ اس واقعہ میں لوگوں کے لیے استدلال ہے۔ جنہوں نے پچھی پر خالہ پر اور باپ کا قرابت پر ماں کی قرابت کو مقدم سمجھا ہے کیونکہ آپ نے بھی پچھی کی خالہ کے حق میں ہمیں فصلہ دیا۔ حالانکہ اس وقت اس کی پچھی حضرت صفیرہ میں موجود تھیں۔ امام شافعیؓ، مالک، ابو حیینہ کا یہی مسلک ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام الحسن سے دوسری روایت بھی منقول ہے جس میں انہوں نے پچھی کو خالہ پر مقدم تھا یا ہے اور ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدسی سرہ کا یہی مسلک ہے۔ اس طرح باپ کی جانب سے عورتیں ماں کی جانب کی عورتوں پر مقدم ہوں گی، کیونکہ اصل میں پچھے کی ولایت باپ کے لیے ہے اور ماں کو مصلحت طفل اور تربیت و شفقت کی خاطر ترجیح دی گئی اور اس معاملہ میں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں لیکن جب معاملہ حضن عورتوں یا حضن مردوں پر پڑے تو اس وقت باپ کی قرابت ماں کی نسبت مرجوع ہو گئی، جیسے ہر مرد سے باپ اول ہونا ہے۔ اور یہی قول ہے اور حضرت زید رضیٰ کا یہ فرمانا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ان کا مطلب اس اخوت سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت حمزہؓ کے درمیان قائم کیا تھا۔ جب آپ نے اخوت قائم فرمائی۔

صحابہ کے درمیان مواعثات یعنی بھائی چارہ دوبار مواعثات قائم کی۔ ایک بار

حضرت سے قبل صرف ہماجرین میں حق و مواسات پر مواعثات قائم کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکر اور عمر رضیٰ کے درمیان۔ حضرت حمزہؓ اور زید بن حارثہ کے درمیان۔ حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان۔ حضرت زید رضیٰ اور ابن مسعود رضیٰ کے درمیان۔ حضرت عبیدہ رضیٰ بن حارث اور بلاں رضیٰ کے درمیان۔ حضرت مصعب بن علیہ اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان۔ حضرت ابو عبیدہ رضیٰ اور سالم مولیٰ ابو حذیفہ کے درمیان۔ حضرت سعید بن زید رضیٰ اور طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان۔ اور دوسری بار مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت انس بن مالک کے گھر میں ہماجرین اور انصار کے درمیان مواعثات قائم کی۔

**ایک فقہی بحث** اس عمرہ کو عمرہ قضاہ کرنے میں اختلاف ہے۔ کیا یہ اس عمرہ کی قضاہ تھی جس سے آپ کور و کا گیا تھا، یا یہ عمرہ مقاضاہ تھا؟

وائدؒ کی فرماتے ہیں کہ مجھے عبد اللہ بن نافع سے انہیں اپنے والد میرم سے انہیں حضرت ابن عمر سے روایت پڑی کہ یہ عمرہ قضاہ نہ تھا، بلکہ یہ مسلمانوں پر شرط میں آیا تھا کہ وہ اس ہی نے میں جس میں مشرکین نے انہیں روکا ہے۔ عمرہ کریں گے را اور تین روز قیام کریں گے اس لیے اس کے متعلق فقہاء کے چار اقوال ملتے ہیں۔

ایک یہ کہ بے عمرہ سے روک دیا جائے۔ اس پر بدی اور قضاۓ عمرہ لازم ہے۔ امام احمدؓ سے مروی دور روایات میں سے ایک یہ ہے، بلکہ زیادہ اٹھر روایت بدی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بدی واجب ہے اور قضاہ واجب نہیں۔ یہ امام شافعی اور امام ابی حیان کا مسلک ہے اور امام احمدؓ سے ابو طالب کی ایک روایت کے مطابق ان کا بھی یہی مذهب ہے تیسرا قضاۓ عمرہ لازم ہے میکن بدی لازم نہیں، یہ ابو عینیفؓ کا قول ہے۔ چوتھا، نہ اس پر قضاۓ عمرہ ہے اور نہ بدی لازم ہے۔ امام احمدؓ سے مروی ایک قول یہ بھی ہے۔

# محصر کی قربانی

## ایک اہم تحقیقی مسئلہ

صلح حدیثیہ کے موقع پر جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تو حالت حصر میں آپ کا نحر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محصر کو حصر کے وقت قربانی کرنا چاہیے۔ اگر عمرہ کا احرام باندھ رکھا ہوا اس صورت میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔

اور اگر مفرد یا فارن ہو تو اس میں دو قول ملتے ہیں ایک یہ مسلم حسب مذکورہ ہے اور یہی صحیح ہے کیونکہ یہ دو قربانیوں میں سے ایک ہے۔ جب اس سے محل جائز ہوا تو عمرہ کی طرح وقت حصر قربانی بھی جائز ہے کیونکہ عمرہ فوت نہیں ہوتا۔ اور آئندہ تمام زمانہ اس کے لیے وقت ہے۔ پھر جب اس سے محل جائز ہوا اور اس کے فوت کے غطہ کے بغیر قربانی کر لی تو صحیح جس کے فوت کا خطہ بھی ہے، اس میں قربانی بطور اولیٰ جائز ہے امام احمد نے ایک روایت میں فرمایا ہے، کہ اس سے چاہیے کہ یوم النحر تک نہ حلال ہو اور نہ ہی نحر کرے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ ہدی کے لیے ایک مخصوص زمانہ اور مکان ہے۔ مگر جب وہ مخصوص مکان میں ادا کرنے سے عاجز آگیا، تو اس سے مخصوص زمانہ کا محل ساقط نہ ہو گا جب کہ وہ مخصوص وقت اور زمانہ میں اسے ادا کر سکتا ہے۔ اس قول کی بتا پر اسے یوم النحر سے قبل حلال ہونا جائز نہیں، کیونکہ فرمان یہ ہے۔  
لَا تَحْلِفُوا إِنْ سَكَمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدُوْسِ مَحْلَهُ يَعْنِي أُور جامنٌ نَّكِرَوْهُ

سرکی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔

عمرہ میں محصر حلال ہو سکتا ہے [نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر اور حل اس بات کی دلیل ہے کہ عمرہ میں محصر حلال ہو سکتا ہے۔ یہی جہوڑ کا قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مردی ہے کہ عمرہ کرنے والے کو حلال نہ ہونا پھاہیے کیونکہ اس کے فوت ہونے کا کچھ خطرہ نہیں۔]

امام مالک سے اس قول کی صحت نسبت بعید سی معلوم ہوتی ہے کیونکہ آیت حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ علیہ سے کا احرام باندھتے تھے۔ پھر سب نے احرام اتنا رہ دیا۔ اور اس باب میں اہل علم کے اندر کسی بکشک نہیں۔

محصر کہاں خحر (قریبی) کر سکتا ہے؟ [حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمیجہ کے بارے میں بحثنا پھاہیے کہ یہ بالاتفاق حلال ہوئے اکے بعد ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محصر حل یا حرم میں بہاں بھی اسے حصر واقع ہو نہ کر سکتے ہے۔ جہوڑ علما نے کرام۔ احمد، مالک اور شافعیؓ کا بھی قول ہے۔

دوسری روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ محصر کو صرف حرم کے اندر قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ بدی کو حرم میں بھیجیے اور ایک ادمی کو حلال ہوئیکے وقت حرم میں جا کر نہ کرنے پر مفرد کرے۔ ابن مسعود تابعین کی ایک جماعت اور ابو عینیؓ کا بھی قول ہے یہ قول اگر ان سے صحیح ہے تو اسے مخصوص محصر پر قیاس کیا جائیگا۔ وہ یہ کہ کوئی ظالم کسی جماعت یا فرد کو دے۔ رہا محصر عام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے خلاف پائی جاتی ہے۔ مقام حدیبیہ تمام لوگوں کےاتفاق رائے سے حل میں شامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جگہ کچھ حل میں اور کچھ حرم میں شامل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اطراف حرم میں ہیں ورنہ یہ جگہ بالاتفاق حل میں ہے اور اصحاب احمد کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حرم کے کسی حصہ میں جا سکنے کی وقت رکھتا ہو تو کیا اسے وہیں جا کر نہ لازم ہو گا؟ یا نہیں۔

صحیح یہ ہے کہ یہ لازم نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف حرم پر قدرت رکھتے ہوئے بھی حل میں نہ کیا۔

# غزوہ موتہ، شہادت کا شوق فراواں

## خدا کے راستے میں جان دینے والوں کی جرأت اور بے خوفی

یہ علاقوں اپنی شام میں بلقادر کے قریب واقع ہے یہ غزوہ شہید چہما دی الاول میں ہوا۔

اس کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبہب کے ایک ادمی حوث بن حیراز دی کے ہاتھ شام کی طرف شاہزاد میا حاکم بصری کی طرف ایک نامہ مبارک روانہ فرمایا۔ شریبل بن عمر و عسافی نے قاصد کو گرفتار کر لیا اور اسے پاندھ دیا۔ پھر اُگ کے بڑھ کر اس کی گردان مار دی۔ اس قاصد کے سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر میں تو اُپ کو سخت رنج ہوا۔ اُپ نے فوج کا ایک درست روانہ فرمایا اور زید بن حارثہ کو امیر مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو بعثت بن ابی طالب کو امیر بنایتا۔ اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبد اللہ بن رواحد کو امیر بنایتا۔ جنما پنج لوگ تیار ہوئے ان کی تعداد تین ہزار تھی۔ جب کوچھ کا وقت آیا تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیروں کو الوداع کہا۔

حضرت عبد اللہ بن رواحد روپڑے۔ لوگوں نے پوچھا اُپ کیوں روتے ہیں کہنے لگے۔ اللہ کی قسم یہے ز دنیا کی محبت ہے اور نہ تم سے لگاؤ۔ یہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی یہ آیت پڑھتے سننا جس میں نار کا ذکر کرتا ہے کہ واقع منکم الا وَإِذَا دَهَّاَنَ عَلَى سَرِيَّكَ حَثَّمَاً مَقْضِيًّا۔ یعنی اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا تیرے رب پر ضرور مقرر۔ اس یہی سبھ کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم داخل ہونے کے بعد کیسے نکلیں گے؟ مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت

رکھے اور تم سے راگ ادوار کرے اور تمہیں ہماری طرح صالح حالت میں بوٹائے۔ عبد اللہ بن رواحت نے جواب میں چند اشعار پڑھے جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ سے بخشش کا طالب ہوں۔ پھر یہ شکر چل پڑا۔ آخر معاون میں اتر سے قوبیتہ چلا کہ ہر قل بلقار میں ایک لاکھ روپی فوج میں کہ دیر سے ڈالے ہے اور لخم، جذام، بلقین، بہرا اور بلی کے نام لوگوں کو اس نے ساتھ ملا لیا تھا۔

جب مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی تو یہ معاون میں دور ایک پڑھے رہے اور اس معامل پر غور کرتے رہے اور کہتے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی تعداد کی اطلاع دیتے ہیں۔ تاکہ یہ یا تو مزید فوج ارسال فرمائیں یا کوئی حکم دیں اور ہم اس پر عمل کریں۔

**یا فتح یا شہادت** اتنے میں حضرت عبد اللہ بن رواحت نے لوگوں کو ہمت دلائی اور کہا اے لوگوں! اللہ کی قسم جس بات سے تم کبہ بریزاں ہو اس کے لیے نکلے ہو، تم شہادت کے طالب بن کر آئے ہو اور ہم تعداد اور کثرت کے بھروسہ پر جنگ نہیں کرتے بلکہ اس دن کی خلائق پر ہر پیکار ہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشنا، اس پیسے دونیکیوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوگی۔ یا فتح یا شہادت۔

چنانچہ لوگ چل پڑے اور جب بلقار میں پہنچے تو ایک ستی جس کا نام مشارف تھا دہاں انھیں ایک صحرا ملا۔ اب دشمن بھی قریب تھا۔ مسلمان موت کی طرف بڑھے۔ وہیں دشمن اسے ملاقات ہوئی اور جنگ برپا ہوئی۔

**حضرت زید بن حارثہ کی شہادت** (اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں چند انتہاؤہ جنگ کرتے رہے،) یہاں تک کہ دشمنوں کے نیزوں کی زد میں آگئے اور شہید ہو گئے۔

**حضرت عقر بن ابی طالب کی بے نظیر بہادری** پھر حضرت جعفر نے چند اگھا لیا اور جنگ کی، جب گھسان کارن پڑا تو گھوڑے سے اتر آئے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پا پیادہ مقاتلہ کیا آخر وہ بھی شہید ہو گئے اسلام میں حضرت جعفر پہلے ادمی ہیں جن کا گھوڑا جنگ

کے موقع پر زخمی ہوا ان کا دایاں بازو کٹ گیا تو انہوں نے ہائی ہائیک جنڈا اٹھا لیا پھر بایاں بھی کٹ گیا تو انہوں نے سینے سے لگایا یہاں تک کہ شہادت پا گئے۔ ان کے بدن پر تینیں نشانات تھے۔

اب حضرت عبد اللہ بن رواحد آگے بڑھی گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے سے اترتے وقت کچھ تردد کرنے لگے، آخر اتر آئے۔ ان کا چیاز اد بھائی ایک گوشہ کا مکڑا سے آیا۔ اور کہنے لگا اسے کھا کر ذرا کم کو مفبود کر لو، کیونکہ ان دونوں آپ کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور ایک مکڑا ادا توں سے کاملا، پھر ایک طرف لوگوں کا شور و غل سُنا۔ اور کہا تو دنیا میں معروف ہے یہ کہہ کر اسے پھینک دیا، تکوار اٹھائی اور آگے بڑھے اور لڑتے رہتے شہید ہو گئے اما رت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ان کے بعد حضرت زید بن ارقم نے جنڈا اٹھایا جو بھی بجان کے بھائی تھے اور کہنے لگے اسے سلمانوں ایک آدمی پر اتفاق کرلو، انہوں نے کہا کہ تم ہی رامیر بن جاؤ انہوں نے کہا میں امیر نہیں بنوں گا۔ لوگوں نے خالد بن ولید پر اتفاق کر لیا۔ جب خالد نے جنڈا لیا تو انہوں نے قوم کو پیچے ہٹایا اور لوگوں کوے کر میدان سے ایک طرف ہو گئے۔

ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ سلمانوں کی شکست ہو گئی اور صحیح بخاری میں ہے کہ اہل روم کو شکست ہوئی اور صحیح وہ ہے بہابن اصحاب فی نے کہا ہے کہ ہر فرقہ درسرے سے میلحدہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ دھی نام واقعات کی نیبر کر دی۔

موئی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ بن سبہ اہل موت کی نیبرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو مجھے اطلاع دے اور اگر چاہے تو میں خود بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بتاویں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نام واقعات بتا دیجیے اور

تمام حالات کی خبر دے دی۔

اور کہنے لگے اس ذات کی قسم بس نے آپ کو حق کے ساتھ مسیحت فرمایا ہے۔ آپ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی، بس کامند کرہ تو کیا ہو۔ اور واقعات اس طرح ہیں جیسے آپ نے بیان فرمائے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے سامنے زمین پیش کر دی گئی بہاں تک کہ میں نے ان کا معركہ ہوتے دیکھا اور اس دن بعصر رضی رضی حارثہ، عبد اللہ بن رواحہ، مسعود بن اوس، وہب بن سعد بن ابی سرح، عباد بن قدس، حارثہ بن نعمان، سرافہ بن عمار و بن عطیہ مروان زید کے دونوں بیٹوں ابو کلیب رضی جابر رضی اور سعد بن حرث کے دونوں بیٹوں عامر اور عمر وغیرہ نے شہادت پائی۔

**عبد اللہ بن رواحہ کے ابیات**

ترمذی وغیرہ میں مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو عبد اللہ بن رواحہ آپ کے سامنے ابیات پڑھ رہے تھے۔ خلوٰۃ بنی الکفار عن سبیلہ۔ لیکن یہ دہم ہے کیونکہ ابن رواحہ تو اس غزڈہ میں شہید ہو گئے تھے اور یہ غزوہ فتح مکہ سے چار ماہ قبل پیش آیا تھا۔

# غزوہ ذات السلاسل

یہ وادی فریکے اگے ہے "سین" مضموم اور مفتوح دلفوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔ اس کے اور مدینہ کے درمیان دس دن کی مسافت کا فاصلہ ہے یہ غزوہ جمادی آخرہ شہر میں ہوا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قفارۃ اللہ کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر اطراف مدینہ کی طرف بڑھنا پا ہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاصی کو بلا یا اور انہیں ایک سفید جھنڈا دیا، ایک اور جھنڈا ساتھ کر دیا اور انہیں ہباؤں و انصار کے تین سو سواروں کے ہمراہ بھیجا ان کے پاس تیس گھوڑے بھی تھے اور حکم دیا کہ ملی عذرہ اور بقین کے ہو لوگ بھی گزریں ان کا تعاون بھی حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو ہر چلا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے رافع بن یکیث یہنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزید لکھ کے لیے درخواست بھی۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو دو سو آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا اور انہیں بھی ایک جھنڈا عنایت کیا اور بڑے بڑے ہبا جریں والنصار روانہ کیے، جن میں ابو بکر رضی اور عمر رضی بھی تھے اور انہیں حکم دیا کہ عمر سے جامیں اور اتحاد قائم رکھیں، اختلاف نہ کریں۔

بے نفسی اور بے لوثی [چاہی] عمر نے کہا کہ آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امیر قویں ہوں۔

ابو عبیدہ نے اس کی اطاعت کر لی۔ چنانچہ عمر و لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے اور برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قفارہ کے علاقوں کو دندتے ہوئے آخری حصہ میں پہنچ

گئے۔ یہاں ایک اور شکر سے مُبھیر ہوئی، مسلمانوں نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ دشمن شہروں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور منتشر ہو گیا۔

پھر عوف بن مالک الشجاعی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نامہ بر بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپ کو خبر دی کہ مسلمان فتح و نظر کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں اور جنگ کے تمام حالات درج کیے اب اسحاق نے فرمایا ہے کہ جذام کے علاقہ میں پیشوں پر اترنے کے باعث جسے سلسال کہا جاتا ہے اس غزوہ کے کوڑات السلاسل کا نام دیا گیا۔

عمرو بن عاص کا اجتہاد اس غزوہ سے میں امیر شکر حضرت عمر بن عاص کو بد خوابی ہوئی یہ سخت جاڑے کی رات تھی پانی سے انہیں جان کا خطرہ لاحق ہوا اس یہے انہوں نے تمیم کر لیا اور اپنے اصحاب کو نماز پڑھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

اسے عمر تو نے اپنے اصحاب کو حالت جنابت میں ہی نماز پڑھا دی؟ انہوں نے غسل کی رکاوٹ کا تذکرہ کیا اور عرض کیا کہ میں نے سنائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیمًا۔ یعنی: اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہ ربان ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا۔

اس واقعہ سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے، جن کا قول یہ ہے کہ تمیم رافع حدیث نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمیم کے بعد بھی جنوب کا ہی نام دیا اور جنہوں نے ان سے نزاع کیا ہے انہوں نے تین جواب دیے ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ جب صحابہؓ نے شکایت کی تو عرض کیا کہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھا دی جبکہ یہ جنبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا اور فرمایا: کیا تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، حالانکہ تم جنبی تھے؟ آپ نے یہ سوال یہ طور پر کلام فرمایا، جب انہوں نے عذر پیش کیا اور بتایا کہ میں نے اس فرودت کے باعث تمیم کر لیا تھا تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔

(۲) دوسرے یہ کہ روایت میں اختلاف ہے یہ بھی مرد کا ہے کہ انہوں نے غسل کیا اور

نماز کے لیے دخوا کیا۔ پھر نماز پڑھائی اور یہ روایت تمیم کی روایت سے زیادہ قوی ہے۔ عبدالحق نے بتایا ہے کہ یہ دخوا کی روایت پہلی سے زیادہ متعلق ہے۔

(۱۲) تیسرے یہ کہ بنی ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کے ترک غسل میں فتاہت معلوم کرنے کی خرض سے دریافت فرمایا اور جب انہوں نے جواب دیا کہ میں نے غلام ضرورت کے باعث تمیم کیا تھا تو آپ نے انکار نہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ نے سردی کے باعث تمیم کرنے اور تمیم سے نماز پڑھانے کا بوجنل کیا وہ جائز تھا۔ لہذا اس کے عامل پر اعتراف نہ کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ان کی فتاہت اور علم کی خاطر استفسار فرمایا تھا۔

---

## سریہ خط

اس سریہ کے امیر ابو عبیدہ بن جراح تھے بیوی شہرِ رجب میں پیش آیا۔

صحیحین میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین سو سواروں کے تہارہ بھیجا، ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ہم قریش کے ایک قافلے کا بھیجا کر رہے تھے کہ ہمیں سخت بھڑک گلی، ایک آدمی نے تین اوپنٹ ذبح کئے، پھر تین اوپنٹ ذبح کیے، پھر تین اوپنٹ ذبح کئے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد سمندر نے ہماری طرف ایک جاندار بھینکا جسے عنبر کہتے ہیں۔ ہم نے نصف ماہ تک اس کا گوشہ کھایا اور اس کا تسلی استعمال کیا۔ حتیٰ کہ ہمارے بدن اس سے مضبوط اور قوی ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے اس کی ایک پسلی پکڑ لی۔ اور شکر کے سب سے طویل آدمی اور طویل اور کو دیکھا اور اس پر لاد دی اور اس کے نیچے سے گزرے۔ ہم نے اس کے گوشہ کا ایک حصہ نا اسفر کے لئے بھی لے لیا۔ جب ہم مدینہ والپس پہنچے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔

اپنے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیے رزق کی صورت پر یہاں کی۔ کیا تم تمہارے پاس اس کا کچھ گوشہ ہے جو تم ہمیں بھی کھلا دو؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، اپنے نے اُسے تناول فرمایا۔

اس سے شہرِ حرام میں جواز قتال کا پتہ چلتا ہے اگر اس کی **اس واقعہ سے متعلق احکاماتِ فقہ** تاریخ محفوظ طور پر رجب میں ہوا اور ظاہر طور پر ہے۔

یہ فرم ہے۔ ویسے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ نہیں ہے کہ یہ غرذہ شہرِ حرام میں ہوا ہوا اور نہ آپ نے اس ماہ میں اچانک حملہ کیا اور اس میں کوئی سریہ بھیجا اور مشکون تے علاؤین

حضرتی کے واقعہ کے متعلق اول رجب میں قتال پر مسلمانوں کو خار دلائی اور کہا کہ محمد نے شہر حرام کو حلال کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نائل فرمائی ہے۔

یسأَلُونِكَ عَنِ الشَّهْرِ إِحْرَامٍ قُتِلَ فِيهِ قُتْلٌ قُتْلَ فِيهِ كَبِيرٌ۔ (آلہیۃ) اور یہ حکم کسی شخص سے مفروض نہیں ہوا اور نہ ہی امت کا اس کے نتیج پر اجماع پر اور شہر حرام میں حرمت قتال پر اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔

فَإِذَا أَنْسَلْتُهُ الْأَشْهَرَ إِحْرَامٍ فَاقْتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حِدْثٌ وَجْدٌ تَمُومٌ يُعْنِي، پس جب گزندہ بنا میں حرمت کے ہیئتے تو مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اس میں کوئی جنت نہیں کیونکہ مہماں اشہر حرام دراصل اشہر سفر ہیں، جن میں مشرکین مالمون ہو کر زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور ان کی ابتداء دسویں ذی الحجه سے اور انتہاء دسویں ربیع الثانی پر ہوتی ہے۔

نیزاں غزوہ سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ تکلیف کے وقت درخت کے پتے کھانے جائز ہیں، نیزہ زمین کی جزوی بوشیوں کا معاملہ بھی اس طرح ہے۔

نیزاں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اور امیر لشکر کو اجازت ہے کہ سواریوں کے چانور ذبح کرنے کی مخالفت کر دی۔ اگرچہ کھانے کی ضرورت ہو۔ اس خطرو کے پیش نظر کو شمن کے مقابله پر اس کی صریحت ہو گی اور اس پر مخالفت میں امیر کی اطاعت لشکر پر واجب ہے۔

نیزاں میں سمندر کے مردار کے کھانے کا جواز بھی نکلتا ہے اور یہ مردار حرمت علیکم الہیۃ و لدم کی آیت کے تحت نہیں آتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے۔ احمد لکم صید البحر و طعامہ متنازعانکر یعنی، حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے نفع کے لیے۔

اور صحیح روایت میں حضرت ابو بکر صدوق اور عبد اللہ بن عباس اور صحابہ کی ایک جماعت رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ صیداً بحر سے مراد جواں سے شکار کیا جائے اور طعامہ سے مراد جواند اس میں مر جائے۔

اور سنن میں حضرت ابن عمرؓ سے مرفرع اور سوقوف روایت ہے کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال ہیں۔ مردیں میں بھی اور نکڑی اور خون میں بھگرا اور تی شالی ہیں۔

(حدیث حسن)

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو طبیبہ میں ہی اجتہاد حیات نبوی میں اجتہاد کو نہ صرف جائز رکھا گیا بلکہ اس پر عمل و آمد ہوا لیکن یہ معاملہ اس وقت ہو گا، جب نفس موجود نہ ہو اور حقیقتاً اجتہاد کی ضرورت درپیش ہو اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجتہاد کیا اور آپ نے اُسے تسلیم کریا۔ لیکن یہ معاملہ خروی احکام میں تھا۔ کلی اور عام امور میں ایسا طریقہ نہ تھا۔ بلکہ موڑ صورت میں اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی صحابی کی جانب سے سرزد نہیں ہوا۔

---

# فتح مکہ، تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ

رحمت عالم کی شفقت و رحمت مجرموں اور خطاکاروں پر

ابوسفیان کا جھکاہوا سر [کو عزت بخشی اور جس کے ذریعہ اپنا شہر اور اپنا مگر کفار و مشرکین سے آزاد کرایا جسے عالمین کے لیے ہدایت ہے] یا گیا تھا۔

بہی وہ فتح عظیم تھی جس سے سماں والے خوش ہوئے اور برج جوزا پر خیمے گاڑ دیے اور لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اس سے رَبِّنَبِیْ زمین چکا اور روشن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے شکر اور رحمن کی جامعتیں لے کر دس رمضان شہر کو مدینہ سے نکلے اور ابو یم کلثوم بن حسین غفارک کو مدینہ کا عامل مقرر فرمایا این سعد فرماتے ہیں عبد اللہ بن ام کلثوم کو غالی فرمایا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صحیح حدیث ہوئی تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ رقبائیں ہر جس میں سے جس کا جی چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شرک ہو جائے۔ اور جس کا جی چاہے قریش کے ساتھ معاہدے میں شرک ہو جائے۔ چنانچہ ہنوبکرنے قریش سے معاہدے کر لیا اور ہنوبخزادہ نبی اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شرک ہو گئے۔ ربنو کماد و ہنوبخزادہ کی قدیم زمانے سے آپس میں عداوت پلی آرہی تھی) اس لیے ہنوبکرنے ہنوبخزادہ سے انتقام لینے کا موقع دیکھا اور ارادہ کیا کہ ہنوبخزادہ سے قدیم عداوت کا پدر لیا جائے۔

قریش کی شرارت [کے قریب رات کو شہر اور مطمئن تھے۔ چنانچہ ان پر حملہ کسکے ان کے چند

آدمی مار دیے۔ پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی اور قتل و غارت برپا ہوا اور قریش نے اتحادیاروں کے ساتھ بخوبکر کی مدد کی اور قریش میں سے بعض لوگوں نے چھپ کر رات کو ان سے مل کر مقام کہ بھی کیا۔ چنانچہ بنو خزاصہ کا ایک آدمی عروج بن عاص خزانی تکل کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صاحابہ کے ہمراہ مسجد میں تشریف فراہ تھے۔ اس نے آپ کے سامنے کچھ اشعار پڑھے، جن میں بنو بکر کے حلقے اور غارت گری کا قصہ بیان کیا۔ بنو خزاصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاهدہ کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرزاد کی اور امداد کی درخواست کی۔

**رسول اللہ کا پاس عہد مدد دی جائے گی۔** پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عروج بن سالم تمہیں حکم داہیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنی کعب کی مدد کے لیے آئے گا پھر بدھل بن در قارہ بنو خزاصہ کی ایک جماعت لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو تمام واقعات کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ قریش نے بھی بنو بکر کے ساتھ مل کر حملہ کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ واپس پلے گئے۔

**نبی نے آپ کو بستر رسول اللہ نہیں دیکھنے دیا** تمہارے پاس آیا ہے تاکہ دربارہ عہد کیا جاسکے اور مدت معاهدہ میں اضافہ ہو جائے۔ جب بدھل بن در قارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ کر ہاتھا تو انہیں صفار بن ابوسفیان ٹلا، جسے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رنجیدہ معاهدہ کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد ابوسفیان مدینہ پہنچا اور اپنی بیٹی ام جبیر بنت حمیر کے گھر میں ٹھہرا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو امام جبیر بنت حمیر نے بستر بھیٹ دیا۔

ابوسفیان کہتے رہا، اسے بیٹی کیا تو نے اس بستر سے کے باعث میری طرف سے اعراض کر دیا؟ یا (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملنے کے باعث میری طرف سے منہ پھیر لیا؟

ام جبیر بنت حمیر نے جواب دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ وہ پہنچنے لگا اللہ کی قسم میرے بعد مجھے خراب ہو گئی۔

**ابوسفیان کی التجاپ آپ کی خوشی** پھر نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور آپ سے گفتگو کی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابوکبر

کے پاس گیا، انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو۔ وہ کہنے لگا، میں یہ کرنے والا نہیں ہوں۔

پھر حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا ان سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں اور اگر میں ایک قعدہ بھی پاتا تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔

**حضرت علیؑ کا جواب ابوسفیان کو** بھی تھیں اور حسنؑ ابھی چھوٹے تھے۔ جوان کے پاس پہیٹ کے

بل جیل رہے تھے۔ وہ کہنے لگا: اے علیؑ! کم تم ہمارے عزیز تریب تھے میں ایک ضرورت کے باعث آیا ہوں مجھے نامرا دوا پس نہ کرو۔ محمدؐ سے میری سفارش کر دو۔

انہوں نے جواب دیا اے سفیان! تمہارا ہو، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کا خزم فرمایا ہے کہ جس سے متعلق ہم ان سے کلام نہیں کر سکتے۔

**حضرت فاطمہؓ کا جواب ابوسفیان کو** پھر وہ حضرت فاطمہؓ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تو نو

صلح کر دے؟ یہ آخر زمانہ تک عرب کا سردار رہے گا۔ انہوں نے جواب دیا میرا بیٹا! ابھی اس عمر تک نہیں ہہچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔

ابوسفیان کہنے لگا: اے ابوالحسنؑ! میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ سخت نہ ہو چکا ہے۔ مجھے نصیرت کرو۔

انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم میں کوئی ایسی تدبیر نہیں بھانتا کہ جو تجھے فائدہ دے سکے۔ البتہ تو ہی کنانہ کا سردار ہے اس لیے اٹھ کر لوگوں میں خود (اعلان تجدید عهد) کر دے اور اپنے شہر میں واپس بجا لے جا۔

اس نے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیرے بیٹے فائدہ ہو گا؟

انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم لیکن مجھے اس کے سوا کچھ چارہ کا رناظر نہیں آتا۔

ابوسفیان! اٹھ کر مسجد میں آیا اور کہنے لگا: اے لوگو! میں نے تجدید معاهدہ صلح کر لی اور پھر اونٹ پر سوار ہو کر چلا گی۔

جب قریش کے پاس پہنچا تو کہنے لگے کیا خبر لائے ہو؟

اس نے کہا میں محمدؐ کے پاس گیا، ان سے لگنگو کی۔ اللہ کی قسم انہوں نے جواب نہ دیا پھر میں ابن

ابی حافزہ کے پاس گیا، وہاں بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں عمر بن خطاب کے پاس گیا میں نے اسے سخت ترین دشمن محسوس کیا، پھر میں علی بن ابی طالب کے پاس گیا میں نے انہیں قوم میں سب سے زیادہ نرم دیکھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کا مشورہ دیا وہ کرنگرا۔ اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے کچھ فائدہ دے سکے گا یا نہیں قریش نے پوچھا کیا محمدؐ نے بھی توثیق کی ہے؟ وہ بولا نہیں!

کہنے لگے تیری خرابی ہو، اللہ کی قسم تیر سے ساتھ تو صرف مذاق ہی ہٹو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہی محسوس کیا ہے۔

**فتح مکہ کی تیاری** اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں اور نام صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سفر درست کر رہی تھیں۔

انہوں نے پوچھا، اے بیٹی! اکیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تیاری کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یاں!

انہوں نے پوچھا تمہارے خیال میں آپ کا کس طرف ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اس لیے انہیں تیزی سے تیاری کرنے کا حکم دیا اور دعا کی۔

اے اللہ قریش سے تب تک خبروں اور مخبروں کو روک کر رکھنا جب تک کہم آن کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں۔

**ایک مسلمان کی مخبری مسلمانوں کے خلاف** لوگوں نے تیاری کی تھا طب بن ابی بنت عبد الله نے قریش کو ایک مکتب لکھا، جس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دے دی اور ایک عورت کو خط دے دیا اور اسے قولش تک پہنچانے کا کچھ معاوضہ بھی مقرر کر لیا۔ اس عورت نے یہ خط اپنے بالوں کی مینڈیوں میں چھپا لیا اور پل پڑی۔ اس پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حاطبؓ کے اس فعل کی خبر دے دی گئی۔ آپ

نے علیٰ، زیبیر یا علیٰ خواہ اور مقدار کو بھیجا اور فرمایا کہ جب تم لوگ خاچ کے باخ شک پہنچو تو وہاں ایک عوت سے گی جس کے پاس قریش کی طرف لکھا خط ہو گا۔

چنانچہ یہ دونوں صحابیؓ محوڑے دولاتے چل پڑے اور اسی جگہ عودت کو پایا۔ انہوں نے اسے اترنے کا حکم دیا اور کہا کہ تیر سے پاس خط ہے وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اسے کے علاوہ سامان کی تلاشی میں میں کچھ بھی نہ تھا۔

**قول رسول، حضرت علیؑ کا اعتماد** حضرت علیؑ نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ نہ رسول اللہ کی قسم یا تو تجھے خط انکان ہو گا اور یا پھر ہم تیرا جھاڑا کر دیں گے۔ جب عودت نے یہ شدت دیکھی تو کہنے لگی تم وسری طرف منہ کرو۔ انہوں نے چہرہ م GAMALIA۔ اس نے سر کی یمنڈیاں کھولیں خط انکالا اور راہیں دے دیا۔

یہ خط بیکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

یہ خط حافظ بن ابی بلقعہ کی جانب سے قریش کے نام تھا۔ اس میں قریش کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی۔

نبی صلی اللہ ترے حافظ کو ملایا اور فرمایا۔

اے حافظ یہ کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا۔ اللہ کے رسولؐ مجھ پر حذری نہ کیجیے۔ خدا کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، نہ میں مرتد ہو اہوں اور نہ میں نے دین بدله ہے۔ بلکہ میں قریش میں رہ رہا تھا۔ مگر میں خود ان میں سے نہیں ہوں ان کے ہاں میرے ہاں بچے ہیں۔ تجدید اور بڑھا ہے اور قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں اور جو صحابہؓ آپؓ کے ساتھ ہیں ان کی قریش میں رشد کر دیاں ہیں۔ جس سے وہ ان کی اہل دعیاں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں ان پر احسان کر دوں تاکہ میرے اقارب کی حفاظت کریں۔

**حضرت عمر اور ابو سفیان** حضرت عمرؓ خاطب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسولؐ مجھے اجازت دیجئے۔ میں اس کی گردان مار دوں۔ اس نے اللہ اور اس کے رسولؐ سے

خیانت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پدر میں حصہ لیا تھا اور اسے عمر تھیں عذر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو درکھا اور فرمایا، اب تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں عذر دیا۔

اس پر حضرت عمر کی آنکھیں ڈھپدھ بائیں اور عرض کیا اللہ اور راس کا رسول خوب بنتے ہیں۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آپ رفتے سے تھے اور لوگ بھی رونتے سے تھے جب یہ لوگ کہ دید رہنچے، اس شہر کو آج کل لوگ قدر دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی افطار کیا۔ پھر سفر شروع ہوا۔ آخر کار مراطیہ ان پہنچے۔ یہ وادی مرکار میانی حصہ ہے۔

وس هزار کا الشکر بکد کی طرف آپ کے ہمراہ وس ہزار کا شکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو اہلِ اسلام میں جتنا تھا۔ ابوسفیان جس کے لیے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ حکیم بن حرام اور تاء بن ہڑول بھی تھا۔ یہ لوگ جبزیں حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔

حضرت عباس ان سے قبل ہی اپنے اہل و عیال لے کر اسلام قبول کر کے اجرت کی عرض سے نکل چکے تھے۔ چنانچہ یہ مقام جو غیر محبی سبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ راستے میں ان کا چچا زاد بھائی ابوسفیان بن حرب اور عبد اللہ بن ابی امیہ ابرار کے مقام ہے۔ یہ دونوں ان کے چچا اور پھر بھی زاد بھائی تھے آپ نے ان دونوں سے بھا اور ابنا ہی کے باعث اعراض فرمایا۔

حضرت علی نے ابوسفیان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ہے حاضر ہو، اور وہی کلمات عرض کر جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عرض کئے تھے۔ بولے قسم اللہ۔ البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تھے جو کئے والے۔ قالو تا الله لقد اتراع کیونکہ آپ احسن قول کے سوار راضی نہ ہونگے۔ ابوسفیان نے اس اہمی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

قال لا تشريب عليكم الیوه بغير الله لكم وهو المترحم الراغبين یعنی کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔

اس کے بعد وہ اسلام لے آیا۔

ابوسفیان کی نذامت کہا جاتا ہے کہ ابوسفیان نے اسلام لانے کے بعد حیا کے باعث بھی

بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سراستھا کر نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خیال کرتے تھے۔ اور اُس کے جنتی ہونے کی بھی گواہی دی۔ اور فرمایا مجھے امید ہے، کہ یہ حمزہ کے خلف ہونگے۔ اور جب ابوسفیانؓ کی وفات قریب ہوتی تو انہوں نے کہا، مجھ پرست سوؤ۔ الشکی قسم اسلام لائے کے بعد میں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا۔

### اصل واقعہ فتح مکہ کی طرف عورا کا وقت تھا۔ آپ نے شکر میں آگ بلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ

وہ ہزار جگہ آگ روشن ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے پر حضرت عمر بن خطاب کا پھر و تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچور سوار ہوئے اور کسی کی علاش میں نکلے تاکہ قربیش کو اٹھائی دی جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل مکہ سے قبل ہی امان کی درخواست پیش کریں۔

راوی فرماتے ہیں کہ الشکی قسم میں جاری تھا، کہ میں نے ابوسفیان اور بہریل بن ورقاء کی گفتگو سنی ابوسفیان کہہ رہا تھا: میں نے آج کی لات سے زیادہ بھی بھی نہ آگ دیکھی اور نہ شکر۔

بدیل نے جواب دیا کہ الشکر کی قسم یہ بنو خزاعہ کا شکر ہے۔ جو جنگ کے ارادہ (رسے آئے ہیں) ابوسفیان بول اٹھا، بنو خزاعہ تو ہست، ہی کم تعداد میں ہیں اس قدر آگ اور شکر ران کا نہیں ہو سکتا، راوی کہتے ہیں، کہ میں نے اس کی آواز بھیجاں لی۔ اور کہا، اسے ابوحنظلہؓ اُس نے میری آواز بھی بھیجاں لی اور جواب میں بیو چھا، کیا تو ابو الفضل ہے؟

میں نے کہا ہاں اُس نے کہا میر سماں باپ تجوید قرآن کیا معاملہ ہے؟

میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہمراہ بیس افراد کی گردبادی اگئی۔

### ابوسفیان نہ پا اور ماں کا طالب میں نے کہا، اگر مجھے انہوں نے پکڑ دیا تو یقیناً ایسا گروں مار دیں

گے۔ اس نے تو میرے پیچھے اس خچور سوار ہو جا۔ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے پہنچا ہوں۔ اور امان دلا دیتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ساتھی والپس چلے گئے جب ہم سماں کی آگ کے پاس سے گزرتے تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچور کو دیکھتے تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھا آپ کی خچور سوار ہیں۔ یہاں تک کہ تم عمر بن خطاب کی

آگ کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ اور میری طرف بڑھے۔ جب ابوسفیان کو خچر پر پیچے بیٹھے دیکھا تو کہا، ابوسفیان! اللہ کا دشمن اللہ کی بہرا دروں تعریفیں کہ جس نے کسی عہد اور وعدے کے بغیر تجھ پر قابو دیا، پھر تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خچر تیز ہو کر ان سے آگے بڑھ گیا۔ عباس خچر سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ بعد میں عمر بن جعفر آگئے۔ اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ابوسفیان ہے۔ مجھے ابھانت دیجیے کہ میں اس کی گردان رسول (حضرت عباسؓ) فرماتے ہیں کہ میں نے کہا۔ اے اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دی ہے۔

عباسؓ کی سفارش سنت حضرت کا ارشاد      رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
پچھدی رکے بعد      اے عباسؓ اسے لے جاؤ، صحیح کو پیش کرنا۔

میں اسے لے گیا۔ جب صحیح ہوئی تو میں اسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا:

اے ابوسفیان! بھی تک وقت نہیں آیا کہ مجھے لیتھیں ہو۔ میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اس نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قریان۔ آپ کس قدر حلیم، کریم اور وصل کرنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا۔ تو ضرور مجھ کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا۔

رسالت مأب نے دوبارہ یہی فرمایا: اس نے یہی جواب دیا اور کہا: یہ بات یعنی (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اب تک میرے دل میں نہیں اتری۔

قبول اسلام کی دعوت      حضرت عباسؓ نے فرمایا: تیرنا س ہو اسلام سے اور قبل اس کے کہ تیری مگر زدن اُڑ سے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اسلام قبول کیا اور شہادت دے دی اشہد ان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا شَهِدُ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود کار ساز نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

حضرت عباسؓ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ابوسفیان فخر کو پیش کرتا۔ اس نے کوئی اعزاز عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا: ہاں! جو ابوسفیانؓ کے گھر میں داخل ہو جائے اماں ہے۔ اور جو خود اپنے دروازے بند کرے اسے اماں ہے۔ اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے اماں ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عباسؓ کو حکم دیا کہ ابوسفیانؓ کو روک لو۔ اور بہاڑ پر لے جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کا شکر گز رے

اور یہ اسے دیکھ رہا ہو، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ مختلف قبائل جماعت سے لے کر گزے اور حضرت عباسؓ اسے بتاتے رہے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے شکر میں گزرے یہ شکر لوہے میں ڈوبا تھا۔ اور انگھوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔

ابوسفیان نے کہا سجنان اللہ اے عباس یہ کون لشکر اسلام سے ابوسفیان کی مرعوبیت ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ یہ اسے مقابلہ کی قوت علیہ وسلم میں مہاجرین و انصار آپ کے ہمراہ ہیں۔

اس نے جواب دیا۔ ایسے لوگ اس سے قبل نہ تھے۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں سے مقابلہ کی قوت کوئی رکھتا ہے۔

اس کے بعد ابوسفیانؓ واپس گیا، جب قریش کے پاس پہنچا۔ تو زور سے آواز دی۔ لے کے قریش کے گروہ یہ محمد ایسا بڑا لشکر لے کر گئے کہ ان کا مقابلہ ناٹکن ہے۔ اس نے جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے لے سے امان ہے۔

ان کی بیوی ہند بن عبد اللہؓ اس نے ان کی منچھر پکڑ لی۔ اور کہنے لگی اس تیر چڑی والے جو نڈی ہند ڈیوں والے کو قتل کرو۔

انہوں نے جواب دیا۔ تمہارا ناس ہو۔ تمہیں دھوکہ نہ ہو۔ یہ تم میں سے ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس قدر لشکر لے کر آئے ہیں۔ کہ تم سے ان کا مقابلہ ناٹکن ہے۔ اور جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اور جو مسجد (حرام) میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔

قریش کہنے لگے، اللہ تجھے ہلاک کرے تیرا گھر ہمارے لئے کیسے کفایت کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا۔ اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے۔ اور جو مسجد میں داخل ہوا اسے امان ہے۔

چنانچہ لوگ منتشر ہو کر اپنے گھروں اور مسجد میں داخل ہو گئے۔

اگر کوئی مقابلہ کرے تو ڈٹ کر لڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے وہاں آپ کا خیر لگا دیا گیا اور آپ نے خالد بن ولید کو زیبیں حصہ سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت علیؓ وابیں جانب تھے ان میں اسلم سلیم، غفار، مدینہ

جہنمیہ اور دوسرے عرب قبائل تھے۔ حضرت ابو مسیحیہ پیغمبر والوں کے ساتھ تھے ان کے پاس ہتھیار نہ تھے آپ نے حضرت خالدؓ اور ان کے اصحاب سے فرمایا کہ اگر قریش میں سے کوئی مقابلے پر آئے تو اسے پیس کر کر دو۔ یہاں تک کہ صفا کے مقام پر مجھ سے آن ملو۔ چنانچہ جو بھی ان کے مقابلے پر آیا۔ انہوں نے اسے موت کے گھاٹ آنار دیا۔

قریش کے سفہائی جنگی تیاریاں بن ابی جہل۔ صفووان بن ابیہد اور سہیل بن عمرو کے ساتھ خند مہ میں آئے۔ تاکہ مسلمانوں سے جنگ کرنے والاس بن قبیس جو بنو بکر میں سے تھا بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دخوں کہ سے قبل ہتھیار تیز کرتے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا ہے ہتھیار کسی لیے تیار کر رہے؟ وہ بولا محمدؐ اور اس کے اصحاب کے لیے۔

اس نے جواب دیا۔ محمدؐ اور اس کے اصحاب کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں لٹھ رکھتی۔ وہ کہتے لگا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تیرے لیے ان میں سے بعض خادم لے آؤں گا پھر اس نے بہادری بتائی کے لیے چند شعر پڑھے۔

اس کے بعد صفووان۔ عکر سہ اور سہیل بن عمرو کے پاس خند مہ چلا گیا۔ جب مسلمانوں سے سامنا ہوا۔ معمولی ساتھیاں ہواں تو کرز بن جابر فہری اور خذیں بن خالد بن زیعہ شہید ہو گئے۔ یہ دونوں خالد بن ولید کے دستہ کے ساتھ تھے۔ لیکن ان سے الگ ہو کر دوسرے راستے پہل پڑھے تھے، اس لیے دونوں شہید ہوئے اور مشترکین کے بارہ آدمی داخل جہنم ہوئے۔ اور باقی بھاگ لکھرے ہوئے ان میں حاس ہتھیار تیز کرتے والا بھی تھا۔

جب وہ بھاگ کر گھر میں داخل ہوا، تو بیوی سے کہنے لگا۔ مجھ پر دو واڑہ بند کر دو۔ وہ کہنے لیا۔ وہ شیخوں کہاں گئیں؟ تو اس نے بیدانِ جنگ کی دہشت کا نقشہ بنلاتے ہوئے چند اشعار پڑھے اور خاموش ہو گیا۔ آخر کام

مسجد کے قریب جھوں کے مقام پر رسول اللہ علیہ وسلم کا حینڈ اگاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بنی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مہاجرین اور انصار آپ کے آگے پیچھے واپسی بائیں تھے۔ آپ سجدہ میں داخل ہوئے جو رسوی طرف تشریف لائے اور استلام کیا (بوسہ دیا) پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ بیت اللہ کے گرد پھرے اس وقت وہاں تین سو سالہ بہت تھے آپ انہیں کمان سے مارتے اور یہ آیت پڑھتے۔

جَاءَ الرَّحْمَنُ وَرَأَهُقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ شَرَّ هُوَ فَتًا۔ یعنی حق اگھا اور باطل صٹ گیا اور بے شک بالطل مٹنے ہی کی چیز ہے اور بہت چہروں کے بل گرتے جاتے آپ نے سواری پر چڑھ کر طواف کیا اور طواف پر ہی اقتصاد فرمایا۔

کلید بردار کعبہ کی طلبی طواف ختم کرتے کے بعد آپ نے عثمان بن علی کو بلا یا، اور اس سے کعبہ کی بھنی لے لی اور دروازہ کھونتے کا حکم دیا۔ دروازہ کھول گیا اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے آپ نے وہاں تصویریں دیکھیں، ایک جگہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں۔ کرازلام سے تقیم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا! اللہ انہیں (مشرکین کو) ہلاک کرے۔ انہوں (ابراهیم اسماعیل) نے کبھی بھی بہ کام نہیں کیا۔

کعبہ میں آپ نے نکڑی کا کبوتر دیکھا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیا، اور تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اپنے اور اسمانہؓ اور بلالؓ کے لیے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اور دروازے کے مقابلہ دیوار کی طرف آپ تے رُخ کر لیا، یہاں تک کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان میں تین ذراع کا فاصلہ رہ گیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر وہاں نماز پڑھی پھر بیت اللہ کا چکر لگایا۔ اور اس کی اطراف میں تکبیر کیا اور اللہ کی توجید بیان کی۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔

**خطاب کار اور مجرم فاتح کے سامنے** اتنے میں قریش سے مسجد بھر گئی اور وہ قطاروں میں بیٹھے انتشار کر رہے تھے۔ کہا اب آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ نے دروازے کے دونوں سے اطراف کو پکڑ لیا۔ قریش نیچے نظر۔

آپ نے کہا: اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں، وہ تنہا ہے کوئی اس کا شریف نہیں اس نے وعدہ پیچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور ایکلے ہی گروہوں کو شکست دی یاد رکھو۔ مال یا خون میرے ان دونوں قوموں کے نیچے نہیں۔ سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حجاج کی شقاہیت کے رپانی (پلانا) یا درکھو قتل خطا میں وہیت مغلظہ ہوئی جو سوادنٹ ہوں گے جن میں سے چالیس حاملہ ہوں گے اے قریش کی جماعت بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ داد پر طرائف ہٹا دی۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ہم نے تمہیں ترا اور بادہ کی صورت میں پیدا کیا۔ اور تمہیں قبائل اور خاندانوں میں تقیم کر دیا تاکہ ہمچنانے ہاسکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت مندوہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ علیم و نبیر ہے۔

اے قریش کی جماعت تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا۔ آپ شریف بھائی۔ شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ رہبیں آپ سے اچھی توقعات ہیں۔ آپ نے فرمایا: کہ میں تم سے اسی طرح کہتا ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تشریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں جاؤ تم آزاد ہو۔

پھر آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور حضرت علیؓ آپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کبھی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول دریانی اور ستھانی نہم میں جمح کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عثمان بن سعید کہاں پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان! بہ لو اپنی کبھی آج نیکی اور وفا

کا دن ہے طبقات ابن سعد میں حضرت عثمان بن طلحہ سے مروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم زمانہ چاپیت میں پیر اور تھرات کو کعبہ مشرفہ کو کھو لئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ لوگوں کے ہمراہ کعبہ میں داخل ہوئے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور سختی سے پیش آیا۔

لیکن آپ نے حلم اختیار کیے رکھا پھر فرمایا!  
اے عثمان شاہد تو دیکھے گا، کہ ایک دن یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور  
چسے میں چاہوں گا دوں گا۔  
میں تے کہا! تو اس دن قریش ہلاک ہو چکے ہوں گے؟  
آپ تے فرمایا، نہیں بلکہ اس دن بیرون متاد اور آباد ہوں گے۔

پھر آپ کعبہ میں داخل ہو گئے اور میرے قلب  
میں ان کی بہ بات ٹک کر رہ گئی۔ اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کام اسی طرح ہو  
گا جیسے آپ نے فرمایا ہے، جب فتح کا دن آیا، تو آپ نے فرمایا۔ اے عثمان کنجی  
لاؤ۔ میں نے کہ حاضر ہوا۔ آپ نے اسے میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اور پھر والپیں کروی  
اور فرمایا، راسے لے لو، ہمیشہ کے لیے نسل بعد نسل ظالم کے سوا کوئی تم سے تھینے  
گا، اے عثمان اللہ نے نہیں اپنے گھر کا ابین بنایا ہے۔ اس لیے اس گھر سے جوائے  
بنیکی کے ساتھ کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں لٹوا۔ تو آپ نے مجھے آواز دی۔ میں  
واپس آپ کی طرف گیا۔ آپ نے فرمایا کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ ر عثمان بن طلحہ  
کہتے ہیں۔ کہ پھر مجھے مکہ میں ہجرت سے قبل آپ کا قول یاد آگیا۔ کہ وہ شاہد تو دیکھے  
گا کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے میں چاہوں گا دوں گا؟ میں نے عرض  
کیا ہاں! میں گواہی دینا ہوں۔ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

**آں حضرتِ اُمٰمٰ تَّالَقَّیٰ کے گھر میں | پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام**

غسل فرمایا۔ اور انہی کے گھر بیس آٹھوڑ کھتیں ادا کیں۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس یہے بعض لوگوں نے اسے صلوٰۃ الفتحی رنماز چاشت (سبھر لیا۔ حالانکہ یہ نماز فتح تھی اور امر اسلام کا یہ دستور تھا۔ کہ وہ جب کوئی شہر یا قلعہ فتح کرتے، تو فتح کے بعد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کرتے ہوئے آٹھوڑ رکعات نماز فتح پر مرحوما کرتے۔

وہ لوگ حنفیں اماں نہیں ملی [آدمیوں کے سوا تمام لوگوں کو امان دے دی ان نے کے متعلق آپ نے فرمایا! یہ الگ کھیر کے پردوں کے نیچے ملیں تو بھی انہیں قتل کرو۔ ان کے نام یہ ہیں۔

عبداللہ بن سعد بن ابی سرح -

عکبر بن ابی جہل -

عبدالعزیز بن خطل -

حارث بن نفیل بن وہب -

مقیم بن صبایہ

ہبام بن اسود -

ابن خطل کی دو نونڈ بیاں جو ملا گا کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجو کیا کرتی تھیں۔

اور سارہ بخوبی عبدالمطلب کی ایک نونڈی تھی۔

چنانچہ ابن ابی سرح سلام لے آیا اور حضرت عثمان بن عفان اسے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے امان دے دی، آپ نے اسے روک رکھا تاکہ کہیں کوئی صحابی اسے قتل نہ کر دے۔ اس آدمی نے اس سے قبل بھی مسلمان ہو کر، بھرت کی تھی، اس کے بعد پھر مرتد ہوا اور نکرو اپنی نوٹ آیا۔ عکبر بن ابی جہل بھاگ گیا لیکن اس کی بیوی نے اس کے لئے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کر لی چنانچہ یہ حال نہ ہوا اور مسلمان ہو گیا اور ابن خطل حارث مقیم اور ایک نونڈی یہ سب قتل ہو گئے۔ مقیم اس سے قتل اسلام لا کر مرتد ہو چکا تھا۔ اس نے قتل بھی کیا تھا

اور مشرکین سے مل گیا تھا۔ ہبادین اسودتے بھی اسلام قبول کر لیا اور ایک نونٹی سے اور سارہ کے نئے اس تے امان حاصل کر لی۔ آپ نے ان دونوں کو امان دے دی۔ پناپنہ یہ دونوں مسلمان ہو گئیں۔

فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے لپناپنہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شناکی اور خوب طرح تمجید بیان کی پھر فرمایا۔  
”اے لوگو! جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوئے (اسی دن سے) اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا اس لئے قبامت کے دن تک اللہ کی حرمت کے باعث یہ شہر قابلِ اقراام ہے، کسی مومن کو جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہو کر وہ اس شہر میں خون بھائے یا کوئی درخت کاٹ دے اس لئے اگر کوئی تیرے قبال کے باعث اس کی رخصیت دے تو کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کا اذن دیا تھا اور تمہیں اونچ نہیں دیا اور میرے لئے دن کی ایک ساعت میں (یہ کام) جائز کیا اور کل کی طرح اج اس کی حرمت بولٹ آئی لیں موجودہ کو چاہیئے کہ وہ غائب کو پہنچا دے۔

انصار مدینہ کی تشویش | جب تک فتح ہو گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کا وطن اور جائے پیدائش تھا، اس لئے احضان اپس میں یاتیں کرتے رکھے کہ تمہاڑ کیا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکے اور اپنے شہر پر فتح عطا کرے گا تو وہ اسی شہر میں رہائش پذیر ہو جائیں۔  
اس وقت بنی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھاٹھاٹ دعا مانگ رہے تھے، جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، تم نے کیا کیا؟  
انہوں نے جواب دیا اسے اللہ کے رسول کچھ نہیں،  
آپ کے اصرار پر انہوں نے بتا دیا۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری زندگی اور محنت اب تمہارے ساتھ ہو گی ہے۔

## قاتلہ حملہ کی تیاری

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو فضال

بن عبیر بن ملاح نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جب

آپ کے قریب ہوا تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کیا فضالت ہے؟ اس نے کہا، میں اے اللہ کے رسول۔

آپ نے فرمایا، تو اپنے دل میں کیا سوچ رہا تھا؟

اس نے کہا کچھ نہیں۔ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے خششے

چاہو۔ پھر آپ نے اس کے سینہ پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ اس کے دل کو سکون ہو

گیا۔

فضالت کہتے ہیں خدا کی قسم آپ نے ہاتھا ٹھایا بھی نہ تھا کہ میرا سینہ لیے ہو گیا  
کہ اللہ کی تمام مخلوق ہیں نے آپ مجھے سب سے زیادہ عجوب بن گئے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوں کو توڑنے کے لئے سڑا بھیجے  
جو کجھ کے اور گرد تھے۔ چنانچہ تمام یہ توڑ دیئے گئے جن میں لات اور سرخی بھی تھے  
اور منات شالت بھی انہیں میں شامل تھا۔

مناوی کرنے والے نے مناوی کر دی۔ کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو  
وہ اپنے گھر میں کوئی صنم رہتا نہ رہتے وہ بلکہ اسے توڑ دے۔ نیز آپ  
نے خالد بن ولید کو سرخی کی طرف بھیجا ابھی رمضان میں پانچ دن باقی تھے۔ تاکہ اسے توڑ  
کر ختم کر دیا جائے رخالد بن ولید تیس سواروں کے بھراہ نکلے۔ اور وہاں پہنچ کر اسے توڑ  
دیا پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔

آپ نے دریافت فرمایا، کہا تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟

انہوں نے جواب دیا نہیں۔

آپ نے فرمایا۔ تم نے اسے ایک تباہ نہیں کیا، اس لئے لوٹ کر جاؤ اور تباہ کر دو۔

حضرت خالد دوبارہ گئے اور سخت غیظ میں تھے، انہوں نے تلوار میان سے

نیکال رکھی تھی۔ اچانک ایک بربند سیاہ زنگ کی عورت بال بکھرے سامنے آئی، جس کے بال کھلے تھے اور دربان اس کے ساتھ پیچنے لگا۔ حضرت خالد رضت نے اس پر تلوار ماری اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہوئے، اور اطلاع کی۔

آپ نے فرمایا: ہاں یہ عنزی تھی اور پہ مایوس ہو گئی کہ تمہارے شہر میں اب اس کی بہادت نہیں کی جائے گی۔

اور ایک کھجور کے درخت کے پاس بیت تھا۔ یہ قریش اور تمام بنی کفار ان کا بست نہ تھا اور ان کے نزدیک سب سے بڑا بیت بھی تھا، بنی شیبیان اس کے دربان تھے پھر آپ نے عمر و بن عاص کو سواع کی طرف بھیجا۔ یہ ہذیل کا بُت شکنی تھا تاکہ اسے توڑ دیا جائے۔ عمر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو اس کا دربان و پیس تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ارادہ ہے۔

میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسے توڑ دوں۔

وہ کہنے لگا؛ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے لگا؛ وہ اپنا بچاؤ کرے گا۔ میں نے کہا اب تک؟ تو غلط ہے تیر ناس ہو، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ (عمرو) فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوا اور اسے توڑ دیا اور میں نے اپنے اصحاب کو حکم دیا اسے گرا دو، انہوں نے گرا دیا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ میں نے پھر بدادر کو کہا، کیا خیال ہے؟

وہ کہنے لگا) میں اللہ پر ایمان لے آیا:-

پھر آپ نے سعد بن زید اشعلیٰ کو سناتہ کی طرف بھیجا۔ یہ اوس و خرچ اور غسان وغیرہ کا بست تھا اور قدیم کے قریب تھا، حضرت سعد اس طرف گئے۔ ان کی طرف بھی ایک بربند سیاہ زنگ کی عورت بال بکھرے نکلی اور اپنا سینہ پیٹ

رسی تھی اور واپسیا چمار، رسی تھی، پھر پیدا نے اسے خطاب کر کے کہا:-  
 اسے مناً ذا اپنے ناقرانوں سے مقابلہ کرو، حضرت سعد نے اسے قتل کر دیا اور  
 بت کی طرف بڑھے اور اسے توڑ دیا اور اس کے خزانہ میں کچھ نہ ملا۔

---

# بِنْوَجَذِيْرَ مَيْهَرَ کِی طَرْفَ خَالِدِ بْنِ وَلِیدَ کَا سَرِیْہ

جب حضرت خالد بن ولید عزی کو بوث کر دا پس پوسئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت نکل کے دروان بیس خالد بن ولید کو بنوجذر میر کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا مگر جنگ کے لیے نہیں

خالد تین سو پچاس مہاجرین و انصار کے ہمراہ نکلے۔ بنی سیم بھی ان کے ہمراختے دلماں پہنچے تو پورچھانم کون ہو؟

انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی۔ محمد کی تصدیق کی اور اپنے علاقے میں مساجد بنائیں اور ان میں اذان بیس ہیں۔

انہوں نے پوچھا تمہارے بدن پر تھیمار کیے ہیں؟

انہوں نے کہا کہ ہمارے اور عرب قوم کے درمیان عداوت ہے، ہمیں خطرہ ہوا اور کہیں وہی رہمارے دشمن انہوں نے۔

ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے گھریٹ بیس کہا ہم صابی ہو گئے ہم صابی ہو گئے اور اچھے انداز سے یوں نہ کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔

- اس گفتگو کے بعد انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے۔

پھر خالد نے حکم دیا انہیں گرفتار کرو۔ وہ گرفتار کر لیے گئے۔ اور بعض کو پانچ دیا اور انہیں اپنے صحاب میں تقییم کر دیا۔ جب سحر ہوئی تو خالد بن ولید نے آواز دی کہ جس کے ساتھ کوئی قیدی ہوا سے قتل کر دو۔ بنی سیم نے اپنے قیدی یوں کو قتل کر دیا۔ اور مہاجرین و انصار نے قیدی یوں کو چھوڑ دیا۔

**خالد کے فعل سے آپ کی براہ** | بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید کے اس فعل کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا۔

”اے اللہ خالد تے جو کچھ کیا میں اس سے بُری ہوں“  
پھر حضرت علیؓ کو بھیجا تاکہ ان کے مقتولوں کا خوب نہما ادا کیا جائے۔

**حضرت خالد اور عبدالرحمن بن عوف میں تلحظ کلامی** | حضرت خالد بن ولید اور عبدالرحمن بن عوف کے درمیان کچھ تلحظ کلامی ہو گئی بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا اے خالد شہرو۔ میرے صحابہؓ کو اپنی ایذا سے لمحفوظ ارکھی اللہ کی قسم اگر احمد کا پہاڑ سونا بن جائے اور تو اسے اللہ کی راہ میں خروج کر دے تو بھی میرے ایک صحابی کے صبح یا شام کو رالہ کی راہ میں نکلنے کے برادر نہیں پہنچ سکتا۔

**حضرت حسان کی شعر خواتف** | پھر حضرت حسان بن ثابت نے عمر و حدیثیہ کے متعلق اشعار پڑھے اور ان میں کفار کی، محو کیا جو اور جواب دیا اور انہیں مسلمانوں کے لشکر کے عزم اور قوتِ حرب سے الگا ہی کا اور کفار کو سخت ترین طعن اور ملامت کی۔

# فتح مکہ اور دوسرے غزوات سے

## اہم فقہی مسائل کا استنباط

صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا مقدمہ اور تمثیل تھی۔ اس عہد نامہ سے لوگوں کو امان مل گئی۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اور میاہشہ کا موقع ہاتھ آیا۔ اور کہ، بس جو مسلمان انہیار اسلام سے ڈرتے تھے اور اس کے متعلق دعوت دینے اور میاہشہ کرنے سے خوف محسوس کرتے تھے۔ وہ دوسرے ہو گیا۔ اس وجہ سے ایک کثیر تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فتح کے م سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہنا فتحت الک فتحا میست اور بید سورہ حدیبیہ کی صلح کے متعلق نازلہ ہوئی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اے اللہ کے رسول کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! اہل حرب سے عہد کے امام المسلمين کے ساتھ عہد کر کے ذمی بن چکے اور امام کی پناہ میں آچکے ہیں تو اس حرکت کے باعث وہ محارب کہلا بیس گے اور ان کے درمیان اور اس امام کے درمیان معابدہ ختم ہو جائے گا اس لیے امام کو جائز ہو گا کہ ان کے علاقے میں رات گزارے اور انہیں اس کی اطلاع دینے کی ضرورت بھی نہیں۔

ہاں جب ان سے خیانت کا خطرہ ہوتا پھر اطلاع دے دینی ضروری ہوگی۔ اور جب خیانت پائی جائے تو انہیں ہدایت کرنے کا بھاج دیتے گا۔

**تفصیل عہد کے نزرا** [بیزار سے ناقض عہد کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اس پر رضامندی ظاہر کر دیں اور اقرار کر دیں اور انکار نہ کر دیں میں کے تواہم افراد کو عہد شکن سمجھا جائے گا کیونکہ قریش میں سے بعض لوگوں نے بنو بکر کی شانستی اور قریش کے تمام افراد نے ان کے ہمراہ مقابلہ نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ جنگ کی۔ یہ اس لیے تھا جیسے تمام قریش عہد کرتے وقت عہد دیں تباعاً شریک ہو گئے۔ اور جب انہوں نے صلح پر رضاد اور اقرار کیا تو کوئی فرد بھی الگ شرط۔ اس طرح عہد شکنی کے موقعہ پر ہوا۔ یہی بنی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔

**معاہدہ صلح و جنگ** [میزبانی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پوری قوم شریک ہوئی] بتو قریظہ سے جنگ کی، اور کسی آدمی سے تباہی فرمایا کہ کیا اُس نے عہد شکنی کی تھی یا نہیں؟ اسی طریقہ پر بنو قریش کا اخراج بھی عمل میں آیا اور بھی صاحب رائے ہے اور بھی الحمد لله رب العالمین صلی اللہ علیہ او رابو خبیثہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

**اولیٰ حرب کے ساتھ مدت معاہدہ** [بندی کا معاہدہ کر لینے کا جواز نکلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے پہیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مدت کے لیے جائز ہے یا نہیں؟]

صحیح یہ ہے کہ مصلحت اور ضرورت کے پیش نظر جائز ہے۔ مثلاً مسلمانوں میں کمزوری ہو اور دشمن ان سے زیادہ طاقت ور ہو۔ اس صورت میں وہ بر سر سے مدت کی زیادۃ مصلحت اسلام کی صواب دید پر ہوگی۔

**امام کی خاموشی رضامندی نہیں** [ناجائز رہا بغیر واجب بات کے لیے ہو چاہئے] اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب امام سے

اور وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی رضا مندی نہیں بن سکتی۔ جیسے ابوسفیان  
نے صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد کی درخواست کی۔ آپ خاموش رہے، تو آپ کی  
خاموشی سے تجدید عہد کا فائدہ نہ اٹھایا جاسکا۔

**کفار کے قاصد قتل نہیں کیسے جاسکتے** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے  
قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ  
ابوسفیان پر عہد شکنی کے باعث حد ثابت ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنی قوم کی جانب  
سے قاصد بن کر آیا تھا اس لیے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا۔

**محارب کفار پر اچانک حملہ جائز ہے** نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کفار کے ملک  
بین شب گزرانا اور ان پر اچانک حملہ گزنا  
جائز ہے جب کہ انہیں دعوتِ اسلام پہنچ چکی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سریا کفار  
کے علاقوں میں رات گزارتے اور جب انہیں دعوت پہنچ جاتی تو ان پر غارت گزتے  
بھی کرتے۔

**جاسوس کے قتل کا جواز** نیز اس میں جاسوس کے قتل کا جواز بھی ملتا ہے اگرچہ  
مسلمان ہو کیونکہ حضرت عمر بن الخطاب نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم  
سے حاطب بن ایں ملنگے کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ جب انہوں نے اہل ملک کو خبر پڑی  
تھی تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمان ہے اس کا قتل جائز نہیں، بلکہ  
فرمایا، تمہیں کیا علم اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا، تو فرمایا، اب تم جو چاہو کرو، یعنی  
جواب دیا کہ ان کے قتل میں ایک روکاٹ ہے اور وہ بدر میں حاضری ہے۔ اس جواب  
سے جاسوس کے قتل کے جواز کا ثبوت ملتا ہے لیشہ طیکہ اس کے لیے اس قسم کی روکاٹ  
نہ ہو۔ امام مالک<sup>ؓ</sup> اور ایک روایت کے مطابق احمد<sup>ؓ</sup> کا یہی مذہب ہے۔ شافعی<sup>ؓ</sup> اور  
ایوب حنفیہ فرماتے ہیں کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ اور احمد<sup>ؓ</sup> کا خلاہ ہر بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔  
دونوں فریق حاطب<sup>ؓ</sup> کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں اور صحیح مذہب یہ ہے کہ اس  
کا قتل امام کی رائے پر مخصر ہو گا۔ اگر امام اس کے قتل میں مسلمانوں کی مصلحت کجھے

تو اسے قتل کر دے اور اگر اس کا زندہ رکھنا فائدہ نہیں ہو تو قتل نہ کرے، واللہ عالم۔

عورت کی تلاشی لی جاسکتی ہے اسی خاطر برہنہ کرنے کی اجازت بھی ہے۔

ریکن بہ کام صرف منتشر سپاہی ہی کر سکتے ہیں) کیونکہ علیؑ اور مقدادؓ نے اسے عورت سے کہا تھا کہ یا تو مکتوب لکال دے وہ زندہ ہم خود تیر سے پڑوں کی تلاشی لیں گے۔

جزیرہ دینی کے باعث کفر کا الزام گناہ نہیں اسیں بہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی ادمی کسی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول اور دین کی خاطر غصے بیس صحیح تاویل سے کافر کہہ دے اور اسیں ذاتی ہوتی اور خط نفسانی شامل نہ ہو اس پر قائل کی تکفیر نہ ہوگی۔ بلکہ وہ گناہ کار بھی نہ ہو گا، بلکہ یوں کہے کہ نیت و قصد صحیح پر اسے ثواب بھی ملے گا، لیکن جب اب ہوتی اور اب بدرست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔

حسنات سے سیاست مرٹ جانتے ہیں اسیں بہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ مٹا دیا کیونکہ یہ عظیم نیکی جس میں اللہ کی رضا و محبت اور ملائکہ کے سامنے فزو مبارکات الہی بات ہے کہ اس کے قابل کی شان اس قدر بلند ہوتی ہے کہ اس کا جاسوسی کا گناہ لے رہے کچھ گزندہ نہیں پہنچا سکتا) تو گویا تو نیک ضعیف گناہ پر غالب آگئی اور طبعی تفاضا کے مطابق اسے زائل اور یا طل کر کے رکھ دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں برائیاں نیکیوں سے محروم ہیں۔ اس کا اصول بیان ہوتا ہے۔

ان الحسنات لذہ بین السیئات، یعنی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ان تجھتیبو اکیا مرت ماتنهوں عنہ نکفر عنکو سیا تکمر اور تبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ”برائی کے بعد نیکی کرو۔ وہ برائی کو مٹا دے گی۔

اب حضرت حاطبؓ کی قوتِ ایمانی کا اندازہ کیجیے جس کے باعث وہ بدر یعنی حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنی جان پیش کر دی۔ نیز اپنی قوم اور قبیلہ اور فراہم داروں کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول پر جان قربان کرتے کو تیار ہو گئے اور حالت یہ تھی کہ یہ دشمنوں کے زمانے میں اور ان کے ملاقوں میں تھے اس کے باوجود انہوں نے اپنے اہل اور قبیلہ کے مقابلہ سے اعراض نہ کیا اور شہادت کے پائی تھات میں تزلی ہوا اور تہ ایمان و تيقین میں نرمی آئی۔ پھر جب جاسوسی کی توبوہ قوت (شہود بدر) مقابلے میں آئی پھر نکر بھران صالح تھا اس لیے مرضی دفعہ ہو گیا اور مر یعنی اس طرح ہو گیا جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔

**خوارج کی مثالی** اور اس کے بر عکس ذوالغواہ بڑہ نیسمی اور اس جیسے خوارج کر نماز روزہ اور قرآن میں جن کی مشقیتیں اور حسن بہانہ مک جا پہنچی میں کہ صحابہ مجھی ان کے مقابلہ میں اپنے اعمال کو حیران جانتے رکھے۔ آپ نے ان کے متعلق کیسے حکم فرمایا کہ اگر میں نے انہیں پالیا، تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا اور فرمایا انہیں قتل کرو، کیونکہ ان کے قتل کو اللہ کے نام اور حملے گا اور فرمایا، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مفتول یہ خوارج میں چنانچہ انہیں فاسد عقائدگی وجہ سے اُن کے مشقت آمیز اعمال نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا اور خود ہی خس بن گئے۔

نیز ابلیس کی حالت پر غور کرو پھر نکر بھلک مادہ (کفر) اس کے قلب میں پھیپا ہوا تھا اس لیے اسے کی سابقہ طاعات نے کچھ فائدہ نہ دیا اور وہ اپنی رب تزریق نے (حالت پر لوث آیا۔ اس لیے تمام اعمال کا دار و مدار سر اُر، مقصادر اور ارادہ و نیت پر متوقف ہے۔ یہی چیز اعمال کو پا سو نا بنا دیتی ہے بیان اپاک اور بخس کر دیتی ہے اور تو فیقت خدا کے ہاتھ ہے جسے کچھ بھی عقل و خرد ہو وہ اس مسئلہ کی اہمیت کو خوب سمجھ سکتا ہے۔

**معاہدہ نے سے جنگ** اس فصل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر معاہدہ نے عہد شکنی کر دیں تو ان پر دفعۃ اللہ کرنا اور انہیں آنے کی اطلاع

دیجئے بغیر ان پر غارت گری کرنا جائز ہے اور جب نک وہ عہد کے پابند رہیں تو  
نک بہ بات جائز نہیں یہاں نک کر دونوں فریق مساوی ٹھوڑ پر معاہدے کو توڑوں۔

### دشمن کے مقابلہ میں شان و شوکت کا الہام

اور شان و شوکت اور قوت کا الہام تر صرف جائز بلکہ مستحب ہے جب کہ دشمن کے  
قصد آئے ہوں جیسے اسلام کے باشنا ہوں کا طریقہ ہے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم نے ملکہ بیان داخلہ کی شب آگ جلانے کا حکم دیا اور حضرت عباسؓ سے فرمایا  
کہ ابو سفہان کو روک لو اسے پہنچا کی چھوٹی پرے جا کر عساکر اسلام اور تو جید کے لشکروں  
کا معائنہ کر اد و اور ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے مسلمان جانشاروں کا گروہ دکھادو۔

### احرام کے بغیر قتال مباح

نیز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملکہ بیان احرام کے  
علیہ وسلم اور مسلمان داخل ہوتے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں اور اس میں  
اختلاف ہے کہ جوچ یا میرہ کے ارادہ سے داخل ہوا سے احرام باندھنا ضروری ہے  
ان کے علاوہ سورتوں میں اختلاف ہے جب کہ کسی کو بار بار داخلہ کی ضرورت ہو  
جیسے لکڑا یا گھاس نیچپتے والا۔

ان کے متعلق تین اقوال ہیں -

(۱) ایک یہ کہ انہیں احرام کے بغیر داخل حرم ہوتا ناجائز ہے یہ ابن عباس رضی  
اللہ عنہما اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول  
کے مطابق بھی مذہب ہے۔

(۲) دوسرا یہ کہ چونکہ پہ لکڑا اور گھاس والا ہے۔ احرام کے بغیر حرم میں داخل  
ہو سکتا ہے۔ یہ امام شافعیؓ کا دوسرا قول ہے اور ایک روایت امام احمدؓ کی بھی حد  
موہر ہے۔

(۳) ثالث یہ کہ اگر وہ موافق کے اندر رہتا ہو تو احرام کے بغیر داخل ہو سکتا

ہے اور اگر مواقیت سے باہر رہا اُن پذیر ہوتا حرام کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں  
یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فہد سبب ہے۔

**مکہ بزور قوت فتح ہوا، صلح سے نہیں** [نیز اس میں صاف وضاحت ہے  
کہ مکہ قوت سے فتح ہوا۔ یہی چیزوں  
اہل علم کی رائے ہے اور شافعیؓ کے سوا اس میں کسی کا اختلاف منقول نہیں۔ ایک  
قول کے مطابق احمد بن حبیل کا بھی اختلاف ہے۔]

صلح سے فتح ہونے کے قابل کہتے ہیں کہ اگر قوت سے فتح ہوتا تو رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم اسے غائبین میں تقییم فرمادیتے جیسے آپ نے خبیر اور تمام دوسری  
جاہد ادویں کو تقییم فرمایا اور آپ خمس نکالتے اور باقی کو تقییم کر دیتے تھے۔ نیز پہ کہ  
جب ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد اہل مکہ کے بیٹے امان طلب کی تو آپ  
نے انہیں امان دے دی، یہ گویا عقد صلح ہی نخدا اور اگر قوت سے فتح ہوتا تو  
غائبین اس کی زیبون اور مکانات کے مالک بن جاتے اور وہ اہل مکہ سے زیادہ  
مستحق بھی نہیں۔ نیز اہل مکہ کا اخراج بھی جائز ہوتا، حالانکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم  
نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ ہمایہ جریبن کے وہ مکانات بھی واپس نہیں  
بیکھے جن سے انہیں نکالا گیا نخدا اور انہیں نکالنے والوں کے ہی قیصر میں رہنے  
دیا گیا۔ اور ان مکانات کی بیع و شراء اجراہ اور سکونت کو جائز فرار دیا۔ پر معاملہ  
قوت سے فتح کرنے کے احکامات سے منافق ہے۔

قوت سے فتح کے غائبین نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مصالحت سے فتح کیا ہوتا  
تو ہر ادمی کو اپنے گھر میں داخل ہوتے، دروازہ بند کرنے اور سہیوار ڈالنے سے  
اہن کو مشروط کرنے کا کچھ فائدہ نہ نخدا اور نہ خالد بن ولید ان سے مقاولہ کرنے پڑتی  
کہ انہوں نے چند ادمی قتل بھی کر دیئے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ  
تعزیز نہ کیا۔

نیز اگر مکہ محن صلح سے فتح ہوتا تو آپ یوں نہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

کے لیے دن کی ایک ساعت (مقانہ) حلال کر دیا، کبیونکہ اگر مصالحت سے مفتوح ہوتا تو اس کی حرمت فاتح رہتی کبیونکہ مصالحت سے ایک جگہ حرمت سے خارج نہیں ہوا کرتی۔ حالانکہ آپ تے بتایا کہ اس گھری میں بہر مقانہ) حرام نہ تھا۔ اور جنگ کی ساعت ختم ہوتے کے بعد اس کی پہلی حرمت پھر یوٹ آئی۔ نیز اگر یہ بعض مصالحت سے فتح ہوتا تو آپ اپنے سوار اور پیادہ لشکر دایکیں پہنچیا رہند جالت میں نہ رکھتے۔

(مزید برائے آپ نے حضرت بلاںؓ سے فرمایا، انصار کو میرے پاس بلواء رکھوں نے آواز دی وہ حاضر ہو گئے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔

آپ نے فرمایا، تم قریش کے اوارہ لوگوں اور ان کے اتباع کو دیکھو رہے ہو؟ پھر آپ تے ایک باتخود و سے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، انہیں نکمل طور پر پیغمبر کے رکھ دو۔ بیہاں نک کر تم مجھے صفا پر ملو، اس پر ابوسفیان کہتے لگا اے اللہ کے رسول! قریش کو مبارح کر دیا گیا۔ آج کے بعد قریش نہ ہوں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا دروازہ بند کر دے اسے امان ہے، مصالحت کے ساتھ ساتھ اس قسم کی باتیں محال ہیں۔

رہا یہ کہنا کہ مکہ قوت سے فتح ہوتا تو یہ غائبین میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ توب ہوتا کہ زمین غنائم میں شامل ہو، جسے اللہ تعالیٰ کی خمس نکالنے کے بعد غائبین میں تقسیم فرمادے، حالانکہ جمہور صحابہؓ اور ان کے بعد انکر، اس سے اختلاف رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زمین ان غنائم میں شامل نہیں جن کی تقسیم واجب ہو۔ خلفائے راشدین کی سیرت بھی بھی کبیونکہ حضرت بلاںؓ اور ان کے الصحابہؓ نے جب تھی مفتوحہ زمین کی تقسیم کا مطابیہ کیا جو شام اور اس کے ارد گرد واقع ہر اور کہا کہ اس کا خمس سے بیا جائے، اور باقی کو رشکر، پر تقسیم کر دیا جائے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ غیر مال ہے، میں اسے بطوری، کے روک رکھوں گا، تاکہ تمہیں۔

اور عام مسلمانوں کو فائدہ دے سکے۔ حضرت بلالؓ اور ان کے اصحابؓ نے پھر تقییم کا مطالیبہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے دعا کی۔ اے اللہ بلالؓ اور ان کے اصحابؓ کو کفامت عطا کر۔ چنانچہ سال بھی نہ گز راتھا کرتہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم نے حضرت عمرؓ سے اتفاق کر لیا۔

اسی طرح جب مصر، عراق فارس کا علاقہ اور تمام دیگر ممالک قوت سے فتح ہوئے ان میں سے خلفائے راشدین نے ایک گاؤں بھی تقییم نہ فرمایا اور یہ بھی صحیح نہیں کہ انہوں نے خوشی سے قبول کر لیا اور ان کی رضا سے انہیں وقف قرار دیا کیونکہ صحابہؓ نے ان سے اس سلسلہ میں نزاٹ کیا اور حضرت عمرؓ مسلم انکار کرتے رہے اور بہر محض توفیق الہی سے ہوا، کیونکہ اگر زین تقيیم ہو جاتی تو وراشت چل پڑتی اور چلتے چلتے۔ یستی اور شہر ایک عورت یا ایک چھوٹے نیچے کے قبضہ میں رہ جاتا اور جنگ کرنا ان کے بس کی بات فر ہوتی۔ اس میں سخت ترین فساد اور ضرور ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی خطرہ تھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کی تقییم نہ کرنے کے سبب سے اور اسے وقف قرار دینے سے اہل اسلام کو اس بات کی توفیق بخشی کر آخری مسلمان بھی جنگ کرنے پر اڑ آئے اور اسلام اور اہل اسلام سے تعاون کرنے اور اس کے جنگلے کی برکت ظاہر ہوئی۔ چنانچہ جمہور ائمہؓ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

# فتح مکہ کی شرعی و فقیہی نوعیت حجتیت

رہا مکہ تو اسے تقیم کر دینے کے سلسلے میں ایک اور ہاتھ نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس صورت میں دوسرے علاقوں کی تقیم حاجب ہوئی تو بھی بہ تقیم نہ ہوتا، کیونکہ یہ ملوكہ نہیں ہے بہ دارالشک رقباً نبیوں کا مگر اے اور مخلوق کی عبادت گاہ اور پروار گاہ کریم کا حرم ہے جسے اس نے بیان کے باشندوں اور باہر والوں کے لیے حرم قرار دیا ہے۔ اس طرح بہ اللہ کی جانب سے دینے والوں پر وقف ہے۔ اس میں ہر شخص برابر کا حصہ دار ہے اور منیٰ و قوف ہے جو بھی سبقت کر کے پیش جائے اس طرح حرم، اس کے مشاہر مثلاً صفا۔ مروہ، منیٰ۔ عرفہ اور مزار لفہ کسی ایک آدمی کے ساتھ مختص نہیں بلکہ تمام لوگوں میں مشترک نہیں کیونکہ بیان کی قربانیوں اور عبادت کی چکیں، میں اور اللہ کی جانب سے جائے عبادت اور وقف، میں۔ اس نے اسے مخلوق کے لیے بنایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرام صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں گرجی سنبھلنے کے لیے خیبر لگاتے سے منع فرمایا اور فرمایا۔

منیٰ پر اس آدمی کی جائے وقوف ہے جو سبقت کرے اس لیے سلف و خلف کے مہموں اُنہوں نے بھی فرمایا ہے کہ مکہ کی اراضی کی خوبی و فروخت اور ویاں کے مکانات کو کروڑ بہ پر دینا جائز نہیں۔ اہل مکہ میں حضرت مجاہدؓ اور عطاءؓ کا بھی مذہب ہے۔

اہل مدینہ میں سے امام ناک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اہل عراق میں سے امام ابو حنیفہ<sup>ؓ</sup> سفیان ثوری<sup>ؓ</sup>۔ امام احمد بن حنبل<sup>ؓ</sup> اور اسحق<sup>ؓ</sup> بن راہو برکاتہی مذہب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علقم بن نضیر سے روایت کیا تھا یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضا اور عمر رضا کے عہد میں مکر کی زمینوں کو سوائب کیا جانا تھا۔ جو چاہتا تھا رہ جاتا اور جو مستغثی ہو جانا وہ دوسرا کو تھہرا دیوار کرایہ کے بغیر انہوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جس نے مکر کے مکانات کا کراہہ کھایا وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے (دارقطنی مرفوع)

بیز اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکر کو حرم فرار دیا۔ اس بیسے اس کی زمینوں کو تھپنا اور اس کی قیمت کھانا حرام ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ عین اسحق بن یوسف نے بتایا۔ انہیں عبد اللہ نے بتایا کہ حضرت عمر بن عبد الغفار<sup>ؓ</sup> نے اہل مکر کے امیر کو خط لکھا جس میں انہوں نے مکر کے مکانات کو کراہیہ پر دینے سے منع فرمایا۔

ایک دوسری دلیل سنت رسول اللہ اور آپ کے اصحاب اور خلفاء رشیدین کا عمل جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لله قدراء المهاجرین اللذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم — یعنی "فقراء مهاجرین" کے بیسے کہ جن کو کہ نکلا گیا ان کے گھروں اور اموال سے:

بیز فرمایا و اللذین هاجروا و اخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ یعنی اور وہ جنہوں نے بھرت کی اور نکلا گیا انہیں ان کے گھروں سے یعنی ان میں مکانات کی اضافت اہل مکان کی طرف کی گئی۔

یہ اضافت تعلیک ہے اور تھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کیا آپ کہاں آڑوں گے؟ مکر میں اپنے گھر کے اندر؟

آپ نے فرمایا، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی جگہ رہنے دی ہے؟

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہاں کوئی گھر نہیں بلکہ اضافت کے ساتھ اقرار کر لیا

اونہ بتایا عقیل اس کے مالک بن چکے ہیں۔ اور آپ نے ان سے اُسے چھینا نہیں۔ اور احארبیث میں مکانات کی اضافت کئی مقامات پر آتی ہے، جیسے کرام ہانی الگھر۔ حضرت خدمجہ الگھر، ابو الحمد بن جحش الگھر وغیرہ۔ اور پھر یہ وارث بھی بنتے تھے، جیسے منقولہ جامداد کے وارث ہوتے ہیں اس لیے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر رہنے دیا؟ اور عقیل اپنے والد ابو طالب کے مکانات کے وارث بنے۔ لیکن علی وارث نہ ہوئے کیونکہ وہ مکان شرعاً تھا۔ اور حضرت علی مسلمان نہ تھے۔ بد اخلافِ دین کے باعث وارث نہیں سکتے۔ نیز صفویان بن امیہ نے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ایک مکان چار ہزار در ہم بیٹی پیچا اور اس کے اسے قید خانہ نہیں لیا۔ پھر جب بیع اور بیراحت جائز ہے تو کہا یہ پرانا بدر جبراوی جائز ہوا۔ لیکن <sup>جیسا</sup><sup>کہ</sup> کافد ہے بہ ہے کہ بیع اور نقل ملک جو ربع بیع میں ہے وہ دراصل مکانات پر ہو سکتی ہے اور کلمہ کی ذمیں پر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کہا جائے کہ کہا بہ کو منع کیا اور بیع کو ناجائز قرار دیا۔ کیا شریعت اور معہود شریف میں اس کی کوئی مثال ہے؟ کیا کہ اجارہ بیع سے وہ بیع تر ہے لیکن کسی بھی لیہا ہو سکتا ہے کہ بیع ممنوع ہوا اور اجارہ جائز ہو جیسے وقف اور حرارت۔

اس کا جواب بد بیع اور اجارہ ہر ایک مستقل عقد ہے جو دوسرے کے جوازِ ممانعت کو مستلزم نہیں بن سکتا۔ ان کے موقع احکام بھی مختلف ہیں۔ بیع جائز ہے اس لیے کہ بالائی نے ایک فعل کے ساتھ اسے بینی مکان بنانے کا مخصوص کر دیا ہے اور اجارہ منفعت میں شمار ہو گا اور یہ مشترک چیز ہے۔ اور جو بھی سبقت کر کے آجائے اسے معاوضہ دیئے بغیر وقوف کا حق پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بیع کو جائز کہا اور اجارہ دکرا ہے کونا جائز قرار دیا۔ اور اگر تم مثال کے بغیر اس کا انکار کرو تو اس کی مثال مکاتب میں ملتی ہے کہ اس کے آفاؤس کو اس مکاتب غلام کی بیع جائز ہے اور اب بہ نئے خربدار کے پاس مکاتب غلام ہو گا۔ اور اسے کہا بہ پر دنیا جائز نہ ہوتا کیونکہ اس میں اس کے منافعے باطل ہوتے ہیں۔ اور عقد کا بہت کتابت کے بعد اس کی ملکیت

کسی پر خود پڑتی ہے۔

مزار علین مکہ پر خراج اور جب مکہ قوت کے میں پر مفتوح ہوا تو کہا اس کے مزار علین پر خراج عائد کرنا جائز ہو گا جیسے مکہ تمام دیگر راضی عنوہ (قوت سے مفتوج) کا معاملہ ہے؟

اس مسئلہ میں دو قول ہیں۔

ایک تو یہ ہے کہ منصوص بات کے بغیر کوئی قول جائز نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ مزارع پر خراج نہ ہو گا۔ اگر چہر سے قوت سے فتح کیا گیا۔ کیونکہ بدز علین اس بات سے بلند و بالا ہے کہ اس پر خراج عاید کیا جائے۔ خراج دراصل زمین کا جزو ہے ہونا ہے اور بدز علین پر عاید کیا جاتا ہے جیسے صاحب استطاعت الصحابہ پر جز بدر عاید کیا جاتا اور پروردگار کا حرم ہے۔

اس بات سے بلند و برتر ہے، کہ اس پر جز بدر عائد کیا جائے اور فتح ہونے کے بعد مکہ کی زمین روٹ کر دوبارہ امن والی حرم بن چکی ہے، جس میں تمام اہل اسلام مشترک طور پر حصہ دار ہیں۔ کیونکہ بہان کی قرآنیوں اور عبادات کی وجہ ہے اور اہل زینت کا قیلہ ہے۔

دوسرے قول اصحاب الحمد کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مزارع پر خراج عاید ہو گا جیسے دیگر علاقوں کے مزار علین پر عاید ہونا ہے۔ حالانکہ امام احمدؓ کی افس کے خلاف اور غلط ہے۔ نیز یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے یہ آخری قول ناقابل التفات ہے۔

فتح کے دوسرے روز کے خطبہ میں علمی جواہر پارے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ حرم ہے اور اسے لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کی تحریم شرعی قدر ہی ہے۔ اس عالم کی پیدائش سے قبل ہی اس کی حرمت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا اظہار ہوا جیسے صحیح مقایت

بیس بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا: اے اللہ تبرے خلیل ابراہیم نے نکھ کو حرم کہا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیا ہوں۔<sup>۷</sup> یہ روایت اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کی حرمت کا انہار ہوا جو کہ زین و احسان کی پیدائش سے قبل ہی مقدر ہو چکی تھی۔ اس پیدائش اسلام بیس سے کسی نے بھی اس کی حرمت کا انکار نہیں کیا۔ اگرچہ مدینہ کی حرمت میں قدر سے نزاع کھا ہے، اور صائب رائے بیس اس کی تحریم بھی ثابت ہے۔ کیونکہ اس سلسلہ میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس سے زیادہ احادیث مروی ہیں جن میں کسی طرح کا طعن نہیں۔

**حرم بیس کوئی خون مباح نہیں** مباح ہو سکتا ہے بہاں اس مقام کی

حرمت کے باعث احرام پوکا جیسے بہاں پر درخت کاٹنا۔

**گری پری چیز بھی نہ اٹھاؤ** لفظ درگری چیز کو اٹھانا حرام ہے اور بہبہ میں مخصوص ہے اور دوسرا بھگہ مباح ہے۔ اس کی کئی انواع ہیں۔ ایک وہ جوابو شریح عدوی نے بتایا ہے۔ اس وجہ سے وہ گروہ جو امام کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ اس سے جنگ نہ کی جائے گی۔ خصوصاً اس حالت میں جب اس کے پاس کوئی تناولیں بھی جیسے اپنی مکر نے بیز بید کی بیعت سے انکار کیا اور حضرت ابن زیر پر کی بیعت کری۔ چنانچہ ان سے جنگ کرنا اور نصاویاجماع سے اللہ کے حرم کو علاں کرنا بھاڑ نہیں، بلکہ البتہ ایک خوبیت فاستق عمر و بن سعد اور اس کے گروہ نے اپنی رائے اور خواہش نفس سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصی کی مخالفت کی اور کہنے لگا۔

حرم نافرمان کو نہیں بچانا، چنانچہ اسے جواب دیا جانا کہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتا، اور اگر لوگوں کو خون بہانے سے بھی نہ بچائے تو حرم ہی نہ رہے گا اور اگر بہ پسندوں اور جو پاؤں کے بھی حرم ہے تو ادیبوں کے بیے بدر بید اوپنی حرم ہی نہ رہے گا اور واقعہ بیر ہے کہ حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے لے کر سعادۃ کو بچا رہا ہے۔

اور اسلام نے بھی اسی کو فاتح رکھا۔ باعث تقبیس بن حبیب اور ابن حفضل اور ان کے ہمراہ بھیں پہنچا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سماوت میں یہ حرم نہ تھا۔ بل حل بن چکانقا جب ساعدت حرب ختم ہو گئی تو وہی حرمت بوٹ آئی جو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت تھی اور عرب بھی زمانہ چاہلیت میں اگر اپنے باپ بایبیٹ کے قاتل کو حرم میں دیکھتے تو کھڑا رکھتے اور ریرہ چیزان میں مخصوص طور پر پائی جاتی تھی جس سے یہ حرم ہو گیا۔ اس کے بعد جب اسلام آیا۔ اس نے اس کی تائید کی اور اس مسئلہ کو اور زیادہ قوی کر دیا۔ امام احمد نے حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں راپنے والد خطابؓ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں حرم میں راپنے والد خطابؓ کے قاتل کو دیکھوں تو راستے بالکل نہ چھپرو۔ یہاں تک کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ اگر میں یہاں عمرؓ کے قاتل کو دیکھوں تو بھی اس سے تعریف نہ کروں۔

حضرت ابن عبدالعزیز نے فرمایا اگر میں حرم میں اپنے والد کے قاتل کو دیکھوں تو بھی یہاں سے نکل جاتے تک سے کچھ نہ کہوں۔

جمبوڑہ تابعین اور ان کے بعد کے علمائے کلام کا بھی قول ہے بلکہ کسی تابعی یا صحابیؓ سے اس کے خلاف منقول نہیں۔ ابو حنیفہ<sup>ؓ</sup> اور ابی عراقی امام احمد اور دیگر ابلی حدیث کا مذہب بھی ایسی ہے۔

امام مالکؓ اور امام شافعیؓ کے اقوال

اوہ امام مالکؓ اور شافعیؓ کا قول یہ ہے اس کی حرم میں بھی دیسے ہی گرفت کی جائے گی جیسے حل میں ہوتی ہے۔ ابن منذر رحمنے اسی کو اختیار کیا ہے۔ رہا یہ قول کہ حرم نافرمان کو نہیں پہنانا۔ یہ عمرو بن سعد ناسق اور کلام جسے وہ تبی صلحی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر تبیش کرتا تھا اور یہ کہنا کہ حرم اسے نہیں پہنانا جو حرم کے اندر فساد کر کے حرم کی تباہ کرنا ہے کب خذکہ وہ الیسی حرکت کا مذکوب ہوا۔ جس کی وجہ سے اس پر حرج لازم ہو گئی ایسے حرم کی طرف پناہ لینے والا خواب دیکھنے ہے اور العذر نعم اس کے

رسولؐ اور صحابہؓ نے ان دونوں صورتوں میں کیا فرق کیا ہے؟ امام احمدؓ نے جبل الرذاق سے انہوں نے معتبر سے انہیں ابن عباسؓ سے انہیں اپنے والد سے انہیں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے پسندی۔ فرمایا کہ جس نے حل میں چوری کی یا قتل کیا۔ پھر وہ حرم میں داخل ہو گیا تو نہ اس کے پاس بیٹھوادرنہ بات چیخت کرو، حتیٰ کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ نکل جانے کے بعد اسے پکڑ کر اس پر حد قائم کی جائے گی۔ اور اگر اس نے حرم کے اندر چوری کی یا قتل کیا تو اس پر حرم ہی میں حد قائم کی جائے گی۔

اثرمؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ جزو حرم کے اندر کوئی جرم کرے اسکے حرم ہی میں جرم کی سزا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حرم میں قتل کرے اسے حرم میں) ہی قتل کر دیا جائے۔ فرمایا، وَ لَوْ تَقَاتِلُوهُمْ فَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ يُقَاتِلُوكُمْ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔

حرم میں پناہ لینے کا مسئلہ | اب پناہ لینے اور (حرم) میں ہٹک کرنے والے حرم میں پناہ لینے کا مسئلہ میں فرق کئی وجہ سے ہے، ایک بہرے کہ حرم میں جرم کرنے والا، اس کے اندر جرم کر کے حرم کی حرمت تورنے کا جرم ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جو حرم سے باہر جرم کرے اور پھر حرم میں پناہ لے لے کیونکہ وہ حرم کی عزت کرنے والا اور یہاں پناہ لے کر اس کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک کا دوسرا پر قیاس کرنا باطل ہے۔

دوسرے یہ کہ جرم کی صیحت ایسا ہے کہ اس نے بادشاہ کے گھر میں اس کے حرم میں اور اس کے دستِ خوانِ ذکر م اپر جرم کیا ہے اور جو باہر جرم کر کے یہاں ہر پناہ چاہے اس کا معاملہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک ادمی نے بادشاہ کی بساطِ حرم سے جرم کیا اس کے بعد پناہ لینے کے لیے حرم میں داخل ہو گیا۔

غیرے جرم میں جرم کرنے والا ایسا ہے جس نے اللہ سبحانہ، و تعالیٰ کے حرم اور بیت اللہ کی توبیت کی، گو با وہ دوسرا جرم ہے۔ بخلاف دوسرے کے رکر اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے)

پھوٹتے یہ کہ اگر جرائم پیشہ لوگوں پر حرم میں سزا عائد کی جائے تو اللہ کے حرم میں فساد ہو جائے گا اور ایک عظیم شر پیدا ہو جائے گا، لیکن مکہ دوسروں کی طرح اہل حرم بھی رینی جان و مال اور عزت کو نچانا چاہتے ہیں اور اب اگر جرائم کے مرتکب پر حرم کے اندر ہی سزا عائد کی جائے تو اللہ کے حدود معطل ہو کر رہ جائیں گے اور حرم اور اہل حرم کو خرط مکومی پہنچے گا۔

حرم کے درخت نہ کاٹے جائیں [بیڑا آپ نے فرمایا کہ یہاں درخت نہ کاٹا  
بھی نہ توڑا جائے] اس میں اختلاف نہیں کہ خشنی کا وہ درخت جس کو ادمی خود کا  
نہ کرے یہاں وہ مراد ہے۔ البتہ جسے ادمی خود حرم میں کاشت کرے اس میں اختلاف  
ہے اور اس صورت میں تین اقوال ملتے ہیں۔

ایک تو الحمد کے مذہب میں یہ ہے کہ انسان کو اکھڑنے کی اجازت ہے اور اس  
پر کوئی ضمان نہ ہوگی۔ ابن عقیل اور ایمی خطاب وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔

دوسرافول اس سے اکھڑنے کا اختیار نہیں اور اگر اس نے ایسا کیا تو ہر حالت میں  
اس بر ضمان ہو گا۔ بر امام شافعیؒ کا قول ہے۔ ابن بنادر نے خصال ثالث میں اس  
کا ذکر کیا ہے۔

تیسرا جو حل میں اگایا جائے اور پھر حرم میں بودیا جائے ان میں فرق ہے یا  
جو اندھا اور ہی بیس حرم کے اندر بودیا جائے۔ چنانچہ پہلی صورت میں ضمان نہ ہو گا  
اور دوسری صورت میں اس سے اکھڑنے کی اجازت نہیں اور اس پر قطعاً ضمان لازم  
آئے گا۔ یہ فاضی کا قول ہے۔

ایک پھوٹھا قول بھی ہے۔ وہ یہ کہ بعض بودے ادمی اپنے مطلب کے آگتا ہے اور  
کھجور وغیرہ اور بعض ایسے ہی جو اس جنس کے نہیں ہوتے اور ادمی اسے کاشت  
نہیں کرتے۔ پہلی صورت میں ان کا اکھڑنا جائز ہے اور اس میں ضمان نہیں۔  
دوسری صورت اکھڑنا جائز نہیں اور اس میں ضمان ادا کرنا ہو گا۔

نیز حدیث نے بزر اور خشک بین فرق نہیں کیا لیکن رحلت کے کلام ہنے خشک کے کام میں کو جائز قرار دیا ہے اور فرمایا کہ پیر (خشک پووسے) مردے کے قائم مقام ہیں اور اس بین کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔

خود بخود درخت گر جائے تو استفاسع جائز ہے [کی ویل بھی ہے کہ جب درخت خود بخود اکٹھاتے یا اس کی ایک شاخ ٹوٹ جائے اس سے استفادہ جائز ہے کہا جاتا ہے کہ امام احمدؓ سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اسے شکار سے تشبیہ دی ہے، وہ اس کی بکڑی سے استفاسع نہیں کرنا اور فرمایا، بین نہیں سنا کہ کٹ جانے کے بعد اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ غیر قاطع کو اس سے استفاسع جائز ہے کیونکہ یہ اس کے فعل کے بغیر کٹ گیا۔ اس پیسے اسے استفاسع کا حق حاصل ہے، جیسے کہ اندر میں سے اکٹھا جائے۔ پتے کاٹتے کی صحت کے بارے میں بھی صراحت موجود ہے۔ امام احمدؓ کا یہی مذہب ہے امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ اسے پتے لینے کا حق ہے۔ عطاؓ سے بھی یہی مروی ہے لیکن ظاہر نفس اور قیاس کے اعتبار سے پہلی صورت زیادہ صحیح ہے کیونکہ درخت کے پتوں کی حیثیت درخت کے پیسے الیسی ہی ہے جیسے پرندے کے پیسے پر ہوتے ہیں۔ نیز پتے کاٹنا شاخوں کے خشک ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ ان کا باس ہیں۔ اور ان کے تحفظ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

حرم کی گھاس سے بھی نہ کاٹ جائے [نہ کاٹ جائے اس بین کوئی اختلاف نہیں اور اس سے مراد وہ ہی پووسے ہیں جو خود رو ہوں۔ وہ مراد نہیں ہیں جنہیں لوگ کاشت کر دیں۔ اور خشک بھی حدیث بین داخل نہ ہوں گے بلکہ یہ حکم حنفیوں طور پر بنیز پلو دوں کے متعلق ہے، اور مروی ہے کہ حضرت این عمرؓ خشک گھاس چن لیتے تھے، اور اذخر، نفس سے مستثنی ہے اور اس کا استثناء ہی اس بات کی ولیسے

کر یہ حکم (اذخر) علاوہ باقی کے سب پر حاوی ہے۔ اگر کہا جائے کہ چرانے پر بھی عاید ہو گایا نہیں؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک بہ کہ صحابہ عابد نہ ہو گا۔ اس صورت میں چرانا جائز ہے۔ بہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے دوسری بہ کہ معنوی طور سے اس پر بھی عاید ہو گا۔ اگر چڑنا ہر الفاظ اس پر حاوی نہیں۔ لہذا چرانا ناجائز ہو گا۔ بہ امام احمدؓ کا مذہب ہے اور الصحابہ احمدؓ کے دو قول ملتے ہیں۔ حرام قرار دینے والے کہتے ہیں کہ چوپائے کے سامنے پیش کرتے، اختلام اور چوپائے کو اس پر چھوڑتے ہیں کہ اسے وہ چرے کیا فرق ہے؟ اور جائز بنانے والے فرماتے ہیں کہ چونکہ ہبایار قربانی کے جانور کا طریق کار بہ بھی رہا ہے کہ وہ حرم میں داخل ہوتے اور کثرت کے ساتھ آیا کرتے۔ اور بہ بھی کسی سے منقول نہیں کہ ان کے منہ باندھ دیئے جاتے تھے۔ اس سے چرانے کا جواز نکلنا ہے۔ حرم بنانے والے اس کا جواب بہ دیتے ہیں کہ چرنے کے لیے جانور کو خود بسیجھنے اور آئے ہوئے جانور کے خود خود چرنے میں فرق ہے۔ بغیر اس بات کے کہ جانور کو اس پر سلطہ کر دیا جائے اور اس پر بہ واجب نہیں کہ اس کا منہ باندھ دے، جیسے حرام کی حالت میں خوشبو کو سونگھنے سے پچھنے کے لیے ناک کو بند کرنا واجب نہیں، اگرچہ قصدًا خوشبو سونگھنا قطعاً جائز۔

حرم کے شکاری جانور نہ ستانے جائیں [نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمات] کہ حرم کے شکار کو پریشان نہ کرنا چاہیئے یہ اس بات کی صراحت ہے کہ قتل شکار اور اس کی گرفتاری کا کسی طریق سے بھی سبب بنتا حرام ہے، حتیٰ کہ اسے اپنی جگہ سے بچانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ اس جگہ وہ ایک خزم جہوان ہے، اور وہ سبقت کر کے ایک جگہ حاصل کر جکابے اس لیے اس جگہ کا زیادہ ستحق ہے۔ مسئلہ بہ ہے کہ حرم کا جانور اگر کسی جگہ سبقت کر کے پہنچ جائے تو اسے دہان سے پریشان کر کے ریختا یا نہ جائے

حرم کے اندر گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان  
کر حرم بیس گری ہوئی چیز کو جانتے

واسے کے سوا کوئی نہ اٹھائے اور ایک چمگر بہ الفاظ نہ بیس کر اس کے نقطہ کو اٹھانا  
تعارف کرنے والے کے سوا جائز نہیں۔ بہ اس بات کی دلیل ہے کہ حرم کا نقطہ درگری  
پڑی چیز کسی حال میں کسی کام کو کہ نہیں اور اسے مرد اس کے مالک کو بیان نہیں  
واسے کوہی اٹھانا چاہیئے تاکہ مالک بنتے کے لیے، درستہ رحم (سے تخصیص کا کچھ بھی  
فائدہ نہ رہے گا۔

البینہ اس میں اختلاف بھی ہے۔ امام مالک<sup>ؓ</sup> اور ابو حنیفہ<sup>ؓ</sup> فرماتے ہیں کہ حل  
اور حرم کے نقطہ کا ایک بھی حکم ہے۔ احمد<sup>ؓ</sup> اور شافعی<sup>ؓ</sup> کے دو قولیں دروازات میں  
سے ایک روابیت اور قول بھی ہے اور این عمر خدا بن عباس<sup>ؓ</sup> اور عائشہ<sup>ؓ</sup> سے بھی بھی  
مردی ہے۔ دوسری روابیت میں امام احمد<sup>ؓ</sup> نے اور دوسرے قول میں امام شافعی<sup>ؓ</sup>  
نے فرمایا۔ مالک بنتے کے لیے نقطہ اٹھانا جائز نہیں، البینہ اس کی حفاظت کے لیے  
جائز ہے اور اگر اٹھائے تو زدائی طور پر شہر کر تار ہے یہاں تک کہ اس کا مالک  
آجائے۔ عبد الرحمن بن مہدی اور ابو عبیدہ<sup>ؓ</sup> کا بھی قول ہے اور حدیث بھی اسی  
سلسلہ میں واضح ہے۔

قصاص یادبیت کا اختیار بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ فرمان، کہ جس کا کوئی  
قتل ہو جائے اس کے لیے دو بیعتیں، بیعتیں۔  
یا قاتل کو قتل کر دیا جائے، یادبیت لے لے۔

اس حدیث سے اس بات کی دلیل نکلتی ہے کہ بہ صورت قتل عمد میں ہوگی  
اور قصاص ضروری طور پر متعین نہ ہوگا، بلکہ اسے دونوں میں سے ایک کا اختیار  
حاصل ہے۔ چاہے قصاص لے لے اور چاہے تو دبیت لے لے۔

اگر کہا جائے کہ قاتل کے مر جانے کی صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس  
کے متعلق ہم بیکہتے ہیں کہ اس سُلْطَنَہ میں دو قول مردی، میں۔ ایک یہ کہ

ساقط ہو جائے گی۔ ابوحنیفہ<sup>ر</sup> کا یہی مذہب ہے کہ کبتوں کے زدیک فضاص واجب عین ہے اور اب اللہ کے فضل کے باعث فضاص لینے کا محل ہی ساقط ہو گیا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مجرم غلام مر جائے تو جرم کی سزا غلام کے آقا کی طرف منتقل نہ ہوگی۔ امام شافعی<sup>ر</sup> اور الحمد<sup>ر</sup> فرماتے ہیں کہ اس کے ذکر سے دیت و صول کی جائے گی، کبتوں کہ راس کے مرتبے کی صورت، میں صرف فضاص لینا محال ہو گیا، لیکن دیت ساقط نہ ہوگی۔ یہ واجب رہے گی۔

**اُخْرَ حَمَاسٍ مُّسْتَشِنِيْ هُوَ** خلیفہ میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذخر کو مستثنی اکنہ، جب کہ حضرت عباس<sup>رض</sup> نے سوال کیا "سوال ہے اُخْرَ کے؟" اس سے دو مسئلہ تکلمتے ہیں، ایک یہ کہ اُخْرَ ایک قسم کی حماس، کامنا مباح ہے۔ دوسرے یہ کہ استثناء میں یہ لازم نہیں کہ کلام کی ابتداء میں ہی اس کی نیت کری جائے اور نہ بہ ضروری ہے کہ کلام ختم کر کے چپ ہونے سے قبل راس کا بھی تلفیظ کرو دیا جائے، کبتوں کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کلام سے قبل اُخْرَ کے استثناء کی نیت کی ہوئی با کلام مکمل کرنے سے قبل نیت کی ہوئی با کلام مکمل کرنے سے قبل نیت کر لیتے تو حضرت عباس<sup>رض</sup> کے سوال پر ان کے پتندار نے تک خاموش نہ رہتے کہ اُخْرَ کے گھروں اور غلاموں کے لیے ضروری ہے۔

**کتابت حدیث کی اجازت** اس واقعہ میں ایک صحابی ابو شاہ کا قدر بھی ہے ابو شاہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطرہ مبارک مکھڑو اپنے فرمایا کہ ابو شاہ کو نکھڑو۔ اپنے کی مراد اپنے خلبے سے تھی۔ یہ فرمان علم، کے لکھنے اور حدیث کتابت کی نہی منسوب ہونے کی دلیل ہے کیونکہ رابتداء میں (بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جس نے مجھ سے قرآن کے سوا کچھ لکھا ہو، وہ اسے مٹا دے۔) اسلام کی ابتداء میں یہ حکم اس بے دیا گیا تھا تاکہ وہی متلوں کا وہی غیر متلوں سے اختلاط نہ ہو جائے۔

اس کے بعد پھر آپ نے حدیث کی تذہیت کی اجازت دی۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ اور ان کی نذر رون کے جمود کا نام ”صادق“ تھا۔ حضرت عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اس جمود احادیث کو روا کیا۔ اور بہر مرویات تمام ذخیرہ روایات سے زیادہ صحیح ہیں۔ بعض المحدثین اس جمود کو اس درجہ میں تسلیم کرنے رجس درجہ میں وہ روایات تسلیم کی جاتی ہیں جو ابوبُن نے نافعؓ سے اور انہوں نے ابن عمرؓ سے روایت کیں۔ نیز ائمہ راجحہ وغیرہ ہم نے بھی ان سے استدلال کیا ہے۔

### قصاویر کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیئے

اس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ خلیل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے وہاں نماز پڑھی اور جب نماز پڑھنے کو مٹانے دیا گیا تب تک داخل نہ ہوئے۔ اس سنت کی رو سے مکان میں نماز کے مکروہ ہوتے کا ثبوت ہے جس میں قصاویر ہوں اور حام میں نماز ادا کرنے سے رقصاویر و اے مکان میں نماز ادا کرنا زیادہ مکروہ ہے کیونکہ حام میں نماز پڑھنے کی کراہت جماعت کے خیال سے بیاس وجہ سے ہے کہ حام شیطان کا گھر ہوتا ہے اور وہ صحیح ہے۔ وہاں قصاویر کاگرہ تو اس میں شرک کا گمان ہوتا ہے اور زیادہ نزاقوت میں قصاویر اور قبروں کے واسطے شرک آتا ہے۔

### آپ نے سیاہ عمامہ بھی پاندھا

اس واقعہ میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ سیاہ عمامہ پاندھا جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے نکلا ہے اسی وجہ سے خلفائے بنو عباس نے سیاہ پوشی کو اپنا اور اپنے گورزوں قاضیوں اور خطباء کا سرکاری شعار فرار دیا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس قسم کا لباس زیب تن نہیں فرمایا اور نہ عبیدیں۔ محمد اور عام اجتماعات کے موقع پر

آپ کا یہ شعاع رخا بلکہ فتح مکر کے روز صحابہؓ کے سوا صرف بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقی طور پر سیاہ عمامہ پاندھ لیا اس روز آپ کا تمام بیاس سیاہ رخا بلکہ آپ کا جینڈا بھی سفید رخا۔

متعدد کے بارے میں فیصلہ رخا بلکن اس کے بعد مکر سے نکلنے سے پیشتر ہی حرام کر دیا گیا۔ متعدد کے حرام ہونے کے وقت میں البتہ اختلاف ہے۔ اور اس کے متعلق چار اقوال ملتے ہیں۔

- ۱۔ ایک یہ کہ خبیر کے دن حرام ہوا۔ یہ قول بھی علمائے کرام کے ایک گروہ کا ہے جس میں شافعی وغیرہ شامل ہیں۔
- ۲۔ دوسرے قول یہ ہے کہ فتح مکر کے سال حرام ہوا۔ یہ ابن عثیمینؓ اور علمائے کرام کی ایک جماعت کا خیال ہے۔
- ۳۔ ثالث قول حبیبین کے سال کے متعلق ہے۔ درحقیقت یہ قول ثالث ہی ہے کیونکہ فتح مکر کے فوراً بعد غزوہ حبیبین واقع ہوا۔
- ۴۔ چوتھا قول صحیح کے الوداع کے سال سے متعلق ہے۔ اور یہ قول بعض مواد کا دہم ہے۔

ان میں صحیح قول یہ ہے کہ متعدد فتح کے سال حرام کیا گیا۔ صحیح مسلمؓ سے ثابت ہے کہ صحابہؓ نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فتح مکر کے سال آپؓ کی اجازت سے متعدد کیا۔ اگر یہ کام خبیر کے دن میں حرام کر دیا گیا ہوتا تو دو مرتبہ اس کا نسخہ ہونا لازم آئے گا اور شریعت میں اس کی مشاہ قطعاً نہیں ملتی۔

نیز خبیر کے دن فوج کے ساتھ مسلمان عورتیں رخیجیں، بلکہ یہ ودی عورتیں موجود تھیں اور اُس زمانہ میں ایجمنک اہل کتاب عورتوں کی امانت کا حکم

نازل نہ ہوا خدا یا کہ یہ اس واقعہ کے بعد سورہ مائدہ میں مباح قرار دی گئی۔  
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الْيَوْمَ حُلِّ الْكُمَرُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ النَّذِينَ أَوْ تُوْلِي الْكِتَابُ حُلِّ الْكُمَرُ  
وَطَعَامُكُمْ حُلِّ الْهُمَرُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُوْمَنَاتِ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الظِّنَّ  
أَوْ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ۔

اہل کتاب کی عورتیں کب حلال ہو گیں؟ اسی طرح اس خیبر کے روشن  
ہی نہ تھیں اور نہ فتح سے قبل مسلمانوں کو دشمنوں کی عورتوں سے کچھ دچپی  
اور رغبت تھی۔ الیتھر فتح کے بعد ان میں سے بعض گرفتار ہو گئیں اور مسلمانوں  
کی لونڈیاں قرار دے دی گئیں۔ اور یہ سُدَّ حضرت عمرؓ کے زمانہ تک یعنی معروف  
نخا۔ اس وقت اس کی شہرت ہوئی تو زراع واقع ہو گیا۔ اور زراع ہوتے  
نیز اس سُدَّ کے متعلق تمام روایات سامنے آجائیں کی وجہ سے اس کی حرمت۔  
لحرام ہونا اظاہر ہو گئی۔

مسلمان عورت کافر کو امان دے سکتی ہے؟ فتح کے قدر سے معلوم ہوتا  
ہے کہ مسلم عورت کو بھی  
ایک یا دو مردوں کو امان دے دینا جائز ہے جیسے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
ام مانیؓ کے امان دینے پر ان کے امان کی توثیق فرمادی۔

نیز اس سے مرتد کے قتل کا جواز بھی ملتا ہے جس کا ارتداد تو پر نہ کر کے شدید  
صورت اختیار کر گیا ہو۔ یعنی کہ عبد اللہ بن سعید بن ابی سرخ نے اسلام قبول  
کر کے بھرت بھی کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ بھی لکھا ترا تھا  
پھر مرتد ہو گیا اور مکہ میں کفار سے جا ملا۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو حضرت عثمانؓ  
بن عفان اسے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تاکہ بیعت کر اور بھی مانپ

نے دیز تک ہاتھ روکے رکھا۔ پھر بیعت لی اور فرمایا:  
بیس نے اس بیسے ہاتھ روک رکھا خنا کر تم بیس سے کوئی اٹھے اور اس کی گردن  
مار دے۔

ایک آدمی نے سرمن کیا اے اللہ کے رسول۔ آپ نے میری طرف اشارہ کیوں  
نہ کر دیا؟  
آپ نے فرمایا کہ بنی کو مناسب نہیں کہ اس کی آنکھیں خبانت کرنے والی ہوں۔

---

# غزوہ حنین

## مسلمانوں کی شکست اور فتح کا راز

**آل حضرت کی استقامت** | یہ مکہ اور طائف کے درمیان دو جگہیں ہیں۔ اس جگہ کے نام پر اس غزوہ کا نام پڑ گیا۔ اس کا غزوہ ہوا زن بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ (بنو ہوازن) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لئے آئے تھے۔

ابن اسحقؓ فرماتے ہیں کہ جب ہوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور فتح مکہ کی خبر سنی تو وہ مالک بن عوف نفری سے جا ملے۔ اور ہوازن کے علاوہ بتوثیف بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ نیز معز، چشم کے تمام افراد اور سعد بن بکر بھی ان سے مل گئے اور مالک بن عوف نفری کو لوگوں کے مشورہ سے حکم بنادیا گیا۔ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں آئے تو مردوں کے ساتھ ساتھ اپنے اموال، عورتوں اور بچوں کو بھی لے آئے۔ جب او طاس میں اترے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں درید بن صحابة بھی تھا۔ اترنے کے بعد پوچھا کہ تم کس وادی میں ہو؟ جواب ملا اور طاس میں اکٹھے رکا۔

میں اونٹوں کی بلبلہ ہوں۔ گدھوں کی آواز۔ بچوں کی بچخ پکار اور بکریوں کے منمنا ہوٹ (ہر چیز) سن رہا ہوں؟ انھوں نے جواب دیا کہ مالک بن عوف

لوگوں کو ان کی عورتوں اور اولاد کے ہمراہ لایا۔ اس نے پوچھا مالک کہاں ہے؟

جواب ملا، یہ ہے مالک! اور اسے بلا لیا گیا۔

اس نے کہا مالک آج تو اپنی قوم کا صردار بن چکا ہے۔ کیا بات ہے کہ انہوں کی بلیلا ہدیت گدھوں کی آواز۔ بچوں کی چیخ پکار اور بکریوں کی منمنا ہدیت سن رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نے ان کے ساتھ ان کی عورتوں بچوں اور اولاد کو لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟

اس نے کہا میں نے چاہا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل و عیال اور مال کو ٹھاٹھا تاکہ اس کی حفاظت کے خیال سے (خوب جوش) سے لڑے۔

اس نے جواب دیا۔ اللہ کی قسم تو بھیڑوں کا چروہ اہمی نکلا۔ کیا شکست کھانے والے کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ (ریادر کھ) تجھے صرف تلوار اور نیزہ سے مسلح سپاہی ہی فائدہ دے سکتا ہے۔ اور اگر تجھے شکست ہو گئی۔ تو تو اپنے اہل و عیال اور مال کی جانب سے بھی رسوا ہو گا۔

درید بن صعید کی جنگی ہدایتیں | اس کے بعد درید بن صعید نے اُسے جگنی نصیحتیں کیں اور اہل و عیال کو واپس کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن مالک نے اس کے تمام مشورے رد کر دیئے۔ اور لوگوں سے کہا کہ جب تم انہیں (مسلمانوں کو) دیکھو تو تلواروں کی نیامیں توڑ دو اور فرد و احمد کی طرح پورے اتحاد سے سخت ترین حملہ کرو۔

نیز اس نے اپنے چند بخوبی سمجھے وہ واپس آئے تو اس حال میں کہ ان کے وسا خطاب ہو چکے تھے۔

اس نے پوچھا تمہارا ناس ہو؟ تمہاری کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے سفید لباس میں ملبوس آدمیوں کو گھوڑوں پر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہم ٹھیرنے سکے، حتیٰ کہ جو تو دیکھ رہا ہے۔ ہماری یہ حالت ہو گئی۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے عبد اللہ بن ابی حدرہ سلمی کو بھیجا اور انہیں تو گوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا، وہ ان میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے متعلق جو کچھ انہوں نے تیاری کر رکھی تھی۔ تمام احوال سنتے اور ماک سے بھی تمام باتیں) سنیں اور ہوازن کے ارادے معلوم کر کے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات کی خبر دی۔

اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہوازن کی طرف سفر کیا تو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ صفوان بن امیر کے پاس زر ہیں اور ہتھیار ہیں۔ آپ نے اس کے پاس پیغام بھیجا۔ وہ اس زمانہ میں مشرک تھا۔

مشرک سے مدد لی جا سکتی ہے [آپ نے فرمایا اے ابو امیر، ہمیں اپنے ہتھیار مستعار دو۔ کل ہم ان سے اپنے دشمن کا مقابلہ کر دیں گے۔

صفوان بولا، اے محمد، غصب کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں مستعار لے رہا ہوں۔ اور واپس دینے کی ضمانت لیتا ہوں۔

وہ کہنے لگا۔ اچھا پھر کوئی ہرج نہیں۔ اس نے آپ کی خدمت میں ایک سوزدیں پیش کیں اور ساتھ ہی بقدر کفايت، ہتھیار بھی ہمیا کیے۔ نیز خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سواریوں کے متعلق بھی فرمایا۔ اس کی تعییل بھی کی۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ آپ کے ہمراہ اہل مکہ کے دو ہزار اور مدینہ سے آئے والے دس ہزار مسلمان تھے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا۔ مسلمانوں کی کل تعداد بارہ ہزار ہو گئی۔ آپ نے عتاب بن اسود کو مکہ پر سروار بنادیا۔ پھر ہوازن سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے۔ ابن اسحق فرماتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ سے انہیں عبد الرحمن بن جابر سے انھیں اپنے والد جابر بن عبد اللہ سے روایت ملی کہ فرمایا کہ جب ہم والدی حنین میں آئے تو ہم طوط

کے درمیان ایک وادی میں اترے۔ اور ہم اترے ہے تھے کہ (شمن) کی قوم نے وادی پر ہم سے پہلے قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ خاروں۔ اطراف اور تنگ مقامات پر چھپ گئے اور حملہ کرنے کے لئے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے۔ اللہ کی قسم ہمیں خیال بھی نہ تھا کہ ہم چار طرف سے فوج میں گھر گئے ہیں۔ انہوں نے اتحاد کے ساتھ حملہ کیا۔ اور ہم لوگ واپس بھاگ کھڑے ہوئے کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ جاتا۔

**بھاگنے والوں کو رسول کا بلاوا** [رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم] میں جانب ہست گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسے لوگوں کا جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد بن عبد اللہ ہوں۔

اور حالت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین اور اہل بیت میں سے چند آدمی باقی رہ گئے تھے۔ مہاجرین میں سے آپ کے ساتھ جو رہ گیا۔ ان میں سے حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ تھے۔ اور اہل بیت میں سے حضرت علیؓ، عباسؓ، ابوسفیانؓ بن حرث۔ ان کا بیٹا فضل بن عباس ربعیؓ بن حرث۔ اسامہؓ بن زید اور ابین بن امینؓ تھے۔ یہ موخر الذکر اسی دن شہید ہو گئے تھے۔ راوی نے بتایا کہ ہوازن میں سے اس روز ایک آدمی جو بنو ہوازن کے آگے آگے ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا اور ایک لمبا نیزہ اس کے سر سے (اوپر نکل) رہا تھا اور ہوازن اس کے پیچے پیچے اڑ رہے تھے۔ جب اسے نیزہ لگا اور لوگوں نے اسے نہ پایا، تو اس کے پیچے والے نے نیزہ اٹھا لیا۔ وہ اس کے پیچے گئے۔ اسی حالت میں حضرت علیؓ بن ابی طالب اور ایک انصاریؓ نے اس پر حملہ کر دیا اور کام تمام کر دیا۔

**ایک دشمن رسولؐ کی کہاںی** [اور بتایا، اللہ کی قسم ان کی شکست کے بعد لوگوں کی ابھی واپسی بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گرفتار شدگان موجود تھے۔ این سعد نے شیعہ

بن عثمان جھی سے نقل کیا کہ فتح کے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو میں بھی قریش کے ہمراہ خلین میں بنو ہوازن کے مقابلہ میں گیا اس خیال سے کہ شاید مجھے کوئی موقع مل جائے اور میں محمد سے کچھ بدلمہ لے سکوں، بلکہ تمام قریش کی جانب سے میں ہی بدلمہ لے لوں۔ اور میں کہر رہا تھا کہ (نحوذ باللہ) اگر تمام عرب اور عجم نے بھی محمد کی بیعت کر لی تو بھی میں اس کا اتباع نہ کروں گا۔

اور جیب میں نکلا تو میرا یہ ارادہ پختہ تر ہی ہو رہا تھا چنانچہ جب (میدان حرب) میں بوگوں کا اختلاط ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھر سے نیچے آت رہے۔ میں نے تلوار سونتی اور آپ کے قریب ہو گیا۔ اور میں نے جو ارادہ کرنا تھا کہ ریا۔ میں نے تلوار اٹھا بھی لی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ اب یہ خاص انہیں پر جاری ہے کہ اچانک آگ کا ایک شعلہ میرے سامنے بلند ہوا جیسے بجلی ہو اور وہ مجھے بجسم کر کے رکھ دیتا چاہتا ہو۔ میں نے ڈر کر اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی۔ آپ نے مجھے آواز دی اے شیب امیر سے نزدیک ہو۔ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے میرے سینہ پر (ہاتھ) پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے شیطان سے بچا (شیب) کہتا ہے کہ اس وقت آپ مجھے اپنے کان بصارت اور جان سے زیادہ محبوب بن چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے (برا خیال) دور کر دیا۔

**جان کے دمن سے آپ کا خطاب** پھر آپ نے فرمایا، قریب ہو جا اور جہاد کر جان کے دمن سے آپ کا خطاب پھر میں آپ سے آگے آگے بڑھا اور تلوار مارنے لگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو اپنی ہر چیز کے عومن میں بچا کر رکھوں۔ اور اس وقت اگر میں اپنے باپ کو مقابلے پر دیکھتا اگر وہ زندہ ہوتا تو اس پر بھی تلوار چلا دیتا۔ چنانچہ میں آپ کے ہمراہ رہنے والوں کے ساتھ ہی رہا۔ بہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور لوٹ کر دوبارہ فرد واحد ہی سے اتحاد کے ساتھ حملہ کیا۔

تبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر پیش کیا گیا۔ آخر کار آپ اپنے خاص شکر میں تشریف لائے اور اپنے خیبے میں داخل ہو گئے۔ میں بھی آپ کے بعد داخل ہو گیا اور میرے سوا کوئی داخل نہ ہوا۔ میں آپ کے چہرو انور کی زیارت کرنے اور شدت فرحت کے باعث اندر گیا۔

آپ نے فرمایا، اے شیب اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اس سے ہتھ را دہ فرمایا، جو تو نے اپنے لئے الادہ کیا، پھر آپ نے مجھے میرے تمام مضمرا دے بتا دیئے۔ میں نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معین و نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا، میرے لئے بخشش کی دعا کیجو۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے بخشش۔

ابن اسحق فرماتے ہیں کہ مجھے ذہریؒ نے بتایا انھیں کیثر بن عباس سے انھیں اپنے والد عباس بن عبدالمطلب سے روایت ملی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اور آپ کے سفید خچر کی لگام تھا سے ہوئے تھا، اور میں ایک موٹا جسم اور بلند آواز والا آدمی تھا۔

(حضرت عباسؓ) بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہنا جب آپ نے لوگوں کو مجھا گئے تو دیکھا، اے لوگو، کہاں جاتے ہو؟ (حضرت عباسؓ) بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کی ٹھر ف دھیان پہنھیں دے رہے۔

آپ نے فرمایا، اے عباس زور سے آواز دو، اے انصار کی جماعت، اے اصحاب سمرہ چنانچہ اس پرسب نے لبیک لبیک (میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں) کی صورت میں جواب دیا۔ جب ایک سو ادمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کی طرف منہ کیا اور قتال کیا، چنانچہ پہلی آواز یہ تھی، اے انصار پھر فرمایا اے خزر رج، اور یہ لوگ لڑائی کے موقع پر رُٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اب میدان کارزار گرم ہو گیا۔  
اور فرمایا:

انا نبی لا کن ب ۱۰ بن عبد المطلب

میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد میں ہوں

آل حضرت کا ایک صحیح مسلم میں روایت ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اٹھائیں، انھیں کفار کے چہروں پر بارا اور فرمایا محمد کے پروردگار کی قسم (کفار) شکست کھا گئے۔

آپ نے یہ کنکر مارے ہی تھے کہ میں ان کی طرف دور تک دیکھ رہا تھا کہ (کفار) شکست کھا کر واپس بجا گئے لگے۔ روایت کا ایک لفظ یہ بھی ہے کہ آپ پھر سے اُترہ آئے اور نہ میں پر سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی۔ پھر (کفار) کے چہروں پر بارے ماری چنانچہ ان میں سے اللہ نے کوئی انسان بھی ایسا پیدا نہ کیا تھا کہ جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی مٹی نہ پڑ گئی ہو۔ چنانچہ وہ پلیٹھ پھیر کر واپس بجا اُٹھے اور مالک بن عوف بھاگ کر بتوثیقیت کے قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ تمام چیزیں جمع کی گئیں اور جعرات کے مقام پر رکھ دی گئیں۔ اس دن چھوٹہ ہزار پار پے، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور چار ہزار اوقیانہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔

نومسلموں کے ساتھ خاص رعایت اور سلوک پھر آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع فرمایا اور عام مسلمانوں سے قبل مونقدۃ القلوب کو عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ابوسفیانؓ کو چالیس اوقیانہ چاندی اور ایک سو اونٹ مرحمت فرمائے۔

(ابوسفیان) کہنے لگے، میرا بیٹا یہ دیہ ہے، آپ نے فرمایا اسے بھی چالیس اوقیانہ چاندی اور ایک سو اونٹ دیئے۔

پھر کہنے لگا، میرا بیٹا معاویہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی چالیس اوقیانہ چاندی

اور ایک سواونٹ دو۔

نیز آپ نے حکیم بن حرام کو ایک سواونٹ عطا فرمایا۔ انھوں نے دو بارہ تجویز کی۔ آپ نے ایک سواونٹ عطا فرمایا۔

نیز آپ نے نضر بن حرث بن مکدہ کو ایک سواونٹ عطا کئے۔  
نیز علاء بن حارثہ شفیعی کو چاپس اونٹ عطا فرمائے۔

اسی طرح راوی نے سواور چاپس والے اصحاب کا ذکر کیا ہے اور ( بتایا) ہے کہ آپ نے عباس بن مرواس کو چالیس اونٹ مرحمت کئے۔ انھوں نے اس کے متعلق ایک (تعریضی) شعر عرض کر دیا۔ آپ نے سو پورے کر دیئے۔

اس کے بعد آپ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ غنائم اور لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ اس کے بعد تمام لوگوں پر وہ مال تقسیم ہوا، تو چار چار اونٹ اور چالیس سو بیس بکسر یاں ہر آدمی کے حصہ میں آئیں اور جو سورتھے انہیں بارہ اونٹ اور ایک سو بیس بکسر یاں ملیں۔

ابن سحنق فرماتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بتایا انہیں محمود بن نبید نے انہیں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ملی۔ انھوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے بڑے عطا یا قریش میں اور قبائل عرب میں تقسیم فرمائے۔ اور انصار نہ کو ان میں سے کچھ بھی نہ ملا تو انصار کے ایک قبیلہ کے دل میں کچھ خیال سا گزرا، حتیٰ کہ کثرت سے باقی ہونے لگیں، یہاں تک کہ ایک آدمی نے یہ بھی کہہ دیا کہ :

اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا خیال کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن عبادہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، انصار کا یہ قبیلہ آپ کے متعلق اپنے دل میں کچھ (غلط) باقیے رکھتا ہے، جب کہ آپ نے اس غنیمت کا بڑا حصہ اپنی ہی قوم میں تقسیم کیا اور آپ نے قبائل عرب کو بڑے بڑے عطا یا مرحمت فرمائے ہیں۔ لیکن انصار

کے اس قبیلہ کو کچھ نہیں ملا۔  
آپ نے فرمایا، اے سعد تم اس بات کے ہوتے ہوئے کہاں ہو؟ انہوں  
نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں اپنی قوم ہی میں ہوں۔  
آپ نے فرمایا، اپنی قوم کو یہاں بلا کر لاؤ۔

فرمایا کہ مہاجرین میں سے کچھ لوگ آئے۔ آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر وہ سے  
آئے، انہیں لوٹا دیا۔ جب تمام انصار جمع ہو گئے۔ سعد آئے اور عرض کیا رہا۔  
رسول اللہ (انصار کا یہ قبیلہ آپ کے حکم پر جمع ہو گیا ہے)۔  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اللہ کی حمد و شناکی  
پھر فرمایا:

جماعت انصار سے رسول اللہ کا خطاب | اے انصار کی جماعت، مجھے  
تمہارے قلوب میں وہ چیز کھلتی ہے، کیا تم گمراہ نہ تھے، پھر اللہ نے میری وجہ  
سے تمہیں ہدایت دی اور کیا تم مغلس نہ تھے مگر اللہ نے میری وجہ سے تمہیں  
غنا عطا کیا ہے کیا تم آپس میں دشمن نہ تھے۔ پھر اللہ نے (میری وجہ سے) تمہارے  
دلوں میں محبت بھر دی ہے

انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے  
پھر فرمایا، اے انصار کی جماعت تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟  
انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے  
رسول کا ہی احسان اور فضل ہے۔

آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تم سچ کہو گے اور میں  
تمہاری تصدیق کروں گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس آیا۔ جب  
(قریش نے) تیری تکذیب کی تھی۔ احمد ہم نے تیری تصدیق کی تو کمزور تھا۔ ہم نے  
تیری مدد کی۔ مجھے وطن سے نکال دیا گیا۔ ہم نے مجھے پناہ دی تو مغلس آیا تھا۔ ہم نے

تیری موسات کی۔

کیا تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے یہ میں نے اس (مال غیبت) سے ایک قوم کا دل رکھا ہے تاکہ وہ اسلام میں پختہ ہو جائے اور تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا ہے۔

اے انصار کی جماعت کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کر لوگ بکریاں اور لاؤنٹ لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو کچھ تم لے کر جا رہے ہو، وہ اس سے بہتر ہے کہ جسے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اگر، مجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں ایک وادی ہوتا۔ اور اگر لوگ ایک علاقوں اور وادی میں چلیں اور انصار دوسرے علاقے اور وادی میں چلیں تو میں انصار کے علاقے اور ان کی وادی میں چلوں گا۔ انصار شعار (اصل) میں اور لوگ وثادر (بڑی چادر) میں، اے اللہ انصار پر، انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بوتوں پر رحم فرم۔

راوی بتاتے ہیں کہ انصار روپڑے۔ حتیٰ کہ ان کی ڈاڑھیاں ترہ لوگتیں اور کہنے لگئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگ بھی منتشر ہو گئے۔

رضاعی بہن سے آپ کا حسن سلوک | اجنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن سے آپ کا حسن سلوک رضاعی ہمشیرہ شیخاء بنت حرث بن

عبد العزیز حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول، میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔

آپ نے فرمایا اس کا ثبوت؟

اخنوں نے عرض کیا، میں آپ کو اٹھائے ہوئی تھی کہ آپ نے میری پیٹھ میں کام تھا نیہ ہے وہ نشان۔

راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلامت سے پہچان لیا اور ان کے لیے

اپنی چادر بچھا دی اس پر بٹھایا اور آپ نے ان پر احسان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو اکرام و احترام سے رہو گی۔ اور اگر اپنی قوم کی طرف جانا چاہو تو محی میں عطا کروں گا۔ انھوں نے عرض کیا آپ انعام دیجئے اور مجھے اپنی قوم کی طرف لوٹا دیجئے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔

**دشمن کے تمام جنگی قیدیوں کو آپ نے رہا کر دیا** [نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ہوازن کا ایک وفد آیا۔

یہ چودہ آدمی تھے۔ اور زہیر بن صردان کا سردار تھا۔ نیزان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابو بر قان تھے۔ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں اور اموال کی درخواست کی (نیزان) انھوں نے اپنے کر فتار شدگان کی واپسی کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور تمام قیدی واپس کر دیئے۔

# غزوہ حنین سے متعلق

## مسائل فقہیہ اور نکتہ ہائے حکمت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور وہ پچے وعدے والا ہے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ کے دین میں بوگ گروہ در گروہ داخل ہو گئے۔ اور تمام عرب نے آپ کی اطاعت کر لی۔ جب یہ فتح میں مکمل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بنو ہوازن اور ان کے اتباع کے دل اسلام لافے سے ٹرک گئے اور انہوں نے قوم کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے تاکہ اللہ کا امر ظاہر ہو جائے اور اس کے رسول اور اس کے دن کی عزت و حرمت ظاہر ہو جائے تاکہ ان کے غنائم اہل فتح کے لامشکرانہ کے طور پر بن جائیں۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اور اپنے بندوں کو غالب کر دے۔ اور اس عظیم شوکت کے باعث کہ اس سے قبل اہل اسلام کو کبھی بھی ایسی عظمت حاصل نہ ہوئی (کفار پر) غالب کر دے تاکہ اس کے بعد کوئی عرب ان کا مقابلہ کرنے کی جگہ نہ کر سکے۔

اس کے علاوہ بھی کہی حکمتیں تھیں جو خود کرنے والوں کے سامنے آسکتی ہیں۔ اور فکر کرنے والوں کو معلوم ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت، بالغہ کا تقاضا یہ ہوا

کہ دشمنوں کی کثرتِ تعداد اور عظمتِ شان و شوکت کے باوجود انہیں شکست اور ہزینہت کا مزہ چکھائے تاکہ فتح کے باعث جو سراٹھے وہ مجھک جائے اور اللہ کے شہر اور حرم میں اس طرح داخل نہ ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فاتحہ نہ) طور پر (لیکن پھر اپنے کو نیچے رکھے۔ گھوڑے پر اس قدر مجھک تھے کہ آپ کی ٹھوڑی پروار دگار کے سامنے عجز اور اس کی عظمت کے سامنے انکساری اور اس کی عزت کے سامنے خنوع کرتے ہوئے کاٹھی سے گاہ رہی تھی۔

اور اللہ نے اپنا شہر اور حرم اپنے بنی کے لئے حلال کیا۔ آپ کے بعد اور آپ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا۔

**ایک سوال اور اس کا جواب** نیز اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہلوں نے یہاں کسی قسم کا کوئی سونا چاندی۔ مال و متاع۔ قیدی اور زیان وغیرہ حاصل نہ کی۔ جیسے ابو داؤد نے وہب بن مبناہ سے روایت فرمایا کہ میں نے حضرت جابرؓ سے دریا کیا کیا فتح مکہ کے دن آپ لوگوں کو کچھ مال غنیمت ملا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، بلکہ (صحابہؓ) نے اس شہر کو گھوڑوں اور سواروں سے فتح کیا تھا اور ان کی تعداد دس ہزار تھی اور انہیں ان ضروریات کی حاجت بھی تھی جو اس باب قوت کی طرح ایک لشکر کو درپیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں کو جنگ کی تحریک دی۔ اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے اموال، چوپائے بکریاں اور ساتھ ہی عورتوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ اللہ کے لشکر کی ضیافت اور کرامت ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پوری ہو کر رہے کہ اس نے انہیں فتح عطا کی اور نصرت کے مبادی ظاہر فرمادیئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے۔ جو ہونے والا تھا۔

**عنایات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحیحہ، قبول اسلام** اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے اولیاء کے لئے مدد نازل فرمانی اور غنائم بھی آگئے اور ان میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ جا ری ہو گیا تو آپ نے فرمایا

کہ ہمیں تمہاری جانوں تمہاری عورتوں اور بچوں کی بچھڑاکت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین (بنو ہوازن) کے قلوب میں قورہ اور انابت ڈال دی۔ اور وہ مسلمان بن کر حاضر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسنِ اسلام کی تحسین کے طور پر ہم تمہاری عورتوں بچوں اور قیدیوں (غلاموں) کو واپس کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ نے تمہارے قلوب بہتر دیکھے تو تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم نے یا تھا اور تمہیں بخشش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخششے والا رحم کرنے والا ہے۔

نیز اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکر کی ونجوئی فرمائی اور انہیں فرحت عطا فرمائی کیونکہ نصرت اور غنائم ملیں اور یہ معاملہ دوابن گیا جب کہ داس سے قبل، دل ٹوٹ چکے تھے۔ نیز یہ تھیک ٹھیک اہل مکر کی ونجوئی اور ان پر اتمام نعمت تھا کہ بنو ہوازن کے شر سے انھیں بچایا کیونکہ تنہا قریش میں ان کے مقابلے کی ہمت نہ تھی بلکہ مسلمانوں کے ذریعہ ان کی نصرت فرمائی اور وہ تنہا ہوئے تو ان کا دشمن ان کا صفا یا کردیتا۔

نیز اس کے علاوہ کئی حکمتیں ہیں کہ جنھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ نیز اس میں بعض مسائل فقہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔

مثلاً کہ امام کو چاہیئے کہ جیز (جاسوس) بھیجے جو کہ دشمن کی فوج میں داخل ہو کر ان کی خبریں ہتھیا کریں اور جب امام کو دشمن کے ہلکے کا ارادہ معلوم ہو اور اس کے شکر کے جمعیت اور قوت کا پتہ چلے۔ تو وہ انتظام میں نہ بیٹھا رہے بلکہ خود چل کر مقابلہ کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہوازن کی طرف خود تشریف لے گئے یہاں تک کہ جنہیں کے مقام پر مقابلہ ہوا۔

مشرکین سے مدد لینے کا جواز نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مشرکین سے اتحاد اور دشمن سے لڑنے کے لئے جنگی سامان حاصل کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفویان سے نر ہیں حاصل کیں، حالانکہ وہ اس دن مشترک تھا۔

مادی اسیاب کا استعمال منافی توکل نہیں | نیز اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام مادی اسیاب جو اللہ تعالیٰ نے نتائج

کے لئے تیار رکھے ہیں انھیں استعمال میں لانا یہ طریقہ توکل کا نتیجہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب توکل کے لحاظ کا حل تھے۔ لیکن پھر بھی وہ جب وشمن کے مقابلہ میں آئے تو کئی انواع کے ہتھیاروں سے اپنا تحفظ کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمادی تھی وَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یعنی اللہ تعالیٰ تجوہ کو لوگوں سے بچائے گا۔“

ابوالقاسم نے ابن عساکر میں ایک روایت تقلیل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت کے واقعہ کے بعد جب اس نے ایک زہر آمیز بکری پیش کی تھی (اس کے بعد، آپ کو کوئی آدمی کھانا پیش کرتا تو آپ اسے تب تک نہ کھاتے جب تک کہ پیش کرنے والا اس میں سے خود (کچھ نہ کچھ) کھانے لیتا۔ علمائے کرام بتاتے ہیں کہ اس میں بادشاہوں کے لئے اسوہ ہے۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اپنا دین تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ اور اسے بلندی اور رخصت عطا کرے گا۔ یہ وعدہ اللہ کے امیر قمال اور قوت عسکری اور گھوڑے تیار کرنے کے حکم کے خلاف نہیں اور اس بات کے منافی بھی نہیں کہ جو اس نے وشمن سے بچاؤ اور تحفظ اور ہر قسم کی جنگ اور توریہ سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی ضمانت دی یہاں تک کہ آپ پیغام رسالت پہنچاویں اور اپنے دین کو غالب کر دے۔ چنانچہ آپ خور و نوش، نیاس اور جائے سکونت کے لحاظ سے تمام اسیاب زندگی حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے حتیٰ کہ بعض نے دعا کرنا بھی ترک کر دی۔ اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اگر مطلوب ان کے

مقدار میں لکھا ہے تو پھر ضرور مل کر رہے گا۔ اور اگر مقدار میں نہیں ہے تو بالکل نہ ملے گا۔ اس لئے دعائیں مصروف رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟

ایسے خططاً الحواس آدمی کی مثال اس طرح ہے کہ وہ یوں کہے اگر اللہ تعالیٰ نے شکم سیر ہونا میرے مقدار میں لکھا ہے تو شکم سیر ہو کر رہوں گا۔ چاہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں اور اگر شکم سیر ہونا میرے مقدار میں نہیں ہے تو چاہے کھاؤں یا نہ کھاؤں ہرگز شکم سیر نہ ہوں گا۔ اس لئے کھانے کا فائدہ ہی کیا ہے اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور شریعت انتظامیہ کے منافی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے توفیق ہے۔

مستعار اسلحدہ لیتے وقت شرط ضمان [نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے اسلحدہ مستعار لیتے کیا شریعت میں مستعار لیتے وقت ضمان کی شرط لگادی، بلکہ ضمانت پر اسلحدہ مستعار لیتے کیا شریعت میں مستعار لینے کے متعلق یہ ایک باقاعدہ مسئلہ کی بنیاد تھی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا حکم ضمان کا ہے جیسے جذب شدہ کی ضمان پڑتی ہے یا بعینہ اس اسلحدہ کی ضمانت تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں انہیں واپس کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور یہ ضائع نہ ہوں گے بلکہ میں اسی حالت میں انہیں واپس کروں گا۔

فقہاء کا اختلاف اور اقوال متعددہ [اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے امام شافعی اور احمدؓ پہلے قول پر ہیں کہ ضائع ہونے پر ضمان لازم ہوگی۔ البیۃ ما کث کے مذهب میں اس کی مزید وضاحت ہے وہ یہ کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جو غائب نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ حیوان اور زمین ان کے تلف ہونے پر ضمان لازم نہ ہوگی، جب تک کہ اس کا کذب واضح نہ ہو جائے۔ اور اگر غائب ہونے والی اشیاء میں سے ہے جیسے کہ زیورات وغیرہ تو ان کے تلف ہونے پر ضمان لازم ہوگی جب تک کہ شہادت پیش نہ کر دے جو اس کے تلف ہونے کی گواہی دے۔ اس

سلک کامراز یہ ہے کہ مستعار چیز ایک قسم کی غیر مضمون امانت ہے جیسا کہ ابو حنیفہؓ نے کہا ہے لیکن (امام مذکورؓ) ظاہر فس کے خلاف قبول نہیں کرتے۔ اس وجہ سے انہوں نے غائب ہو سکتے اور غائب نہ ہو سکنے کا فرق کیا ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ اس قصہ میں ذکر ہے کہ بعض زرہیں جو گم ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خامن بننے کی پیشکش کی تو انہوں نے عرض کیا۔ آج میں اسلام کو پسند کر چکا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے اس کے سامنے ایک امر واجب کی (ادائیگی کا) حلال پیش فرمایا، یا یہ فقط استحباب کا معاملہ تھا جو کہ ایک مستحسن فعل تھا اور جسے اخلاق حسن اور محاسن شریعت کا حصہ کہا جاسکتا ہے؟

بعض لوگ دوسری بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک آپ نے خمام کی پیشکش فرمائی اور اگر خمام واجب نہ ہوتی تو آپ اس طرح پیشکش نہ فرماتے بلکہ آپ اسے دیتے ہی ادا فرماتے اور فرماتے کہ یہ تیرا حق ہے۔ جیسے گم ہونے والی بعینہ موجود ہو۔ یعنی کہ آپ اسے واپس کرنے کی پیشکش نہ کرتے اس پر غور کیجیئے۔

**میدان جنگ میں دشمن کی سواری زخمی کی جاسکتی ہے** [نیزاں سے یہ بھی بتا ہوتا ہے کہ دشمن کے گھوڑے اور سواری کو زخمی کرنا جائز ہے جب کہ اس سے اس کے قتل پر مدد مل سکتی ہو۔ جیسے حضرت علیؓ نے کفار کے علی بردار کا اونٹ زخمی کر دیا اور حیوان کو اس قسم کی ایذا دہی منوع نہیں۔]

**قتل کا ارادہ کرنے والے کو معاف** [نیزاں میں سے یہ بھی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف فرمادیا جس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ اس کو دعا بھی دی اور اس کے سیدنا پر ما تھا پھر وہ چاہ مسلمان بن گیا مجزرات نبوی اور علماء رسالت [رسالت بھی کثرت سے ظاہر ہو میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنم واستقلال کا پتہ چلا جب کہ لوگ واپس ہونے لگے تو آپ فرمائے تھے

اَنَّ النَّبِيَّ لَا كَذَبٌ ۝ نَّا۝ بِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  
 مِنْ نَبِيٍّ هُوَ، وَجَهْوَرُ ثَنَبِيِّينَ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ کی اور سبھوں  
 جب کہ مشترکین کے دستوں نے آپ کا مقابلہ کیا۔  
 اسی قبیل سے وہ مجرزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پھینکی ہوئی ایک مٹھی مٹی کو  
 دور ہونے کے باوجود کفار کی آنکھوں میں پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ دشمن کی آنکھیں بھر گئیں۔  
 اس کے علاوہ ملائکر کا اتکر کر تعالیٰ میں مشریک ہونا بھی ایک مجرزہ تھا اور کفار اور مسلمانوں  
 نے بھی کھل کر انہیں دیکھا۔

امام کے اختیارات خاصہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام کو اختیار حاصل ہے  
 کہ کفار کے اسلام لانے کا انتظار کر کے غناائم تقسیم کرے  
 اور اگر وہ لوگ اسلام اور اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیں تو ان کے غناائم اور گرفتار شدگان  
 کو واپس کروے۔ اسی دلیل سے (یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تقسیم کے بعد غنیمت کی  
 رانفرادی) ملکیت ہو سکتی ہے عرض قابض ہونے سے (کوئی مالک نہیں بن سکتا) اور  
 اگر مسلمان محض غلبہ اور استیلام سے مالک ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں  
 کو زرمی سے واپس کرنے کا حکم نہ فرماتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تقسیم سے قبل  
 کوئی مسلمان (غنايم) فوت ہو جائے تو اس کا حصہ وارثوں کی بجائے باقی مسلمانوں پر تقسیم  
 کر دیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہؓ کا ذہب یہ ہے کہ اگر استیلام سے قبل کوئی فوت ہو  
 جائے تو اس کے وارثوں کا کوئی حق نہیں۔ اور اگر تقسیم کے بعد فوت ہو تو اس کے  
 وارثوں کا حصہ ہو گا۔

عطائے رسول کی حیثیت اور نوعیت اور یہ عطا عجمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے قریش پر فرمائی اور اس کے ذریعے  
 ان کی تائیف تلوب فرمائی، کیا یہ غنیمت میں سے تھی یا خس سے خس میں سے ہے؟  
 امام شافعیؓ اور مالکؓ فرماتے ہیں کہ یہ خس کے خس میں سے تھا اور یہ خود نبی اقدس  
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی حصہ تھا جسے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ

عام حال غنائم کے علاوہ تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا یا دیتے وقت کسی سے اذان حاصل نہیں کیا۔ اور اگر یہ عطا یا مال غنیمت میں سے ہوتے تو اپنے اس کی اجازت لیتے کیونکہ عام مسلمان استیلاع اور قبضہ کے بعد اس مال کے مالک ہو چکے تھے۔

انفال اللہ اور رسول کے لئے ہیں [نیز یہ بھی معلوم ہے تمام انفال اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں۔ رسول اُنہیں وہاں تقسیم کرتا ہے جہاں اس نے حکم دیا۔ وہ کسی بات میں تعددی نہیں کرتا۔ اگر آپ تنام غنائم کو بھی اسلام کی مصلحت عمومی کی خاطر (تالیف قلوب وغیرہ) میں صرف فرمادیتے تو بھی یہ فعل حکمت مصلحت اور عدل سے خالی نہ ہوتا اور جب ذی الضوابط تمییزی کی آنکھوں سے یہ مصلحت و حکمت اوجھل ہو گئی تو اعتراض کرنے والے نے کہہ دیا، عدل کرو۔ کیونکہ تم نے عدل نہیں کیا۔]

اور (ان کے مقابلہ) میں اس قول (انصار) پر اپنی مکمل نعمت نازل فرمائی اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے کراپنے وطن میں واپس ہو گئے اور آپ ان کی قیادت فرمار ہے تھے اور جو لوگ اس نعمتہ کبریٰ کی قدر نہیں پہچانتے تھے۔ وہ بکریوں اور افغانوں پر راضی ہو گئے جیسے طفل نادان کہ اسے جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق دیا جاتا ہے اور عقل مند اور صاحبِ خرد کو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کے دباو میں نہیں ہے کہ وہ اپنی فہم کے مطابق اس پر جبرا کر سکیں اور اسے نیزاں کے رسول کو نفاذ امر سے محروم کریں ایک فہمی مسلم [نیز یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا ہوازن کے غلام آزاد کرنے کا جی نہ چاہے (اگر وہ بھی آزاد کر دے) تو اسے ہر ایک فریضہ کے بد لے چھ حصہ اس فہمی سے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی جواز نکلتا ہے کہ غلام بلکہ چور پائے کے بعض کو بعض کے ساتھ ادھار یا متفاصل فرماتے کیا جائے گا۔]۔

سن میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور نٹ کم ہو گئے۔ آپؐ نے خلاص (اوٹھوں) پر زائد لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ ایک کے بدے دو دو اونٹ لیتے رہے اور سن میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے ایک حیوان کے عوض فسیہ بیع کو منع فرمایا ہے، ترمذیؓ نے حضرت حسن سے انہوں نے سمرڑہ سے روایت کیا ہے اور صحیح بتایا ہے۔

نیز ترمذیؓ نے حجاج بن ارطاة کی حدیث حضرت ابو الزبیر سے انہوں نے حضرت جابرؓ سے نقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کے بدے دو حیوان ہوتے ہوں تو نسیئہ درست نہیں اور نقد میں کوئی ہرج نہیں۔ ترمذیؓ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

ان احادیث کی بنا پر لوگوں میں اختلاف رونما ہوا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں چار اقوال منتقول ہیں۔

ایک تو یہ کہ یہ متفاصل، مساوی، فسیہ (ادھار) اور نقد ہر طرح جائز ہے یا ابوحنیفہ اور شافعیؓ کا مذہب ہے۔

۲۔ اور دوسرے فسیہ (ادھار) اور متفاصل صورت میں جائز نہیں۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عورتوں اور تفاصل کے جمع ہونے کی صورت میں حرام ہے۔ اور صرف ایک صورت واقع ہونے پر جائز ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے۔

۴۔ چوتھے یہ کہ اگر جنس ایک ہو تو تفاصل جائز ہے۔ اور فسیہ حرام ہے۔ اور اگر جنس میں اختلاف ہو تو تفاصل اور فسیہ دونوں جائز ہیں۔

اور حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ یہ معاملہ جہاد اور مسلمانوں کی سخت خروجت کے موقع پر پیش آیا، جب کہ لشکر تیاری کر رہا تھا اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ لشکر کی تیاری حیوان کے حیوان کو ادھار نیچنے کے شرے سے بڑا شر تھا اور امور شریعت راجح امور کی وجہ سے معطل نہیں ہوتے۔ اس کی شال جنگ کے موقع پر رسمی لباس

پہنچنے اور فخر یہا کہ کر چلنے میں ملتی ہے کیونکہ اس وقت یہ مصلحت مرجوح ہے۔  
متعاقدین غیر معین مدت کے لیے معاہدہ کر سکتے ہیں اس واقعہ سے اس بات  
 جب متعاقدین رعقد کرنے والے دونوں فریق ( ) کے درمیان غیر محدود مدت موڑ کے  
 جائے تو بھی جائز ہے اگر وہ دونوں راضی اور متفق ہوں۔

امام احمدؓ نے آپ کی روایت سے اس کے جواز پر نفس فرمائی ہے کہ غیر محدود  
 مدت مقرر رہنا جائز ہے۔ جب تک کہ وہ دونوں اسے ختم نہ کر دیں۔ اور یہی راجح ہے  
 کیونکہ یہاں اس کے مقابلہ میں کوئی محدود یا اندر نہیں اور عذر کے طور پر دونوں نے  
 رضا و بصیرت سے اسے تسليم کیا ہے، اس لیے علم میں دونوں برابر ہیں، اور کسی کو دوسرے  
 پر تفوق حاصل نہیں اس لیے یہ ظلم نہ ہوگا۔

جنگ میں مقتول کافر کا مال مسلمان قاتل کی ملکیت ہے نیز اس غزوہ میں آپ  
 نے فرمایا ہے جس نے  
 کسی کافر کو قتل کیا ہو تو اس کا مال ہوا سامان (سلب)، اس کا ہو گا بشرطیکہ اس کا کوئی گواہ  
 بھی ہو۔ اور دوسرے غزوہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ ”اس سے قبل اس پر فتح کا اس  
 باب میں اختلاف ہو گیا کہ یہ شرعاً سلب کا مستحق ہے یا مشترط کے بعد مستحق ہو گا؟“  
 اس کے متعلق وہ قول ہیں جو احمدؓ سے درود رایات میں ہیں۔

۱- لیکن یہ کہ وہ سلب کا مستحق شرعاً ہے چاہے امام اس کے لیے شرط لگائے یا  
 نہ لگائے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

۲- اور دوسرا یہ ہے کہ امام کی شرط کے بغیر مستحق نہیں، یہ ابوحنیفہؓ کا قول ہے۔  
 امام مالکؓ فرماتے ہیں کہ قاتل کے بعد امام کی شرط کے بغیر مستحق نہیں ہو گا اور اگر  
 اس سے قبل ہی نص کر دے تو جائز نہیں۔ مالکؓ فرماتے ہیں کہ مجھے خین کے دن کے  
 سوا کوئی روایت نہیں پہنچی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہوا وہنجی کرم  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھی رضا فی آخرت ہو فتنے کے بعد صدقات فرمائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثیتیں، منصب رسالت اس نزع کا اصل مأخذ یہ اصول ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی ہیں، حاکم اور مفتی بھی، اور رسول بھی ہیں، کبھی تو آپ منصب رسالت سے حکم فرماتے ہیں۔ یہ حصہ قیامت تک شریعت عام بن جاتا ہے جیسے کہ آپ کافران۔

”جس نے ہمارے اس اصر (دین) میں کوئی نئی نامت پیدا کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے“

رسول مفتی کی حیثیت سے اور کبھی آپ مفتی کی حیثیت سے علم فرماتے ہیں جیسے آپ نے ابوسفیانؓ کی بیوی ہند بنت عقبہ کو، جب اس نے اپنے شوہر کے بخل کی شکایت کی تو بقدر کفایت خرچ نہ دینے پر فرمایا۔

معروف طریقہ پر اس قدر لے جتنا تھے اور تیرے لڑکے کے کفایت کر کے یہ فتوی ہے حکم نہیں، کیونکہ آپ نے ابوسفیانؓ کو بلا کر ان سے جواب دھوئی نہیں سننا۔ نہ ہند سے شہزادت طلب فرمائی۔

رسول امام کی حیثیت سے اور کبھی آپ منصب امامت کی رو سے حکم فرماتے۔ اور یہ حکم اس وقت اور اس حجہ اور اس حالت میں امامت کے لئے ایک مصلحت بن جاتا۔ اس لئے آپ کے بعد ائمہ مسلمین کو چلپٹ کرو، بھی وقت حجہ اور حالات کے اعتبار سے مصالح عمومی کا خیال رکھیں جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔

ائمہ کا اختلاف فکر و نظر یہ مقام ایسا ہے کہ جو ان ائمہ کرام پیشتر مقامات پر اختلاف کر جاتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جس نے کوئی (کافر) قتل کیا تو مقتول کا سلب (قاتل) کو ملے گا“ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے یہ کلام منصب امامت سے فرمایا تاکہ یہ حکم ائمہ سے متعلق ہو جائے۔ یا منصب رسالت و ثبوت سے فرمایا تاکہ شریعت عام بن جائے۔ اس طرح آپ کافران،

کر جس نے بجز میں کو آباد کیا، وہ اسی کی ملکیت ہے، تو کیا یہ آدمی کے لئے عام قانون شریعت ہے، چاہے امام اجازت صے یا نہ دے، یا یہ قانون انہم مسلمین کی اجازت سے مشروط ہوگا؟ اور امام کی اجازت کے بغیر اس زمین کو آباد کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ اس میں دو قول ہیں،

- ۱۔ پہلا امام شافعیؒ اور احمدؒ کا ہے جو ان کے ظاہر فہرست سے معلوم ہوتا ہے۔
- ۲۔ اور دوسرا ابو حنیفہؒ کا ہے اور رامالکؒ نے بڑے بڑے صحراوں اور ایسی جگہوں میں فرق کیا ہے جہاں لوگ محنت نہیں کرتے اور جہاں مخصوص طور پر محنت کرنا پڑتی ہے دوسری صورت میں امام کے اذن کا اختبار ہوگا اور ہمیں ہی اجازت کی ضرورت نہیں۔

**گواہ اور بیانہ کا مسئلہ** [آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اکر قاتل کے پاس آؤں گواہ (بیانہ) بھی ہو، اس سے دو مسئلے نکلتے ہیں؛

- ۱۔ ایک یہ کہ اس نے کافر کو قتل کیا ہے، اور صرف اسی بات کو استحقاق سلب کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔

۲۔ دوسرے اس دعویٰ میں میں کے بغیر ایک ہی شاہد کافی ہے؟ صحیح روایت میں حضرت ابن قنادہؓ سے ثابت ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم خدیں کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم دشمن سے ملے تو مسلمان ہٹ ہٹ کر جعلے کرتے تھے۔ میں نے مشرکین میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک مسلمان کے اوپر چڑھا بیٹھا تھا۔ میں پھر کہ اس کی طرف پھیپھی کی جانب سے آیا اور میں نے اس کے کاندھے کے جوڑ پر (تکوار) ماری، وہ میری طرف پلٹا اور بری طرح چھٹ گیا، یہاں تک کہ مجھے موت آتی محسوس ہوئی، چھروہ مر گیا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب سے جالا۔ انہوں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کا امر ہے۔

چھر بوج و اپس چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا، جس نے کسی دکافر کو قتل کیا ہوا اور اس کے پاس کوئی بینہ ہو، تو اس کے سلسلہ کا وہ مستحق ہو گا۔

راوی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور کہا، میری گواہی کون دے گا؟ آپ نے تین بار یہ فرمایا اور میں اٹھتا رہا۔ چھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ کیا بات ہے؟ میں نے تمام واقعہ عرض کیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے پس کہا اور اس مقتول کا سلسلہ میرے پاس ہے۔ اس لئے اس کا حق دے دیجئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا سلسلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پس کہا، اسے دے دو۔ چنانچہ آپ نے مجھے (اس کا سلسلہ عطا فرمایا۔ میں نے زرد نیچ دی اور میں نے بنو سلمہ سے ایک زنبیل خریدی۔ یہ پہلا مال تھا جو مجھے اسلام میں حاصل ہوا۔

اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں، جن میں سے ایک ہے، اور یہ مزہب احمدؓ کے مطابق ہے۔ دوسرا یہ کہ شاہد اور میں دونوں ضروری ہیں، جیسے احمدؓ کی روایات میں سے ایک روایت منقول ہے۔

تمیسرا امام احمدؓ کا منصوص ہے کہ دو گواہ ضروری ہیں۔ کیونکہ یہ قتل کا دعویٰ ہے جو دو گواہوں کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا۔

اس واقعہ میں ایک اور مسئلہ پر روشنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ شہادت میں یہ لفظ کہ ”میں گواہی دیتا ہوں“ کا استعمال ضروری نہیں اور امام احمدؓ سے یہ صحیح تریتے روایت ہے اگرچہ ان کے صحابہؓ کے خیال میں جو ران مذکورہ الفاظ (کا زبان سے ادا کرنا لازمی ہے اور یہی (مورخ کلام) امام مالکؓ کا مذہب ہے۔ صحابہؓ اور تابعینؓ سے لفظ شہادت کی شرط معرفت نہیں۔

سلب کا خمس نکالنا ضروری نہیں اور آپ کا فرمان کہ مقتول کا سلب قاتل کا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلب کا خمس نکالے بغیر مالک تھا اور سلمہ بن اکوع کے معاملہ میں آپ نے صراحت بھی ہے فرمادی کہ جس نے کسی رکافر، کو قتل کیا تو تمام سلب (قاتل) کی ملکیت ہے۔ اس مسئلہ میں بھی تین مذاہب ہیں، ایک کا ذکر ہو چکا۔

دوسرایہ ہے کہ غنیمت کی طرح اس کا خمس لیا جائے گا۔ یہ امام او زاعمؑ اہل شام کا قول ہے، اور آیت غنیمت میں داخل ہونے کے سبب سے ابن عباسؓ کا بھی یہی مذهب ہے۔

تیسرا یہ ہے کہ اگر امام کثرت مال دیکھے تو خمس لے لے اور اگر کم سمجھے تو خمس نہ لے۔ یہ احتجق کا قول ہے۔

حضرت عمر کا ذاتی اجتہاد واجب العمل نہیں اور عمر بن خطاب کے فعل سے ثابت ہے۔ سعید نے اپنی سنن میں ابن سیرینؓ سے نقل کیا کہ حضرت برادر بن مالک نے بھریں میں مزبان کا مقابله کیا اور اسے نیزو مارا اور اس کی پیٹیہ توڑ دی۔ پھر اس کے لئے اس کا سلب لے لیا جب حضرت عمرؓ نے ظہر کی نماز ادا کی تو حضرت برادر کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا۔ ہم سلب کا خمس نہیں لیا کرتے تھے، لیکن برادرؓ نے سلب حاصل کیا، جس کی مالیت بہت زیادہ ہے اور میں اس کا خمس لوں گا، اس طرح اسلام میں یہ پہلا خمس تھا جو حضرت برادرؓ کے سلب سے لیا گیا اور یہ تینیں ہزار تک پہنچ گیا لیکن پہلی صورت زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کا خمس نہیں لیا اور فرمایا کہ یہ تمام کا تمام اسی کا ہے اور اسی پر آپ اور آپ کے بعد حضرت صدیقؓ کا بند رہے۔ اور حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا یہ ان کا ذاتی اجتہاد اور رائے تھی۔

**خمس غنیمت میں سے ہے** اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خمس غنیمت میں سے ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قاتل کو ادا فرمایا، اور اس کی قیمت اور قدر کی طرف توجہ نہ کی نیز خمس سے خمس نکالنے کا اعتبار نہیں کیا، ماکج فرماتے ہیں کہ وہ تو خمس کا خمس تھا۔

**قاتل مقتول کے تمام سلب کا مستحق ہے** اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل مقتول کے تمام سلب کا مستحق ہے اگرچہ یہ مال بہت زیادہ مقدار میں ہو۔ اور ابو داؤدؓ نے تقل کیا ہے کہ ابو طلحہؓ نے حنین کے دن بیس آذیزوں کو قتل کیا، چنانچہ ان تمام کے سلب انہوں نے یہے۔

---

# غزوہ طائف

## اہل طائف کے لئے ہدایت اور قبولِ اسلام کی دعا

**طائف کا محاصرہ** | یہ غزوہ شوال شہر میں ہوا، ابن سعد کہتے ہیں کہ رواۃ کا بیان ہے کہ جب نبی ولی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف کوچ کا ارادہ فرمایا تو طفیل بن عمر و کوڑی الکفین کی طرف بھیجا۔ عمر و بن حنفہ و سی کا بت تھا۔ تاکہ اسے توڑ دے اور آپ نے اسے طائف میں ملنے اور اپنی قوم سے مدد لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ تیزی سے نکلا اور ذا الکفین کو توڑ کر تھس نہس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی قوم کے چار سو افراد پل پڑے، چنانچہ طائف میں تشریف اور کے چار دن بعد یہ لوگ مجھی حاضر ہو گئے اور وباہ اور منجینق ساتھ لے آئے۔

ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے طائف چانے کا ارادہ فرمایا تو خالد بن ولید سامنے آئے اور بنو ثقیف نے اپنے قلعے کا ارادہ کر دیا اور اس میں اس قدر نیرو ریافت زندگی جمع کر لئے جو انہیں ایک سال تک کے لئے کافی تھے جب یہ لوگ او طاس سے شکست کھا کر بھاگے تو اپنے قلعے میں پناہ گزیں ہو گئے اور دوازے بند کر دیئے اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔

**اہل طائف کی طرف سے شدید مژاہمت** | اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی جعل پڑے۔ چنانچہ آپ

ٹالف کے قریب اتر سے اور وہاں آپ کا شکر بھی تھا۔ چنانچہ (اہل طائف) نے بڑی شدت کے ساتھ تیر پر سائے جیسے کٹھی آرہی ہو۔ یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو ختم آئے اور بارہ آدمی شہید ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اس جگہ آگئے جہاں آجکل ٹالف کی مسجد ہے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی ازواج مطہرات حضرت ام سلمہؓ اور زینب بھی تھیں، ان کے لئے دونوں نگاہیں گئے اور ٹالف کے محابرے کے دوران آپ ان دونوں کے درمیان نماز پڑھتے رہے۔ آپ نے اٹھارہ روز محاصرہ جاری رکھا۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں میں سے زیادہ دن محاصرہ جاری رہا اور آپ نے تجھنیق گاڑ دی۔ اور یہ اسلام میں پہلا ہتھیار تھا۔ جس کے ذریعے قلعہ توڑنے کے لئے پتھر پر سائے گئے، ابن اسحاق فرماتے ہیں جس دن دیوار کے پاس ایک سوراخ سا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ دباہ کے نیچے چلے گئے۔ اور اس کے ذریعہ دیوار ٹالف میں داخل ہوئے تاکہ اسے جلا دیں۔ بنو ثقیف نے ان پر تیر پر سائے، جس کی وجہ سے بعض صحابہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے اعتاب کاٹ دینے کا حکم فرمایا، چنانچہ لوگ اسی میں مصروف ہو گئے۔

رسول اللہ کی طرف سے منادی | ابن سعد بتاتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ انہیں اللہ اور قربت سے بلا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! میں انہیں اللہ اور رحم (قربت) سے بلاتا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندادی کہ جو آدمی قلعے سے اُٹر کر ہماری طرف آجائے گا، وہ آزاد ہے اس پر دس اور کچھ آدمی حاضر ہوئے جن میں ابو بکر بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ہر آدمی سے اہل اسلام کے ایک ایک فرد کو دیا تاکہ ہر ایک دوسرے کی کفالت کرے۔ اس بات سے اہل طائف کو سخت صدقة ہوا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کو فتح طائف کی اجازت نہ ملی۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو فل بن معاویہ ویلی سے مشورہ کیا اور دریافت فرمایا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، لومڑی بھٹ میں گھس گئی ہے اگر کوشش جاری رہی تو پکڑی جائے گی اور اگر چھوڑ دی گئی تو بھی نقصان نہیں دے سکتی۔

چنانچہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو حکم دیا کہ لوگوں کو کوچ کرنے کی اجازت سُنا دی جائے۔ اس سے لوگوں کو کو قت ہوئی، کہنے لگے، طائف فتح تو ہوا نہیں اور ہم واپس چلے جائیں۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، کل جنگ کرو۔ سبھ ہوئی تو مسلمان گھاؤں ہوئے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کل انشاء اللہ واپس جائیں گے۔ اس سے لوگ خوش ہوئے، اور انہیں یقین ہو گیا، چنانچہ انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا نے لگے۔

اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے | جب سفر کا آغاز ہوا تو آپ نے فرمایا یوں کہو ہے۔ آئیوں قاسبوں عابدوں لربنا حامدوں، لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے۔

عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول ثقیف پر بد دعا فرمائیے، آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں (مطیع کر کے) حاضر کر محاصرہ طائف میں ایک جماعت شہید ہو گئی اس کے بعد بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جصرانہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اور اس مقام سے عمرے کا حرام باندھ کر (مکہ) میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا کیا، اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لئے رسول اللہ کی مدینہ منورہ واپسی | ابن الحنف فرماتے ہیں کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تبوک کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسی ماہ ثقیف کا وفد بھی حاضر ہوا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ بنی صلی اللہ

علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو آپ کے پیچے عروۃ بن مسعود حاضر ہوئے یہاں تک کہ مدینہ پہنچتے سے قبل آپ سے آٹے اور اسلام قبول کر لیا اور حالتِ اسلام میں اپنی قوم کی طرف چالے کی اجازت چاہی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ تمہاری قوم سے اندریشہ ہے کہ وہ تم سے جنگ کرے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسوس کیا کہ ان لوگوں میں خنوت اور غرور ہے جس کی وجہ سے وہ قبولِ اسلام سے رک رہے ہیں۔

### عروۃ بن مسعود کی قبولِ اسلام کے بعد شہادت

کے رسول :

میں ان کے نزدیک ان کی کنواریوں سے بھی زیادہ محظوظ ہوں، اور واقعی وہ ان میں ایسے ہی محظوظ اور مطاع تھے، چنانچہ اپنی قوم کو اس امید پر اسلام کے دعوت دینے کے لئے چلے کہ وہ ان کے مرتبہ کے باعث مخالفت نہ کرے گی۔ لیکن اس قدر و منزالت کے باوجود جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور انہمار اسلام کیا تو ہر جانب سے تیر بر سنتے گے۔ چنانچہ ایک تیر ایسا لگا کہ شہید ہو گئے، نزع کے وقت پوچھا گیا کہ اپنے خون کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہنے لگے: اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز و اکام بخشنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت سے نوازا ہے اس لئے بھر میں اور ان شہیدا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ کچھ فرق نہیں اس لئے مجھے ان کے ساتھ ہی دفن کرنا۔

رسول اللہ نے ان کے متعلق فرمایا، ان کی مثال اپنی قوم میں اس طرح ہے کہ جیسے صاحب لیں کی قوم میں تھی۔ عروۃ کی شہادت بکے کئی ماہ بعد تک ثقیفہ کے رہے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سمجھ لیا کہ ہر چہار طرف سے عربوں سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں (کیونکہ) انہوں نے بیعت کر لی ہے۔ اور اسلام قبول کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ عروۃ کی طرح

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی آدمی بھیجیں۔ انہوں نے عبد یا ایل بن عمر و بن عییر سے بات کی۔ یہ عروہ بن مسعود کا ہم عمر تھا۔ اس نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اور خطرہ محسوس کیا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی عروہ کی طرح معاملہ نہ ہو، یہ کہنے لگا جب تک تم میرے مزید آدمی نہ بھیجو تب تک میں یہ کام نہیں کروں گا، اس پر انہوں نے احلاف کے دو آدمی اور بنی مالک کے میں آدمی کر دیے۔ میرے چھ آدمی تھے جنہیں بھیجا گیا، چنانچہ انہوں نے حکم بن عمر بن دبیب اور شریعت بن غیان کو اور بنی مالک میں عثمان بن ابی العاص اوس بن عوف اور ہزار بن خرشنا کو بھیجا یہ لئے کے ہمراہ نکلے اور جب مدینہ کے قریب پہنچے، ایک ہزار کے قریب اترے یہاں مغیرہ بن شعبہ ملے (حضرت مغیرہ انہیں دیکھ کر) تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگئے تاکہ آپ ثقیف کے حاضر ہونے کی اطلاع کروں۔

انہیں راستے میں (ابو بکرؓ) ملے، ابو بکرؓ نے فرمایا:- میں تھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ سے پہلے نہ جانا کہ میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آخر ابو بکرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور (ثقیف کے وفد) کی احمد کی اطلاع دی، جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو ان کے لئے مسجد کے صحن میں ایک طرف خیمه لگادیا گیا اور خالد بن سعد بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ثقیف کے وفد کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجا لکھا نہ اس وقت تک نہ کھلتے جب تک خالد اس میں سے نہ کھایتے۔

### بنو ثقیف کا قبولِ اسلام | آخر کار و مسلمان ہو گئے اور عہد نامہ کے وقت

انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کہ ان کا بہت طاغیہ جسے لات کہتے ہیں۔ تین سال تک کے لئے رہنے دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ پھر ایک ایک سال تک گھٹتے رہے یہاں

تک کہ ایک ماہ کی مہلت مانگی تھیں آپ نے قطعی طور پر ایک لمحہ کے لئے بھی  
انکار کر دیا، طاغیہ (لات) کو چھوڑ دینے کے علاوہ وہ نماز کی معافی بھی چاہتے تھے  
اور چاہتے تھے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بت نہ توڑنے پڑیں۔ رسول اللہ صلی<sup>اللہ علیہ وسلم</sup> نے فرمایا۔

رہائشوں کا تمہارے ہاتھوں سے توڑنا اس سے ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔  
لیکن نماز توجیں دین میں نماز نہیں اس میں کچھ بھی جلالی نہیں۔

جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مکتوب  
لکھ دیا اور حضرت عثمان بن ابی عاص کو ان پر امیر مقرر فرمادیا، یہ فومن تھے، اسی وجہ  
سے انہیں امیر بنایا گیا۔ کہ اسلام اور قرآن سیکھنے میں سب سے زیادہ خواہش  
مند تھے، جب یہ اس کام سے فارغ ہوئے اور انہوں نے اپنے علاقے کی طرف  
واپسی کا رادہ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ ابوسفیان بن حرب اور  
مغیرہ بن شعبہ کو طاغیہ (لات) کے توڑنے کے لئے بھیجا۔ یہ دونوں قوم کے ساتھ  
نکلے، یہاں تک کہ طائف پہنچ گئے۔ (یہاں پہنچ کر) جب ابوسفیان اور مغیرہ نے  
لات پر کھاڑا امیر سانا مشروع کیا تو ثقیف کی عورتیں روتو چلاقی نکلیں اور تو تباہ ہو  
تو تباہ کہہ رہی تھیں۔

جب مغیرہ نے اسے گردیا اور اس کا تمام مال اور زیوالات لے لئے تو یہ تمام  
سو ناچاندی اور ہار وغیرہ ابوسفیان کی طرف بھیج دیا۔

# غزوہ طائف سے متعلق

## چند اہم ترین اور معرکہ آراء فقہی مسائل

اس واقعہ میں فقہی مسائل یہ ہیں کہ اس شہر حرم میں قبائل جائز ہے اور اس کی تحریم غیر خوبی ہو جکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف رمضان کے اٹھارہ دن گزرنے کے بعد آخری حصہ میں تشریف لے گئے اس کی دلیل مسند احمد کی حدیث ہے کہ میں اسماعیل نے بتایا انہیں خالد حذار سے انہیں ابو قلابہ سے انہیں ابو اشعد شد سے انہیں شداد بن اوس سے روایت پہنچی کہ فتح کے موقع پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بقیع میں سنگیاں لگوارہ تھا۔ اور یہ رمضان کی اٹھارہ ہوئیں شب قدر اور آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا:-

سنگیاں لگانے اور لگوانے والے ہر دو کا افطار ہو گیا۔

نیز اس سے اس بات کا جواز بھی نکلتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ہمراہ جنگ میں جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت ہمراہ تھیں۔

لڑائی میں کفار پر پتھر بر سائے جا سکتے ہیں [نیز کفار کے مقابلہ میں ان پر پتھر بر سائے کے لئے منجذبیق لگانے

کا جواز بھی ثابت ہے اور عورتوں بچوں کو قتل نہ کرنا جو جنگ میں شریک نہ ہوں۔ نیزاں میں کفار کے درختوں کے کاشنے کا جواز بھی پایا جاتا ہے، جب یہ تین ہو جائے کہ اس سے انہیں ضعف پہنچے گا اور انہیں غصہ آئے اور اس سے انہیں خوب خرپہنچے گا۔

**مشرک کا بھاگا ہوا غلام آزاد** | نیزاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشرکین تو وہ آزاد ہو گا۔ سعید بن منصور فرماتے ہیں کہ ہمیں یزید بن ہارون سے انہیں حجاج سے انہیں ابن عباس سے روایت پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غلام آزاد کر دیتے تھے جو (اپنے کافر) آفادوں کے پاس سے بھاگ آتے تھے امام حسین مصلحت محاصرہ اٹھا سکتا ہے | نیزاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین کسی قلعے کا محاصرہ کرے اور وہ فتح نہ ہو اور وہاں سے کوچ کرنے میں مسلمانوں کی مصلحت معتر ہو تو وہیں پڑا رہنا ضروری نہیں۔ محاصرہ اٹھالینا جائز ہے۔ ہاں اگر مصلحت اہل اسلام محاصرے میں ہو تو محاصرہ جاری رکھنا واجب ہے۔

**عمرہ کے لئے جعرانہ سے احرام باندھنا** | اس میں اس کا تذکرہ بھی آگیا کہ آپ نے باندھا۔ اس وقت آپ کہ کی طرف تشریف لارہے تھے اور طائف کی جانب سے چوادی مکہ میں داخل ہونا چاہیے اس لئے ہی سنت ہے وہ طریقہ جو اکثر جہاں کرتے ہیں کہ مکہ سے جعرانہ کی طرف جلتے ہیں تاکہ وہاں جا کر عمرہ کا احرام باندھیں پھر وہاں سے مکہ کی طرف واپس آئیں۔ یہ کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ کسی صحابیؓ نے کیا اور نہ اہل علم میں سے کسی نے اس کو مستحب سمجھا بلکہ اسے عوام ہی کرتے ہیں اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء رخیال کرتے ہیں حالانکہ انہیں غلط فہمی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کہ تشریف

لاتے وقت احرام باندھا تھا نہ کریوں ہو کر آپ مکہ سے جمراۃ احرام باندھنے کے لئے گئے ہوں۔ آج کا طریق اور ہے اور آپ کی سنت کا معاملہ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہوتی ہے۔

### بداعمالوں کے لئے دعائے خیر کی جاسکتی ہے :-

اللہ تعالیٰ نے شفیف علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی گرہ (اے اللہ) انہیں ہدایت دے اور (انہیں مطیع) بناؤ کر میرے پاس لا، حالانکہ انہوں نے آپ سے جنگ و قتال کیا تھا، اور آپ کے صحابہؓ کی ایک جماعت کو شہید کر دیا تھا اور آپ کے ایک قاصد کو (عروہ) بھی شہید کر دیا تھا جو انہیں اللہ کی طرف بلارہے تھے۔ ان تمام (بداعمالیوں) کے باوجود آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور بد دعا نہ کی۔ یہ چیز آپ کی کمال رحمت، شفقت اور رحمت کا ثبوت ہے، آپ پر اللہ کی (لاکھوں رحمتیں) اور سلام ہوں۔

### اپنی نیکی دوسرے کو دی جاسکتی ہے :-

اور اسی سے حضرت صدیقؓ کی کمال محبت القدت کی خواہش کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت میرہ سے احرار کیا کر انہیں کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد طائف کی آمد کی خوشخبری سنائیں تاکہ وہی آپ کی فرجت و مسروک کا سبب بنیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے کہ کوئی اپنے دوسرے بھائی سے درخواست کرے کہ وہ اسے ایک نیکی کا کر تقرب حاصل کر دینے کا موقع دے، کیونکہ ہر لوگ کے لئے یہ چیز جائز ہے، اکہ وہ اپنے آپ پر اپنے بھائی کو ترجیح دے اور بعض فقہاء کا یہ قول فصیح نہیں کہ ”نیکیوں میں ایثار کرنا جائز نہیں“، حالانکہ حضرت عائضؓ نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں دفن ہونے کے معاملہ میں اپنے آپ پر ترجیح دے دی، اور حضرت عائضؓ

نے اس کی درخواست کی تو انہیں ناگوار نہ گذری اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان خصالِ حسنہ سے متصف انسان کی نیکیاں اس مخصوص نیکی سے بڑھ جاتی ہیں۔ جس کے متعلق وہ دوسرے بھائیٰ کو ترجیح دے دیتا ہے۔ اس طرح وہ ایک نیکی خرچ کرتا ہے اور کئی نیکیاں حاصل کر لیتا ہے (آپ دیکھئے تو) کہ جب ایک جماعتِ مسلمانہ کو پایس محسوس ہوئی اور موت قریب ہو گئی۔ کسی ایک صحابیؓ کے پاس پانی تھا، اس نے دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دی اور خود موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ جائز کام تھا اور کسی نے یوں نہیں کہا کہ اس نے خود کشی کی یا اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا۔ بلکہ یہ فعل تو جو دو سماں کی انتہا ہے؛ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَيُؤْتُهُنَّ أَعْلَمَ بِأَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانْ بِهِمْ خصاصة۔

اور فتوحِ شام کے موقع پر بھی صحابہؓ کی ایک جماعت کے ساتھ یہی معاملہ ہیش آیا تھا اور اسے ان کے خصال و مناقب میں شمار کیا گیا۔

مساکنِ شرک و طاغوت دھادیے چاہیں | اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک و طاغوت کی جگہوں کو ایک دن بھی باقی رکھنا جائز نہیں بشرطیکہ انہیں مٹانے اور ختم کرنے کی استطاعت ہو کیونکہ یہ جگہیں شرک و کفر کی علامات ہیں جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لئے استطاعت ہوتے ہوئے انہیں قائم رہنے دینا ناجائز ہے۔

قبوں کے گنبد اور قبے بتکرے ہیں | اسی طرح قبروں پر گنبد اور قبے کا بھی حکم ہے کہ جنہیں بت بنا لیا گیا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ ان کی پوجا کی جاتی ہے ایسے تپھر جن کی تنظیم کی جاتی ہے۔ نام کی نذر مانی جاتی ہے اسے بوسہ دیتے ہیں، انہیں مٹانے کی قوت ہوتے ہوئے زمین میں ان پر ایک براٹی بھی باقی رکھنا ناجائز ہے، اور ان (مزارات) میں سے بیشتر کی حالت لات، عزی اور منات کے برابر ہے بلکہ یہاں تو اس سے بھی زیادہ شرک کی حرکات کا ارتکاب ہوتا ہے۔

اور ان مشرکوں کا یہ اعتقاد نہ تھا کہ یہ بہت پیدا کرتے، اور نہی دیتے مارتے اور نہ زندہ کرتے ہیں بلکہ مشرکین بھی وہی کرتوت کرتے جو کہ اجنبی ان کے مشرک بجانے سے اپنے ہاں صنم کدوں (مزارات) میں کرتے ہیں اس طرح آج (کے مشرکین) بھی اپنے سے پہلے کے (مشرکین) کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ایک ایک مرحلہ پر انہیں کتابائے کر رہے ہیں۔ جہالت کے غلبہ اور علم کے خفا کے باعث اکثر لوگوں پر مشرک قبضہ کر چکا ہے ان کے نزدیک نیکی بدی بیچی ہے اور بدی نیکی دکھانی دیتی ہے۔ سنت کو بدعت کو سنت سمجھنے لگے ہیں، یہ بات ہر چھوٹے بڑے میں پیدا ہو چکی ہے، شعائر اسلام غائب ہو چکے۔ غربتِ اسلام نے شدت اختیار کرنی، علماء کم ہو گئے۔ سفہیا کا غلبہ ہو گیا اور معاملہ بگڑا چکا۔ تالیف بڑھ گئی۔ خشکی و تری میں لوگوں کی کرتتوں کے باعث فساد پیدا ہو گیا لیکن جماعتِ محمدیہ میں سے ایک جماعت منور حق پر قائم رہے گی اور اہل شرک و بدعت کا مقابلہ کرتی رہے گی، تا انکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور اہل زمین کا وارث بن جائے گا (قیامت قائم ہو جائے گی) اور وہی بہتر وارث ہے مزارات اور صنم کدوں کی تحریک کے بعد ان کا مال ضبط کیا جاسکتا ہے | اس سے

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کو حق حاصل ہے کہ وہ ان مزارات اور صنم کدوں کو مٹانے کے بعد ان کا سرایہ جہاد اور اہل اسلام کے صالح میں خرچ کرے یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے کہ ان صنم کدوں کا تمام مال قبضہ میں کرے اور اسے فوج اور جہاد اور اہل اسلام کے صالح پر خرچ کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو توڑ کر تمام مال پر قبضہ کر لیا اور ابوسفیان کو دے کر اس کی تالیف قلب فرمائی اور اسی کے ذریعہ عروۃ اور اسود کا قرض ادا فرمایا ہے۔

قبوں کے گنبد اور قبے توڑ دیئے جائیں | اسی طرح امام پر واجب ہے کہ قبوں کو مٹادے جنہیں بت بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور اسے اس کی بھی اجازت ہے کہ یہ

مال جنگ میں استعمال کرے یا فروخت کر کے معاملج اہل اسلام پر خرچ کرے۔  
یہی حال ان کے وقف کا ہے کہ (ان مزارات) کا وقف باطل ہے اور ان کا مال بریاد  
ہے، اسے اہل اسلام کے مقاصد پر خرچ کیا جائے گا۔ وقف تو صرف نیکی اور اللہ اور  
اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتا ہے، اس لئے مزار پر پختہ قبر لا جو بدی کی علامت  
ہے، کا وقف جائز نہیں کہ اس پر قبہ بنایا جائے اور اس کے متعلق تعظیم اور نذر وغیرہ  
کے رسم ادا کئے جائیں اور ان کا مج کیا جائے اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کے  
جائے، لوگوں نے انہیں حشم بنا رکھا ہے اور آنکہ سلام اور ان کے اتباع میں سے  
کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔

وادیِ مرچ | اس میں ایک وادیِ مرچ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ طائف میں ایک وادی  
ہے اور حرم ہے اس میں درخت کاٹنا اور شکار کھیننا حرام ہے۔  
اس میں فقہا اور جمہور کا اختلاف ہے، ان کا فرمان ہے کہ مکہ اور مدینہ کے  
علاوہ کہیں بھی حرم نہیں۔ البتہ ابو حیفہؓ نے مدینہ کے حرم ہونے میں اختلاف  
کیا ہے۔

اور امام شافعی کے دو اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ وادیِ مرچ حرم  
ہے اس میں شکار کرنا اور درخت کاٹنا حرام ہے۔

وصولی صدقات کا انتظام | جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سے  
داخل ہوئے، آپؐ کو داخل ہوئے تو  
آپؐ نے اعراب سے صدقات وصول کرنے کے لئے بعض مصدق (صدقہ)  
وصول کرنے والے بھیجے، ابن سعد کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصدقین  
بھیجے، کہتے ہیں۔ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزاد کو حرم کا چاند دیکھا  
تو آپؐ نے عربوں سے صدقات لینے کے لئے مصدقین بھیجے۔ چنانچہ آپؐ<sup>نے</sup>  
عینیہ بن حصن کو بنو تمیم کی طرف یزید بن حصین کو اسلام اور غفار کے قبائل  
کی طرف، عبادؓ بنی بشیر اشہلی کو سلیم اور مزینہ کی طرف رافع بن مکیث

کو چہنیہ کی طرف، عمر بن العاص کو بن فزارہ کی طرف ضحاک ش بن سفیان کو بن کلاب کی طرف، بشیر بن سفیان کو بنی کعب کی طرف اور ابن القبیلہ اندوی کو بنی ذیبان کی طرف بھیجا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصلین (صدقہ وصول) کرنے والوں کو حکم دیا کہ معمولی مال ان سے لیں اور اچھا مال لینے سے پر بیز کریں۔

---

## ۹۔ حک کے سرایا اور بعثات

عبدیہ بن حصین رشادی کا سریہ جو نبی تمیم کے خلاف تھا، وہ ذکر ہو چکا ہے۔ یہ محرم میں ہوا، اس سال آپ نے پچاس سواروں کا ایک سریہ ان کی طرف بھیجا جس میں سے مہاجرین اور انصار میں سے کوئی نہ تھا۔ یہ لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپتے، آخر صحراء میں انہوں نے دشمن پر اچانک حملہ کیا اور ان کے مویشی آگئے، جب کثیر تعداد میں دشمن مقابلہ میں آیا۔ تو آکر ان میں سے گیارہ مرد، اکیس عورتیں اور تیس بچے گرفتار کر لائے اور انہیں لے کر مدینہ پہنچے اور انہیں رحلتہ بذت حرش کے گھر میں آتا۔ گما۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے سردار عطاء و بن حاجب، زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، افرع بن حابس، قیس بن حرش، نعیم بن سعد، عمرو بن اہتم اور رباح بن حرش حاضر ہوئے جب انہوں نے اپنے ہی قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار دیکھا تو ہست روئے اور جلدی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئے اور آواز دی اے محمد بابر آئیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔

حضرت بلاںؒ نے نماز کی اقامت کہہ دی، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا چیک گئے اور باتیں کرتے رہے، آپ ان کے پاس مُھرے رہے، پھر تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد مسجد کے صحن میں بلیٹھ گئے، عطاء و بن حاجب آگے بڑھا، اس نے گفتگو مژروح کی اور نشر میں خطاب کیا۔

آپ نے ثابت بن قعیس بن شماںی کو جواب دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے خوب جواب دیا، انہیں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ۲۱ ﴿الذیت  
بِنَادْوَنَكَ مَنْ وَرَ اِلَّا لِحَجَرَاتٍۚ اَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَۚ وَلَوْفَهُمْ صِيرَوْا  
حَتَّىٰ تَخْرُجَ الْيَهْمَرُ لَكَانَ خَيْرُ الْهَمْرٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ سَرِحِيمٌۚ  
نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرفتار شدگان اور غلام والپس کردے سے  
پھر بھی تمیم کاشا عزیز بر قان کھڑا ہوئا اور اپنی قوم کے مفاخر میں ایک نظم پڑھی، اس  
کے جواب میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اس کی نظم  
کافی البدیہ ہے جواب دیا اور حق ادا کر دیا۔

جب حضرت حسان فارغ ہوئے تو اقرع بن حابس کہنے لگا: بی شک آدمی جس کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں، اس کا خطیب ہم سے زیادہ (فصیح) خطیب ہے اور اس کا شاعر ہم سے زیادہ اچھا شاعر ہے اور ان کی آواز ہم ہماری آوازوں سے بلند ہیں پھر یہ لوگ اسلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام عطا فرمایا اور انعامات میں خوب خوب عطیات مرحمت فرمائے۔

و ف د ن ن و ت م ح م يم اور شاعر رسولؐ ابن اسحاقؐ بتاتے ہیں، جب بنو تمیم کا وفد آیا اور مسجد میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، کہ اے محمد ہماری طرف آؤ،

ہم اپ کے پاس شاعر اور خطیب کے ذریعہ مفاخرت کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے  
ہیں، اپ نے ان کا مقابلے کا چیلنج قبول کر لیا، چنانچہ عطار و بن حاجب کھڑا ہوا اور اس  
نے تشریف میں خطاب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماسی کو اس کے جزاً  
وینے کا حکم دیا، وہ کھڑے ہوئے اور جواب دیا اور جواب دینے کا حق ادا کر دیا۔ پھر جانشین کے  
شعر کا مقابلہ ہوا۔ آخر کار اخترع بن حابس نے اپنی شکست کا اقرار کیا اور وہ لوگ مسلمان  
ہوئے اور انعامات حاصل کرے۔

# قطبہ بن عامر بن حارثہ کا خشتم کی طرف سرہ

یہ شہہ میں صفر میں وقوع پذیر ہوا۔ ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ بن عامر کو بیس آدمیوں کو خشتم کو قباہ کی جانب ایک قبلیے کی طرف بھیجا اور اغارت کا حکم دیا۔ یہ لوگ دس اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس سے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، وہ خاموش ہو گیا، پھر وہ چیننے لگا، اور بستی والوں کو آگاہ کرنے لگا، انہوں نے اس کی گردان کاٹ دی، پھر وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ بستی والے سو گئے۔ پھر انہوں نے بستی پر غارت گری کی، اور سخت ترین جنگ ہوتی، یہاں تک کہ دونوں جانب کافی لوگ نجی ہوئے اور قطبہ بن عامر دوسروں کے ساتھ قتل ہوا۔

مسلمان۔ چوپائے، حورتیں اور بکریاں لے کر مدینہ والپس لائے۔ اس قصہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ دشمن جمع ہو گئے، اور ان کے پیچھے بھاگے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں سیلاں بھیجا اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان سیلاں حائل ہو گیا۔ چنانچہ مسلمان بکری۔ چوپائے اور گرفتار شد گان کو لے کر جا رہے تھے اور وہ (سیلاں کے باعث) کھڑے بیس دیکھ رہے تھے اور اسے عبور کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ مسلمان نظروں سے اوچھل ہو گئے۔

# بنو کلب کے خلاف ضحاک بن سفیان کا سریہ

ضحاک بن سفیان کلابی کا سریہ جو کہ بنو کلب کے خلاف شہر نبیع الاول میں واقع ہوا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلب کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ ضحاک بن سفیان بن عوف طائی اور اصید بن سلمہ ان کے ہمراہ تھے اسید کا والد پہلے اسلام لے آیا تکن پھر اسلام کو گالی دی، مختصر سے مقابلے کے بعد اصید نے اسے قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو قتل نہ کیا۔

# حدیث کی طرف علقمہ بن حمزہ مدحی کا سریہ

یہ شہر کے ریزیع الآخر میں واقع ہوا۔ جب بُنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اہل جدہ بعض اہل حدیث کی طرف امید سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علقمہ بن حمزہ کو تین سو آدمیوں کے ہمراہ بھیجا۔ یہ ایک جنریہ میں پہنچے۔ چنانچہ وہ لوگ واپس بھاگ گئے۔ واپسی پر بعض لوگوں نے جلدی سے اپنے گھر واپس آنا چاہا۔ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔

عبداللہ بن خدا فہ سہی نے بھی جلدی سے آنا چاہا۔ انہیں بھی اجازت دے دی ان کا آپس میں مزاج بھی چل رہا تھا، چنانچہ جب یہ کسی جگہ اترے اور انہوں نے آگ جلانی جیسے سینکنے لگے تو انہوں نے کہا،

میں نے ارادہ کیا ہے کہ کیا تم آگ میں کو دپڑو؟  
چنانچہ کچھ لوگ اٹھے اور تیار ہو گئے، یہاں تک کہ انھیں یقین ہو گیا واقعیہ کو دھا میں گے۔

اس پر علقمہ رضا کہنے لگے، میں تو تم لوگوں سے مذاق کر رہا تھا۔  
واپسی پر بُنیٰ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا جو گناہ کا حکم دے اس کی اطاعت مت کرو۔

# بنی طے کے بیویوں کو توڑنے کے لئے

## حضرت علی بن ابی طالب کی سرکردگی میں ایک سری

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ڈریہ سوانصار کے ہمراہ ایک سوانحیوں اور پچاپس گھوڑوں پر مسیجبا، ان کے پاس ایک سفید اور ایک سیاہ جھنڈا تھا۔ یہ لوگ قبیلہ تک گئے جو طے قبلیہ کا بست تھا۔ تاکہ اسے گردیں، چنانچہ انہوں نے فجر کے وقت حاتم کے محل پر چاپا پا مارا اور اسے مٹا دیا اور چوپائے بکریاں اور قیدی جوان کے ہاتھ گئے، نیز عدی بن حاتم کی بہن بھی گرفتار کر لی گئی۔ خود عدی شام کی طرف بھاگ گیا۔ ان کے گھر سے تین تلواریں، تین نذر ہیں ملیں، ایک قنادہ<sup>ٹھہر</sup> کو قیدیوں کا محافظہ مقرر کر دیا گیا۔ اور چوپاؤں اور علاموں پر عبد اللہ بن عتیق کو نگہبان بنا دیا گیا۔ راستہ میں ہی غنائم تقسیم کر دی گئی اور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ (صفی) الگ کر دیا گیا۔ اور آل حاتم پر جب تک کروہ مدینہ حاضر نہیں ہوئے، کچھ تقسیم نہ کیا گیا۔

عدی بن حاتم کی رسول اللہ سے نفرت | ابن الحنفی بتاتے ہیں کہ عدی بن حاتم نے کہا۔ عربوں میں اس قدر کوئی بھی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متغیر نہ تھا، جو نہی میں نے آپ کے متعلق سنا میں ایک شریف نصرانی آدمی تھا اور اپنی قوم میں مربع میں رہا کرتا تھا۔ اپنے خیال کے مطابق میں ایک صحیح دین پر تھا اور اپنی قوم کا سردار بھی تھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے متعلق سننا تو مجھے منتظر ہو گیا، اور میں نے اپنے ایک عربی فلام سے کہا جو میرے اونٹوں کا چہرہ باہت تھا کہ تیرا باپ نہ ہو، میرے اونٹوں کو موٹا تازہ بنانے اور انہیں میرے قریب ہی رکھ جب تو سننے کہ محمد کے عساکر طے کے علاقہ کو روشن رہے ہیں تو مجھے اطلاع دینا۔

اس نے ایسا ہی کیا، ایک صبح میرے پاس آیا اور کہنے لگا اسے عدی جب محمد کے عساکر گھیر لیں گے۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ اب موقع ہے پھر کرو، کیونکہ میں فتح مذہبی کی وجہ سے میں نے ان کے متعلق پوچھا تو جواب ملا کہ یہ محمد کا شکر ہے۔

عدی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا۔ میرے اونٹ جلدی لاو۔ وہ اونٹوں کو لے آیا۔ میں نے اپنے اہل و عیال کو ان پر سورا کیا اور کہا۔

میں شام میں اپنے نصرانی بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں۔

حاتم کی ایک لڑکی کو میں شہر میں ہای چھوڑ گیا۔

جب میں شام آیا اور یہاں اقامت پذیر ہو گیا تو میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عساکر آئے اور حاتم کی لڑکی کو دیکھ کر فرار شدگان کے ساتھ لے گئے اور طے کے قیدیوں کے ساتھ اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق شام کی طرف فرار ہونے کی خبر مل چکی تھی۔

حاتم کی لڑکی پر آپ کا رحم و کرم آپ (حاتم کی لڑکی) کے پاس سے گزرے، اس کے فضل سے مجھ پر احسان فرمائیے۔

آپ نے دریافت فرمایا، تیرا سر پرست کون ہے؟

کہنے لگی عدی بن حاتم

آپ نے فرمایا: وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہو گیا ہے۔

اس نے عرض کیا۔ مجھ پر احسان کیجئے، جب آپ واپس ہوئے، اس وقت آپ

کے ہمراہ حضرت علیؓ تھے، انھوں نے مشورہ دیا، آپ سے سواری مانگی، کہتی ہے کہ میں نے (سواری) کی درخواست کی، آپ نے سواری عطا فرمادی اور (عدی) کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔

(عدی) کہتے ہیں کہ آخر میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی تو نے وہ کام کیا ہے جو تیرے باپ نے نہ کیا تھا رآپ کے پاس رغبت سے یادُر سے حاضر ہو بکیونکہ آپ کے پاس فلاں حاضر ہوا۔ تو اسے انعام ملا۔ فلاں حاضر ہوا۔ اسے بھی انعام ملا۔ عدی بتاتے ہیں کہ میں بھی آپ کی خدمت میں عدی بن حاتم خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرماتھے۔

وگ کہتے ہیں یہ عدی بن حاتم ہے۔ اور میں بغیر کسی امان اور تحریر کے حاضر ہو گیا تھا۔ جب اس نے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے قبل میں یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا، آخر آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، ایک بچی نے (سادہ و گدا) بچایا آپ اس پر بٹھ گئے اور میں آپ کے سامنے بٹھ گیا۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شناکی اور فرمایا، تجھے کس چیز نے بچکایا؟ کیا تو اس کلمہ سے بھاگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں) کیا تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ (معبد و مانتا ہے)؟

میں نے کہا: نہیں! پھر آپ نے کچھ دیر بالیں کیں، پھر فرمایا تو اس کلمہ سے بھاگتا ہے کہ "اللہ اکبر" (اللہ سب بڑا ہے) کیا تیرے نزدیک اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں!

پھر آپ نے فرمایا، یہود پر اللہ کا غضب ہے اور نصاریٰ مگرہ ہو چکے ہیں میں نے کہا میں حنیف مسلم ہوں۔

عدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ فرحت سے کھل گیا۔ آپ نے مجھے حکم دیا۔ تو میں ایک انصاریٰ کے پاس مٹھرا اور دن میں دوبار حاضر ہوتا رہا۔ اس اتنا

میں آپ کے پاس ایک جماعت حاضر ہوئی، جس نے روئی کے کٹڑے پہن رکھے۔ تھے (افلاسی کے سبب سے) (عدی) کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کھڑے ہوئے اور ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی، پھر فرمایا۔

اسے لوگوں اپنی دولت میں سے کچھ خرچ کرو۔ اگرچہ ایک صاع ہو، نصف صاع ہو، ایک منٹھی ہو یا منٹھی کا کچھ حصہ ہو جس کے ذریعے تم جہنم کی گرمی یا آگ سے اپنے چہرے کو بچاؤ گے۔

اگرچہ ایک کھجور ہو یا کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔ اگر یہ بھی نہ ملے تو بیٹھے بول ہی سے ہی، جب تم میں سے کوئی اللہ سے ملے اور ملنے والا یوں کہے، کیا میں نے تجھے مال اور اولاد نہ دی تھی؟ وہ بکھرے گا، ہاں!

وہ بچھے گا اپنے لئے تو نے کیا آگے بھیجا۔

تو وہ اپنے سامنے پہنچے، دائیں یا میں دیکھے گا اور جہنم کی گرمی سے اپنے چہرے کو بچانے کے لئے کچھ نہ پائے گا۔

اس لئے تمہیں چاہیے کہ اپنے چہرے کو دوزخ کی حرارت سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی ہو سکے، اگر یہ بھی نہ ملے تو میٹھے بول سے کیونکہ مجھے تم پر افلاس اور فاقہ کے باعث سے کچھ خطرہ نہیں، اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے یہاں تک کہ پترب اور حیرۃ کے درمیان ایک سورت گذرے گی اور اسے کہیں بھی چودوں کا خوف محسوس نہ ہو گا۔

عدی کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت طے قبیلہ کے چور کہاں جائیں گے؟

# واقعہ کعب بن زہیر

## ایک دشمن اور باغی سے رسول اللہ کا عفو و درگزر

یہ واقعہ طائف سے والپی اور غزوہ تبوک کے درمیان ہوا۔ ابن الحنفی بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے والپس تشریف لائے تو بھیر بن زہیر نے اپنے بھائی سعد کو خط لکھا اور اطلاع دی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایسے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے جو کہ آپ کی ہبھو کرتے اور ایذا دیتے تھے اور شرارے قریش میں سے جو باقی ہیں۔ یعنی ابن زبیرہ اور ہبہ بن ابی وہب وہ اس طرح فرار ہوئے کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لئے اگر تیرے دل میں کچھ لگاؤ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ کیونکہ جو بھی آپ کے پاس تائب ہو کر مسلمان ہو کر حاضر ہوتا ہے۔ آپ اُسے قتل نہیں کرتے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اپنا انتظام کر لے۔

اس نے حاضر ہونے سے انکار کر دیا اور جواب میں چند اشعار لکھ بھیجے۔ پھر بھیر بن زہیر کے کعب کو خط لکھا اور اشعار میں اسے اسلام کی دعوت دی اور یقین نہ دلایا کہ اگر اسلام قبول نہ کیا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم نجات نہ پاسکو گے۔ کعب کو جب یہ خط ملا تو اس پر زمین تنگ ہو گئی اور اسے اپنے متعلق خطہ ہوا اور کہنے لگا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔

جب کچھ چارہ کا نظر آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرح میں لیک قصیدہ لکھا اور اپنے خوف و ہراس، اپنے دشمن کی طرف سے چغلی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ مدینے حاضر ہوا اور جہیزیت کے ایک آدمی کے پاس ٹھہرا جس سے پہلے ہی سے رام تھے صح کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ صح ادا کی تو اس نے بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ رسول اللہ ہیں، اٹھ اور ان سے امان کی درخواست کر۔

مجھے بتایا گیا، کہ وہ اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر پڑھ گیا۔ اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے رہ تھے اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کعب بن زہیر آپ سے امان کی درخواست کرنے حاضر ہونا چاہتا ہے جو تائب اور مسلمان ہو کر حاضر ہے اور عرض کیا، اگر میں اسے آپ کی خدمت میں لے آؤں تو آپ اس کی درخواست قبول فرمائیں گے۔

و شمن کو معاف کروئے کا وعدہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں! اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں کعب بن زہیر ہوں۔ ابن اسحق قرتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بتایا کہ انصار میں سے ایک صحابی اچھل کر آٹھے اور عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے۔ میں اللہ کے اس دشمن کی گردان مار دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اسے رہنے والے، وہ تائب ہو کر حاضر ہوا ہے۔

راوی کہتے ہیں اس پر انصار کے اس قبیلہ پر کعب کو غصہ آیا۔ اس وجہ سے کہ مہاجرین نے بھلائی کے سوا کچھ بات نہ کی۔ اس نے اس موقع پر قصیدہ لائی پڑھا۔ جس میں اس نے ابتداء میں اپنی محبوہ اور اس کی اونٹنی کی تعریف کی (اور پھر دربار رسول میں حاضر ہونے کے متعلق پمزہ دراشعار کہے۔